

ردِّ قادیانیت

رسائل

حضرت انسینہ علیہ السلام

بانی ندوۃ العلماء

۱۲۶۲ھ/۱۸۴۶ء - ۱۳۴۶ھ/۱۹۲۲ء

اختیار قادیانیت

مجموعہ

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت

مضوری باغ روڈ، ملتان - فون: 514122

[www.besturdubooks.wordpress.com](http://www.besturdubooks.wordpress.com)

ردِّ قادیانیت

رسائل

حضرت مولانا سید محمد علی منوگیری

بانی ندوۃ العلماء

۱۲۶۲ھ تا ۱۳۳۶ھ / ۱۹۲۷ء تا ۱۹۶۲ء

احتساب قادیانیت

جلد پنجم

عالمی مجلس تحفظِ خطِ نبوی

محسوری باغ روڈ، ملتان - فون: 514122

بسم الله الرحمن الرحيم!

## تعارف

حضرت مولانا سید محمد علی مونگیریؒ (د ۲۸ جولائی ۱۸۴۶ء، م ۱۳ ستمبر ۱۹۲۷ء) اس دھرتی پر اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ آپ کی خانقاہ مونگیری سے سو سے زیادہ رد قادیانیت پر کتب و رسائل شائع ہوئے۔ جن میں سے اکثر و بیشتر آپ کے رشحات قلم ہیں۔ باقی آپ کے شاگردوں و مریدوں میں سے علماء کرام کی جماعت کے تحریر کردہ ہیں۔ آپ کی خانقاہ عالیہ سے صحائف رحمانیہ مختلف اوقات میں شائع ہوئے جن کی تعداد ۲۴ ہے۔ اس جلد میں ان تمام صحائف رحمانیہ کو یکجا شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ صحائف جن حضرات نے تحریر فرمائے فہرست میں ان کے نام دے دیئے گئے ہیں۔ وہاں کی مراجعت فرمائی جائے۔ یہ صحائف صحیفہ رحمانیہ کے نام سے شائع ہوئے۔ البتہ بعض صحائف کا صحیفہ رحمانیہ کے ساتھ مستقل نام بھی دیا گیا ہے جیسے صحیفہ رحمانیہ نمبر ۶ کا نام مرزا صاحب کا دعویٰ نبوت، صحیفہ رحمانیہ نمبر ۷ دعوت نبوت مرزا، صحیفہ رحمانیہ نمبر ۸/۹ عبرت خیز، صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۱/۱۲ نمونہ القائے قادیانی، صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۳ اسلامی چیلنج، صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۶ مرزائی نبوت کا خاتمہ، صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۷ النبوة فی الاسلام کے نوجواب اور مرزا صاحب کے جھوٹ، صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۸ چیلنج محمدیہ و صولت فاروقیہ، صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۹ چشمہ ہدایت کی صداقت اور مسیح قادیان کی واقعی حالت، صحیفہ رحمانیہ نمبر ۲۱ خاتم النبیین یعنی کلام الہی میں ختم نبوت کی بغارت، صحیفہ رحمانیہ نمبر ۲۳ کا نام نامہ حقانی و رکذب مسیح قادیانی ہے۔

صحائف رحمانیہ کی اشاعت دسمبر ۱۹۱۳ء سے شروع ہو کر ۳۰ اگست ۱۹۲۴ء تک اختتام پذیر ہوتی ہے۔ گویا دس سال میں یہ چوبیس رسائل شائع ہوئے۔ ۱۹۱۳ء کے بعد اب ۲۰۰۱ء میں ان کی اشاعت پر تقریباً ۹۰ سال کا عرصہ بیت گیا ہے۔ نوے سال بعد بھی ان مضامین کی آب و تاب جوں کی توں باقی ہے۔ یہ مکمل رسائل کس طرح جمع ہوئے یہ مستقل کہانی ہے: ”ترکت الحساب لیوم الحساب“ کے تحت اس کہانی کو یہاں بیان نہیں کرتے۔

خاکپائے حضرت مونگیریؒ..... فقیر اللہ و سایا

## فہرست

۵	مولانا عبدالعزیزؒ، مولانا عبدالوحیدؒ	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱
۱۳	"	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۲
۱۹	مولانا عبدالوحیدؒ	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۳
۲۹	مولانا عبدالعزیزؒ	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۴
۳۷	پروفیسر سید انور حسینؒ	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۵
۶۳	حضرت مولانا سید محمد علی مونگیر ویؒ	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۶
۸۶	"	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۷
۱۲۱	"	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۸/۹
۱۸۷	حضرت مولانا حکیم محمد یعسوب مونگیر ویؒ	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۰
۲۰۹	حضرت مولانا حکیم محمد یعسوب مونگیر ویؒ	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۱/۱۲
۲۵۳	خواجہ غلام الثقلینؒ ایڈیٹر عصر جدید	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۳
۲۷۱	مولانا عبدالغفار خانؒ، مولانا لکھنویؒ	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۴
۲۹۱	حضرت مولانا حکیم محمد یعسوب مونگیر ویؒ	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۵
۳۱۱	پروفیسر مولانا سید محمد انور حسینؒ	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۶
۳۳۷	حضرت مولانا محمد اسحاق مونگیر ویؒ	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۷
۳۷۱	حضرت مولانا محمد اسحاق مونگیر ویؒ	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۸
۴۰۱	یکے از متوسلین خانقاہ مونگیر	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۹
۴۰۹	حضرت مولانا محمد اسحاق مونگیر ویؒ	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۲۰
۴۱۹	حضرت مولانا محمد اسحاق مونگیر ویؒ	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۲۱
۴۵۱	حضرت مولانا محمد اسحاق مونگیر ویؒ	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۲۲
۴۸۷	حضرت مولانا محمد اسحاق مونگیر ویؒ	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۲۳
۵۲۵	حضرت مولانا محمد اسحاق مونگیر ویؒ	صحیفہ رحمانیہ نمبر ۲۴



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي جعل القرآن  
مكتوباً على قلب محمد

# صحيفہ رحمانیہ

(۱)

عبدالعزیز خانؒ

عبدالوحید خانؒ

## بھاگلپور کے جلسہ ۲۲ دسمبر ۱۹۱۳ء مطابق ۲۵ محرم ۱۳۲۳ھ کی مختصر کیفیت

ناظرین باحکین کو واضح ہو کہ مدت سے مرزائی جماعت نے مسئلہ حیات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی کمزوری کے لئے سپر بنا رکھا تھا اور ہر مناظرہ میں اسی مسئلہ کو پیش کرتے تھے چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے لئے یہ مسئلہ فقط دھوکہ ہی دھوکہ ہے اور حقیقت میں اگر حضرت مسیح علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ کی موت کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت ”اور یہ کہ وہ مسیح موعود میں ہی ہوں اور مسیح موعود اور مہدی مسعود ایک ہی شخص ہیں وغیرہ۔“ دعاوی باطلہ ہرگز ہرگز ثابت نہیں ہو سکتے تھے اور نیز اس مسئلہ میں چونکہ بہت آیات وحدیث کا ذکر آتا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپنے مفید تیس آیات کو پیش کیا تھا (گو ان میں سے مرزا غلام احمد قادیانی کے لئے ایک بھی مفید نہیں) اس وجہ سے بہت سے مسائل علمیہ بھی آجاتے ہیں اور عوام کو ان کے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ بوجہ مذکورہ علمائے اسلام نے نہایت قوی پہلو اختیار فرمایا اور یہ کہا کہ اس مسئلہ میں گفتگو کا حاصل تو یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی موت ثابت کی جائے۔ ہم مرزا غلام احمد قادیانی پر احسان کر کے مسیح علیہ السلام کی موت کو تسلیم کئے لیتے ہیں۔ مگر یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ کی تمہید ہے۔ اصل دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ ہے کہ مسیح موعود اور مہدی مسعود میں ہی ہوں اور خدا کی طرف سے ۱۳ سو برس کے بعد تمام امت سے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل واعلیٰ ہو کر آیا ہوں، اور جو مرزا غلام احمد قادیانی کی

نبوت کو نہ مانے وہ ویسا ہی کافر ہے جیسا محمد رسول اللہ ﷺ کا منکر کافر ہے۔ اور منکر ہی نہیں بلکہ متردد اور تامل کرنیوالا غرض جو مرزا غلام احمد قادیانی کو تمام دنیا میں نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ یہ تمام دعاوی فقط حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی موت سے کیسے ثابت ہوں گے؟ مگر چونکہ قادیانی جماعت نے سچ نہ کہنے کی قسم کھائی ہے اور شکست تو ان کی قسمت میں لکھی ہی نہیں موبکر میں ہارے تو اس کا نام فتح عظیم رکھا۔ لدھیانہ میں مولوی ثناء اللہ صاحب سے غشی قاسم علی مرزا کی نے مات کھائی اور تین سو روپے بھی دینے پڑے، مگر اس کا نام فتح روحانی رکھ لیا۔ حسینا میں مولوی سہول صاحب سے شکست کھائی اس کا نام فتح الہمیں شائع کر دیا۔ غرض اس جماعت کی فتح بہر صورت ہے اور کیوں نہ ہو جب شکست کا نام فتح اور ذلت کا نام عزت ہے تو اب بجز فتح کے اور کیا ہوگا؟ اس وجہ سے مرزائیوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ علمائے اسلام حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیم کی حیات ثابت ہی نہیں کر سکتے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ کو مسئلہ حیات و ممات سے پورا تعلق ہے اور جہاں کہیں مناظرہ ہوتا ہے اسی مسئلہ کو سر غزل رکھا جاتا ہے۔

چونکہ حضرت مولانا مولوی ابوالاحمد صاحب رحمائی دامت برکاتہم خلیفہ اعظم قطب وقت حضرت خاتم الاولیاء گنج مراد آبادی قدس سرہ العزیز کی توجہ سے کئی سال ہوئے، قادیانی جماعت سے موبکر میں بڑے پیمانہ پر مناظرہ ہوا اور کئی ضلع کے عوام اور خواص کے سامنے قادیانیوں کی اسی میں شکست ہوئی جس میں مرزائیوں کی کوئی تاویل بھی کام نہ آئی اور جس قدر اس برگزیدہ قوم نے جھوٹ لکھ کر شائع کیا۔ شرکائے جلسہ کو اور نفرت اور ان کے کذب کی دلیل تمام ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ممدوح نے فیصلہ آسانی حصہ اول و دوم و تہمہ و معیار صداقت، و معیار اسخ، و شہادت آسانی وغیرہ ایسے رسائل لکھے کہ قادیانی جماعت کے خواص کو بھی پسینہ آ گیا اور زندوں ہی نہیں مردوں میں بھی ”زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم“ کا نمونہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور مرزا غلام احمد قادیانی کے اصل ہی دعویٰ کو حضرت ممدوح نے ایسا خاک میں ملایا کہ قادیانیوں کا دل ہی خوب جانتا ہے اور وہ کاری زخم لگا جس کا اندمال محال ہے۔ قطع و تمین کی دلیل سے ان ہی کی گردنیں کشیں۔ آفتاب و ماہتاب کے گرہن سے بھی قادیانی قمر الانبیاء قیامت تک کے لئے بے نور ہو گیا۔ ”یصوبکم بعض الذی بعدکم“ کا وہ مطلب بیان فرمایا کہ ”شفاء لمافی الصدور“ ہو گیا۔ پھر سچے اور جموے نے مسیح کی حقیقت کو حقیقۃ اسخ میں ایسا کھول کر بیان فرمادیا کہ باید و شاید۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوالاحمد رحمائیؒ کو مسلمانوں کے لئے رحمت بنا دیا اور کیوں نہ

ہوں صاحب البیت ادری بمافیہ، حدیث و قرآن کو اگر ان جیسے نسبی اور روحی خاندان نبوت ہی نہ سمجھیں تو کیا مرزا اور مغل سمجھیں گے؟ یا للعجب ولضیحة الادب پہلے تو ہمارا اعتقاد ہی تھا کہ فیصلہ آسمانی لا جواب ہے، مگر عبد الماجد قادیانی کے جواب القاء ربانی نے تو اس کا ایسا یقین دلا دیا ہے کہ اس کا ازالہ نہ اب ازالۃ الاوہام سے ہو سکتا ہے نہ حقیقۃ الوحی سے۔ تانت باجی اور راگ بوجھا۔ عبد الماجد قادیانی کا بھرم بھی القاء ربانی نے کھول دیا جس کے جواب یکے بعد دیگرے عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ شائع ہونے والے ہیں۔

بوجہ مذکورہ حضرت ابن شیر خدا، اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ جناب مولانا مولوی سید محمد تقی حسن صاحب چاند پوری مدرس مدرسہ عالیہ دارالعلوم دیوبند نے جلسہ بھاگلپور منعقدہ ۲۵ محرم الحرام ۱۳۲۳ھ مطابق ۲۴ دسمبر ۱۹۱۳ء کو جلسہ میں عنوان یہی رکھا جو درج اشتہار ہے۔

۱..... حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات و ممات سے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ کو کیا تعلق ہے؟

۲..... اگر حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی موت ثابت ہو جائے تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ مسیحیت و مہدویت ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں؟

۳..... واقعی مسلمانوں کا اعتقاد اس مسئلہ کے متعلق کیا ہے؟

۴..... آیا قرآن وحدیث سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے یا نہیں؟

اور ان چاروں نمبروں پر وہ عالمانہ تقریر فرمائی کہ حضار (حاضرین) جلسہ کا پہلے تو حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات پر ایمان ہی تھا۔ مگر اس روز عیان ہو گیا۔ ”وبقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ“ (نساء ۱۵۷) کو اخیر تک تلاوت فرما کر قرآن کی فصاحت و بلاغت وغیرہ سے وہ بحث کی کہ حاضرین پر وجد کا عالم طاری ہو گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ قادیانی جماعت اپنے دعویٰ نبوت میں بالکل پست اور مردہ اور بیجان ہے، فقط علمائے اسلام نے جو موجودہ مذکورہ مسئلہ میں گفتگو نہ کی تھی اس وجہ سے بوجہ ناواقفیت کے یہ لوگ دلیر ہو گئے تھے۔ ورنہ شہادت القرآن حصہ اول و دوم مصنفہ مولوی محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی کا اس بحث میں ایسا کافی و شافی رسالہ ہے جس کا جواب خود مرزا غلام احمد قادیانی بھی نہ دے سکے تو اب مرزائیوں میں کون ہے جو اس کا جواب لکھے گا؟ اب تو قادیانی کسی دوسرے نبی کا

انتظار کریں، ورنہ جب ان کے نبی ہی کچھ نہ کر سکے تو ان مسکینوں سے کیا شہنی ہے۔ اگر واقعی ہمت ہے تو پہلے شہادت القرآن کا جواب دے لیں پھر مسلمانوں سے آنکھیں ملائیں اگر کچھ حیا و شرم ہے، اس جلسہ میں مولانا موصوف نے بھی مرزائی دلائل پر خوب جرح فرما کر بالکل توڑ دیا اور جناب مولانا مفتی عبداللطیف صاحب رحمائی نے بھی ختم نبوت پر نہایت مدلل تقریر فرمائی جس میں مذہب کی ضرورت اور اسلام کا کامل ہونا۔ پیغمبر اسلام کے فضائل اور جمیع کمالات میں ایسے درجہ پر ہونا کہ جس کے بعد ترقی کے لئے کوئی درجہ باقی نہیں نہایت خوبی سے ثابت کیا اور تمام مضمون مسلسل تھا جس سے سامعین پر وجد کی کیفیت طاری تھی اور مثنیٰ قاسم علی (قادیانی) کے رسالہ ”النسوة فی خیم الامۃ“ کی پوری حقیقت کھول دی اور جناب مولانا مولوی ابوالخیر انور حسین صاحب نے آیت ”انسی متولیک ورافعک الی“ نہایت ہی دلچسپ بیان فرمایا اور مرزا غلام احمد قادیانی کے دلائل پر نہایت کاری جرح کی، اگر قادیانی جماعت کو شوق ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے دلائل بیان کر کے دیکھ لیں پھر ہمارے علماء بھی ان کے دلائل کے توڑنے کو موجود ہیں۔

۲۶ محرم مطابق ۲۵ دسمبر کو عبدالمجاہد قادیانی پورہ میں نے بھی اشتہار دیا اور ان پانچ نمبروں پر بیان کرنے کا وعدہ فرمایا۔

۱..... حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات و ممات سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ کو پورا تعلق ہے۔

۲..... حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات چونکہ ثابت ہے اس لئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی مسیحیت و مہدویت بھی ثابت کر دی جائے گی۔

۳..... واقعی عام مسلمانوں کا اعتقاد دربارہ حیات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام و نزول از آسمان بالکل غلط ہے۔

۴..... قرآن و حدیث سے بخوبی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام مثل اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے فوت ہو چکے ہیں۔

۵..... جو مجموعے الزامات ہمارے امام پر لگائے جاتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ اس کے متعلق بھی قرآن و حدیث سے باتیں مسلمانوں کو سمجھا دی جائیں گی۔

مگر افسوس ایک وعدہ بھی پورا نہ کر سکے اور نہ انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک پورا کر سکتے

ہیں، اگر ان میں کچھ بھی ثابہ صدق دیانت کا ہے تو جیسے ان امور مذکورہ کے ثابت کرنے کا وعدہ کیا ہے اور خود مدعی بھی ہیں ان کو ثابت فرمائیں اور مناظرہ کی تاریخ مقرر فرمائیں۔ ہم بھی اپنے علماء میں سے کسی کو تکلیف دیں گے ایک ایک حکم طرفین سے ہو اور ایک بیخ مسلم فریقین ہو اور گفتگو ہو جائے مگر ہماری وجدانی پیشین گوئی ہے کہ عبدالماجد قادیانی ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ ہزار طرح کی باتیں بتائیں گے مگر ان امور کو ثابت نہ کر سکیں گے الحمد للہ کہ حق واضح ہو گیا۔

آخر میں مولانا انور حسین صاحب نے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے چند جھوٹ بیان فرمائے ہیں تمام قادیانی جماعت کیا قادیانی خلیفہ سے عرض ہے کہ ان جھوٹوں کو سچا ثابت کریں ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کذاب اور مفتری ہونے میں کیا تاثر ہے۔ مگر واضح ہو کہ اس میں بھی کسی قادیانی کا قلم نہیں اٹھ سکتا ”جف القلم بما هو کائن۔“ ان کے قلم سر بریدہ اور دو اتیں خشک ہو گئیں ہیں۔

ان جھوٹوں اور افتراؤں کی فہرست جن کو مولانا انور حسین صاحب نے بیان فرمایا تھا اور قادیانی خلیفہ نور الدین اور عبدالماجد قادیانی اور جملہ قادیانی مل کر بیان فرمائیں کہ جھوٹے کیسے سچے ہوں گے؟ اگر قادیانی جماعت اس کو ثابت نہ کر سکے تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے مفتری اور کذاب ماننے میں کیا تاثر ہے؟ اس کا جواب ایک ہفتہ کے اندر ہونا چاہئے ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کذاب اور عبدالماجد قادیانی کا اپنے دعاوی سے فرار اظہر من الشمس ہو جائے گا۔

۱..... اربعین نمبر ۳ ص ۹ خزائن ج ۱ ص ۳۹۴ میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ”مولوی غلام دغیر صاحب قصوری اور مولوی اسماعیل صاحب علی گڑھی نے لکھا ہے کہ جھوٹا سچ کے سامنے مر جائے گا۔“ یہ صریح کذاب ہے۔ فرمائیے کہاں اور کس کتاب میں لکھا ہے؟ دعاوی مرزا میں اس کے ثابت کرنے پر پانچ سو روپے کا انعام بھی ہے۔

۲..... اخبار البرد ج ۲ نمبر ۵۲ ص ۵ ملفوظات ج ۹ ص ۹۹ میں لکھا ہے کہ ”جبتنے لوگ مہبلہ کرنے والے ہمارے سامنے آئے سب کے سب ہلاک ہوئے۔“

حالانکہ صوفی عبدالحق صاحب کے سوا کسی نے مہبلہ نہیں کیا اور وہ زندہ ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی ان کے سامنے مر گئے۔ قادیانیو! یہی ہے آپ کے حقیقی کی صدق بیانی یا ثابت کرو ورنہ توبہ چاہئے۔

۳..... اربعین نمبر ۳ ص ۱۷ خزائن ج ۱ ص ۴۰۴ میں لکھا ہے ”یہ ضرور تھا کہ قرآن وحدیث

کی وہ پیشین گوئیاں پوری ہوتیں جن میں یہ لکھا تھا کہ مسیح جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے۔“

مرزائی وہ آیات قرآنی و حدیث نبوی کا حوالہ بتائیں جن میں یہ مضمون بالا بیان کیا گیا ہے؟

۳..... البدر مورخہ ۲۴ نومبر و یکم دسمبر ۱۹۰۷ء ملفوظات ج ۷ ص ۲۳۷ چشمہ معرفت ص ۲۸۶ خزائن ص ۲۹۹ ج ۲۳ میں ہے کہ ”ہمارے نبی کریم ﷺ کے گیارہ بیٹے فوت ہوئے“ قادیانی جنتی کی امت! اپنے نبی کے الہام اور وحی اور صدق بیانی کو دیکھو یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ بیان فرمائیے۔

۵..... اشتہار مورخہ ۱۲ اگست ۱۹۰۷ء زیر سرخی ”عام مریدوں کے لئے ہدایت“ میں لکھا ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں دبانازل ہو تو اس شہر کے لوگوں کو چاہئے کہ بلا توقف اس شہر کو چھوڑ دیں“ فرمائیے اب بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہو گے۔ مسیح موعود مانو گے وہ کوئی حدیث ہے جس کا یہ مضمون ہے؟

۶..... شہادت القرآن ص ۳۱ خزائن ج ۶ ص ۳۳۷ ”اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہئے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لئے آواز آئے گی کہ هذا خلیفہ اللہ المہدی۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے صحیح الکتب بعد کتاب اللہ ہے“ اے قادیانو! کچھ تو سوچو اور پہلے نہ سوچا تھا تو اب سوچو کہ ایسے شخص کے منہ پر دعویٰ نبوت اور مسیحیت اور مہدویت و افضل الامۃ ہی نہیں بلکہ قرالانبیاء اور افضل من عیسیٰ روح اللہ ہونے کا زب دیتا ہے؟ جو اس قدر دلیر جھوٹا ہو، بخاری مسلمانوں کی ایک معروف و مشہور کتاب ہے تمام قادیانی مل کر اور جمع ہو کر بتائیں کہ کس بخاری اور کس باب میں حدیث ہے؟ اور اگر نہ بتا سکیں تو بس اب توبہ کرنے میں کیا دیر ہے؟ یہ تو وہ جھوٹ ہے جن میں نہ کوئی الہام ہو سکتا ہے نہ کوئی شرط لگ سکتی ہے نہ ”ویمحو اللہ ما یشاء و یثبت۔“ کا بیج چل سکتا ہے نہ بعد و لا موفی، کام دے سکتا ہے نہ چاند اور سورج کا گھن اس کو سچا کر سکتا ہے۔ کیا اسی نبی کی نبوت کی آسمان اور زمین نے شہادت دی تھی؟ آخر خدا نے انسان بتایا ہے کچھ تو غور و فکر سے کام لو کیا مرنا نہیں ہے؟ کیوں مخالفین اسلام کو ہنساتے اور ان کی تعداد کو بڑھاتے ہو؟ من کثر مواد



قوم فہومنہم او کما قال ”سے ڈرو۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اسلام کی تائید نہیں کی بلکہ بخ کنی کی ہے۔ مگر اسلام کا خدا حافظ ہے۔ ہر ایک ایذا و بر فرد داغ اگر توبہ قسمت میں نہیں ہے تو بس اب اشتہار بازی کا زور دکھاؤ اور ان چھ نمبروں کو سچا کر دکھاؤ اور اگر پروفیسر عبد الماجد قادیانی اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو اس سچ کی بات نہیں بس اپنے پانچ نمبروں کو جن کے اپنے اشتہار میں مدعی بنے ہیں ثابت کر دیں ورنہ قرآن شریف کی وعید سے ڈرو۔

عام مسلمانوں کیلئے یہ چھ باتیں، سہ ضروریہ، کہ طور لکھ دی گئی ہیں اگر مرزائیوں نے ان کو ثابت نہیں کیا تو پھر اور کسی علمی بات کا نام نہ لیں ورنہ جو اس قدر صحیح کاذب ہو اس کی اور کسی بات پر کس طرح وثوق ہو سکتا ہے؟

## المشتہران

عبد العزیز خان و عبد الوحید خان عفا اللہ عنہما

معظم چک بھاگلپور

یکم جنوری ۱۹۱۳ء مطابق ۳ صفر ۱۳۳۲ ہجری

## حکیم العصر مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ کے ارشادات

☆..... اگر بہر و پئے کے طور پر بھی کسی کو نبی بنانا تھا تو نقل مطابق اصل تو ہوتی۔ شکل دیکھو، فہم دیکھو، فراست دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی نبیوں کا مقابلہ کرتا ہے۔

☆..... ہماری غیرت کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک قادیانی بھی زندہ نہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ پکڑ پکڑ کر ان خبیثوں کو مار دے۔

☆..... عقیدہ نزول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس کا انکار کفر ہے۔ اور اس کی تاویل کرنا زلیع و ضلال اور کفر و الحاد ہے۔

☆.....☆.....☆

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي جعل القرآن  
سورة آية في الدنيا والآخرة

# صحیفہ رحمانیہ

(۲)

عبد العزیز خانؒ

عبد الوحید خانؒ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جلسہ بھاگلپور منعقدہ تاریخ ۲۳ دسمبر ۱۹۱۳ء مطابق ۲۵ محرم ۱۳۳۲ھ  
میں جامع معقول و منقول مولانا مولوی ابوالخیر سید محمد اور حسین  
بہلولی موگیری پروفیسر ڈی جے کالج کے بیان کا خلاصہ

بتاریخ ۲۵ محرم جلسہ تمار پور میں بعد نماز عصر آپ کا بیان شروع ہوا۔ آپ نے آیت  
کریمہ ”ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین وکان  
الله بکل شیء علیہما“ تلاوت فرمائی۔ پھر اس آیت کا شان نزول اور مطلب نہایت ہی خوش  
اسلوبی کے ساتھ بیان کر کے اس بات پر ایک مدلل تقریر فرمائی کہ مذکورہ بالا آیت شہادت لغت و  
احادیث صحیحہ ختم نبوت پر قطعی محض ہے۔ سلسلہ نبوت آنحضرت ﷺ پر ختم ہو چکا ہے۔ آپ  
کے بعد تا قیام قیامت کسی قسم کا نبی، نبوت جدیدہ نہیں آسکا اور جو شخص بعد آنحضرت کے دعویٰ  
نبوت کرے وہ بیکلم ”اے سیکون فی امتی دجالون ثلثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی  
الله انا خاتم النبیین لا نبی بعدی“

(ترمذی ج ۲ ص ۳۵)

(ابواب المعن)

دجال کذاب ہے۔ ایسے دجالوں کے قلع و قمع کرنے کے لئے ایک گروہ امت محمدیہ  
میں ابتدائے اسلام سے قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ اس گروہ کے حق پر ہونے کی خود  
آنحضرت ﷺ نے شہادت دی ہے۔ نواب صدیق حسن خان علیہ الرحمۃ والہم ان نے اپنی

کتاب ”حجج الکرامہ فی آثار القیامہ“ میں اپنے وقت تک کے جموٹے مدعیان نبوت کا شمار ستائیس تک بیان کیا ہے۔ اٹھائیسویں شخص مرزا غلام احمد قادیانی ثابت ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ مدعی نبوت بھی ہیں اور ان کی تالیفات میں متعدد اور صریح صریح جھوٹ بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی کی چند جھوٹی باتوں کو بیان کیا، منجملہ ان کے ایک یہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اربعین نمبر ۳ ص ۱۷۱۔ خزائن ج ۱ ص ۴۰۴ میں لکھتے ہیں۔ ”لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علما کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لئے فتوے دیئے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔“ حاضرین کو اربعین کا نمبر وصفہ مذکورہ دکھلا کر یہ کہا کہ جو قرآن مجید مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اس میں تو اس پیشین گوئی کا نام و نشان تک نہیں ہے اور صحاح ستہ میں کوئی ایسی حدیث نہیں پائی جاتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے کاذب بلکہ مفتری علی اللہ والرسول ہونے کے لئے یہی ایک مثال کافی ہے مگر ایک اور صریح جھوٹ یہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اربعین نمبر ۳ ص ۹۔ خزائن ج ۱ ص ۳۹۴ میں لکھتے ہیں۔ ”مولوی غلام دہگیر قصوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی اسماعیل علی گڑھ والے نے میری نسبت قطعی حکم لگایا کہ وہ اگر کاذب ہے مگر جب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مر گئے اور اس طرح پران کی موت نے فیصلہ کر دیا کہ کاذب کون تھا۔“ تین برس سے زیادہ ہو گیا کہ مرزا بیوں کو چیلنج دیا گیا تھا کہ مولوی غلام دہگیر اور مولوی اسماعیل دونوں کی کتابوں میں مذکورہ بالا مضمون دکھلا دیں تو مبلغ پانچ سو روپیہ انعام لیں۔ مگر آج تک کسی مرزائی کو ہمت نہ ہوئی کہ اپنے حیر و مرشد کو سچا ثابت کر کے انعام حاصل کرے۔ کیا ان مثالوں کے بعد بھی کوئی راست باز مرزا غلام احمد قادیانی کے مذکورہ بالا حدیث کے مصداق ہونے میں شبہ کر سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔

پھر یہ بیان کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ بھی محض غلط ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت میں سلسلہ نبوت جاری رہا، اسی طرح آنحضرتؐ کی امت میں بھی سلسلہ نبوت جاری رہے گا۔ اس لئے کہ آیہ کریمہ ”انما ارسلنا الیکم رسولاً شاہدا علیکم کما ارسلنا الیٰ فرعون رسولاً۔“ (الزلزلہ ۱۵) میں شبہ نفس ارسال میں ہے۔ نہ مرسل میں جیسا کہ فلاذ کروا اللہ کذلک کرکم ابائکم او اشد ذکرا۔ (البقرہ ۲۰۰) میں

تکبہ نفس ذکر میں ہے نہ مفعول میں۔ پھر صحیح بخاری (باب ذکر عن بنی اسرائیل ص ۳۹۱ ج ۱) کی ایک حدیث ہے۔ اس مطلب کو صاف طریقے سے ثابت کر دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے دنیاوی اور مذہبی امور کی سیاست انبیاء کو تھی۔ جب کوئی نبی ہلاک ہوتے تو دوسرے نبی ان کے جانشین ہوتے اور چونکہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لئے ہماری امت میں خلفاء کا سلسلہ رہے گا۔ یہ حدیث اس بارے میں نص صریح ہے کہ آپؐ کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا۔ آنحضرتؐ کی اس پیشین گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیقؓ سے لے کر اس وقت تک امت محمدیہ میں خلافت کا سلسلہ قائم ہے اور آخر وقت تک قائم رہے گا اگر خلفاء کو نبی کہنا جائز ہوتا تو خلفائے راشدین (حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم) اس لقب کے زیادہ مستحق تھے۔ مگر حدیثوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان حضرات کو نبی کہنا جائز نہیں۔

مولانا کا یہ بیان قبل مغرب ختم ہوا حاضرین جلسہ اس بیان سے بہت محظوظ اور مستفیع ہوئے۔ فالحمد للہ علی ذالک۔

پھر حسب خواہش حاضرین جلسہ بعد مغرب مولوی صاحب نے سورہ العصر کا وعظ بیان فرمایا اور اسی ضمن میں عبدالماجد قادیانی کے رسالہ القاء ربانی صفحہ ۳ سے مکتوبات مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان عبارتوں کو سنا کر جو قادیانی مربی نے نقل کی ہیں انہیں عبارتوں سے مرزا غلام احمد قادیانی کی مسیحیت اور مہدویت کو غلط ثابت کر دکھایا اور یہ بھی کہا کہ قادیانی مربی نے ان عبارتوں میں سے کسی کے پہلے کی عبارت اور کسی کے بعد کی عبارت حذف کر دی ہے اور یہ بات دیانت کے محض خلاف ہے۔ پھر بتاریخ ۲۷/۲ محرم روز جمعہ موضع جٹانگر کے جلسہ میں عصر سے مغرب تک مولانا کا بیان ہوا۔ آپ نے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع تلاوت فرما کر قرآن مجید کا اعجاز بحیثیت فصاحت و بلاغت اور بحیثیت تعلیمات و ہدایات بیان کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کی اعجاز احمدی اور اعجاز اسحٰی کی حقیقت ظاہر کی اور القاء ربانی سے مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک اردو عبارت سنا کر یہ کہا کہ جو شخص باوجود ہندی ہونے کے اردو عبارت لکھنے میں ایسی ایسی صریح غلطیاں کرے وہ شخص فصیح و بلیغ عربی کیا لکھ سکتا ہے؟ علمائے اسلام نے ان کی عربیت کی بھی پوری خبر لی ہے انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب اعجاز احمدی اور اعجاز اسحٰی کا جواب شائع ہوگا۔ اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی عربیت کس پایہ کی ہے؟

پھر آپ نے آیت کریمہ ”یا عیسیٰ انسی متوفیک ورافعک الیٰ“ (آل عمران ۵۵) تلاوت فرما کر اس کا مطلب واضح طور پر بیان کر کے یہ کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ”تونی“ کو موت ہی کے معنی میں منحصر سمجھنا محض غلط ہے۔ لغت میں ”تونی“ کے اصلی اور وضعی معنی، اخذ اشی و افیا۔ کسی چیز کو پورا پورا لے لینا ہے، سلا دینا۔ موت، تعداد، وصولی قرض، اٹھا لینا اس کے انواع ہیں، تفسیر کبیر (جز ۸ ص ۷۲) میں صاف لکھا ہے کہ ”متونی“ کا لفظ صرف حصول ”تونی“ پر دلالت کرتا ہے اور ”تونی جنس“ ہے اس کے تحت میں انواع ہیں۔ بعض موت کے ساتھ اور بعض آسمان پر اٹھائے جانے کے ساتھ۔ ”متوفیک“ کے بعد ”رافعک الیٰ“ فرمایا تعین نوع کے لئے ہے اس میں تکرار نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس آیت میں ”تونی“ سے ”رفع“ مراد ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا اس پر بڑا زور ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے ”متونی“ کی تفسیر ”ممیت“ فرمائی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ تفسیر کسی طرح ہمارے مدعا کے خلاف نہیں ہے۔ اس لئے کہ در منثور ج ۲ ص ۳۶ میں بروایت صحیح حضرت ابن عباسؓ سے یہ ثابت ہے کہ آپ اس آیت میں تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ”رافعک الیٰ لم متوفیک فی آخر الزمان۔“ یعنی حضرت ابن عباسؓ اس آیت کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں۔ ”کہ میں آپ کو اٹھا لینے والا ہوں اپنی طرف پھر آ خر زمانہ میں (بعد نزول) آپ کو موت دینے والا ہوں۔“

علاوہ اس کے مرزا غلام احمد قادیانی (ازلۃ الاہام ص ۲۶۱ جلد دوم خزائن ج ۳ ص ۴۴۵) میں لکھتے ہیں کہ ”مات کے معنی لغت میں فاقم کے بھی ہیں“ تو اس رو سے ”امات“ کے معنی سلا دینا ہوا اور ”ممیت“ ”امات“ کا اسم فاعل ہے تو ”ممیت“ کے معنی ہوا سلا دینے والا۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں آپ کو سلا دینے والا ہوں پھر اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں۔ تفسیر خازن ج ۱ ص ۲۵۵ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نیند کی حالت میں اٹھا لیا تا کہ آپ کو خوف لاحق نہ ہو۔ پس مرزا غلام احمد قادیانی کے بیان کی رو سے بھی اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ”تونی“ کے معنی سلا دینا ہی ہے ”جو هو الذی بتوفی کم باللیل“ (الانعام ۶۰) خدا وہ ہے جو تم کو سلا دیتا ہے رات کو اور جب قرآن مجید میں ”تونی“ کے

معنی سلا دینا موجود ہے تو پھر ”متوفی“ کے معنی سلا دینے والا لینے میں کون سا مانع ہے؟ مولانا کے اس بیان کو حاضرین جلسہ نے بہت جی لگا کر سنا اور بہت ہی محظوظ و مسرور ہوئے۔ فجزاہ اللہ عنا وعن سائر المسلمین خیر الجزاء۔  
خدا کا شکر ہے کہ دونوں جلسے نہایت ہی کامیابی کے ساتھ ختم ہوئے فقط

المشتہـ ران  
عبد العزیز خان و عبد الوحید خان عفی اللہ عنہما  
معظم چک بھاگلپور  
۱۵ جنوری ۱۹۱۴ء مطابق ۷ ارفرف ۱۳۳۲ھ



## حکیم العصر مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ کے ارشادات

﴿﴾ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی مراقی مسیحیت کے  
کرتے ہیں کہ وہ خود سے خود پیدا ہو کر مسیح ابن مریم بن گیا۔  
﴿﴾ ہر قادیانی کے منہ پر ایک لعنت برستی ہے جس کو  
اہل نظر فوراً پہچان لیتے ہیں۔  
﴿﴾ زندیق ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اسلام کا دعویٰ  
کرتا ہو مگر در پردہ کفریہ عقائد رکھتا ہو۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
سید الشہداء سید الشہداء سید الشہداء  
سید الشہداء سید الشہداء سید الشہداء

# صحیفہ رحمانیہ

(۳)

عبدالوحید خانؒ



## صحیفہ تبلیغیہ نمبر اکا اجمالی جواب

صحیفہ تبلیغیہ میں عبدالماجد قادیانی نے جو عنایت میرے حال پر فرمائی ہے۔ میں اس کا ممنون ہوں۔ اعلان حقانی میں حکم سے فیصلہ محض اس بنا پر چاہا ہے کہ میری حقانیت اور تحقیق نے مجھے یقین دلایا کہ آپ نے نہایت صریح امر حق کو پوشیدہ کرنا چاہا ہے اور محض غلط اور باطل باتوں کو عوام کی نظر میں عمدہ اور حقانی دکھانا چاہا ہے۔ اس لئے میری خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ عوام پر اسے ظاہر کر دوں۔ اس کی سبیل اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی کہ جلسہ میں حکم کے رو برو اس کا اظہار ہو اور جو حضرات خود رسالہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے اور ان کی غلطیوں اور قصدی فروگزاشتوں پر واقف نہیں ہو سکتے۔ (اور اکثر ایسے ہی حضرات ہیں) وہ بھی سمجھ لیں اور امر حق سب پر ظاہر ہو جائے۔ چونکہ مجھے مسلمانوں کی خیر خواہی منظور ہے۔ اس لئے مجھے اس میں بھی عذر نہیں کہ آپ کا کوئی شاگرد سامنے آئے۔ مگر اس قدر لیاقت رکھتا ہو کہ اگر کوئی علمی بات آجائے تو سمجھ سکے فیصلہ آسانی اور القاء میں جو کچھ ہے اسے بھی سمجھتا ہو۔ اگر آپ کا کوئی شاگرد ایسا ہو جو ان امور کی قابلیت رکھتا ہو اور میں بھی اسے جلسہ میں جانچ لوں اور وہ آپ کی طرف سے وکیل ہو۔ یعنی اس کا

عجز آپ کا عجز ہو تو بسم اللہ میں حاضر ہوں اب دیر نہ ہونا چاہئے اور حضرت مؤلف (آسانی فیصلہ) عم فیضہم کی نسبت میں زیادہ نہیں کہتا صرف اس قدر کہتا ہوں کہ جناب خلیفہ المسیح اپنے سکوت کا جو عذر پیش کر سکتے ہیں۔ یا آپ کے خیال میں ہو وہی یہاں بھی سمجھ لیجئے۔ زیادہ گفتگو نہ کیجئے۔

الواقم عبد اللطیف رحمانی

## صحیفہ مذکورہ کا

# تفصیلی جواب

اعلان حقانی میں یہ کہا گیا تھا کہ ”القاء“ واقعی فیصلہ آسانی کا اگر جواب ہے تو عبد الماجد قادیانی مصنف القاء نے اس ایک ہزار روپے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جس کا فیصلہ کے جواب لکھنے پر وعدہ کیا گیا تھا؟ اس سے کافی شہادت اس امر کی ملتی ہے کہ قادیانی مربی کے نزدیک بھی ”القاء“ فیصلہ کا جواب نہیں ہے گو عوام کے دکھلانے کو ”القاء“ پر لکھ دیا گیا ہے کہ فیصلہ آسانی کا جواب ہے اور اگر قادیانی مربی موصوف کو دیا مٹا اپنے جواب پر کامل وثوق ہے تو اس کے لئے طرفین سے حکم مقرر ہو جو یہ فیصلہ کرے کہ فیصلہ آسانی کا یہ جواب ہے یا نہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ قادیانی جماعت زبانی تو بہت کچھ باتیں بتاتی ہے اور کاغذی اوراق دستے کے دستے سیاہ کر ڈالتی ہے لیکن حکم کے سامنے آنے کی جرأت نہیں کرتی۔ چنانچہ صحیفہ تبلیغیہ نمبر ۱ کے صفحہ ۷ میں بھی قادیانی مربی موصوف نے حکم کے سامنے آنے سے گریز کیا۔ وہ اسی کے صفحہ ۵ سطر ۹ میں لکھتے ہیں (کسی حکم کے ہونے کی ضرورت نہیں) میں کہتا ہوں کہ اس کا فیصلہ بلا حکم کے ہو نہیں سکتا۔ اس لئے کہ فریقین میں جب نزاع ہو تو کوئی فریق اپنے دعوے کو خلاف راستی نہیں کہتا بلکہ ہر فریق اپنے کو راہ مستقیم پر سمجھتا ہے اور حکم ہی ان دونوں میں حق و باطل کا فیصلہ کرتا ہے۔ مگر قادیانی مربی منشی قاسم علی قادیانی کے فیصلہ کے بعد غالباً بہت خائف ہو گئے ہیں۔ خصوصاً عبد الماجد قادیانی

کے سامنے نہ آنے کی یہ بھی وجہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ القاء میں بہت کچھ حوالوں اور نقل میں دیدہ و دانستہ کتر بیونت اور بددیانتی کی گئی ہے اور اب کسی مرزائی کو اہل حق کے سامنے آنے کی ہمت و جرأت نہیں ہوتی اور ظاہر ہے کہ اہل ہوئی کبھی اہل حق کے سامنے نہیں آ سکتے اور قادیانی مرہی کا گریز اس کی روشن شہادت ہے۔

ناظرین! یہ ہر شخص کا اعتقاد ہے کہ حق بات کا کچھ جواب نہیں ہو سکتا اور جو امر قرآن، حدیث، اقوال صحابہؓ اور ائمہؒ اور تمام سلفؒ کے اتفاق سے ثابت ہے وہ بلاشبہ حق ہے اور چونکہ فیصلہ آسمانی میں جو بات لکھی گئی ہے وہ ایسی ہی ہے جس کی شہادت قرآن و حدیث و صحابہؓ اور ائمہؒ اور سلف صالحینؒ نے دی ہے۔ اس لئے اگر یہ کہا گیا کہ وہ لا جواب ہے تو اس میں کسی مسلمان کو کیا تردد ہو سکتا ہے؟ باقی رہا قادیانی مرہی کا یہ فرمانا کہ اس میں سو سے زائد غلطیاں ہیں اسی کے لئے تو میں چاہتا ہوں کہ مرہی صاحب حکم مقرر کر کے اس کو ثابت فرمائیں ورنہ محض کہنے یا لکھنے سے تو کام نہیں چلتا۔ ان کنتم لمی ریب فادعوا شہداء کم ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا۔ جس وقت مقابلہ ہوگا، اس وقت روشن ہو جائے گا کہ ان غلطیوں کے بیان میں قادیانی مرہی نے کس قدر غلط بیانیاں کیں ہیں اور عوام کو دھوکہ دیا ہے؟ ناظرین قادیانی مرہی کا مرزا غلام احمد قادیانی کی محبت میں یہ حال ہو گیا ہے کہ اب ان کو وہ مضامین بھی نظر نہیں آتے جو کلام پاک میں کثرت سے جا بجا وارد ہیں کیا قادیانی مرہی ایمان سے خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف میں یہ ارشاد خداوندی نہیں ہے۔

..... ومن یضللہ فلا ہادی لہ

۲..... اذا اراد اللہ شیئاً ان یقول لہ کن فیکون .

شاید قادیانی مرہی کو یہ دھوکہ ہوا ہے کہ وہ بحیثیت ان الفاظ کو قرآن کے الفاظ سمجھتے ہیں بے شک یہ الفاظ بحیثیت قرآن میں نہیں ہیں لیکن فیصلہ میں یہ نہیں کہا گیا بھلا یہ تو فرمائیے کہ بعد ولایہی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے کہاں لکھا ہے جو آپ کے خلیفہ اور ان کے پیروان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ پھر ایسی حالت میں کیا قادیانی مرہی کا یہ کھلا اور ظاہر جھوٹ نہیں؟ ہاں! ذرا یہ تو فرمائیے کہ فیصلہ آسمانی میں یہ کہاں ہے کہ ”اذا اراد اللہ شیئاً فیکون لہ کن فیکون“ ہرگز ہرگز فیصلہ میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہ آپ کا سفید جھوٹ ہے اگر آپ فیصلہ آسمانی میں اس طرح پردہ کھلا دیں تو ہمیں روپے انعام لیں ورنہ اپنے کذب کا اقرار کریں۔ ہاں ذرا اس

کا بھی جواب دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ضرورۃ الامام صفحہ ۵ میں لکھتے ہیں، ”قرآن شریف میں فرمایا گیا ”وکانوا يستفتحون من قبل“ فرمائیے اس طرح پر قرآن شریف میں کہاں ہے؟ ہرگز ہرگز اس طرح پر قرآن شریف میں نہیں ہے۔ پھر ضرورۃ الامام صفحہ ۳۱ میں لکھتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اللہ يعلم حيث يجعل رسالة“ اس طرح پر قرآن مجید میں ہرگز نہیں ہے غرضیکہ ان چار غلطیوں کا جواب قادیانی مربی تجویز کریں وہی جواب ادھر سے بھی سمجھ لیں۔ اسی صحیفہ کے صفحہ ۲ میں قادیانی مربی لکھتے ہیں اب مونگیر بھاگلپور میں سلسلہ احمدیہ کی ترقی دیکھ کر خدا جانے قادیانی مربی کو کیا خیال ہوا اور کس مصلحت سے مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔

یہاں تو قادیانی مربی بہت ہی بھولے اور انجان بن گئے۔ اے جناب مصلحت اور خیال اگر آپ کو نہیں معلوم تو مجھ سے سنئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اربعین میں مولانا مدظلہ کو مخاطب تو کیا مگر کتاب نہیں بھیجی۔ جب مونگیر میں یہ فتنہ پھوٹ پڑا اور مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں پر نظر پڑی تو اس کا ابطال شروع کر دیا گیا اور اہل حق کا ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے اور یہی شارع علیہ السلام کا حکم ہے کہ ضلالت اور بدعت کی دنیا میں جب اشاعت اور ترقی ہو تو ہمہ تن وہ اس کی مخالفت کریں اور اس کے مٹانے کی کوشش کریں۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ آپ اتنا بھی نہیں جانتے یا دیدہ و دانستہ بھولے بنتے ہیں۔ قادیانی مربی نے صحیفہ میں یہ بھی شکایت کی ہے کہ جناب مسیح کی حیات کے متعلق کچھ نہیں لکھا گیا۔ واقعی یہ شکایت آپ کی بجائے لیکن وجوہ ذیل سے آپ کی اس خواہش کو پورا کرنے سے معذوری ہوئی۔

۱..... مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ مسئلہ محض عوام کے فریب دہی کے لئے چھیڑا ہے جس کو مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ سے تعلق نہیں ہے۔ یعنی اگر مسیح ثابت بھی ہو جائے تو محض اس سے مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے بعد بھی اپنے دعویٰ پر دلیل کی ضرورت ہوگی۔ پھر ایسی حالت میں ایسے بے تعلق مسئلہ میں پڑنا بے سود سمجھا گیا۔

۲..... جب مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنے قول کے مطابق اپنے دعویٰ میں کاذب ٹھہرے تو ایسی حالت میں کسی ذی عقل کو دوسری طرف توجہ کی ضرورت نہیں۔ بلکہ محض ان کے اقوال ہی کا (یعنی جموٹی پیشین گوئی) کا نقل کر دینا کافی ہے اور اسی بنا پر فیصلہ آسانی میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تکذیب کا معیار ان ہی کی پیشین گوئی کو قرار دیا ہے اور یہ محض اس لئے کہ قادیانی جماعت کو پھر حجت باقی نہ رہے۔ کیونکہ ان کے مقتدا کا قول ان کے لئے نہایت تشفی بخش ہوگا۔ یہ اسلوب فیصلہ



رسول کو چھوڑنا ہوگا۔ اگرچہ بالکل صحیح ہے جس پر ہر مسلمان کا دل گواہ ہے لیکن اس رسالہ نے قادیانی جماعت پر البتہ بڑا ستم کیا ہے اور اس کے حق میں زہر ہلاہل کا حکم رکھتا ہے کیونکہ اس کے نورانی صفحات سے ان کے دجل کی سیاہی کا پردہ چاک ہو گیا۔ رہا لارڈ ہیڈلی کا اسلام لانا انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ناظرین اس کی حقیقت سے بھی واقف ہو جائیں گے کہ ان کے اسلام کی بنا محض ان کی اپنی تحقیقات ہے تقریباً وہ بیس برس سے مسلمان ہیں۔ خواجہ کمال الدین مرزا کی تو اب گئے ہیں ان کا کچھ اثر ان پر نہیں ہوا اور کیوں مولانا یہ تو فرمائیے کہ لارڈ ہیڈلی کے قتل جو اسلام لائے ہیں اس میں کس کی سہمی ہے کیا وہ بھی قادیانی جماعت ہی کی طرف منسوب ہے؟ اور جاپان میں جو لاکھوں مسلمانوں کی تعداد ہو گئی ہے وہاں بھی کوئی قادیانی پہنچا ہے؟ ذرا شرم کیجئے اور بے پرکی نہ اڑائیے۔ اس صحیفہ میں قادیانی مربی لکھتے ہیں کہ ہم نے پانچ خط حضرت قبلہ عالم مولانا محمد علی صاحب غم فیضیہ کی خدمت میں لکھ کر مصنف فیصلہ آسمانی کا نام دریافت کیا لیکن حضرت مدوح نے اپنا نام ظاہر نہیں فرمایا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ اس الف لیلہ کے قصہ سے قادیانی مربی کی کیا غرض ہے اے حضرت! آپ کو مصنف کے نام کے دریافت کا کیا حق ہے اور آپ دریافت کرنے والے ہوتے کون ہیں اور ہم کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ ایسے جعفر زٹلی کی تحریر کا جواب دیں؟ اسی بنا پر ممکن ہے کہ حضرت مدوح نے اس طرف توجہ نہ فرمائی ہو۔

قادیانی مربی صحیفہ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ نصرت یزدانی اور برق آسمانی موجب ازدیاد مادہ طاعون ہو چکا تھا۔ قادیانی مربی یہ تو آپ نے بہت ہی صحیح فرمایا۔ ناظرین ذرا اس طرح متوجہ ہو جائے اور اسے خوب یاد رکھئے کہ اب بقول قادیانی مربی بھی قادیانی جماعت کی کتابیں مسلمانوں کے حق میں مادہ طاعون ہیں۔ پھر کیا مسلمانوں کا یہ فرض نہیں کہ وہ اس دبا اور طاعونی بلا کی سیاہی کو دور کریں اور کثرت استغفار اور لاحول سے اس کثافت و نجاست سے صفائی اور پاکی حاصل کریں۔ مربی صاحب! ایک مولوی ابوالحسن مرحوم کیا ہزاروں ہزار اہل اسلام کے لئے آپ کی جماعت کی کتابیں اور تحریریں غم و ہم کا باعث ہوئیں۔ بھلا کون خدا پرست دیندار ہوگا جس کا دل حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت سید الشہداء جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین سے پاش پاش نہ ہو جائے گا اور اس کو سن کر مر نہ جائے گا؟ کیا عجب ہے کہ اسی بنا پر مرزائی جماعت کو مسیح علیہ السلام کی موت کا یقین ہو گیا ہے کہ مولوی ابوالحسن کی طرح اس مادہ طاعونی نے حضرت مسیح پر بھی اثر کیا ہے۔ مسیح کا ذب کے مصنف کی اس پیشین گوئی کی تصدیق کہ آپ فیصلہ کا



جواب نہیں دے سکتے۔ آپ کے القاء سے پوری ہوگئی کیا القاء کے دیکھنے کے بعد بھی کسی انصاف پرست کو اس میں شک رہے گا کہ فیصلہ کا جواب آپ کی طاقت سے باہر ہے؟ اور کچھ کم دوسال کی مدت تک قادیانی جماعت کے تمام افراد نے سر سے ہیر تک زور لگایا اور ناگوں پسینہ آیا لیکن اب تک ان سے جواب نہ ہوسکا۔

ناظرین! معلن اعلان حقانی نے اگر حکم کے ذریعہ سے فیصلہ چاہا تو اس میں نہ کوئی شرعی جرم ہے۔ نہ عقلی، نہ عرفی، پھر معلوم نہیں کہ عبدالماجد قادیانی کس لئے اس پر اس قدر برا فروختہ اور غضبناک ہو کر ناظرین صحیفہ سے دریافت فرماتے ہیں۔ (کیوں ناظرین معلن صاحب کون ہوتے ہیں؟) قادیانی مربی آپ کے ناظرین صحیفہ معلن صاحب کو نہیں بتا سکتے ان کی ہم سے پوچھئے اور ان کی حالت ہم سے سنئے۔ جناب مولانا مفتی عبداللطیف صاحب معلن اعلان ان اہل کمال اور ارباب فضل سے ہیں جن کی نظیر اس زمانہ میں بہت کم ہے جن کے حلقہ درس سے سینکڑوں طلبہ سند فضیلت پا کر آج مسند درس پر ممتاز ہیں۔ اسی صوبہ بہار میں بہت علماء ہیں۔ جنہوں نے مولانا ممدوح کے دامن فیض میں تربیت پائی ہے اور معقول تنخواہ پاتے ہیں۔ علامہ ممدوح عرصہ تک ندوۃ العلماء میں جہاں بڑے بڑے علماء کا مجمع تھا مفتی تھے اور ان ہی کا فتویٰ جاری تھا اور اسی کے ساتھ دارالعلوم ندوہ میں طلبہ کو تعلیم بھی دیتے تھے اس کے بعد مدرسہ مولویہ مکہ معظمہ میں عرصہ دراز تک صدر مدرس رہے جہاں قاذان، روس، بخارا، حجاز، کوفہ، بصرہ، ہندوستان وغیرہ کے طلبہ ان سے مستفیض ہوتے رہے اور اس وقت تک جناب مفتی صاحب کے لئے ہر طرف سے طلبی کے خطوط آرہے ہیں اور اہل مدارس نہایت متمنی ہیں اور سو روپے مشاہرے دیتے ہیں، لیکن مفتی صاحب نے ان تمام پر خاک ڈال کر حضرت قبلہ عالم جناب مولانا سید محمد علی صاحب (موتگیری) کے فیض صحبت کو اپنے لئے فلاح دارین سمجھا اور اپنا سرمایہ سعادت جانا اور اسی لئے وہ اب اس آستانہ عالی پر پڑے ہوئے ہیں اور عبدالماجد قادیانی تو شاید اردو فارسی اور کچھ معمولی عربی پڑھانے کے لئے پچاس ساٹھ روپے پاتے ہیں جس سے زیادہ مفتی صاحب کے شاگرد پاتے ہیں۔ اب ناظرین انصاف فرمائیں کہ عبدالماجد قادیانی کی یہ بے نیازانہ اداء اور یہ دریافت فرمانا کہ معلن صاحب کون ہوتے ہیں کیسی غضب کی بات ہے؟ اور اس پر طرہ یہ ہے کہ جناب مفتی صاحب کے سامنے آتے ہوئے انہیں حجاب اور شرم آتی ہے اور اس کے لئے اپنے شاگرد کو پیش کرنے کو فرماتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا قادیانی مربی نے آج تک کسی



طرح کے شرک اور رسوم بدعت کا بازار گرم تھا اور ان کی تعزیر پرستی جو نہایت تشدد کے ساتھ تھی اور وہ اس میں ایسے منہمک اور مستعد تھے کہ ان مراسم اور دوسرے فضولیات مروجہ کے روکنے والے اور منع کرنے والے واعظین اور مولویوں کو برا بھلا کہہ کر اپنے گاؤں میں ٹھہرنے نہیں دیتے تھے اور ان کی باتیں سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اب ان کی حالت ناگفتہ بہ کی کیسی کا یا پلٹ ہو گئی؟ اور ماشاء اللہ ان بدعات و فضولیات سے بچے تابع ہو کر راہ راست پر آ گئے اور اچھے خاصے دیندار بن گئے۔ یہ ہے آپ کی توجہ کاملہ کا اثر اور آپ کی اسلامی تعلیم کا نتیجہ۔

آج حضرت مولانا کے حلقہ بگوشی میں بڑے بڑے نامی اور مقتدر صاحب فضل و کمال داخل ہیں جو کہ اپنی اپنی جگہ پر بجائے خود مقتداء اور مجدد وقت ہیں مولانا حکیم عبدالباری صاحب مرحوم جو مولانا عبدالحی صاحب مرحوم کے ارشد تلامذہ میں سے تھے اور جن کی نسبت مولانا مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص ایسا ذہین اور مستعد ہمارے حلقہ درس میں نہیں آیا اور غالباً آپ کو بھی اس سے انکار نہ ہوگا۔ پھر دیکھئے کہ آخر میں حکیم صاحب مرحوم کس ذوق و شوق سے خدام حضرت والا کے حلقہ میں داخل ہوئے اور اس کو اپنا سرمایہ سعادت سمجھا۔ اب ایسی حالت میں آپ کی ایسی جرأت اور دلیری کا باعث اندرونی تاریکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے علاوہ اس کے ایسی خواہش کا آپ کو کیا حق ہے؟

فیصلہ آسمانی میں علامہ ممدوح (حضرت مونگیریؒ) نے خلیفہ جی نور الدین قادیانی کو اصل مخاطب بنایا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ خلیفہ قادیانی مولوی نور الدین ساکت ہیں آپ اگرچہ چند اوراق سیاہ کر کے پانچویں سواروں میں داخل ہو گئے مگر قادیانی خلیفہ نے تصدیق کیوں نہ کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بددیانتیوں کی شہادت ان کا دل بھی دے رہا ہے۔ باقی رہا آپ کا یہ فرمانا کہ فیصلہ اور القاء کو پڑھو جس سے معلوم ہوگا کہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئی منہاج نبوت پر پوری ہوئی وغیرہ وغیرہ۔

جناب والا! اسی لئے تو آپ سے گزارش ہے کہ ”القاء“ کے مضامین کو حکم کے سامنے پیش کیجئے تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ اپنے اس دعویٰ میں کہاں تک صادق ہیں اور فیصلہ آسمانی کو آپ نے سمجھا ہے یا نہیں؟ مرزا قادیانی کے معیار پر جن مدعیان نبوت کو فیصلہ میں موئے حروف سے لکھ کر پیش کیا ہے۔ جب وہی آپ کو نظر نہیں آئے تو اس کے مضامین عالیہ و دقیقہ تک آپ کی ذہین نارسا کی رسائی معلوم؟ اور اس پر ادعا یہ کہ ہم خود مصنف سے مباحثہ کریں گے سچ ہے۔ مصرعہ بے حیاء باش ہرچہ خواہی کن۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَوْلَانَا عَبْدُ الْعَزِيزِ حَمَانِي

# صحیفہ رحمانیہ

(۴)

مولانا عبدالعزیز رحمانیؒ



## لارڈ ہیڈلے کا اسلام اور مرزائیوں کی جھوٹی شیخی لارڈ ممدوح کا اسلامی نام سیف الرحمن شیخ رحمت اللہ فاروق ہے

اسلام وہ سچا اور مقدس مذہب ہے جس نے راست گوئی اور صداقت کو اپنا شعار بتلایا ہے اور اس کے بانی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صاف طور سے کہہ دیا ہے۔ کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اب جو شخص یا جو گروہ جھوٹ کو اپنا شعار بنائے۔ اور جھوٹ بول کر اور خلاف واقع بات کو مستحکم کر کے اپنا فروغ چاہے۔ اسے اپنے آپ کو مسلمان کہنا اسلام کے لئے نہایت عار ہے۔ اسلام میں اور دروغگوئی میں ایسا تباہی اور مخالفت ہے۔ کہ ایسے شخص کو اور ایسے گروہ کو سچے مسلمان اور ان کے پاک مذہب نے بے تامل کہہ دیا کہ مسلمان نہیں ہیں۔

اس وقت جو ایک جدید گروہ مرزائی قادیانی کا پیدا ہوا ہے جس نے ۳۳ کروڑ مسلمانوں کو کافر بنا کر اپنے چند ہزار فتنوں کا نام مسلمان رکھا ہے جن کے چند اشخاص موغیر و بھانچہ میں بھی نظر آتے ہیں یہ غل مچا رکھا ہے کہ لارڈ ہیڈلے خولجہ کمال الدین مرزائی کے ہاتھ پر مسلمان

ہوئے۔ اور اس دروغ کے اعلان میں اشتہار بھی دیا ہے۔ ایسے معزز اور مشہور شخص کا تبدیل مذہب ایسا نہیں ہے کہ اس کی واقعی حالت پوشیدہ رہے اور کوئی ناراست گواہ نہ یا اپنے گروہ کے لئے اپنے فخر و مباہات کا ذریعہ قرار دے۔

لارڈ موصوف کے اسلام لانے کی حالت انگریزی اخبارات اور لندن کے خطوط سے ظاہر ہوئی ہے کہ لارڈ موصوف بیس برس سے مسلمان ہیں اور صرف اسلامی عقائد ہی نہیں رکھتے بلکہ اسلامی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ خواجہ کمال الدین مرزائی تو اب گئے ہیں پھر یہ کہنا کہ خواجہ کمال الدین مرزائی کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے کیا صریح جھوٹ ہے۔ لارڈ موصوف کی تحریر سے ظاہر ہے کہ ان کا مسلمان ہونا کسی مسلمان کی ترغیب اور اثر کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ خود ان کی تحقیق اور کتب بنی کا نتیجہ ہے۔ ۲۰ دسمبر کے کامریڈ میں لارڈ موصوف کا یہ جملہ موجود ہے کہ خواجہ کمال الدین نے مجھ پر ذرا سا بھی اثر ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ ۹ دسمبر ۱۹۱۳ء کے انگریزی اخبار ڈیلی نیوز نے لارڈ موصوف کے اظہار اسلام کی کیفیت اس طرح لکھی ہے۔

### لارڈ ہیڈلی کا تبدیل مذہب

لارڈ ہیڈلی یہ پانچواں بیرن ہے (بیرن ایک معزز عہدہ کا نام ہے) اس خطاب کا جس کو کہ یہ عالی عہدہ (بیرن کا) سال گذشتہ کے جنوری میں ملا ہے۔ بعد مر جانے چھپیرے بھائی کے وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور ان کے مسلمان ہونے کی خبر انجمن ملت اسلام لندن کے سالانہ ضیافت کے روز جس میں خود لارڈ ہیڈلی شریک تھے مشہر کی گئی۔ لارڈ ہیڈلی نے جو اپنے مسلمان ہونے کی بابت اس جلسہ میں کہا وہ یہ ہے۔

”عام طریقہ سے مجھے مذہب اسلام کے اختیار کرنے کی اشاعت کرنے میں یہ کہنا ضرور ہے کہ میں اپنے ان عقائد اسلامیہ سے جس کو میں نے بیس برس سے اختیار کر رکھا ہے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ لارڈ ہیڈلی نے عند الملاقات کسی سے اپنے مسلمان ہونے کے بارہ میں یوں کہا ہے۔“ جبکہ انجمن اسلامیہ کی طرف سے مجھ کو اس شب کے کھانے کی دعوت دی گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے از حد خوشی ہوگی کہ میں اس میں شرکت کروں اور ان کے ممبران پر خود جا کر ظاہر کروں کہ مجھے ان کے مذہب سے کیسی گہری الفت ہے میں نے ابھی تک کوئی کارروائی عملی طریقہ سے نہیں کی ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ میں چرچ آف انگلینڈ کی (یعنی وہ مذہب جو ولایت میں

جاری ہے اور سلطنت برطانیہ کا مذہب ہے) ممبری سے کنارہ کش ہوا اور جس مذہب میں یا جس مذہب کے طریقہ پر میری تعلیم و تربیت ہوئی تھی اور نہ ہم نے رسماً کوئی اعلان ایجاب دین اسلام کا کیا ہے تاہم مذہب اسلام پر میرا عقیدہ ہے میرے مذہب عیسائی کے چھوڑنے کا باعث زیادہ تر تعصب سے ان لوگوں کو ہوا ہے جو اپنے کو عیسائی کہتے ہیں۔“ دسمبر ۱۹۱۳ء کے مسلم انڈیا میں لارڈ ممدوح کی تحریر چھپی ہے اور اس میں لکھا ہے۔

”یہ ممکن ہے کہ میرے بعض احباب خیال کرتے ہوں کہ مجھ پر مسلمانوں کا اثر پڑا ہے مگر یہ بات نہیں ہے کیونکہ میرا موجودہ خیال صرف میری مدتوں کے خیال کا نتیجہ ہے میری اصلی گفتگو تعلیم یافتہ مسلمانوں سے مذہب کے بارے میں چند ہفتہ گزرے کہ شروع ہوئی اور کیا مجھے اس کے کہنے کی ضرورت ہے کہ مجھ کو یہ دیکھ کر کہ میرے کل اصول و نتائج پورے طور سے اسلام کے مطابق ہیں بہت خوشی ہوئی، میرے دوست خواجہ کمال الدین مرزائی نے مجھ پر ذرا سا بھی اثر ڈالنے کی کبھی کوشش نہیں کی ان میں اخباروں سے نہایت صفائی سے ظاہر ہو گیا کہ لارڈ ہیڈلے کے مسلمان ہونے میں خواجہ کمال مرزائی کو کچھ دخل نہیں ہے۔ البتہ خواجہ کمال مرزائی نے اور ان کے ہم خیال اہل اخبار وغیرہ نے ہندوستان میں ایسی باتیں بتائی ہیں جن سے مسلمان متاثر ہوں اور مرزائی باطل مذہب کی طرف ان کا عمدہ خیال ہو۔

شاہ نعمت اللہ صاحب رئیس مونگیر عرصہ سے لندن میں مقیم ہیں حضرت اقدس مولانا سید ابوالاحمد رحمانی نے ان سے لارڈ موصوف کی حالت دریافت کی تھی تاریخ ۱۸ جنوری ۱۹۱۴ء کو ان کا خط آیا وہ لکھتے ہیں۔ The London..... لارڈ ہیڈلے کے بارے میں حضور نے جو دریافت فرمایا ہے اس کی حقیقت میرا خیال میں یہ ہے کہ مرزا غلام احمد (قادیانی) کا غالباً ابھی تک نام بھی انہوں (لارڈ ہیڈلے) نے نہیں سنا ہے وہ آدمی بہت معقول و سنجیدہ ہیں تعلیم بھی ان کی بہت اچھی ہوئی ہے اور فقط اسلام کی خوبیوں سے محو ہو کر مسلمان بالالاشتہار ہو گئے ہیں ہم نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ نماز میں سجدہ وغیرہ میں آپ کو دقت ہوتی ہوگی اس کا جواب دیا کہ آج سے بیس سال سے ہم روزانہ اسی طور سے عبادت کرتے ہیں اس سے معلوم ہوگا کہ خواجہ کمال الدین (مرزائی) کے آنے کے بیس سال قبل سے وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کی وجہ یہاں اخباروں میں لکھی تھی اور صاف طور سے کہا ہے کہ بغیر کسی کے ترغیب دلائے ہوئے فقط کتابی معلومات سے وہ مسلمان ہوئے ہیں یہاں ایک بزرگ لیڈی کبولڈ Lady Qwlyn



Cobbow of London نام سے مشہور ہیں ہم سے ان کی عرصہ سے ملاقات ہے اور وہ یہاں کے معزز خاندان سے ہیں ان کا خاندان لارڈ ہیڈلے سے زیادہ معزز یہاں سمجھا جاتا ہے اور ماشاء اللہ وہ پورے مسلمان ہیں کلام اللہ شریف کا اکثر حصہ ان سے ازبر (زبانی) سن لیجئے اور عربی بھی بولتی ہیں۔ خواجہ کمال صاحب مرزائی نے ہم کو ان سے بھی ملانے کو کہا تھا مگر ابھی ہم کو ایسا موقع نہیں ملا ہے کہ ملائیں انہوں نے اپنے لڑکے کو پوری عربی کی اچھی تعلیم دی ہے ملاحظہ کیا جائے کہ لارڈ ہیڈلے کے ملنے والے کس قدر صاف لکھتے ہیں کہ لارڈ موصوف، خواجہ کمال مرزائی کے آنے سے بیس برس پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور نماز پڑھتے تھے ایک نہایت معزز خاندان کی خاتون مسلمان ہو کر اکثر حصہ قرآن مجید زبانی یاد کر چکی ہیں۔ جن کے پاس آج تک خواجہ کمال صاحب (مرزائی) کی رسائی نہیں ہوئی۔

ان کے علاوہ بہت مردوں کو اور خاتون کو اسلام کی طرف رغبت ہے اور بہت مسلمان ہیں مثلاً Mr & Maseern جنہوں نے اسلامی نام عبد الحمید رکھا ہے یہ سیلون میں مجسٹریٹ ہیں اور پندرہ سولہ برس سے مسلمان ہیں اور لارڈ الڈرنے مرنے کے وقت اپنے اسلام کی شہرت دی تھی Lord Alder Mr. Lehuwra جن کا اسلامی نام خالد ہے یہ نوجوان عرصہ دس بارہ برس سے مسلمان ہیں ایک معزز خاتون لیڈی بلوم فیلڈ Lady Bloom فرقہ بہائے میں داخل ہوئی ہے اور بہت لوگ لندن کے اس فرقہ میں داخل ہو چکے ہیں کچھ عرصہ ہوا کہ اس فرقہ کے سردار عبدالبہاء لندن میں گئے تھے اور بہت کچھ احترام ان کا وہاں کے لوگوں نے کیا ان کا لیکچر بھی بڑے زور و شور سے ہوا ان کی دعوتیں بھی ہوئیں۔ جن میں بڑے اہتمام سے ایرانی کھانے پکوائے گئے تھے اور شہر مونگیر کے رئیس شاہ محمد یحییٰ صاحب بیرسٹر بھی اس میں شریک تھے۔ پھر عبدالبہاء لندن سے فرانس گئے تھے۔ خواجہ کمال (مرزائی) نے فرانس جانے کا غل تو مچایا۔ مگر ہوا کچھ نہیں۔ عبدالبہاء علی محمد بابی ولایتی کے خلیفہ ہیں جنہوں نے ۱۲۵۷ء سے کچھ پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور اس وقت اس کے ماننے والے۔ کلکتہ، بمبئی، لندن، رنگون اور استنبول، مصر، شام، امریکہ وغیرہ میں کثرت سے ہیں اور ظاہری اخلاق ان کے اچھے سنے گئے ہیں۔ جس قدر جھوٹ اور فریب مرزائیوں میں دیکھا جاتا ہے۔ ان میں نہیں سنا گیا۔ ایک جھوٹا دعویٰ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ خواجہ کمال (مرزائی) کے سوا یورپ وغیرہ میں جا کر تبلیغ اسلام کسی نے نہیں کی۔ یہ دعویٰ بھی ایسا ہی جھوٹا ہے جیسا پہلا دعویٰ تھا۔

سر سید احمد خان لندن گئے اور وہاں جا کر خطبات احمدی انگریزی کرا کے مشہور کی اور اپنے خیال کے بموجب تبلیغ اسلام کی۔ اور جو اعتراضات ایک بڑے معزز عیسائی نے جناب رسول اللہ ﷺ پر کئے تھے ان کے جوابات دے کر عیسائیوں کو اسلام کی طرف بلایا اور مصر سے مصطفیٰ کمال پاشا لندن میں گئے اور تبلیغ اسلام کی اور جاپان میں مولوی برکت اللہ ایم۔ اے گئے ہیں اور عرصہ سے وہاں قیام رکھتے ہیں۔ اور اچھی طرح تبلیغ اسلام کر رہے ہیں۔ چنانچہ مسٹر حسن ہٹانو جو خاندان وزارت شاہی کا ایک معزز شخص ہے مولوی صاحب مذکور کی وجہ سے مسلمان ہوا اور سنا گیا ہے کہ مسٹر حسن ہٹانو نے ایک اسلامی اخبار بھی جاری کیا ہے۔ جس کی شہرت اور آمد ہندوستان میں بھی ہے اخبار وکیل سے ظاہر ہوا ہے کہ وہاں تین لاکھ مسلمان ہوئے ہیں چنانچہ ۱۹۱۴ء کا وکیل لکھتا ہے کہ ترکی ہم قلم اقدام قسطنطنیہ روسی اخبار ”نودی وریمیا“ سے یہ خبر نقل کرتا ہے کہ مسلمانان چین نے ایک جدید انجمن مسلمانان چین و جاپان کو متحد بنانے کی غرض سے قائم کی ہے اس انجمن کا صدر دفتر شہر نانکن میں ہے اور اس دفتر کو حال میں ایک قابل توجہ رپورٹ مسلمانان جاپان کے حال کے متعلق موصول ہوئی ہے یہ رپورٹ ٹوکیو کے مدرسہ اسلامیہ کے منظم اور پرنسپل حسن خورشید نے مرتب کی ہے اس رپورٹ سے عیاں ہوتا ہے کہ جاپان میں مسلمانوں کی تعداد تین لاکھ نفوس تک پہنچ چکی ہے اب مجھے مرزا کی جماعت بتائے کہ خوبہ کمال مرزائی نے لندن میں کتنے آدمیوں کو مسلمان کیا؟ جیسا کہ ان کی جماعت غل مچا رہی ہے اور اس حیلہ سے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے میرے خیال میں خوبہ کمال صاحب (مرزائی) کی نسبت پوسٹ ماسٹر پیر بخش صاحب سیکرٹری انجمن تائید الاسلام لاہور کی جو رائے ہے وہ نہایت صحیح ہے اور اسے ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

”پوشیدہ نہیں کہ خوبہ کمال الدین صاحب (مرزائی) مریدان مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت، مہدویت مسیحیت، ذکر شنیت، وغیرہ وغیرہ کے رکن رکین ہیں اور اہل اسلام ہندوستان و پنجاب پر پھر ایسی ہی غلطی عظیم کا وقت آ گیا ہے جو کہ مرزا قادیانی کے اشتہار براہین احمدیہ کا تھا جبکہ انہوں نے اسلام کی حمایت کے بہانہ سے مسلمانوں سے رویہ بٹورا اور بجائے اشاعت اسلام کے مرزائیت (یعنی اپنے دعاوی نبوت وغیرہ) کی اشاعت کے واسطے اشتہارات اور تالیف کتب پر اس بے رحمی سے دل کھول کر خرچ کیا کہ لاکھوں کی تعداد میں اشتہارات مسیح موعود ہونے کے واسطے تمام ممالک غیر تک پہنچائے اور یہ وہ روپیہ تھا جو اس واسطے مسلمانوں سے لیا تھا کہ

قرآن اور محمد ﷺ کی صداقت پر تین سو دلائل کل ادیان کے رد میں بیان کئے جائیں گے اور اسلامی تعلیم اور مذہب کو سچا ثابت کیا جائے گا، مگر وہ وعدہ بالکل وفا نہ کیا گیا اور روپیہ بے محل خود ستائی اور اپنی نبوت و رسالت کے اثبات میں خرچ کیا اور وفات مسیح علیہ السلام کی خاطر تمام اسلاف اہل اسلام کو غلطی پر بتایا گیا تمام تفاسیر کو ردی قرار دے دیا گیا، ائمہ اربعہ کے اجماع امت کو کورانہ تقلید کا خطاب دیا گیا اور اسلام کے تمام مسائل کے الٹ پلٹ میں کتابیں و اشتہارات اس کثرت سے لکھے کہ ممالک متمدنہ یورپ کے کسی ہوشیار سے ہوشیار دوکاندار نے بھی اس قدر شائع نہ کئے ہوتے اور وہ روپیہ جو خدمت و حمایت اسلام کے واسطے جمع کیا گیا تھا وہی تخریب دین میں اور اسلام اور مسلمانوں کی دل آزاری پر خرچ کیا گیا اور مرزائیت کی اس قدر اشاعت ہوئی کہ کوئی شہر و قصبہ پنجاب و ہندوستان میں نہیں کہ مرزائیوں کی اڑھائی اینٹ کی مسجد (مرزاؤں) الگ نہ ہو اور تفرقہ امت محمدی میں اس قدر ڈالا کہ بھائی بھائی سے میاں۔ جو رو سے، جو رومیوں سے، خویش و اقارب تمام اجزاء جو اسلام کے تھے الگ کر دیئے گئے حتیٰ کہ نمازیں اور جنازے پڑھنے بھی بند ہو گئے اور یہی مرزا قادیانی کی پیدا کردہ چھوٹی سی جماعت تمام موجودہ و اسلاف اہل اسلام کو یہودی و کافر کا لقب دینے لگی حتیٰ کہ اب تک کتابوں میں ایسا ہی لکھتے ہیں۔ اور امت محمدی میں وہ فساد ڈالا ہوا ہے کہ کوئی جگہ نہیں جس جگہ چرچا نہ ہو اور اب تو ہند و پنجاب کے علاوہ بلاد غیر میں جا پہنچے ہیں۔ منہ سے قرآن و محمدؐ کہتے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اسلام کا خیر خواہ بتاتے ہیں مگر جب انہوں نے تمام مسلمانوں کو جو مرزا قادیانی کو نبی و رسول نہیں مانتے کافر قرار دے دیا تو اب مسلمانوں سے کیا واسطہ ہے؟ لیکن یہ عیاری دیکھئے کہ چندہ لینے کے واسطے اور مال و زر وصول کرنے کے واسطے ان یہودیوں (معاذ اللہ) کو مسلمان کہہ دیتے ہیں اور جس طرح بھی بن پڑے مسلمانوں سے روپیہ بنڈور لیتے ہیں مگر خود ایسے گرہ کے پکے اور تعصب کے پتلے ہیں کہ سوا قادیان کے ٹیکس کے ایک پیسہ کسی قومی کام میں نہیں دیتے۔ انجمن حمایت اسلام کو دینا گناہ سمجھتے ہیں مگر جب اپنا مطلب ہو تو یہی یہودی بھائی مسلمان ہیں اور گندم نمائی کر کے اپنا مطلب نکال لیا تو پھر وہی علیحدگی اور قطع تعلق تو کون اور میں کون؟“

وہی وقت اب مسلمانوں پر آ گیا ہے اور ویسی غلطی میں مسلمان مبتلا ہونے لگے ہیں کہ چندہ جمع کر کے خوب کمال الدین (مرزائی) کو روانہ کر رہے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں جس کا نتیجہ اخیر وہی پشیمانی ہوگی جو مسلمانوں نے مرزا قادیانی کو چندہ اور براہین کی قیمت پیشگی ادا کرنے

سے ہوئی تھی۔ روپیہ مسلمانوں کا ہوگا اور مرزائیت کی اشاعت میں خرچ ہوگا۔ اور برائے نام مسلمانوں کا منہ بند کرنے کے لئے کسی انگریز کی تبلیغ کے نام سے بھی خرچ کیا جائے گا موغیر اور بھاگل پور کے مرزائیوں کو دیکھا جائے کہ ایک خاص غرض کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم کسی کلمہ کو کو کافر نہیں کہتے۔

جب مرزا قادیانی نے نہایت صفائی سے (حقیقۃ الوحی ص ۹۷ اخراٹن ج ۲۲ ص ۱۸۵) وغیرہ میں اپنے نام نہ ماننے والوں کو کافر کہا۔ ان کے بیٹے محمود نے تمام مسلمانوں کے کافر ہونے کے باب میں خاص رسالہ تشہید الاذہان ج ۶ نمبر ۴ ص ۱۲۲ اپریل ۱۹۱۱ء آئینہ صداقت لکھا۔ ان کے خلیفہ نے اس کی تصدیق کی۔ اب ان کے اس خط سے اس کا ثبوت ہو رہا ہے۔ جو انہوں نے خلیفہ کمال (مرزائی) کو لکھا ہے۔ اور پیغام صلح میں شائع ہوا ہے اور اخبار وکیل جلد ۱۹ نمبر ۷ مورخہ ۲۴ جنوری ۱۹۱۴ء نے اسے نقل کیا ہے۔ عبدالماجد (قادیانی) جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرائے ہیں۔ اور تمام دنیا کے علماء اور اہل اللہ کو خصوصاً علماء کا ملین حرمین شریفین کو چھوڑ کر اور انہیں فاسق سمجھ کر مرزا قادیانی اور ان کے خلیفہ کو اپنا مقتداء اور پیشوا مان چکے ہیں۔ اس لئے کیسے ہو سکتا ہے کہ مقتداء کے خلاف عقیدہ رکھتے ہوئے؟ یہ ہرگز ہو نہیں سکتا مگر چونکہ سمجھتے ہیں کہ عام مسلمان کافر کہہ دینے سے برہم ہو جائیں گے۔ اور اس مذہب کو برا سمجھنے لگیں گے۔ اس لئے کہہ دیتے ہیں کہ ہم کسی کلمہ کو کو کافر نہیں کہتے اور مرزا قادیانی کے بیٹے نے جو لکھا ہے اسے ہم نہیں مانتے۔ یہ صرف فریب ہے جب نماز میں شریک نہ ہوں۔ جنازے میں شرکت نہ کریں لڑکی دینے سے انکار۔ ان کے خاص اخبار میں شائع ہو کہ جو غیر قادیانی کو لڑکی دے وہ قادیانی نہیں تمام باتیں کفاروں کی برتیں۔ مگر زبان سے کہہ دیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، صریح دلیل ہے کہ وہ فریب دیتے ہیں دراصل تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں مگر اپنی خاص غرض سے اپنے دلی عقیدہ کو ظاہر نہیں کرتے۔ بلکہ جس طرح اور جھوٹی باتیں کہتے ہیں یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں سخت افسوس ہے کہ ہمارے بھائی نے ہم سے جدا ہو کر نہایت بری روش اختیار کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر لائے اور پھر پیارا سچا بھائی بنائے۔

عبدالعزیز رحمانی



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم  
سورة الفاتحة

# صحیفہ رحمانیہ

(۵)

پروفیسر مولانا ابوالخیر سید محمد انور حسینؒ

اس میں مرزا احسام الدین احمد مرزائی کے اس اشتہار کا جو جلسہ مسیحی ۸۔ مارچ ۱۹۱۳ء کے متعلق تھا۔ مدلل جواب دیا گیا ہے اور قرآن مجید سے اور نیز مرزا غلام احمد قادیانی کے بیان کردہ معنی کی رو سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات جسمانی اور رفع آسانی کا ثبوت دے کر مرزا قادیانی کی نبوت اور مسیحیت کے ثبوت کا مطالعہ کیا گیا ہے۔

## اَنی تَوْفُکُوْنَ

تم لوگ کہاں سے پھیرے جاتے ہو

نہیں ہے دین مرزائی میں کچھ بھی نور ایمانی  
ادھر آؤ تمہیں اب نور دین انور دکھائے گا

ایک اشتہار مرزا احسام الدین احمد احمدی (مرزائی) اکبر آبادی کا ہماری نظر سے گزرا۔ اس اشتہار میں کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جس کا جواب علمائے اسلام نے نہ دیا ہو۔ بلکہ وہی باتیں ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی نے پیش کی تھیں اور علمائے اسلام نے ان کی حیات ہی میں ان کا مفصل اور مدلل جواب دے دیا تھا۔ مشہر صاحب نے یا تو ان جوابوں کو دیکھا نہیں ہے یا جواب الجواب سے عاجز آ کر مرزا قادیانی ہی کی پیش کردہ باتوں کو دہرایا ہے چونکہ اس اشتہار سے اس بات کا احتمال ہے کہ جن مسلمانوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ علمائے اسلام، مرزا قادیانی صاحب کی ہر ایک بات کا مفصل اور مسکت جواب دے چکے ہیں وہ شبہ اور فتنہ میں پڑ جائیں اس لیے علمائے اسلام کی تحقیقات کے مطابق مذکورہ بالا اشتہار کا مدلل جواب دیا جاتا ہے ناظرین بنظر انصاف ملاحظہ فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ

مشہر صاحب لکھتے ہیں، ناظرین! ۸ مارچ ۱۹۱۳ء کو منجانب مسیحی صاحبان جلسہ مذہبی مقرر تھا۔ ہر شخص کو تقریر کرنے کی اجازت تھی جماعت احمدیہ کی طرف سے اخویم خیر الدین صاحب نے وفات مسیح پر تقریر شروع کی ہنوز بیان تمام نہیں ہوا تھا کہ بیچ میں مولوی عبدالکریم صاحب مدرس اول ندوۃ العلماء لکھنؤ مولانا عبدالشکور صاحب ایڈیٹر اخبار النجم نے دخل دینا شروع کیا اور

کہا کہ مرزا قادیانی نے جمیع انبیاء سے حضرت محمد ﷺ کو افضل الرسل اور فرد کامل کہا ہے کیا ان سے پہلے تمام انبیاء فرد کامل نہ تھے۔ ایسا کہنا مرزا قادیانی کا انبیاء ماسبق کی صریح توہین ہے اور اسی طرح اپنے دعویٰ نبوت کے لیے ”توفی“ کے معنی خلاف معاوہ قرآن کریم سے تراشے ہیں۔ لہذا ہر سہ حالت میں وہ کافر ہیں۔“ اس کا جواب یہ ہے کہ مولوی عبدالکریم صاحب اور مولوی عبدالشکور صاحب ہرگز ہرگز ایسے غیر مہذب نہیں ہیں کہ کسی کے اثنائے تقریر میں بلاوجہ دخل دیں۔ یا تو یہ بات ہی غلط ہے یا مقرر صاحب نے کوئی ایسی تقریر کی ہوگی جس کا بروقت جواب دینا ضروری ہو گا۔ ورنہ بقول مشہور صاحب ہر شخص کو تقریر کرنے کی اجازت تھی مولوی صاحبان مرزائی مقرر کی تقریر کے بعد ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ اثنائے تقریر میں دخل دینے کی کوئی خاص وجہ ضرور ہوئی ہوگی کیا اس جلسہ میں کوئی صدر انجمن نہ تھا؟ اور کیا اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ کسی کے اثنائے تقریر میں دخل دینے والوں کو روک دے۔ یہ بات بھی سراسر غلط معلوم ہوتی ہے کہ مولوی صاحبان نے مرزا قادیانی کی تکفیر کی ایک یہ وجہ قرار دی کہ مرزا قادیانی نے آنحضرت ﷺ کو افضل الرسل اور فرد کامل کہا ہے اور اس سے انبیاء ماسبق کی توہین ہوتی ہے (اور توہین انبیاء کفر ہے) اس لیے کہ مولوی صاحبان عقیدہ تا اہل سنت والجماعت میں اور تمام اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ آنحضرت ﷺ افضل الرسل ہیں۔

(دیکھو شرح عقائد سنی ص ۲۰۵ مطبوعہ مطبع انوار احمدی۔ ”وافضل الانبیاء محمد۔“)

یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ مولوی صاحبان نے آنحضرت ﷺ کو افضل الرسل کہنے کی وجہ سے دوسرے انبیاء کی توہین استنباط کر کے مرزا قادیانی کو کافر کہا۔ ”سبحانک هذا بهتان عظیم۔“ بلکہ قرین قیاس یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مولوی صاحبان نے یہ کہا ہوگا کہ مرزا قادیانی نے اپنی فضیلت ثابت کرنے کے لیے بعض انبیاء الواعزم کی سخت توہین کی ہے چنانچہ دافع البلاء کے ص ۱۳ خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳ میں لکھتے ہیں۔ ”خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔“ پھر اسی رسالہ کے ابتدا میں لکھتے ہیں۔ ”بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی اسی وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حضور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع

تھے۔“ (دافع البلاء ص ۴۰ حاشیہ خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۰ حاشیہ)

اس عبارت میں مرزا قادیانی ان غلط قصوں کی تصدیق کرتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب کیے گئے ہیں اور ان قصوں کو آپ کے حضور (پاکدامن) نہ ہونے کا سبب قرار دیتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے اعتقاد میں حضرت مسیح علیہ السلام پاکدامن نہ تھے اور اس میں شک نہیں کہ حضرت مسیح کو پاکدامن نہ سمجھنا ان کی سخت توہین ہے۔ بلکہ ان کی نبوت سے ایک طرح کا انکار ہے۔ (نعوذ باللہ منہ)

یہ بات بھی صحیح نہیں معلوم ہوتی کہ مولوی صاحبان نے یہ کہا ہو کہ۔ ”اپنے دعویٰ نبوت کے لیے ”توفی“ کے معنی خلاف محاورہ قرآن کریم کے تراشے ہیں لہذا ہر سہ حالت میں کافر ہیں۔“ اس لیے کہ مرزا قادیانی نے ”توفی“ کے جو معنی تراشے ہیں اگر وہ معنی تسلیم بھی کر لیے جائیں تو اس سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوگی۔ اس سے مرزا قادیانی کی نبوت کسی طرح نہیں ثابت ہو سکتی اور پھر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہونے سے کفر نہیں لازم آتا گو یہ عقیدہ جمہور اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ ہاں یہ کہا ہو تو عجب نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہو کر خود مسیح موعود بن بیٹھنا اور آیت کریمہ خاتم النبیین اور احادیث ختم نبوت کے خلاف دعویٰ نبوت و نزول وحی کرنا کفر ہے۔ بہر کیف مشہور صاحب وجوہ تلاش کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔“

ناظرین! شق اوّل کے لیے تو ہمارا یہی مذہب ہے کہ جناب سرور کائنات محمد ﷺ سے افضل کوئی نبی نہیں ہے جیسا کہ فرمایا نبی ﷺ نے کہ: لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الاتباعی۔ (ابن کثیر جلد ۱ ص ۳۷۸)

”اگر موسیٰ و عیسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بجز ہماری اطاعت کے اور کچھ چارہ نہ ہوتا۔“ (امام احمد اور بیہقی نے حضرت جابرؓ سے جو روایت کی ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے صرف حضرت موسیٰ کا نام ہے چنانچہ مشکوٰۃ شریف ص ۳۰ کتاب الامتصاص بالسنہ میں ہے۔ لو کان موسیٰ حیاما وسعہ الاتباعی۔

کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو سوائے ہماری پیروی کے اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ جس حدیث کو مشہور نے پیش کیا ہے کتب حدیث میں اس کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مشہور صاحب نے مذکورہ بالا حدیث (ابن کثیر) کی کوئی سند



بیان نہیں کی اور نہ حدیث کی کسی کتاب کا حوالہ دیا صرف ابن کثیر کے حوالہ دینے سے حدیث کی صحت ثابت نہیں ہو سکتی۔ مشہر صاحب پر لازم تھا کہ حدیث مع سند بیان کرتے اور پھر ہر ایک راوی کا ثقہ ہونا ثابت کرتے یا محدثین کی تصحیح نقل کرتے بغیر اس کا مذکورہ بالا حدیث سے استدلال صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس حدیث کی صحت ثابت بھی ہو جائے تو مشہر صاحب کا مدعا اس حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ

۱..... ایک یاد دہانی کے تابع ہونے سے کل انبیاء علیہم السلام پر فضیلت نہیں ثابت ہو سکتی ہے۔  
۲..... مجرد کسی نبی کا تابع ہونا نبی متبوع کی افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔

دیکھو اللہ تعالیٰ آنحضرت ﷺ کو کہتا ہے کہ اے محمدؐ۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا۔ (نحل آیت ۱۲۳) ”پھر میں نے آپؐ کی طرف وحی کی کہ آپؐ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے یکسو ہو کر۔“

”اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ حضرت ابراہیمؑ کے تابع تھے اور حضرت ابراہیمؑ متبوع تھے، مگر افضل الرسل آنحضرتؐ ہی ہیں نہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام، معلوم ہوتا ہے کہ مشہر صاحب کو آنحضرتؐ کے افضل الرسل ہونے کی دلیل معلوم نہیں ہے ورنہ وہ ایسی حدیث پیش نہ کرتے جس کی نہ تو سند کا پتہ ہے اور نہ اس کے الفاظ سے اصل مطلب ثابت ہوتا ہے۔ اچھا تو مجھ سے سنئے۔ آنحضرت ﷺ کے افضل الرسل ہونے کی تین دلیلیں ہیں۔

۱..... آنحضرت ﷺ کی ذات بابرکات پر دین کی تکمیل کی گئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔  
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا  
”آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام ہی کو پسند کیا۔“

اور ظاہر ہے کہ یہ فضیلت سوائے آپؐ کے کسی نبی کو نہیں ملی۔  
۲..... آپؐ کی امت افضل ترین امم قرار پائی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ  
کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون  
عن المنکر (آل عمران ۱۱۰)

”تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو۔ اور بری باتوں سے روکتے ہو۔“

اور ظاہر ہے کہ امت کی فضیلت اس رسول کی فضیلت پر موقوف ہے جس کے وہ تابع ہے۔ پس آپ کی امت کا افضل ام ہونا آپ کے افضل الرسل ہونے کی مبنی دلیل ہے۔

۳..... مسلم شریف (ج ۱ ص ۱۹۹ باب مساجد و موضع الصلوٰۃ) میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ۔

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت بجوامع الکلم و نصرت بالرعب و احلت لی الغنائم و جعلت لی الارض مسجداً و طهوراً۔ و ارسلت الی الخلق کافۃ و ختم بی النبیون۔

(مشکوٰۃ باب فضائل نبی ﷺ ص ۵۱۲)

”میں دوسرے نبیوں پر چھ باتوں میں فضیلت دیا گیا ہوں (۱) مجھ کو جامع کلمے دیئے گئے۔ (۲) اور میں اپنے رعب کی وجہ سے فتح یاب ہوا (۳) اور مال غنیمت میرے لیے حلال ہوا۔ (۴) اور ساری زمین میرے لیے نماز اور تیمم کے لائق بنائی گئی۔ (۵) اور میں سارے لوگوں کے لیے رسول ہوں۔ (۶) اور نبیوں کے آنے کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا۔“

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ آپ نے کسی نبی کے تابع ہونے کو اپنی فضیلت کی دلیل نہیں قرار دی پس مشہر صاحب کا استدلال غلط ہو گیا۔

پھر مشہر صاحب لکھتے ہیں کہ شق ثانی کے جواب میں ابو الحسنات مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی کا قول درج کرتے ہیں کہ بعد آنحضرتؐ کے بازمانہ میں آنحضرتؐ کے مجرد کسی نبی کا ہونا محال نہیں ہے بلکہ صاحب شرع جدید ہونا البتہ متمنع ہے۔

(دیکھو دافع الوساوس فی اثر بن عباس علوی مطبوعہ لکھنؤ ص ۱۲ سطر ۸۔)

اس کا جواب یہ ہے کہ مشہر صاحب کو اس مسئلہ میں نہ کوئی آیت قرآنی ملی اور نہ کوئی حدیث نبوی، نہ کسی صحابی کا اثر، نہ کسی مجتہد کا قول، مجبور ہو کر مولانا مرحوم کا ایک قول پیش کر دیا ہے حالانکہ قرآن مجید اور احادیث کے انصوص قطعیت الدلالت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ پر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے آپ کے بعد کسی کو نبوت و رسالت نہیں مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”مساکن

فحممہ ابا احد من رجا لکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین (احزاب ۴۰)

نہیں ہیں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن اللہ تعالیٰ کے

رسول اور سب نبیوں کے بعد آنے والے۔“

خاتم النبیین میں لفظ خاتم یا بالکسر ہر حالت میں اس کے معنی آخر کے ہیں۔

(دیکھو لسان العرب ج ۳ ص ۲۵ مجمع البحار ج ۲ ص ۱۵)

یہ آیت اس بارہ میں نص قطعی ہے کہ نبوت آپؐ پر ختم ہو چکی ہے۔ احادیث صحیحہ بھی اس بارہ میں کثرت سے وارد ہیں ان میں سے چند پیش کی جاتی ہیں۔

..... (بخاری ج ۱ ص ۵۰۱ باب ماجاء فی اسماء رسول اللہ ﷺ و مسلم ج ۲ ص ۲۶۱ باب فی اسمائہ ﷺ) میں جبیر بن مطعمؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

انا العاقب والعاقب الذی لیس بعده نبی (متفق علیہ)

(مشکوٰۃ ص ۵۱۵ باب اسماء النبی وصفائہ)

کہ میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

۲..... بخاری میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی و سیکون خلفاء۔“ (بخاری ج ۱ ص ۴۹۱ باب ذکر عن بنی اسرائیل، فتح الباری پ ۳ ص ۸۳)

بنی اسرائیل پر انبیاء علیہم السلام سیاست کرتے تھے جب کوئی نبی وفات پاتے تو دوسرے نبی ان کے جانشین ہوتے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے البتہ خلفاء ہوں گے۔

ان دونوں حدیثوں سے یہ بات بعبارۃ النص ثابت ہوتی ہے کہ آپؐ کے بعد کسی کو کسی قسم کی نبوت نہیں مل سکتی ہے اس لیے کہ ان دونوں حدیثوں میں لفظ نبی نکرہ ہے۔ اور تحت نفی میں واقع ہے اور نکرہ تحت نفی میں عام ہوتا ہے یعنی اس نکرہ کے ہر فرد کی نفی ہو جاتی ہے اور سیکون خلفاء سے اس عموم کی پوری تائید ہو رہی ہے پس ان دونوں حدیثوں کا صریح مطلب یہی ہے کہ آپؐ کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا صاحب شرع جدید ہو یا نہ ہو۔ ہاں دوسری حدیث میں خلفاء کے لفظ سے صراحت یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے جانشینوں کا لقب خلفاء ہے انبیاء نہیں ہے ای وجہ سے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اس لقب کے ساتھ ملقب نہیں ہوتے (ترمذی، ج ۲ ص ۲۰۹ باب مناقب عمر ابن الخطابؓ) میں عقبہ بن عامرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ ہوتے۔ صحیحین میں سعد بن وقاصؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے غزوہ تبوک میں جاتے وقت حضرت علیؓ سے فرمایا کہ آپ ہماری غیبت میں

اسی طرح ہمارے جانشین ہیں جس طرح موسیٰؑ کے جانشین ہارونؑ تھے مگر فرق یہ ہے کہ ہمارے بعد (ہماری نبوت کے بعد) کوئی نبی نہیں یعنی ہارونؑ نبی تھے اور چونکہ ہماری نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے آپ نبی نہیں ہو سکتے ہیں۔“

(بخاری ج ۵ ص ۵۲۶ باب مناقب علی ابن ابی طالبؑ۔ مسلم ج ۴ ص ۸۷۸ باب فضائل علیؑ ابن ابی طالب) ان روایتوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؑ سے نبوت کی نفی اسی بنا پر کی گئی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ کیا کوئی ایماندار اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ مرزا قادیانی تو فانی الرسول کے درجہ پر پہنچ کر ظلی یا بروزی نبی اور رسول بن جائیں اور حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو یہ درجہ نہ ملے اور ظلی اور بروزی نبوت سے بھی محروم رہ جائیں۔ (نعوذ باللہ منہ)

۳..... (بخاری، ج ۱ ص ۵۰۹ باب علامات النبوة فی الاسلام) میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ:

لا تقوم الساعة حتی یبعث لا دجالون کذابون قریب من

ثلثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ . (مشکوٰۃ ص ۲۶۵ باب الامم)

قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تیس کے قریب دجال و کذاب پیدا ہوں ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ خدا کا رسول ہے۔

(مسلم ج ۲ ص ۳۹۷ فصل فی قوله صلعم ان بین یدی الساعۃ کذابین قریباً من ثلاثین) اور ابو داؤد و ترمذی میں حضرت ثوبانؓ سے اس طرح مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ۔ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی

(ابو داؤد ج ۲ ص ۱۲۷ باب ذکر القنن و دلائلہا) (ترمذی، ج ۲ ص ۳۵، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتی یخرج کذابون مشکوٰۃ ص ۲۶۵ کتاب القنن)

میری امت میں تیس فریب دینے والے بڑے جھوٹے پیدا ہونے والے ہیں ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ خدا کا نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

اس دوسری حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جن جھوٹے مدعیان نبوت کا اس حدیث میں ذکر ہے وہ آنحضرتؐ کی امت ہی میں سے ہوں گے یعنی اپنے کو امتی بھی کہیں گے اور

نبی بھی، نبوت تشریحی کے مدعی ہوں یا غیر تشریحی کے، پس جو شخص آپؐ کے بعد کسی قسم کی نبوت کا مدعی ہو تو وہ بحکم حدیث مذکور دجال و کذاب کہلانے کا مستحق ہے۔ فتدبر ولا تکن من الغافلین مولانا عبدالحی صاحب مرحوم کا جو قول مشہور صاحب نے نقل کیا ہے وہ ان لوگوں کے جواب میں ہے جو کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں آئیں گے تو آنحضرت ﷺ خاتم النبیین نہیں رہیں گے۔ مولانا مرحوم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آنحضرتؐ کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ آپؐ زجر الناس علی انکار اثر بن عباس کے ص ۸۴ میں تحریر فرماتے ہیں: "لكن ختم نبينا صلى الله عليه وآله الى جميع انبياء وجميع الطبقات بمضى انه لم يعط بعده النبوة لا حد في طبقة (زجر الناس ص ۸۴)"

کل طبقات کے انبیاء کے اعتبار سے آنحضرتؐ کا خاتم النبیین ہونا حقیقی ہے اس معنی کے کہ بعد آپؐ کے کسی کو کسی طبقہ میں نبوت نہیں دی جائے گی۔

پھر اسی صفحہ میں لکھتے ہیں کہ "لا شبه فی بطلان الاحتمال الثانی و هو ان یکون وجود النخواتم فی تلک الطبقات بعدہ لما وردانہ لا نبی بعدہ و ثبت فی مقررہ انہ خاتم الانبیاء علی الاطلاق و استغراق" (ص ۸۴، ۸۵ زجر الناس)

اس احتمال کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ دیگر طبقات میں آنحضرتؐ کے بعد خواتم کا وجود ہو اس لیے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہو چکی ہے کہ آپؐ کے خاتم الانبیاء ہونے میں کوئی قید نہیں ہے علی الاطلاق والا استغراق سے یہ بات آفتاب نیم روز کی طرح روشن ہے کہ مولانا مرحوم اس بات کے قائل ہیں کہ آپؐ کے خاتم الانبیاء ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپؐ کسی خاص طبقہ میں خاتم الانبیاء ہیں یا کسی خاص قسم کی نبوت کے خاتم ہیں بلکہ جمع طبقات جمع اقسام نبوت کے خاتم ہیں آپؐ کے بعد کسی کو کسی قسم کی نبوت نہیں مل سکتی۔ تشریحی ہو یا غیر تشریحی۔

مشہور صاحب نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ آنحضرتؐ کے بعد مجرد کسی نبی کا ہونا محال نہیں بلکہ صاحب شرع جدید ہونا البتہ ممتنع ہے۔ حاشیہ میں سورہ اعراف کی ایک آیت نقل کی ہے اور خود ہی ترجمہ بھی کیا ہے۔ کہ۔۔

یا ادم اما یتینکم رسل منکم یقصون علیکم ایاتی فمن اتقی و اصلح

فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون (اعراف ۳۵)

اے اولاد آدم! کی جب آئیں رسول تمہارے پاس تمہارے ہی نوع سے، پڑھیں تم پر آیتیں میری کتاب کی یا خبر دیں تم کو احکام شریعت سے، پھر جو کوئی پرہیز کرے گا شرک و تکذیب سے اور اصلاح کرے گا اپنے کاموں کی، بس کوئی خوف نہیں ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

میں کہتا ہوں کہ اس آیت سے بعد آنحضرت ﷺ کے مجرد کسی نبی کے ہونے کا امکان اور صاحب شرع جدید کے ہونے کا امتناع ثابت کرنا غلط اور محض غلط ہے اس لیے کہ رسل کا لفظ ہر قسم کے رسولوں کو شامل ہے صاحب شرع جدید ہو یا نہ ہو اسی طرح آیتوں کو پڑھ کر سنانے میں بھی کوئی قید نہیں ہے دونوں صورتوں کو شامل ہے (۱) وہ آیتیں جو کسی پہلے نبی پر نازل ہوئی ہوں اور بعد کو آنے والا نبی پڑھ کر سناے (۲) وہ آیتیں اسی نبی پر نازل ہوئی ہوں جو پڑھ کر سنا تا ہے۔ اگر اس آیت سے رسولوں کے آنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک جاری سمجھا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد نبی صاحب شرع جدید کا ہونا بھی ممکن ہے اور آنحضرت ﷺ کا خاتم الانبیاء ہونا جو آیت قطعیۃ الدلالة ولكن رسول الله و خاتم النبيين اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کسی معنی سے صحیح نہ ہو اور یہ صرف باطل ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اس آیت میں اس وقت کا تذکرہ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی اولاد سے رسولوں پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے جیسا کہ شاہ ولی اللہ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں ”گفتہ یعنی بر زبان حضرت آدم چناں کہ در سورہ بقرہ اشارت است“

اخرج ابن جرید عن ابی یسار سلمی قال ان الله تبارک و تعالی جعل آدم و ذریئہ فی کفہ فقال یا نسی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی۔ (درمنثور جلد ۳ ص ۸۲۔)

تفسیر درمنثور میں ہے کہ ابن جرید نے ابویسار سلمی سے روایت کی ہے کہ ”اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور ان کی اولاد کو اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ اے بنی آدم اگر آئیں تمہارے پاس پیغمبر تم ہی میں سے، کہ سنائیں تم کو میری آیتیں تو جس نے تقویٰ کیا اور اپنی اصلاح کر لی اس پر کوئی ڈر نہیں اور نہ وہ غمگین ہوگا۔“

اس روایت سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ تذکرہ حضرت آدم کے وقت کا ہے اور اس

میں شک نہیں ہے کہ بحکم آیت مذکور حضرت آدم ہی سے رسولوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور برابر جاری رہا۔ جب آنحضرت ﷺ کی بعثت ہوئی اور آیت کریمہ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین نازل ہوئی تو معلوم ہو گیا کہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا اسی لیے آنحضرت ﷺ نے فرمادیا کہ ”ختم بی النبیین“ یعنی نبیوں کا آنا مجھ پر ختم ہو گیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ”لانی بعدی“ یعنی میری نبوت کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کا نبوت کے ساتھ دوبارہ دنیا میں تشریف لانا آنحضرت ﷺ کے خاتم النبیین اور ”لانی بعدی“ کے منافی نہیں ہے اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو آنحضرت ﷺ سے پہلے نبوت مل چکی ہے۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ تفسیر، ارشاد العقل السلیم الی مزایا الكتاب الکریم میں لکھا ہے۔

لا یقدح فیہ نزول عیسیٰ بعده علیہ السلام لان معنی کونہ خاتم النبیین انه لا ینباء احد بعده و عیسیٰ ممن نبی قبلہ (شعارہ القرآن حصہ دوم ص ۱۰۶)

کہ آپ کے خاتم النبیین ہونے میں نزول عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی برج واقع نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کے معنی ہیں کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہ ملے گی اور حضرت عیسیٰ تو ان میں سے ہیں جو آپ سے پہلے نبی بنائے گئے۔

تفسیر بیضاوی۔ تفسیر خازن۔ (ج ۵ ص ۲۱۸ زیر آیت ما کان محمد ابا احد) تفسیر مدارک۔ تفسیر فتح البیان وغیرہ سب میں یہی لکھا ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب مرحوم بھی لکھتے ہیں کہ

ولهذا یأتی عیسیٰ فی آخر الزمان علی شریعة و هو نبی کریم علی حالہ لا ینقص عنہ شی

(زجر الناس ص ۸۵)

اسی سبب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں آنحضرت ﷺ کی شریعت پر تشریف لائیں گے اور وہ اپنی نبوت سابقہ پر نبی ہی رہیں گے ان کی نبوت میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ بھی واضح رہے کہ نبوت کی تقسیم تشریحی اور غیر تشریحی کی طرف یا نبی کی تقسیم اصلی اور ظلی و بروزی کی طرف قرآن مجید یا حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے۔ ”و من ادعی فعلیہ ابیان۔“

تونی کی بحث

مشہر صاحب لکھتے ہیں ”اب رہی ثقل ثالث تو تونی کا لفظ علاوہ متنازعہ فیہ کے قرآن

میں ۲۳ جگہ لکھا ہے جس کے معنی بجز قبض روح کے اور نہیں، اور ایک بھی ایسا مقام نہیں جس میں توفی کا لفظ آسمان پر جانے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہو۔“ اس کے چند جواب ہیں۔

۱..... یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اگر ایک لفظ کے چند معنی ہوں اور وہ لفظ ان معانی میں سے کسی ایک معنی میں قرآن مجید میں کثرت سے استعمال کیا گیا ہو تو پھر اس لفظ کے دوسرے معنی کسی جگہ قرآن مجید میں نہ لے سکیں۔ بلکہ قرآن مجید میں غور کرنے سے اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں ”اصحاب النار“ کا لفظ متعدد مقامات میں واقع ہے اور تمام جگہ اس کے معنی آگ میں جلنے والے کے ہیں۔ مگر سورہ مدثر (آیت ۳۱) ”وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً“ میں ”اصحاب النار“ سے موکلان دوزخ مراد ہیں۔ علیٰ ہذا قرآن مجید میں ”ذیب“ کا لفظ بکثرت وارد ہوا ہے اور تمام جگہ اس کے معنی شک کے ہیں مگر ”ذِیْبُ الْمُنُونِ“ میں حوادث دہر مراد ہیں اس کے نظائر قرآن مجید میں بہت ہیں بغرض اختصار دو ہی نظیروں پر اکتفا کیا گیا۔ اب اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ قرآن مجید میں ۲۳ مقامات پر توفی سے قبض روح ہی مراد ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ توفی سے کوئی دوسرے معنی مراد نہیں لیے جاسکتے۔

۲..... اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ توفی سے قبض روح ہی مراد ہے جب بھی لفظ توفی سے حضرت مسیح علیہ السلام کی ممات ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ قبض روح دو طرح پر ہوتا ہے ایک موت میں، دوسرے نیند میں، نیند میں جو قبض روح ہوتا ہے وہ موت نہیں ہے جیسا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاجِبِهَا. (زمر ۴۲)  
 ”اللہ تعالیٰ جانوں کو لیتا ہے ان کی موت کے وقت اور جو جانیں مری نہیں ہیں یعنی جن کی موت نہیں آئی ہے ان کو نیند کی حالت میں لیتا ہے۔“

لَمْ تَمُتْ کا لفظ صاف دلالت کرتا ہے کہ نیند کی حالت میں موت نہیں ہوتی۔ پس قبض روح پائے جانے سے موت نہیں ثابت ہو سکتی ہے۔

یہ کہنا کہ نیند میں روح قبض کی جاتی ہے اور جسم معطل کیا جاتا ہے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ نیند میں جسم معطل نہیں کیا جاتا ہے۔ بلکہ بیداری کے اعتبار سے نیند میں اصلاح جسم زیادہ



ہوتی ہے۔ کیونکہ نیند میں حرارت غریزی بالکلیہ باطن کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ہضم غذا کامل طور پر ہوتا ہے اور کمال ہضم کی وجہ سے خون پیدا ہوتا ہے اور خون سے ”بذل مایتنحلل“ ہوتا ہے۔ دیکھو نفسی بحث نوم۔ اس کے علاوہ نیند میں جسم کے معطل نہ ہونے کا بین ثبوت یہ ہے کہ نیند میں احتلام ہوتا ہے اور احتلام میں لذت جسمانی کا احساس ہوتا ہے۔ منی خارج ہوتی ہے، اگر نیند کی حالت میں جسم معطل رہتا تو جسمانی لذت نہیں پائی جاتی۔ اور نہ منی خارج ہوتی۔

۳..... اس آیت میں کہ ”هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ“ (انعام ۶۰)

خدا وہ ہے جو سلا دیتا ہے تم کو رات کے وقت۔

توفی کے معنی سلا دینا بصراحت موجود ہے اور یہاں پر سلا دینے کے سوا کوئی دوسرے معنی بن نہیں سکتے پھر ”مَتَوَفَّيْ“ کے معنی سلا دینے والا لینے میں کون مانع ہے؟ اس تقدیر پر ”اِنْسِيْ مَتَوَفَّيْكَ وَرَافِعُكَ“ کے معنی یہ ہوں گے کہ ”اے عیسیٰ! میں آپ کو سلا دینے والا ہوں (اور نیند ہی کی حالت میں) آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔“

یہ توجیہ بھی تفسیر کبیر (جز ۸ ص ۷۲) خازن (ج ۱ ص ۲۵۵) درمنثور (ج ۲ ص ۳۶) فتح البیان۔ معالم التنزیل (ج ۱ ص ۱۶۲) میں مذکور ہے چنانچہ تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ

المراد بالتوفی النوم ومنه قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها  
والتي لم تمت في منامها فجعل النوم وفاة كان عيسى قد نام فرفعه الله وهو نائم  
لئلا يلحقه خوف.

توفی سے مراد نوم ہے جیسا کہ آیت کریمہ اللہ یتوفی الانفس میں توفی کے معنی نوم ہی میں مستعمل ہے پس مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ سو گئے اور نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھالیا تاکہ آپ کو خوف لاحق نہ ہو۔

مذکورہ بالا مطلب کو ہم ایک ایسے طریقہ سے ثابت کر دکھاتے ہیں جس کے تسلیم کرنے میں غالباً مشہر صاحب کو کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی (ازالۃ الاہام ص ۸۹۲ خزائن ج ۳ ص ۵۸۷) میں صحیح بخاری سے بڑے زوروں کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے ”متوفیک“ کی تفسیر ”ممتیک“ فرمائی ہے۔ اور پھر اسی ازالۃ الاہام حصہ دوم کے ص ۹۳۳ خزائن ج ۳ ص ۶۲۱ میں لکھتے ہیں۔ ”اماتۃ“ کے حقیقی معنی صرف مارنا اور موت دینا نہیں ہے بلکہ سلا نا اور بے ہوش کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ پس جب ”اماتۃ“ کے معنی حقیقی بے

ہوش کرنا بھی ہے تو ”ممیت“ کے معنی بے ہوش کرنے والا بھی ہوں گے اس لیے کہ ”ممیت امانۃ“ کا اسم فاعل ہے اب اس کہنے میں کیا تا مل ہو سکتا ہے کہ آیت زیر بحث کے یہ معنی ہیں کہ اے عیسیٰ میں آپ کو بے ہوش کرنے والا ہوں اور (بے ہوشی ہی کی حالت میں) آپ کو اپنی طرف اٹھالینے والا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ کسی شخص کو بے ہوش کر کے اٹھالینے کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ زندہ روح مع الجسد اٹھایا گیا۔ پس مرزا قادیانی کے بیان کردہ معنی کے رو سے بھی متوفی کے لفظ سے حضرت عیسیٰ کی حیات اور رفع جسمانی ثابت ہوگئی ”فالحمد لله على ذالك“ اور یہ کہنا کہ۔ اس طور کی تاویل سے اگر کچھ ثابت ہوگا تو یہ ہوگا کہ حضرت مسیح کی روح خواب کے طور پر قبض کی گئی اور پھر جسم اپنی جگہ زمین پر پڑا رہا۔ محض غلط ہے اس لیے کہ خواب کے طور پر روح قبض کرنے کے لیے صرف متوفی کا لفظ کافی ہے۔ ”رافعک“ کی کوئی ضرورت نہیں ”رافعک“ کا لفظ رفع جسمی ہی کے ثابت کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اس آیت کے الفاظ (و مکر و او مکر اللہ، متوفیک رافعک مطہرک) پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ توفی مقدمہ رفع ہے اور تطہیر نتیجہ رفع ہے مقصود بالذات اور اصلی فعل رفع جسمی ہی ہے جس سے ”مکر اللہ“ ثابت ہوتا ہے قدر۔

۴..... توفی کا مادہ وفا ہے اور وفا کے معنی پورا کرنا ہے لسان العرب میں ہے۔

الوفاء ضد الغدر يقال و فى بعهدہ و اوفى (جلد ۱۵ ص ۳۵۸)

کہ وفا غدر کے خلاف ہے وفی بعہدہ و اوفی کے معنی عہد کو پورا کیا۔ یہ مادہ (وفا) جب باب استفعال اور باب تفعّل میں لیا جاتا ہے تو وہ لفظ استیفاء اور توفی بنتے ہیں چونکہ باب استفعال کی موافقت (ہم معنی ہونا) باب تفعّل کی خاصیت ہے اس لیے دونوں کے ایک معنی ہیں کامل اور پورا لے لینا۔

استوفاه و توفاه استکملہ (اساس البلاغہ) (شہادۃ القرآن حصہ اول ص ۱۰۷)

توفیت المال منه و استوفیۃ اذا اخذتہ کلہ (لسان العرب ج ۱۵ ص ۳۵۹)

اساس البلاغہ میں ہے کہ ”استوفاء و توفاه“ دونوں کے معنی یہ ہیں کہ

اس نے اس کو کامل اور پورا لے لیا۔

لسان العرب میں ہے کہ ”توفیت المال“ اور ”استوفیتہ“ دونوں

کے معنی یہ ہیں کہ میں نے اس سے اپنا مال پورا پورا لے لیا۔

اذا كنتوا على الناس يستوفون (تطفيف آیت ۲)

قرآن مجید میں ہے کہ ”جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں“

اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ استیفا کے معنی پورا پورا لے لینا ہے اور ائمہ لغت کی تصریح سے یہ ثابت ہوا کہ توفی اور استیفا کے ایک معنی ہیں۔ پس ان دونوں باتوں سے ثابت ہو گیا کہ توفی کے اصلی اور حقیقی معنی کسی چیز کو پورا پورا لے لینا ہے اور جب توفی کے اصلی اور حقیقی معنی معین ہو گئے تو اس کے سوا جتنے معانی میں توفی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مثلاً نیند۔ موت۔ تعدا۔ رفع۔ وصول۔ قرض۔ وہ سب مجازی معنی ہیں اور اس بات کی تو ائمہ لغت نے تصریح کر دی ہے کہ قبض روح توفی کے مجازی معنی ہیں تاج العروس شرح قاموس میں ہے کہ:

ومن المجاز ادر كته الوفاة اى الموت والمنية و توفى فلان اذا مات و  
توفاه الله عز و جل اذا قبض روحه (تاج العروس شرح قاموس جلد ۱۰ ص ۳۹۴)  
ومن المجاز توفى فلان و توفاه الله و ادر كة الوفاة

(اساس البلاغة شواہد القرآن حصہ اول ص ۱۰۹)

مجاز میں سے ایک یہ ہے ”ادر كته الوفاة“ موت نے اسے پالیا۔ اور  
توفی فلاں وہ پورا لے لیا گیا کے معنی ہیں وہ مر گیا۔ اور توفاه اللہ، خدا نے  
اس کو پورا لے لیا کے معنی ہیں۔ خدا نے اس کی روح قبض کر لی۔ اور  
اساس البلاغة میں توفی فلاں اور ”توفاه اللہ ادر كته الوفاة“ کے معنی  
فلاں مر گیا۔ فلاں کو اللہ نے مار ڈالا۔ موت نے اس کو پالیا۔ یہ سب  
مجازی معنی ہیں۔

کوئی ذی علم اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ معنی مجازی مراد لینے کے لیے قرینہ کا  
ہونا ضروری ہے۔ پس توفی کا لفظ جہاں کہیں استعمال کیا گیا ہے خواہ قرآن مجید میں ہو یا حدیث  
شریف میں یا عرب کے دواوین میں۔ سابق و سیاق کلام سے معنی مذکورہ میں جس معنی کا قرینہ ہوگا  
وہی معنی مراد ہوں گے۔ اگر نیند کے لوازمات کا ذکر ہوگا تو اس کے معنی سلا دینا ہوگا۔ اگر موت کے  
لوازمات کا ذکر ہوگا تو توفی کے معنی مار ڈالنا ہوں گے اور اگر رفع کا ذکر ہوگا تو توفی کے معنی رفع  
ہوں گے و علی ہذا القیاس۔ مشہر صاحب نے پانچ آیتیں پیش کی ہیں۔ جس آیت میں جو معنی مراد  
ہیں اس کا قرینہ موجود ہے نقشہ ذیل ملاحظہ ہو۔

نمبر شمار	آیت	ترجمہ	بیان قرینہ
۱	حتیٰ یتوفھن الموت آیت ۱۵ انشاء	یہاں تک کہ ان کو وفات دے موت	مرنے کے معنی مراد لینے کے لیے لفظ موت موجود ہے
۲	توفنا مع الابرار آیت ۱۹۳ آل عمران	ہم کو وفات دے نیکوں کے ساتھ	توفی مع الابرار کنایہ ہے خاتمہ بالخیر ہونے سے اور یہ قرینہ ہے موت کے معنی مراد لینے کے لیے
۳	والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً - بقرہ آیت ۲۳۰	تم میں سے جو لوگ وفات پاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں	بیویوں کو چھوڑ جانا اور ان کی وصیت یا عدت وغیرہ کا حکم موت کے معنی کا قرینہ ہے۔
۴	توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین - یوسف آیت ۱۰۱	مجھ کو مسلمان وفات دے اور صالحین سے ملا	لحوق بالصالحین بھی کنایہ ہے خاتمہ بالخیر ہونے کے، اور یہ موت کے معنی کا قرینہ ہے۔
۵	هو الذی یتوفکم باللیل و یعلم ما جر حتم بالنہار ثم یعشکم فیہ لیقضی اجل مسمی انعام آیت ۶۰	خدا وہ ہے جو تم کو سلا دیتا ہے رات کو اور جانتا ہے جو تم دن کو کرتے ہو پھر تم کو دن کو اٹھاتا ہے تاکہ مدت مقررہ پوری کی جائے	یہاں لیل کا لفظ سلا دینے کا قرینہ ہے۔

مذکورہ بالا آیات میں سے کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں توفی سے قبض روح بلا

قرینہ کے مراد ہو۔ کاش مشہر صاحب قرآن مجید کے ۲۳ مقامات اور احادیث سے ۳۳۶ مقامات میں سے ایک ہی مقام میں یہ دکھلا دیں کہ بلا کسی قرینہ کے توفی سے قبض روح مراد ہے۔ یا کسی لغت ہی میں یہ دکھلا دیں کہ قبض روح توفی کے حقیقی معنی ہیں اور بلا قرینہ عقلی و نقلی حالی و مقالی کے یہ معنی توفی سے سمجھے جاتے ہیں۔ ہرگز ہرگز نہیں دکھلا سکتے ”ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً“۔  
تصریحات بالا سے روز روشن کی طرح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آیت زیر بحث۔  
(انسی متوفیک و رافعک الی) میں متوفی کے معنی موت دینے والا یا قبض روح والا بغیر قرینہ کے مراد نہیں لیے جاسکتے اور آیت میں اس معنی کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے بلکہ سابق و سیاق کلام کے ساتھ ”رافعک“ کا لفظ رفع کے معنی مراد ہونے کے لیے قرینہ صریح موجود ہے۔  
پس یہاں پر رفع ہی مراد ہوگی اور آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ میں آپ کو پورا لینے والا اور اٹھانے والا ہوں اپنی طرف (روح مع الجسد) و هو المطلوب۔

۵..... بڑے بڑے مفسرین نے توفی کی تفسیر ”رفع الی السماء“ (آسمان پر اٹھانے) کے ساتھ کی ہے ملاحظہ ہو۔ ”امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ۔“

قوله انی متوفیک یدل علی حصول التوفی و هو جنس تحتہ انواع بعضها بالموت و بعضها بالا صعود الی السماء فلما قال بعده و رافعک الی کان هذا تعیناً للنوع و لم یکن تکراراً۔ (تفسیر کبیر ج ۸ ص ۷۲ مطبوعہ مصر)  
اللہ تعالیٰ کا قول ”انی متوفیک“ صرف حصول توفی پر دلالت کرتا ہے اور توفی جنس ہے، جس کی بہت سی نوعیں ہیں بعض موت کے ساتھ اور بعض آسمان پر اٹھانے کے ساتھ جب متوفی کے بعد ”رافعک“ فرمادیا تو یہ تعین نوع ہے اور تکرار نہیں ہے۔

تفسیر بیضاوی۔ اور تفسیر علامہ ابی سعود۔ تفسیر کبیر میں آیت کریمہ ”فلما توفیتی“ کی تفسیر میں لکھا ہے۔ ”فلما توفیتی بالرفع السماء بقوله تعالیٰ و رافعک الی و التوفی اخذ الشی و افیا و الموت نوع منه“

(بیضاوی جلد ۱ ص ۲۳۷ تفسیر ابی سعود ص ۱۰۱ جلد ۳ مطبوعہ بیروت و تفسیر کبیر ص ۱۳۵ جلد ۱۲ مطبوعہ مصر)

”فلما توفیتی“ کے معنی یہ ہیں کہ خدا یا جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھالیا

بدلیل ”انسی متوفیک و رافعک“ اس لیے کہ توفی کے معنی ہیں کسی

چیز کو پورا لے لینا اور موت اس کی ایک قسم ہے۔

فلما توفيتني يعني فلما رفعتني الى السماء والمراد به وفاة  
الرفع لا الموت. (تفسير خازن جلد ۱ ص ۵۲۲ مطبوع مصر)

تفسير خازن میں لکھا ہے کہ ”فلما توفيتني“ کا مطلب یہ ہے کہ خدایا جب تو نے مجھ کو آسمان پر اٹھالیا اور (توئی سے یہاں پر) مراد آسمان پر اٹھانا ہے موت مراد نہیں ہے تفسیر (جامع البیان ج ۷ ص ۱۳۹ اور معالم التنزیل ج ۱ ص ۳۰۸) وغیرہ میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ الغرض تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں پر توئی سے آسمان پر اٹھانا مراد ہے اور موت مراد نہیں ہے اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ بلا موت کے آسمان پر اٹھانے کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ جسم خاکی کے ساتھ اٹھالیا اور اسی پر تمام مفسرین و محدثین و نقباء و متکلمین و مجتہدین و متصوفین سب کا اتفاق ہے اور جب ایسے بڑے بڑے علماء و ارباب بصیرت توئی کے معنی آسمان پر اٹھانا بیان کر رہے ہیں تو پھر کسی کی کیا حقیقت اور سرمایہ ہے کہ اس تفسیر کو توڑ سکے۔ مرزا نے کہا کہ جو ان تفسیر کو نہ مانے وہ درحقیقت اس بات کا قائل ہے کہ گویا آئمہ اور مفسرین نے بھی محض نادانی سے (ایسی تفسیر کی ہے) (نعوذ باللہ منہ)

(اربعین نمبر ۳ ص ۳۲ خزائن ج ۷ ص ۳۸۸)

پھر مشہور صاحب نے یہ کہا کہ ”لفظ توئی کا استعمال رسول اللہ ﷺ سے صحیح بخاری سے ایک حدیث پیش کی ہے کہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔“

عن ابن عباس انه يجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال  
فاقول يا رب اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول كما قال  
العبد الصالح و كنت عليهم شهيدا. مادمت فيهم فلما توفيتني كنت انت  
الرقيب عليهم.

”قیامت کے دن بعض لوگ میری امت میں سے دوزخ کی طرف لائے جائیں گے پس میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ تو میرے اصحاب ہیں کہا جائے گا کہ تم کو ان کاموں کی خبر نہیں ہے جو تمھارے بعد ان لوگوں نے کئے۔ سو اس وقت میں وہی بات کہوں گا جو ایک نیک بندہ نے کہی تھی یعنی مسیح بن مریم نے کہ اے رب جب تک میں ان میں رہا ان پر شاہد تھا پھر جب تو نے مجھ کو وفات دی تو تو خود ان کا نگہبان تھا۔“ (بخاری ج ۲ ص ۱۶۵ باب قوله و كنت عليهم شهيدا الخ)  
اس حدیث میں آنحضرتؐ نے اپنے قصہ اور مسیح بن مریم کے قصہ کو ایک ہی رنگ کا

قصہ قرار دے کر وہی لفظ ”فلما توفیتی“ کا اپنے حق میں استعمال کیا ہے جس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فلما توفیتی سے وفات ہی مراد لی ہے کیونکہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ آنحضرت ﷺ فوت ہو کر مدینہ منورہ میں مدفون ہیں۔ ”اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات سے انکار نہیں کہ توفی بمعنی موت بھی مستعمل ہے اور اس سے بھی انکار نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے توفی کو اپنے حق میں بمعنی موت ہی استعمال کیا ہے مگر آپ کے استعمال سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے قول فلما توفیتی میں بھی توفی بمعنی موت ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اسی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی ہے کہ۔

تعلّم مافی نفسی ولا اعلم مافی نفسک (مائدہ ۱۱۶)

اے رب جو میرے نفس میں ہے تو اس کو جانتا ہے اور جو تیرے نفس میں ہے اس کو میں نہیں جانتا۔

اب دیکھو کہ یہاں پر نفس کا لفظ حضرت عیسیٰ اور خداوند تعالیٰ دونوں کے لیے وارد ہے تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ دونوں کے حق میں نفس کے ایک ہی معنی مراد لیے جائیں۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ پس آنحضرت ﷺ کے حق میں توفی بمعنی موت ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی بھی بمعنی موت ہو۔

مشہر صاحب کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے اپنے قصہ اور حضرت مسیح بن مریم کے قصہ کو ایک ہی رنگ کا قصہ قرار دے کر ”فلما توفیتی“ کو اپنے حق میں استعمال کیا ہے۔“ اس لیے کہ آنحضرت کا قصہ ہرگز حضرت عیسیٰ کے قصہ کے ہم رنگ نہیں ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کا یہ قول۔ ”كنت عليهم شهيد الاية“ خداوند تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں ہو گا کہ۔

اانت قلت للناس اتخلوني وامي الهين من دون الله. (مائدہ ۱۱۶)

اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ بناؤ مجھ کو اور میری ماں کو دو معبود خدا کے سوا۔“

اور آنحضرت سے اس قسم کے سوال کئے جانے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مفہوم حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا اپنے قصہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے قصہ کو ذکر کرنے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ ”توفیتی“ کے معنی بیان کریں بلکہ مقصود یہ ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ باوجود اپنی برأت کرنے

کے اپنی امت کے لیے یہ دعا کریں گے کہ خدایا۔ ان تعذبہم فانہم عبادک و ان تغفرلہم فانک انت العزیز الحکیم (ماندہ ۱۱۸)

اگر تو ان پر عذاب کرے تو یہ سب تیرے بندے ہیں اور اگر بخش دے تو بیشک تو غالب حکمت والا ہے۔

اسی طرح میں بھی اپنی برأت کروں گا اور اپنی امت کے لیے انہی الفاظ میں دعا بھی کروں گا جس حدیث کو مشہر صاحب نے پیش کیا ہے: اس حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے پوری آیت اس طرح تلاوت فرمائی۔ ”و کنت علیہم شہید اما دمت فیہم فلما توفیتی کنت انت الرقیب علیہم و انت علی کل شیء شہید۔ ان تعذبہم فانہم عبادک و ان تغفرلہم فانک انت العزیز الحکیم۔“ (ماندہ ۱۱۷-۱۱۸)

مگر افسوس ہے کہ مشہر صاحب نے حدیث کے اس ٹکڑے (السی قولہ العزیز الحکیم) کو حذف کر دیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپؐ نے پوری آیت تلاوت فرمائی۔ دیکھو (بخاری شریف ج ۲ ص ۶۲۵ مع فتح الباری پارہ ۱۸ ص ۱۷۶)۔

مذکورہ بالا مطلب کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ بس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مذکورہ بالا دعا آنحضرت ﷺ کو بہت پسند تھی اور اپنی زندگی شریف میں بھی آپؐ نے اپنی امت کے حق میں یہ دعا فرمائی ہے (۱) مسلم میں حضرت عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے کہ۔

عن عمرو بن العاص ان النبی ﷺ تلا قول اللہ تعالیٰ فی ابراہیم علیہ السلام رب انہن اضللن کثیر امن الناس فمن اتبعنی فانه منی۔ الاية وقال عیسیٰ علیہ السلام ان تعذبہم فانہم عبادک و ان تغفرلہم فانک انت العزیز الحکیم فرفع یدہ وقال اللہم امتی و بکی۔

(مسلم جلد اول ص ۱۱۳ باب دعا النبی ﷺ لامتہ و بکائہ و شفقتہ علیہم۔)

نبی کریم ﷺ نے وہ آیت تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت وارد ہے (کہ آپؐ اس طرح دعا فرمائیں گے) خدایا ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے پس جس نے میری پیروی کی وہی مجھ سے ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو بھی تلاوت فرمایا کہ (خدایا) اگر تو ان پر عذاب کرے تو یہ سب تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو



بیشک تو غالب حکمت والا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپؐ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا۔ اللھم امتی امتی (خدایا میں بھی امت کے حق میں یہی دعا کرتا ہوں) اور آپؐ رونے لگے۔ (۲) عن ابی ذرؓ قال قام رسول اللہ ﷺ حتّٰی اصبح بایة و الایة ان تعذبہم فانہم عبادک و ان تغفرلہم فانک انت العزیز الحکیم۔

(رواہ الترمذی ج ۱ ص ۱۰۲ و ابن ماجہ ص ۹۶ باب ما جاء فی قرأہ فی صلوۃ اللیل۔ مشکوٰۃ ص ۷۰ باب صلوۃ اللیل)

من قول عیسیٰ علیہ السلام فی حق قومہ و کان عرض رسول اللہ ﷺ حال امتہ علی اللہ سبحانہ و استغفرلہم۔

(حاشیہ مشکوٰۃ ص ۱۰۷)

نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) آنحضرت ﷺ نے نماز تہجد میں ایک ہی آیت میں صبح کر دی اور وہ آیت یہ تھی (ان تعذبہم فانہم عبادک الایة) اس حدیث کی شرح میں لغات میں لکھا ہے کہ ”یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اپنی قوم کے حق میں (آپؐ کا اس آیت کو بار بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ) گویا آپؐ نے اپنی امت کا حال خداوند تعالیٰ کے حضور میں عرض کر کے ان کے لیے مغفرت چاہی۔“

پھر مشہور صاحب نے شمس الدین سمرجسی۔ فوات الوفيات۔ فقیمی الارباب سے ایک ایک جملہ نقل کر کے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس لفظ کے مجرد معنی عرف عام میں بجز موت کے اور کچھ نہیں ہوتے چنانچہ ذیل کی حدیث شریف بھی ملاحظہ فرمائیے۔

و اخبرنی انه اخبرہ امتہ لم یکن نبی الا عاش نصف عمر

الذی کان قبلہ و اخبرنی ان عیسیٰ بن مریم عاش عشرين

وحاة سنة۔ (مجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۶ باب فی مرضہ و خاتمہ)

اس کا جواب یہ ہے (۱) کہ مجرد معنی سے اگر یہ مراد ہے کہ اس لفظ سے بلا قرینہ کے موت ہی کے معنی سمجھے جاتے ہیں تو غلط اور محض غلط ہے اس لیے کہ جو عبارتیں ثبوت میں پیش کی گئی ہیں ان میں موت کے معنی کے قرینے موجود ہیں نقشہ ذیل ملاحظہ ہو۔

نمبر شمار	اصل عبارت مع ترجمہ	قرینہ
-----------	--------------------	-------

<p>۱</p> <p>قال ابو حنیفہ رجل توفی عن امراته امراة هی مملوكة (ش الدین سرفی جلد ۶ ص ۵۵) ترجمہ۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ایک شخص بی بی چھوڑ کر مر گیا اور وہ مملوکہ ہے۔</p>		
<p>۲</p> <p>عاش اربعاً وستین سنة ۶۲ برس زندہ رہا یہ قرینہ موت کے معنی کا میمون من ارض الحرام (فوات الوانیات ص ۲۳۳) ترجمہ۔ ابو جعفر منصور امیر المومنین ۶۲ برس زندہ رہا اور پیر میمون میں جو ارض حرم ہے مر گیا۔</p>		
<p>۳</p> <p>توفی کے ایک معنی قبض روح ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کے دوسرے معنی نہیں (منتہی الارب ج ۳ ص ۲۲۵) ہیں منتہی الارب میں اسی جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ ترجمہ۔ کہا جاتا ہے کہ توفی اللہ یعنی اللہ اس کے دوسرے معنی تمام گرفتار حق دار بھی نے اس کی روح قبض کی۔</p>	<p>يقال توفى الله تعالى القبض روحه</p>	

الغرض مذکورہ بالا حوالوں سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ بلا قرینہ کے لفظ توفی سے موت کے معنی سمجھے جاتے ہیں اور نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرف عام میں توفی کے معنی موت ہی ہیں اور اگر مجرد معنی سے کچھ اور مراد ہے تو اس کو نہ ظاہر کیا اور نہ اس کا کوئی ثبوت پیش کیا۔ (۲) جو حدیث مشہرہ صاحب نے پیش کی ہے اس میں توفی کا لفظ نہیں ہے۔ اس حدیث میں دو جملے ہیں (۱) ”واخبرنی انه اخبر“ انه لم یکن نبی الا عاش نصف عمر الذی کان قبلہ۔“ (۲) ”واخبرنی ان عیسیٰ بن مریم عاش عشرين ومائة سنة۔“ چونکہ پہلے جملہ سے مرزا قادیانی کا اصل دعویٰ (مسح موعود ہونا) ہی غلط ہو جاتا ہے اس لیے مشہرہ صاحب نے پہلے

جملہ کا ترجمہ تک نہیں کیا صرف دوسرے جملہ کا ترجمہ کر کے یہ لکھا ہے کہ۔

”اب جبکہ مخصوص اللہ تعالیٰ نے ذریعہ وحی حضرت مسیح کی عمر کو بتا دیا تو اب بھی اس کو زندہ ماننا خدا تعالیٰ کے کلام کو نہ ماننا ہے۔“ میں دونوں جملوں کو الگ الگ کر کے ہر جملہ کا مطلب بیان کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو اس حدیث کے مطلب سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ مسیحیت اس حدیث کی رو سے بھی غلط ہے اور مشہر صاحب نے اس حدیث سے جو سمجھا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ (۱) ”واخبرنی انه اخبر“ انه لم یکن نبی الا عاش نصف عمر الذی کان قبلہ۔“ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھ کو یہ خبر دی کہ کوئی نبی نہیں ہوئے، مگر زندہ رہے آدمی عمر اس نبی کی عمر سے، جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی ہر نبی کی عمر پہلے نبی کے عمر کی آدمی ہوتی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی مسیح موعود نہ تھے اس لیے کہ مرزا قادیانی (حقیقۃ الوحی ص ۳۹۱ خزائن ج ۲۲ ص ۳۰۶) میں لکھتے ہیں ”اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔“ اس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی سے پہلے نبی آنحضرت ہی ہیں اور کوئی نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ آنحضرت کی عمر ۶۳ برس کی تھی اگر مرزا قادیانی نبی ہوتے تو اس حدیث کی رو سے ان کی عمر ۳۰ برس یا ۳۱ برس چھ مہینے کی ہوتی مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ مرزا قادیانی کی عمر بقول مؤلف آئینہ صداقت ۵۷ برس کی ہوئی۔ (آئینہ صداقت ص ۱۸)

اس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی نبی نہیں تھے۔ اور جب نبی نہیں ہوئے تو مسیح موعود بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مسیح موعود نبی ہوں گے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ (۲) ”واخبرنی ان عیسیٰ بن مریم عاش عشرين ومانه سنة۔“ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھ کو یہ بھی خبر دی کہ عیسیٰ بن مریم نے ایک سو میں برس زندگی بسر کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے اس وقت آپ کی عمر ایک سو میں برس کی تھی۔ بعد نزول جو عمر آپ کی ہوگی وہ اس میں محسوب نہیں ہے۔ دیکھو ”حجج الکرامۃ فی اثار القیامۃ ص ۲۲۸ میں لکھا ہے کہ ”گسوم رفع او (عیسیٰ) بعمر سی و سہ سال زعم تصاری است چنانکہ وہب ابن منبہ گفتہ و ثابت در احادیث نبویہ رفع او بعمر یکصد و بست سال است۔“

میں کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کا ۳۳ برس میں اٹھایا جانا نصاریٰ کا قول ہے اور احادیث نبویہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ۱۲۰ برس کی عمر میں اٹھائے گئے۔

مشہر صاحب الہدال کے ایڈیٹر مولوی ابوالکلام آزاد کی نسبت لکھتے ہیں کہ وہ ”کبیر الدین احمد، سکیرٹری انجمن احمدیہ کو اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح بھی دوسرے نبیوں کی طرح مر گئے۔“ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے جن دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات ثابت کر دی ہے ان کے مقابلہ میں ایڈیٹر ممدوح کا قول قائل سماعت نہیں ہو سکتا ہے اور اگر مشہر صاحب کے نزدیک ایڈیٹر صاحب کا قول مذکورہ بالا دلائل پر مقدم اور واجب التسليم ہے تو مشہر صاحب پہلے ایڈیٹر صاحب کے اس قول کو تسلیم کریں جو الہدال نمبر ۲، ۷، ۱۳، جنوری ۱۹۱۲ء کے ص ۲۲ میں درج ہے۔ ”نہ تو میں کسی شخص کو مہدی یقین کرتا ہوں نہ مسیح موعود میں اعتقاد تو حید و رسالت اور عمل صالح کو نجات کے لیے کافی سمجھتا ہوں۔“

مشہر صاحب نے مولوی شبلی صاحب کا ایک فتویٰ بھی نقل کیا ہے کہ جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو ہیں وہ مسلمان ہیں اور تمام احکام مسلمانوں کے ان سے متعلق ہیں اور ان سے بلا تکلف مناکحت جائز ہے۔ مگر افسوس ہے کہ مشہر صاحب نے مرزا قادیانی اور ان کے صاحبزادے مرزا محمود احمد قادیانی کے اس فتویٰ کا ذکر تک نہیں کیا جو ان دونوں نے اپنے مخالف مسلمانوں کے حق میں دیا ہے۔ مرزا قادیانی حقیقۃ الوحی ص ۱۶۳، خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۷ میں لکھتے ہیں کہ ”ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔“

پھر اسی صفحہ (خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۸) میں لکھتے ہیں ”علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔ آپ کے صاحبزادے مرزا محمود احمد قادیانی تشدید الاذہان ص ۱۳۲ میں لکھتے ہیں ”اور جب حضرت صاحب (مرزا) کی مخالفت کے باوجود انسان مسلمان کا مسلمان رہتا ہے تو پھر آپ کے بحث کا فائدہ ہی کیا ہوا۔“

علامہ شبلی اگر مرزا قادیانی اور ان کے صاحبزادہ کے خیالات سے پورے واقف ہوتے تو ایسا فتویٰ کبھی نہیں دیتے۔ مشہر صاحب کو چاہیے کہ ان اقوال کو مولوی شبلی صاحب کے سامنے پیش کر کے فتویٰ طلب کریں۔

نوٹ..... میں نے لفظ توفیٰ کی کامل تحقیقات کر دی اور الحمد للہ کہ لفظ توفیٰ ہی سے نہایت ہی پر زور دلائل کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات جسمانی ثابت کر دی سردست کسی دوسری دلیل کے

پیش کرنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی اگر مشہر صاحب ان دلائل کا تشریف بخش جواب دے دیں گے تب اور دلائل پیش کئے جائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ بفضلہ تعالیٰ میں نے مشہر صاحب کا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ اب میرا مطالبہ قادیانی جماعت سے عموماً اور مشہر صاحب سے خصوصاً یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت و مسیحیت قرآن مجید کی کسی قطعی الدلالت آیت سے یا مرفوع متصل صحیح حدیث سے ثابت کر دکھائیں ورنہ مرزا قادیانی کے نہ ماننے والوں کو یہود و نصاریٰ بنانے سے باز آئیں۔

الحبيب ابوالخیر سید محمد انور حسین

ساکن محلہ مہولی شہر مونگیر پروفیسر ڈی جی کالج مونگیر۔

۱۱۳ اپریل ۱۹۱۴ء مطابق ۱۷ جمادی الاولیٰ ۱۳۳۲ھ۔

ضروری اطلاع: لکھنؤ کی معتبر تحریر سے معلوم ہوا کہ جس قادیانی اشتہار کا اس رسالہ میں جواب دیا گیا ہے اس کا اصل دعویٰ ہی غلط ہے مشہر نے محض جھوٹا الزام علمائے اسلام پر لگایا ہے اس کی تفصیل ناظرین رسالہ انجم لکھنؤ میں ملاحظہ کریں گے نمبر ۱۱۱، جلد ابابت ماہ جمادی الثانیہ رسالہ مذکور کا دیکھنا چاہیے۔

مشر وہ! مولانا عبدالشکور کی تقریر سے ایک قادیانی نائب ہو کر مسلمان ہوا۔ الحمد للہ علی ذلک۔

## حکیم العصر مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ کے ارشادات



☆.....☆ آنحضرت ﷺ کے بعد معجزہ دکھانے کا دعویٰ کفر

ہے۔ کیونکہ معجزہ دکھانہی کی خصوصیت ہے۔

☆.....☆ قادیانیوں کی سو 100 نسلیں بھی بدل جائیں تو انکا

حکم زندیق اور مرتد کا رہے گا۔ سادہ کافر کا حکم نہیں ہوگا۔

☆.....☆ مرزائیوں کا کافر مرتد اور زندیق ہونا روز روشن کی

طرح واضح ہے۔

☆.....☆.....☆

## احساب قادیانیت

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اکابرین کے رد قادیانیت پر رسائل کے مجموعہ جات کو شائع کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ چنانچہ احساب قادیانیت جلد اول مولانا لال حسین اخترؒ، احساب قادیانیت جلد دوم مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ، احساب قادیانیت جلد سوم مولانا حبیب اللہ امرتسریؒ کے مجموعہ رسائل پر مشتمل ہیں۔

## احساب قادیانیت جلد چہارم

مندرجہ ذیل اکابرین کے رسائل کے مجموعہ پر مشتمل  
 مولانا محمد انور شاہ کشمیریؒ: ”دعوت حفظ ایمان حصہ اول و دوم“  
 مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ: ”الخطاب الملیح فی تحقیق  
 المہدی والمسیح“ رسالہ قائد قادیان“  
 مولانا شبیر احمد عثمانیؒ: ”الشہاب لرجم الخاطف المرتاب“ صدائے ایمان“  
 مولانا بدر عالم میرٹھیؒ: ختم نبوت، حیات عیسیٰ، آواز حق، امام مہدی،  
 دجال، نور ایمان، الجواب الفصیح لمنکر حیات المسیح“  
 ان تمام اکابرین امت کے فتنہ قادیانیت کے خلاف رشحات قلم کا مطالعہ  
 آپ کے ایمان کو جلا بخشنے گا۔

رابطہ کے لئے:

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم  
موسيقى للقلوب وروحاً للنفوس

# صحیفہ رحمانیہ

(۶)

حضرت مولانا ابو احمد سید محمد علی مونگیر وی



## مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت

مسلمانوں کو نہایت بیدار مغزی سے اس دعویٰ کی طرف توجہ کرنا چاہئے۔ یہ وہ عظیم الشان فتنہ ہے جس نے مسلمانوں میں ایک انقلاب پیدا کر دیا اور پیدا کر رہا ہے ہمارے بھائی جب اس دعویٰ کی تفصیل ملاحظہ کریں گے تو متحیر ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان سب اتفاق کر کے اپنے مقدس مذہب کے قائم رکھنے اور دشمنان اسلام سے بچانے کی فکر کرتے۔ مگر افسوس کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بیرونی حملوں کو اشتعال دیکر اندرونی حملہ ایسا کیا کہ اسلام کا خاتمہ ہی کر دیا۔ وہ آسمانی مذہب جس کی بنیاد حضرت سید المرسلین خاتم النبیینؐ نے ڈالی۔ جس کی شاخ دیرگ لہلہائے اس وقت تھیں چالیس کروڑ شمار کئے جاتے ہیں اس کی بنیاد اکھیر کر دوسرا مذہب اسلام کے نام سے قائم کرنا چاہتے ہیں اور نہایت زور سے دعویٰ کرتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ جہنمی ہے کافر ہے۔

بھائیو! کس قدر صدمہ کی بات ہے کہ جس باغ کو جناب رسول اللہ ﷺ نے لگایا اور جس کو آپؐ کے سچے پیروؤں نے ایسا سینچا کہ ساری دنیا میں اس کی شاخیں پھیل گئیں اب اسے مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے پیرو برباد کرنا چاہتے ہیں اور اپنے جدید خیالی مذہب پر فخر کرتے



ہیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے اپنے قلم سے اپنے افعال سے چالیس کروڑ مسلمانوں کو کافر بنا کر ان کے دلوں کو پاش پاش اور دشمنان اسلام کو خوش کر دیا۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کے جھوٹ اور فریب کا دریا موجزن ہے۔ جن کی کتابیں اور رسالے جھوٹی باتوں اور فریب آمیز تقریروں سے بھری ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ فہم کامل دی ہے وہ غور سے ملاحظہ کریں۔ ان کے زور دار دعوؤں اور محض جھوٹی تعلیموں پر فریفتہ نہ ہو جائیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کے دعوؤں سے کوئی کمال انسانی نہیں بچا۔ سب ہی کا انہیں دعویٰ ہے (۱) مجدد ہیں (حقیقت الوہی ص ۱۹۴ خزائن ج ۲۲ ص ۲۰۱)، (۲) امام وقت ہیں (ہیئتہ الوہی ص ۹۷ خزائن ج ۲۲ ص ۸۲) (۳) محدث ہیں (توضیح المرام ج ۳ ص ۱۸ خزائن ج ۳ ص ۶۰) (۴) مہدی ہیں (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۲۳۷) (۵) پہلے مثل مسیح تھے (ازالہ اوہام ص ۱۹۹ خزائن ج ۳ ص ۱۹۷) (۶) اب مسیح موعود ہیں (ازالہ اوہام ص ۳۹ خزائن ج ۳ ص ۱۲۲) (۷) نبی ہیں (ایک غلطی کا ازالہ ص ۲ خزائن ج ۱۸ ص ۲۰۶) (۸) صاحب شریعت رسول ہیں (اعجاز احمدی ص ۷ خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳) (۹) بعض وقت بعض انبیاء سے افضل ہیں (تہذیب الوہی ص ۶۸ خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳) (۱۰) اور کسی وقت تمام انبیاء سے انضلیت کا دعویٰ ہے (تہذیب الوہی ص ۱۳۶ خزائن ج ۲۲ ص ۵۷۴) (۱۱) یہاں تک کہ حضرت سرور انبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ پر بھی فضیلت کا دعویٰ ہے (اعجاز احمدی ص ۷ خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۳) مگر یہ آخری دعویٰ صاف طور سے نہیں مسلمانوں کے دھوکا دینے کو خادم اور غلام احمد بھی اپنے کو کہتے ہیں اور شریعت محمدیہ کا مطیع اور مؤید بتاتے ہیں۔ مگر آئندہ ان کے بعض اقوال نقل کئے جائیں گے جن سے بخوبی ظاہر ہو جائے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو تمام انبیاء اور نیز جناب رسول اللہ ﷺ سے افضل اور نہایت افضل سمجھتے ہیں۔ شریعت کی اطاعت کا حال ملاحظہ کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے وہی معنی لائق اعتبار ہیں جو میں بیان کروں اور حدیث وہی لائق اعتبار ہے جسے میں صحیح کہہ دوں ورنہ ردی میں پھینک دینے کے لائق ہے۔ (ضمیمہ تحفہ گولڑویہ ص ۱۰ خزائن ج ۵۱ ص ۱۷۷) صاحب عقل کے نزدیک تو اس کا یہی حاصل ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کہیں وہی شریعت ہے۔ شریعت کا نام لینا اور اس کا مطیع بنانا برائے نام ہے۔ ورنہ قرآن کے جو معنی تمام صحابہؓ اور امت محمدیہ نے سمجھے اور بیان کئے اور جس حدیث کو تمام امت نے مانا اور صحیح قرار دیا اور صحابہؓ کا جس پر اتفاق ہے اسے نہ ماننا اور ردی میں ڈالنا اور قرآن کے ایسے معنی گھڑنا جو کسی نے سلف اور خلف میں نہیں سمجھے۔ خصوصاً اہل زبان نے اس کے کیا معنی کئے ہیں؟

ذرا اہل فہم و انصاف اس پر غور فرمائیں۔ بایں ہمہ بعض ان کے پیرو کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت مسئلہ کا دعویٰ نہیں کرتے۔ غلطی نہیں ہیں۔ تاہم رسول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی ہیں مگر صاحب شریعت نہیں ہیں۔ بلکہ امتی نہیں ہیں۔ (اتمام حجت بر فتح نبوت حاشیہ ص ۱۱۲-۱۱۳) مگر یہ دونوں قول محض غلط ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے دیدہ دانستہ ایسا کہتے ہیں۔ یا خود غلطی میں پڑے ہیں۔

بھائیو! میں تمہیں ہوشیار کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو اس قسم کے بہت دھوکہ دیتے ہیں۔ ہر شخص کے سامنے اس کے مزاج و خیال کے مناسب مرزا غلام احمد قادیانی کا ذکر کر کے اسے مائل کرتے ہیں۔ بھائیو! اگر تمہیں اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے تو ایسے حضرات کی باتوں میں نہ آنا اور ان سے علیحدہ رہنا۔ آئندہ ان کے ایسے اقوال نقل کئے جائیں گے جن سے اظہر من الشمس ہو جائے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مستقل نبی اور صاحب شریعت ہونے کا پختہ دعویٰ ہے۔ جس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آیت قرآنی ”وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ“ سے انکار ہے۔ مگر چونکہ جانتے ہیں کہ ہمارے دعوے کو صرف مسلمانوں ہی نے مانا ہے۔ کوئی ہندو، کوئی آریہ، کوئی عیسائی ان پر ایمان نہیں لایا۔ اس لئے صاف انکار تو نہیں کرتے بلکہ عوام کے دھوکہ دینے کی غرض سے ایسی باتیں بناتے ہیں جن کا ثبوت نہ قرآن مجید سے ہے نہ حدیث سے۔ آیت مذکور سے قطعی طور سے ثابت ہے کہ شریعت محمدیہ کی رو سے جسے نبی کہا جائے ان سب کے آپ خاتم ہیں یعنی سب کے بعد آنے والے۔ کیونکہ خاتم النبیین کے معنی لغت میں اور محاورہ عرب میں آخر النبیین کے ہیں۔ یعنی تمام انبیاء اور ہر قسم کے نبیوں کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا آنے والا نہیں اور یہی معنی صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہیں۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ جس قدر انبیاء بھیجے گئے وہ سب بمنزلہ مقدمۃ الجیش کے تھے۔ آنحضرت ﷺ سلطان الانبیاء سرور عالم ہیں آپ کے بعد کسی جدید نبی کی ضرورت نہیں رہی بلکہ یہ آپ کی شان رحمت کے بالکل خلاف ہے۔ علمائے امت دینی کام کریں گے جو انبیائے بنی اسرائیل کرتے تھے۔ اس کی تفصیل فیصلہ آسمانی حصہ ۳ میں دیکھنا چاہئے۔ الغرض اب جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بموجب آیت قرآن و حدیث نبوی کے جھوٹا ہے۔ (حدیث یہ ہے)

انه سيكون في امتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبیین لانی

بعدی (ترمذی ج ۲ ص ۴۵)

(ترجمہ) میری امت میں تیس جھوٹے ہوں گے۔ ہر ایک اپنے آپ کو نبی سمجھے گا۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔

اس مضمون کو امام بخاری (ج ۱ ص ۵۰۹ باب علامات النبوة فی الاسلام) اور مسلم (ج ۲ ص ۳۹۷ قولہ "ان بین یدی الساعة کذابین قریباً من ثلاثین" اور ترمذی (ج ۲ ص ۴۵ باب ماجاء لامقوم الساعة حتی یخرج کذابون) وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں تأمل کرنے سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

اول! یہ کہ حضور انور ﷺ پیشین گوئی فرماتے ہیں کہ میرے بعد جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے۔

دوم! یہ کہ ان کے جھوٹے ہونے کی یہ علامات بیان فرمائی کہ امت محمدی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور اپنے آپ کو امتی کہہ کر نبوت کے مدعی ہوں گے۔ یعنی امتی نبی کہیں گے۔

سوم! ان کے جھوٹے ہونے کی یہ دلیل فرمائی۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ لَا نَبِیَّ بَعْدِی۔ یعنی وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرا خاتم النبیین ہونا ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے اس سے خاص طور سے اس مدعی کا جھوٹا ہونا ثابت ہوا جو اپنے آپ کو امتی کہہ کر نبوت کا دعویٰ کرے اور امتی نبی کہے۔

چہارم! نہایت صراحت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ لفظ خاتم النبیین کے معنی فقط آخر السلسلہ کے ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ انبیاء کی مہر ہیں یا زینت ہیں۔ اس کی دو وجہیں ہیں ایک یہ کہ یہ جملہ اُن مدعیوں کے جھوٹے ہونے کی دلیل میں بیان ہوا ہے۔ اگر مہر کے معنی لئے جائیں تو ان مدعیوں کے جھوٹے ہونے کی یہ دلیل نہیں ہو سکتی بلکہ یہ جملہ فضول اور بیکار ہو جائے گا۔ اہل علم اس کو خوب سمجھ سکتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ خاتم النبیین کے بعد جملہ لانی بعدی کا اضافہ کیا گیا۔ جس سے نہایت واضح ہو گیا کہ انا خاتم النبیین کے یہی معنی ہیں کہ میں آخر النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔

پنجم! اس حدیث کے الفاظ اور معنی پر نظر کرنے کے بعد جب واقعات پر نظر کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ آنحضرتؐ کے بعد بعض نبوت تشریحی کے مدعی ہوئے۔ جیسے صالح بن طریف اور بعض غیر تشریحی نبوت کے جیسے ابوعیسیٰ وغیرہ۔ ان سب کے جھوٹے ہونے کی آپؐ نے یہی دلیل بیان

فرمائی کہ میں آخر انہیں ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لئے قطعی اور یقینی طور سے ثابت ہو گیا کہ آپ کے بعد تشریحی غیر تشریحی۔ امتی غیر امتی کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا۔ خصوصاً جو امتی نبی ہونے کا مدعی ہو اس کا جھوٹا ہونا تو آفتاب نیروز کی طرح اس حدیث سے روشن ہو گیا۔

ششم! اس حدیث سے آیت قرآنیہ وَلَکِن رَّسُوْلَ اللّٰہِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ کی تفسیر بھی پورے طور سے ہو گئی اور وحی خداوندی کی تفسیر صاحب وحی نے کر دی اور وہ تفسیر بھی الہام خداوندی سے کی جس کا ذکر اوپر کیا گیا

الغرض! اس حدیث میں جو علامت جھوٹے مدعیان نبوت کی بیان ہوئی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی میں یقینی طور سے پائی جاتی ہے اور حدیث کا آخری جملہ بھی انہیں کا زب ثابت کرتا ہے اور خاتم النبیین اور لانا نبی بعدی کے جو معنی مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے قبعین نے بیان کئے ہیں وہ بھی اس حدیث سے محض غلط ثابت ہوئے اور آیت قرآن مجید کی تفسیر بھی ہو گئی۔ اب جسے اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ کچھ بھی حق پسندی اور خوف خدا دیا ہے وہ پورے طور سے فیصلہ کر لے گا کہ قرآن وحدیث سے بالیقین ثابت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا زب تھے۔ اس میں کسی طرح کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بیان تو میرا ضمنی طور سے تھا اصل مقصود یہ دکھانا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف مجد اور مصلح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ نہایت زور سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا ثبوت ان کے صریح کلام سے کئی طریقوں سے ہوتا ہے۔ یہاں صرف تین طریقے بیان کئے گئے ہیں۔

### دعویٰ نبوت کے ثبوت کا پہلا طریقہ

ایک یہ کہ وہ اپنے نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں اور ایسا کافر جیسا خدا اور رسول کو نہ ماننے والا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بہت جگہ اس کی تصریح کی ہے۔ میں ان کی آخری کتاب جو تمام مرزائیوں کے نزدیک نہایت معتبر ہے اس کی عبارت نقل کرتا ہوں۔ ان کے کسی مرید نے ان سے سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے۔

”سوال! حضور عالی نے ہزاروں جگہ تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ گو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علاوہ ان مومنوں کے جو آپ کی تکفیر کر کے کافر بن جائیں صرف آپ کے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ لیکن عبدالحکیم خان کو آپ لکھتے ہیں کہ ”ہر ایک شخص

جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔“ اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقض ہے یعنی پہلے آپ تریاق القلوب وغیرہ میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا اور اب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انکار سے کافر ہو جاتا ہے۔“

(حقیقت الوحی ص ۱۶۳ خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۷)

یہ سائل مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال میں تناقض پیش کر کے اس کا جواب چاہتا ہے۔ اس کا واقعی اور سچا جواب تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے تھے۔ آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے اور اپنے مریدین کی حالت پر نظر کرتے کرتے اس مرتبہ کو پہنچے کہ ان کا منکر کافر ٹھہرا اور ان کے مصلح اور امام ہونے کا نتیجہ ظاہر ہوا۔ اگر اس مرتبہ پر پہنچنے کے بعد بھی دنیا کے چالیس کروڑ مسلمان۔ مسلمان ہی رہتے تو بقول مرزا محمود احمد قادیانی۔ مرزا قادیانی کی بعثت کا فائدہ ہی کیا ہوتا؟ اور سائل کا یہ خیال کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو تکفیر کرے وہی کافر ہوتا ہے کوتاہ نظری اور مرتبہ شناسی کے خلاف ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی مرتبہ نبوت مسئلہ پر پہنچ گئے ہیں۔ اب ان کا منکر کافر ہے۔ مگر مرزا غلام احمد قادیانی صاف تحریر نہیں کرتے اور سچ کے ساتھ اپنے منکر کو کافر کہتے ہیں۔ (مرزا غلام احمد قادیانی کا جواب ملاحظہ ہو)

”الجواب! یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو دو قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے۔ کیونکہ جو مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افتراء کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر ہے جیسا کہ (اللہ تعالیٰ) فرماتا ہے۔ ”لَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ“ یعنی بڑے کافر وہی ہیں ایک خدا پر افتراء کرنے والا۔ دوسرا خدا کے کلام کی تکذیب کرنے والا۔ پس جبکہ میں نے ایک مذہب کے نزدیک خدا پر افتراء کیا ہے اس صورت میں نہ میں صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوا، اور اگر میں مفتری نہیں تو بلاشبہ وہ کفر اس پر پڑے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں خود فرماتا ہے۔ علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔“

(ہدیۃ الوحی ص ۱۶۳ خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۷-۱۶۸)

اس جواب پر غور کیا جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نہ ماننے والوں کو ویسا ہی کافر کہتے ہیں جیسا خدا پر افتراء کرنے والا اور آیات قرآنیہ کا نہ ماننے والا اس کے یہ معنی کسی طرح نہیں ہو سکتے کہ کفر سے مراد کفرانِ نعمت ہے۔ جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ میرا نہ ماننے والا کامل

الایمان نہیں ہے ناقص الایمان ہے۔ اس مطلب کا ثبوت ان کی عبارت سے نہایت ظاہر ہے تین وجہ سے۔

ایک! یہ کہ وہ منکر کو اور نہ ماننے والے کو ایک سا قرار دیتے ہیں اور منکر پر ویسا ہی کفر عود کرتا ہے۔ جیسا اس نے دوسرے پر دعویٰ کیا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی لکھ رہے ہیں کہ نہ ماننے والوں نے مجھے بڑا کافر کہا اور جب میں ایسا کافر نہیں ہوں تو بالضرور میرا نہ ماننے والا بڑا کافر ہے۔

دوسری! وجہ یہ ہے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کا نہ ماننے والا کافر نہیں ہے تو سوال کا جواب یہ دینا چاہئے تھا کہ میں جس طرح پہلے اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتا تھا اب بھی نہیں کہتا اور میرا یہ کہنا کہ جس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اس سے سوال کا جواب بھی پورے طور سے ہو جاتا اور یہ بھی معلوم ہوتا کہ وہ اپنے منکر کو کافر نہیں کہتے۔ جب یہ نہیں کہا تو بالیقین ان کا وہی مطلب ہے جو ان کے ظاہر الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نہ ماننے والوں کو ایسا ہی کافر سمجھتے ہیں جیسا تمام مسلمان اہل کتاب اور مشرکین کو سمجھتے ہیں۔

تیسری! وجہ نہایت ظاہر ان کا یہ قول ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو نہیں مانتا۔ اس قول کے بعد کسی طرح کا شبہ اس امر میں نہیں رہتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے منکر کو ویسا ہی کافر کہتے ہیں جیسا خدا اور رسول کا منکر ہوتا ہے۔ اس سے بالیقین معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مستقل نبوت کا دعویٰ تھا۔ کیونکہ غیر نبی کا منکر کافر نہیں ہو سکتا اور مرزا غلام احمد قادیانی نے بہت جگہ اپنے منکر کو کافر کہا ہے۔ مثلاً کفر و قسم پر ہے۔ اذل، ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آنحضرت ﷺ کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ دوم دوسرے یہ کفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود (مرزا) کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے۔ جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے کافر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔“ (ہیۃ الوحی ص ۷۹ خزائن ج ۲۲ ص ۱۸۵)

ایسی صراحتوں کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کے بعض مریدوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے کسی صاحب عقل کے نزدیک سچائی پر محمول نہیں ہو سکتا۔ سچائی سے تمام اہل قبلہ کو

مسلمان کہنے والا مرزا غلام احمد قادیانی کا معتقد ہرگز نہیں ہو سکتا۔

## دوسرا طریقہ دعویٰ نبوت کے ثبوت کا

مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ فتویٰ ہے کہ کسی قادیانی کی نماز اس مسلمان کے پیچھے درست نہیں جو قادیانی نہیں۔ یعنی اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ کو نہیں مانا اگرچہ وہ مکتذب یا مکفر نہ ہو بلکہ مترد یا ساکت ہی ہو۔ مرزا قادیانی (اربعین نمبر ۳ ص ۲۸ خزائن ج ۱ ص ۷۱۷ حاشیہ) میں لکھتے ہیں۔ ”خدا نے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکتذب یا مترد کے پیچھے نماز پڑھو بلکہ چاہئے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو۔“ مرزا غلام احمد قادیانی اس میں فرماتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے کہ غیر قادیانی کے پیچھے نماز قطعاً حرام ہے۔ اب ناظرین مرزا غلام احمد قادیانی کے اس فتوے پر غور فرمائیں اور اسی کے ساتھ شریعت محمدیہ کے اس حکم کو بھی ملاحظہ کریں کہ ہر مسلمان کے پیچھے مسلمان کی نماز ہو جاتی ہے البتہ کافر کے پیچھے نماز حرام ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو دیکھنے سے اس امر میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہتا کہ غیر قادیانی کو مرزا غلام احمد قادیانی کا کافر سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کا فتویٰ بھی دیکھئے جو فتاویٰ احمدیہ میں منقول ہے۔ ”سوال ہوا کہ اگر کسی جگہ امام نماز حضور (مرزا) کے حالات سے واقف نہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ فرمایا پہلے تمہارا فرض ہے کہ اسے واقف کرو۔ پھر اگر تصدیق کرے تو بہتر ورنہ اس کے پیچھے اپنی نماز ضائع نہ کرو اور اگر کوئی خاموش رہے نہ تصدیق کرے نہ تکذیب تو وہ بھی منافق ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو“ (فتاویٰ احمدیہ ج ۱ ص ۸۲) ”۱۰ اکتوبر ۱۹۰۱ء کو سید عبداللہ صاحب عرب نے سوال کیا کہ میں اپنے ملک عرب میں جاتا ہوں وہاں میں ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھوں، یا نہ پڑھوں فرمایا مصدقین کے سوا کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ عرب صاحب نے عرض کیا کہ وہ لوگ حضور کے حالات سے واقف نہیں ہیں اور ان کو تبلیغ نہیں ہوئی۔ فرمایا ان کو پہلے تبلیغ کر دینا پھر یا وہ مصدق ہو جائیں گے یا مکتذب“ الخ

(فتاویٰ احمدیہ ج ۱ ص ۱۸)

اب دیکھا جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ان صریح احکام کے بعد اگر کوئی ذی علم ہنر قادیانی یہ کہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی تکفیر نہیں کرتا اس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اور بالفرض اگر کسی وقت غیر قادیانی کے پیچھے پڑھ بھی لے تو اس کی وجہ اس کی نا فاقی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ جو ذی علم برسوں سے مرزا غلام احمد قادیانی پر گویا فریفتہ ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے

ایسے ضروری احکام سے ناواقف ہو اس لئے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کسی مصلحت سے نماز پڑھ لی، تنہائی میں پھر اعادہ کر لے گا۔ اگر پابند نماز ہے اس کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کا وہ حکم بھی دیکھا جائے کہ غیر قادیانیوں سے مناکحت جائز نہیں۔ اخبار بدر میں بھی چھپ چکا ہے کہ جو غیر قادیانی کو اپنی لڑکی دے وہ قادیانی نہیں ہے۔ اب قادیانیوں کے عمل اور برتاؤ سے بھی اس کا ثبوت ہو رہا ہے کہ وہ کسی غیر قادیانی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اگرچہ امام عالم نہایت متقی پرہیزگار اور کسی اہل قبلہ کو کافر نہ کہتا ہو بلکہ اپنی جماعت کو عظیمہ کرنے پر لڑتے ہیں اپنی بیٹی غیر قادیانی کو ہرگز نہیں دیتے۔ مسلمانوں کو مثل یہود و نصاریٰ کے سمجھتے ہیں۔ الغرض یہ احکام نہایت صفائی سے ثابت کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مستقلہ نبوت کا دعویٰ تھا۔

### تیسرا طریقہ دعویٰ نبوت کے ثبوت کا

مرزا غلام احمد قادیانی نے صاف طور سے اپنی رسالت اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کی وحی میں بار بار صمد ہا جگہ ان کے خدا نے انہیں نبی رسول کہا ہے اب اہل اسلام اس پر غور کریں کہ ہم مسلمان جن انبیاء اور رسولوں کی نبوت و رسالت کے معتقد ہیں ان کی نبوت کی دلیل بجز اس کے ہمارے پاس کیا ہے کہ خدا نے اپنی وحی میں ان کو رسول کہا اب جب مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی رسول اور نبی خدا نے وحی میں کہا تو پھر ان کے اس دعوے میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتی ورنہ پھر مخالفین خصوصاً دہریہ کو تمام انبیاء میں اسی قسم کی تاویل کا موقع ہوگا۔ بطور نمونہ ان کے اقوال ملاحظہ کئے جائیں۔

## دعویٰ نبوت کے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی کے بعض الہامات و اقوال

اقول مرزا..... ”انا ارسلنا الیکم رسولاً شامداً علیکم کما ارسلنا الیٰ فرعون رسولاً“

ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے اس رسول کے مانند جو فرعون کی طرف بھیجا گیا۔



(ہیئتہ الوہی ص ۱۰۱ خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۵)

مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ ترجمہ بالکل غلط ہے آیت قرآنی کے الفاظ نہایت صفائی سے بتا رہے ہیں کہ تشبیہ اور مماثلت صرف رسول بھیجنے میں ہے۔ یعنی جس طرح سابق میں فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، اسی طرح اب تمہاری طرف بھیجا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ رسول اس رسول کے مانند ہے جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اسی غلطی کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی نے شور مچا رکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ مثل موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ کہنا حضرت سرور عالم ﷺ کی کسر شان ہے البتہ اسے پورے طور سے سمجھنا اہل علم کا کام ہے۔ مگر ایسے ذی علم جس نے قادیان کے نبی پر اپنی عقل کو قربان نہ کر دیا ہو۔

تشریح..... یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مزل میں اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ ﷺ کی رسالت کو بیان فرماتا ہے اور تمام مخلوق سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ بلاشبہ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح رسول بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہی وحی الہی بعینہ اپنے لئے بیان کرتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ایسی ہی رسالت کا دعویٰ ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام و جناب سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تھا۔ یعنی جس طرح آنحضرت ﷺ کو مرزا غلام احمد قادیانی مثل موسیٰ کہتے ہیں اسی طرح اپنے آپ کو بھی مثل موسیٰ اس الہام بھی ہے۔ ”أَنْتَ لِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ مُوسَى“ (تذکرہ ص ۷۶ طبع سوم) ج ۲۲ میں ان کا یہ الہام بھی ہے۔ یعنی تو ان میں بمنزلہ موسیٰ کے ہے غرضیکہ حضرت موسیٰ کا مثل ہونا تو اس الہام سے بھی ثابت ہے۔ مگر مذکورہ آیت سے تو مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد ﷺ دونوں کے مثل قرار دینا چاہتے ہیں۔ اس لئے ان کا صاحب شریعت ہونا بھی ضرور ہے برادران اسلام اس پر غور کریں۔

۲۔ قول مرزا..... يَسْمِنُ اِنَّكَ لِمِنْ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

ترجمہ: اے سردار تو خدا کا مرسل ہے راہِ راست پر اس خدا کی طرف سے جو غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ (ہیئتہ الوہی ص ۷۰ خزائن ج ۲۲ ص ۱۱۰)

تشریح..... یہ عربی الہام اور اس کا ترجمہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو قرآن

مجید میں جناب رسول اللہ ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں اور آپ کی رسالت کو نہایت تاکید سے ظاہر کیا ہے انہیں الفاظ کو مرزا غلام احمد قادیانی اپنے لئے کہتے ہیں جس کا مطلب یہی ہے کہ جس یقین اور قطعی طور سے جناب رسول اللہ ﷺ رسول تھے اور ہیں میں بھی دیکھا ہی رسول ہوں اور میرا رسول ہونا ایسا ہی یقینی ہے جیسا جناب رسول اللہ ﷺ کا رسول ہونا یقینی ہے۔

ایسے صریح دعوؤں کے بعد بعض مرزائی یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مستقل رسالت کا دعویٰ نہیں ہے اس نادانی یا کذب پر سخت افسوس ہے۔

۳۔ قول مرزا..... اِنَّا اَرْسَلْنَا اَحْمَدَ اِلٰی قَوْمِهِ فَاَعْرَضُوْا وَقَالُوْا كُذَّابٌ اَشْرُ

(اربعین نمبر ص ۳۳ خزائن ج ۷ ص ۲۲۳ تذکرہ ۳۳۵)

تشریح..... مرزا غلام احمد قادیانی اپنے لئے الہام الہی بیان کرتے ہیں کہ ”ہم نے (غلام) احمد کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ لیکن قوم نے اس سے اعراض کیا اور کہا کہ جھوٹا ہے۔“

انبیاء سابقین اور بالخصوص جناب رسول اللہ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول کہا اس کی اطلاع کے لئے جو وحی کے الفاظ ہیں اور جن سے ان کی رسالت ثابت کی جاتی ہے وہ بھی بعینہ ایسے ہی ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے ان الفاظ میں تاویل کی جائے تو ایسی تاویل ہر جگہ ہو سکتی ہے اور اس طرح پر تمام ہی انبیاء کی نبوت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔

۴۔ قول مرزا..... فَاَكَلَمْنٰی وَنَادٰی وَاَقَالَ اَنِّیْ مَرْسَلٌ اِلٰی قَوْمٍ مَّفْسَلٰیْنِ وَاَنِّیْ جَاعِلٌ لِّلنَّاسِ اَعْمَآءَ۔ وَاَنِّیْ مُسْتَخْلَفٌ اٰکِرَآءَ کَمَا جَرَتْ مُسْتٰی فِی الْاَوَّلِیْنَ۔

”اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا اور کہا کہ میں تجھے ایک مفسد قوم کی طرف بھیجنے والا ہوں اور بیشک میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا اور بلاشبہ تجھے اپنے خلافت سے میں نے معزز و مکرم کیا جیسا کہ گذشتہ لوگوں میں میری یہی سنت جاری رہی ہے۔ یعنی دنیا میں فساد کے وقت اہل فساد کے پاس اپنے رسول اور نبی بھیجے ہیں۔“

(انجام آتھم ص ۷۹ خزائن ج ۱۱ ص ۷۹)

تشریح..... اس الہام میں بھی وہی الفاظ ہیں جو مستقل انبیاء کی رسالت کے لئے آئے ہیں اور جن سے ان کی رسالت کا ہم نے یقین کیا ہے اور آج ان کی رسالت ثابت کر سکتے ہیں کسی طرح کا فرق نہیں ہے۔ پھر اس پر بھی اب بعض مرزائیوں کا دعویٰ نبوت سے انکار کرنا اور یہ کہنا کہ ہم

مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے کیسی سخت جہالت ہے۔ یا عوام کو دھوکہ دینا مقصود ہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی نہایت صفائی سے اسی طرح نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں جس طرح انبیاء سابقین نے کیا تھا۔ تو اب جو شخص انہیں مانتا ہے وہ ان اقوال کی وجہ سے بالضرور انہیں نبی مانے گا یا انہیں جھوٹا کہے گا اور ان الہامات کو غلط سمجھے گا اور اپنے احمدی ہونے سے توبہ کرے گا۔

۵۔ قول مرزا..... ”الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ۔ خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔“ (انجام آقہم ص ۶۲ خزائن ج ۱۱ ص ۶۲)

تشریح..... اس میں کئی طور سے رسالت کا دعویٰ ہے (اول) الہام الہی میں مرزا غلام احمد قادیانی کی نسبت کہا گیا کہ یہ خدا کا فرستادہ اور خدا کا مامور ہے اور خدا کا رسول اور نبی وہی ہے جو اس کا فرستادہ اور مامور ہو (دوم) جس کی نسبت الہام میں کہا جائے کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ وہ بالیقین خدا کا رسول ہے کیونکہ ایمان لانا رسول ہی کے لئے ہوئے پر ضروری ہے۔ رسول کے سوا کسی کے لئے ہوئے پر خواہ وہ قطب الاقطاب ہو، مجدد ہو، محدث ہو، ملہم ہو، ایمان لانا ضروری نہیں اور نہ اس کی ہمیں خدا کی طرف سے تکلیف ہے (سوم) یہ کہنا کہ اس کا دشمن جہنمی ہے۔ یہ رسالت اور نبوت کا بڑا نشان ہے اور نبوت کا خاصہ، اس لئے کہ نبی ہی کا دشمن یعنی منکر جہنمی ہے۔ کیونکہ وہ کافر ہے اور کافر جہنمی ہے اور نبی کے سوا کسی نائب رسول یا مجدد و وقت کا دشمن کافر نہیں ہے پھر وہ اس کی دشمنی سے جہنمی نہیں ہو سکتا۔

۶۔ قول مرزا..... ”سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔“

(دافع البلاء ص ۱۱۸ خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

تشریح..... اس قول میں تو صاف طور سے زبان اردو میں رسول ہونے کا دعویٰ ہے مگر اس انداز میں گھڑی کا کیا ٹھکانہ ہے کہ ایسے صریح دعوے رسالت کے بعد بھی بعض مرزائی کہہ دیتے ہیں کہ ہم انہیں رسول نہیں مانتے، بزرگ مانتے ہیں۔

۷۔ قول مرزا..... ”تیسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گو ستر برس تک رہے قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔ اب اگر خدا تعالیٰ کے اس رسول اور اس نشان سے کسی کو انکار ہو اور خیال ہو کہ فقط رکعی نمازوں اور دعاؤں سے یا مسیح

کی پرستش سے یا گائے کے طفیل سے یا دیدوں کے ایمان سے باوجود مخالفت اور دشمنی اور تا فرمانی اس رسول کے طاعون دور ہو سکتی ہے تو یہ خیال بغیر ثبوت کے قابل پذیرائی نہیں۔“

(دافع البلاء ص ۱۰ خزائن، ج ۱۸ ص ۲۳۰)

**تشریح.....** دافع البلاء کے اس صفحہ ۱۱ میں تین جگہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسرے مقام پر ایسی شان اور تکبرانہ الفاظ سے کیا ہے کہ کسی رسول برحق نے اس طرح نہیں کیا۔ اس تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دعویٰ کی صداقت میں تمام مذاہب کے مقابل میں جو دلیل بڑے دعوے اور نہایت زوروں کے ساتھ پیش کی تھی وہ نہایت صفائی کے ساتھ غلط ہو گئی۔ رسالہ کشتی نوح میں دعویٰ کیا تھا کہ ”طوفان طاعونی میں قادیان کشتی نوح کی طرح محفوظ رکھے گا۔“ (کشتی نوح پیکل خزائن ص ۱۹ ج ۱)

اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ جس طرح طوفان نوح کے وقت جو کشتی میں تھا وہی ڈوبنے سے بچ گیا اور سب ڈوب گئے اسی طرح جو قادیان میں ہوگا وہی طاعون سے بچے گا اور باقی سب اس میں مبتلا ہوں گے۔ مگر یہ پیشین گوئی بالکل ہر طرح سے جھوٹی ہوئی۔ نہ سارے شہروں اور قریوں کے سب لوگ طاعون میں مبتلا ہوئے، اور نہ سب لوگ مرے، اور نہ قادیان کے سب رہنے والے بچے۔ بلکہ جس طرح اور مقامات کے رہنے والے بعض طاعون میں مبتلا ہو کر مرے اور بعض اچھے رہے۔ کہیں موتیں زیادہ ہوئیں اور کہیں کم، بعض شہروں میں بعض قریوں میں طاعون جلد آیا اور بعض میں عرصہ کے بعد آیا۔ بعض ایسے بھی گاؤں ہیں کہ وہاں اب تک طاعون نہیں آیا۔ اسی طرح قادیان میں کچھ عرصہ تک نہیں آیا۔ غالباً اسی وجہ سے ان کے طبعی کبر نے ان کے خیال میں پختہ کر دیا کہ ہماری وجہ سے یہاں طاعون نہیں آئے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا کبر توڑا اور ۱۹۰۴ء میں قادیان میں طاعون آیا اور ۲۸۰۰ کی آبادی میں ۳۱۳ آدمی مرے اور پھر ان کے نہایت خاص مرید عبدالکریم سیالکوٹی اور ان کا غلام مرا اور ہر حیثیت سے یہ نہایت زور کی پیشین گوئی جھوٹی ہوئی۔ ہمیں افسوس یہ ہے کہ ایک مدعی اسلام تمام مکررین اسلام کے مقابلہ میں نہایت ذلیل اور جھوٹا ٹھہرے۔ اس پیشین گوئی میں جو جورج مرزا غلام احمد قادیانی نے بدلے ہیں اس کی تفصیل مرقع قادیانی اور الذکر الحکیم میں دیکھنا چاہئے۔

الغرض یہ ساتواں حوالہ ہے جس سے اظہر من الشمس ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نہایت زور کے ساتھ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے اس سے کوئی صاحب یہ خیال نہ کریں کہ

مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے خیال کے بموجب نبوت کی کوئی قسم چھوڑ دی ہے۔ نہیں ہرگز نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت تشریحی اور غیر تشریحی دونوں کا دعویٰ کیا ہے اور یہ وہ دعویٰ ہے جس کی نسبت بالاتفاق اہل سنت نے کفر کا فتویٰ دیا ہے اور نہایت قوی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دعویٰ سے آیت ”وَلَكِنْ رُّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ“ کا انکار ہوتا ہے۔ اگرچہ کسی پوشیدہ وجہ سے زبان سے انکار نہ کیا جائے۔ یعنی اس آیت کے صاف اور صریح معنی یہ ہیں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور آخر الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد کوئی جدید نبی کسی قسم کا آنے والا نہیں۔ خاتم النبیین کے معنی لغت عرب میں یہی ہیں اور تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے اور النبیین میں الف و لام استغراق کا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تمام انبیاء یعنی جس کو شریعت کی رو سے نبی کہتے ہیں اور اس لقب کا وہ مستحق ہے خواہ وہ امتی ہو یا نہ ہو۔ ہر قسم کے انبیاء کے آپ خاتم ہیں۔ یہ کہنا کہ آپ کا امتی ہو کر نبی ہو سکتا ہے عوام کو دھوکہ دینا ہے اور اس پردہ میں اس آیت قرآن سے انکار کرنا ہے کیونکہ اس آیت میں یا کسی دوسری آیت میں اس استثناء کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس آیت کے یہ معنی جس طرح محاورہ عرب سے ثابت ہیں اسی طرح احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اس لئے جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ ضرور اس آیت قرآن مجید کا منکر ہے۔ گویا ہر میں انکار نہ کرے۔ اس کا کافی ثبوت شروع رسالہ میں دیا گیا ہے اور حصہ ۳ فیصلہ آسانی میں اس کا بیان مفصل مرقوم ہے۔ اس کی وجہ بھی نہایت عمدہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کے بعد نبی کیوں نہیں آ سکتا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی عظمت و رحمت کی شان اور آپ کی امت کا خیر الامم ہونا اسی کا مقتضی ہے کہ آپ کی امت میں انبیاء نہ ہوں کیونکہ آپ کی نبوت کا آفتاب اور آپ کی شریعت کاملہ کی روشنی قیامت تک قائم رہے گی۔ اس کی حفاظت کا وعدہ خداوندی ہو چکا ہے۔ اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اس لئے صرف علمائے راسخین اور کالمین کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ شریعت کو سمجھیں اور حسب موقع اسے جاری کریں۔ طلوع آفتاب کے بعد کسی تارے کا ٹکنا بیکار ہے۔ اسی طرح آپ کے آفتاب رسالت کے بعد کسی کا اختر نبوت چمک نہیں سکتا اس کا ٹکنا بیکار ہے۔ اس کے علاوہ ایک عظیم الشان راز اس میں یہ ہے کہ یہ امر متفق علیہ اور طرفین کا مسلم ہے کہ سچے نبی کا منکر کافر ہے۔ اب اگر حضور انور کے بعد کوئی نبی آئے حسب عادت مسترو آپ کے بعض امتی اسے نہ مانیں گے اور انکار نبوت سے کافر ہو کر جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ آپ کا امتی جو خیر الامم میں داخل ہو چکا تھا اور نجات ابدی کا مستحق ہو

نہیں ہے۔ بلکہ خاص میرے لئے ہے اور متعدد رسالوں میں یہ دعویٰ کیا ہے۔ بہر حال اس دعوے سے بالیقین ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت تشریحی کا دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ ان کا ایک ہی جگہ نہیں بلکہ مختلف طور سے متعدد مقامات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہاں آیت مذکورہ کے علاوہ دو مقام اور نقل کئے جاتے ہیں۔

۹۔ قول مرزا..... ”خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔“ (اربعین نمبر ۳ ص ۳۶ خزائن ج ۷ ص ۴۲۶)

تشریح..... دیکھا جائے کہ صاف طور سے پہلے رسالت کا دعویٰ ہے۔ پھر صاحب شریعت ہونے کا، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اس عاجز کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تو اس کے یہی معنی ہیں کہ مجھے صاحب شریعت رسول بنایا۔ اب دوسرے مقام سے اس کی کمال تشریح ملاحظہ کیجئے۔

۱۰۔ قول مرزا..... ”اور اگر کہو کہ صاحب شریعت افتراء کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری، تو اڈل تو دعویٰ بے دلیل ہے۔ خدا نے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی ماسوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہی بیان کئے اور اپنی امت کیلئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کے رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی مثلاً یہ الہام ”قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکلی لہم“ یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور اس پر تیس برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی“ (یہ تو متن ہے، اب اس کا حاشیہ بھی ملاحظہ کیجئے لکھتے ہیں)

”چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کو اور اس وحی کو جو میرے پر ہوتی ہے فلک یعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا۔ جیسا کہ ایک الہام الہی کی یہ عبارت ہے ”واصنع الفلک باعیننا ووحینا ان الذین یابعونک انما یابعون اللہ یداللہ فوق ایدہم“ یعنی اس تعلیم اور تجدید کی کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے بنا جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں۔ یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب دیکھو، خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات



ٹھہرایا۔ جس کی آنکھیں ہوں دیکھے اور جس کے کان ہوں سنے۔“

(اربعین نمبر ۴ ص ۶ خزائن ج ۷ ص ۳۳۵-۳۳۶)

تشریح..... مرزا قادیانی کا یہ قول نہایت صاف طور سے شہادت دیتا ہے کہ جس نے ان سے بیعت نہیں کی اور ان کے اقوال باطلہ کو نہ مانا اس کی نجات نہیں ہو سکتی وہ ایسا ہی جہنمی ہے جیسے کافر منکر خدا اور رسول ہوں گے۔ قادیانی جماعت بتائے کہ کس بزرگ نے اپنی بیعت کو مدار نجات بتایا ہے اور بیعت نہ کرنے والے کو جہنمی کہا ہے؟ جو جماعت مرزا غلام احمد قادیانی کو بزرگ مان کر تمام اہل قبلہ کو مسلمان سمجھتی ہے وہ اس قول میں غور کرے اور بتائے کہ جب تک قادیانیوں کے سوا تمام اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے اس وقت تک یہ قول کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی تعلیم اور اپنی بیعت کو کشتی لوح بتا رہے ہیں۔ یعنی جس طرح طوفان لوح میں اسی شخص نے نجات پائی جو کشتی میں بیٹھ گیا اور جو نہ بیٹھا وہ طوفان میں غرق ہوا۔ یہی حالت میری بیعت کی ہے جس نے میری بیعت کر لی اس نے عذاب ابدی سے نجات پائی اور جس نے نہ کی وہ عذاب ابدی کے طوفان میں غرق ہوا۔ یہ کہنا اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ جتنے مرزا غلام احمد قادیانی کے نہ ماننے والے ہیں وہ سب کافر ہیں۔ اس قسم کے اقوال مرزا غلام احمد قادیانی کے بہت ہیں جن سے اظہر من الشمس ہے کہ ان کے اقوال پر ایمان لا کر اور انہیں مقدس بزرگ مان کر غیر قادیانی اہل قبلہ کو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا جو انہیں مانتا ہے۔ اسے ان کے صریح اقوال مجبور کریں گے کہ غیر قادیانی اہل قبلہ کو وہ کافر کہے اور اگر کسی قادیانی کا ایسا خیال سادہ دلی اور سچائی پر ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ جب وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ایسے اقوال کو غور سے دیکھے گا تو وہ ضرور ان سے علیحدہ ہو جائے گا و ما ذلک علی اللہ بعزیز۔

تشریح..... مرزا غلام احمد قادیانی آیت ”لو تسقوا علیہا بعض الاقوال“ کے بیان میں بڑا زور لگا رہے ہیں اور اپنے دعویٰ نبوت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت میں سچے اور جھوٹے مدعی نبوت کی معیار بیان ہوئی ہے کہ جھوٹا ہلاک کر دیا جاتا ہے اور سچا کامیاب ہوتا ہے۔ چونکہ میں مفتری نہیں تھا۔ سچا مدعی تھا۔ اسلئے کامیاب ہوا ہلاک نہیں کیا گیا۔ اب اس پر یہ شبہ کر کے جواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس آیت میں رسول اللہ ﷺ کی طرف خطاب ہے اور آپ صاحب شریعت تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آیت میں صاحب شریعت کیلئے یہ قاعدہ بیان ہوا ہے۔ یعنی جو جھوٹا مدعی نبوت صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کرے۔ وہ



ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تمام مفتری ہلاک نہیں ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے صاحب شریعت کے معنی بیان کرتے ہیں یعنی صاحب شریعت وہ ہے جو وحی کے ذریعے سے چند امر و نہی بیان کرے۔ میں نے وحی کے ذریعے سے امر و نہی بیان کئے ہیں۔ اس لئے میں صاحب شریعت ہوں۔ اسی مضمون کو حاشیہ میں بیان کرتے ہیں۔

اب ہمارے بھائی متن اور حاشیہ دونوں کو ملاحظہ کریں کہ کس صفائی کے ساتھ اپنی وحی سے اپنا صاحب شریعت نبی ہونا ثابت کر رہے ہیں اور اپنی وحی اور اپنی تعلیم کو نجات کا مدار بتا رہے ہیں۔ جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھے اور اپنی زبان کو روکے اور ان رسالوں کو پھاڑ کر پھینک دے جن میں لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے رسول اللہ ﷺ صاحب شریعت انبیاء کے خاتم ہیں۔

**الغرض!** جب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب شریعت نبی ٹھہرے تو جناب رسول اللہ ﷺ کسی طور سے خاتم الانبیاء اور آخر النبیین نہ ہوئے اور آیت قرآنی ”وَلٰكِنْ رُّسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ“ غلط ٹھہری (نعوذ باللہ منہ) پھر کیا وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو منکر آیت قرآنی نہ کہا جائے؟ وہ ضرور منکر آیت قرآنی ہیں۔ گویا ان سے نہ کہیں۔ اس دعویٰ کے بعد یہ کہنا کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ آنحضرت ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ نہایت صریح و جل اور عوام کو فریب دینا ہے تاکہ جہلاء اور کم علم اتنے کہہ دینے سے یہ سمجھیں کہ یہ منکر آیت نہیں ہیں۔ مگر اہل ایمان اس کا یقین کر لیں کہ جب تک یہ آیت قرآن مجید میں ہے اور دنیا میں علوم عربیہ کے جاننے والے ہیں وہ اپنے علم و ایمان سے اس آیت کے یہی معنی کریں گے کہ رسول اللہ ﷺ آخر النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کسی کو مرتبہ نبوت نہیں مل سکتا اور اس آیت کو مان کر کسی قسم کے نبی کو مستثناء کرنا محض غلط ہے۔ یہ آیت اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے قطعی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی جدید نبی کسی طرح کا نہیں آئے گا اور اس معنی کا ثبوت صرف لخت اور محاورہ عرب سے ہی نہیں ہے بلکہ جس ذات مقدس پر یہ کلام الہی نازل ہوا ہے۔ اس نے بوحی الہی اس آیت کے یہی معنی بیان کر دیئے ہیں اور ”انا خاتم النبیین لا نبی بعدی“ فرما دیا ہے اب جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور جو ایسے مدعی کو سچا جانتا ہے وہ یقیناً قرآن شریف پر حملہ کرتا ہے اور آیت ”وَلٰكِنْ رُّسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ“ کو درپردہ ہنسی ٹھٹھے میں اڑاتا ہے۔ یہ ان شریر لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ پر بھی یقین نہیں اور صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور باطن میں اسلام سے بھی منکر ہیں۔

ناظرین! آپ اس تقریر کے حاصل پر بغیر تحقیق حتی غور کریں۔ چند باتیں اس مختصر تحریر سے نہایت صفائی سے ثابت ہوتی ہیں۔

۱..... نص قطعی اور آیت قرآنی اور حدیث نبوی سے بالیقین ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ذب تھے۔

۲..... جو تاویل میں اس آیت و حدیث میں مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے پیرو کرتے ہیں وہ یقیناً غلط ہیں۔

۳..... اس میں کچھ شبہ نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نہ ماننے والے کو کافر یعنی منکر خدا اور رسول کہا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے وجود سے ان کے دعویٰ کے زمانہ میں دنیا کے کچھ کم چالیں کروڑ مسلمان کافر ہو کر مستحق جہنم ہو گئے؟ اور مسلمانوں سے دنیا گویا خالی ہو گئی۔

۴..... مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت مستقلہ اور صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ تھا۔ ان کے خلیفہ اول اور ثانی ان دونوں دعوؤں کو ماننے رہے اور خلیفہ ثانی نے تو اس دعویٰ کے ثبوت میں رسالہ (رسالہ تشہید الازہان ج ۶ نمبر ۳ بابت ماہ اپریل ۱۹۱۱ء) لکھا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان کر انہیں کے کلام سے دنیا کے سارے مسلمانوں کو کافر ٹھہرایا ہے اور یہ رسالہ خلیفہ اول کے حکم کے بموجب چھپ کر منتشر ہو رہے۔ چنانچہ خلیفہ ثانی اپنے رسالہ میں اس کی تصریح کرتے ہیں۔ البتہ اخبار بدر کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوا کہ ان سے کئی مرتبہ یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں یا نہیں اس کے جواب میں مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح طویل تقریر لکھی ہے۔ جس کا حاصل تو یہی ہے کہ کافر ہیں۔ مگر ایسے پیچ سے لکھی ہے کہ کم علم بخوبی نہ سمجھیں۔

۲۶۔ مارچ ۱۹۱۳ء کے پیسہ اخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزائیوں کے تین فرقے ہو گئے ہیں ایک وہ ہے جس نے نیا کلمہ بتالیا ہے یعنی ”لا الہ الا اللہ احمد جوری اللہ“ دوسرا وہ ہے جو قادیانیوں کے سوا سارے دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہتا ہے جس کے مقتدا اور امام اب دوسرے خلیفہ مرزا محمود ہیں۔

تیسرا مرزا غلام احمد قادیانی کو مشل اولیاء اللہ کے بزرگ مانتا ہے اور غیر قادیانیوں کو کافر نہیں کہتا۔ یہ تیسرا گروہ اگر اپنے دلی خیال کے اظہار میں سچا ہے تو اعتقاد کی بنیاد مرزا غلام احمد قادیانی کا آخری

کلام ہرگز نہیں ہو سکتا کوئی صاحب عقل ھیقہ الوحی وغیرہ کے مضامین کو سچا مان کر ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتا جیسا یہ تیسرا گروہ بیان کرتے ہے اور خواجہ کمال الدین صاحب جس گروہ میں سے جاتے ہیں۔ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کلام میں کسی قسم کی پوشیدگی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے کلام کے سمجھنے میں دقت ہو یا اس میں دوسرے معنی کا احتمال ہو۔ البتہ جس طرح انہوں نے اور دعوؤں میں آہستہ آہستہ ترقی کی ہے اسی طرح اس میں بھی پہلے نہ کہتے تھے کہ کوئی اہل قبلہ کافر نہیں ہے اور مسیح موعود کا ماننا کوئی جزو ایمان نہیں ہے۔ مگر جب ان کے ماننے والے کچھ ہو گئے تو اپنی آخری کتاب ھیقہ الوحی (ص ۱۶۳ خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۸) میں صاف طور سے کہہ دیا کہ ”جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا“ یعنی میرا نہ ماننے والا ایسا ہی کافر ہے جیسا خدا اور رسول کو نہ ماننے والا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ مسیح موعود کا انکار (یعنی میرا) ایسا ہی کافر ہے جیسا جناب رسول اللہ ﷺ کا انکار، مرزا غلام احمد قادیانی کے ان صاف و صریح دعوؤں کے بعد جو اس رسالہ میں لکھے گئے ہیں کسی ذی علم قادیانی کا یہ کہنا ہے کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے اور کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے کسی فہمیدہ آدمی کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ اس لئے وہ اس خیال پر مجبور ہے کہ بعض قادیانیوں کا ایسا کہنا غالباً اس مصلحت سے ہے کہ اگر اعلانیہ طور سے ہم کافر کہیں گے تو تمام مسلمان دنیا کے برہم ہو جائیں گے اور ہماری بات کو نہ سنیں گے۔ اس لئے اس سے انکار کرتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کو صرف مصلح اور مجدد کہتے ہیں مگر ان سے یہ دریافت کیا جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے پچیس تیس برس تک بہت کچھ شور مچایا اور اپنی مدح اور تعلیٰ میں بے انتہا کاغذی گھوڑے دوڑائے مگر انہوں نے کیا اصلاح کی اور ان کی ذات سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچے؟۔ بجز اس کے کہ دنیا کے چالیس کروڑ مسلمانوں کو کافر اور ایک جماعت کو جھکڑا اور فاسق اور فاجر بنا دیا۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، جھوٹ کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ اس خیال کی تائید اس سے بخوبی ہوتی ہے کہ مولیٰ اور بھاگلپور کے مرزائی یہی کہتے تھے کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے مگر اب خلیفہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت کی، جو اعلانیہ طور سے مرزا غلام احمد قادیانی کی بعثت کا یہی فائدہ بتاتے ہیں کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو کافر مانا جائے۔ انہیں اپنا امام اور مقتدا مانا۔ بعض اخبارات میں خلیفہ ثانی نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہماری بیعت کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ غیر قادیانی اہل قبلہ کو کافر کہے۔ یہ ایک فریب آمیز اعلان ہے۔ کیونکہ جو شخص بیعت کر لے گا اور اپنا مقتدا مان لے گا، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے مقتدا کے کفر کے فتوے کو نہ مانے؟ یہ تو ایسا عظیم الشان اختلاف

ہے کہ بغیر اس کے طے کئے کوئی سمجھ دار بیعت ہی نہیں کر سکتا کیونکہ جب اس کے اعتقاد میں اہل قبلہ کافر نہیں ہیں تو جو انہیں کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے پھر اس سے بیعت کیسی؟

آئندہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال دکھائے جائیں گے جن میں انہوں نے دعویٰ نبوت کے ساتھ انبیاء سابقین پر اپنی فضیلت اور جناب رسول اللہ ﷺ سے مساوات دکھائی ہے اور بعض وہ اقوال بھی ہیں جن سے حضرت سرور انبیاء پر بھی وہ اپنی فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں پھر انبیاء علیہم السلام کی توہین جو انہوں نے کی ہے وہ بھی دکھائی جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

برادران اسلام! ان دعویٰ پر نظر کر کے ان کی حالت پر غور کریں اور جو ان کے پیروان کے صریح اقوال کے خلاف اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اس پر غائر نظر ڈالیں تاکہ آئندہ کسی قسم کی پشیمانی نہ اٹھانا پڑے۔ وما علینا الا البلاغ المبین

راقم خاکسار ابوالاحمد رحمانی

## قادیانی جماعت میں اختلاف

گذشتہ اشاعت میں ہم حکیم نور الدین رئیس قادیانی جماعت کے انتقال کی خبر درج کر چکے ہیں جو رسالہ کے مرتب ہونے کے بعد پہنچی تھی۔ اب جو واقعات شائع ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جماعت میں مسئلہ خلافت اور تکفیر و عدم تکفیر مسلمین کی بنا پر باہم اختلاف و نزاع پیدا ہو گیا ہے۔

ایک عرصہ سے اس جماعت میں مسئلہ تکفیر کی بنا پر دو جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ایک گروہ کا یہ اعتقاد تھا کہ غیر قادیانی مسلمان بھی مسلمان ہیں۔ گو مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ پر ایمان نہ لائے ہوں لیکن دوسرا گروہ صاف صاف کہتا تھا کہ جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہ لائیں وہ قطعی کافر ہیں ”انا للہ وانا الیہ راجعون“۔ آخری جماعت کے رئیس صاحبزادہ بشیر الدین محمود قادیانی ہیں۔ اس گروہ نے انہی کو اب خلیفہ قرار دیا ہے۔ مگر پہلے گروہ نے تسلیم نہیں کیا۔

محمد علی لاہوری ایم اے، نے اس بارہ میں جو تاریخ شائع کی ہے اور عجیب و غریب جرأت اور دلاوری کے ساتھ قادیان میں رہ کر اظہار رائے کیا ہے (بشرطیکہ ان کے دل میں خود خلیفہ ہونے کی خواہش نہ ہو اور اس خیال کے غلط ہونے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی اور اگر دل میں یہ خواہش تھی تو اس کے خلاف ہونے پر جوش آ جانا معمولی بات ہے۔ یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مقتدا مان کر اور ان کے اقوال پر ایمان لا کر غیر قادیانی کو کافر کیوں نہ کہتے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں اور نہایت ظاہر ہے کہ جو رسول اللہ کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نہ ماننے والے کو صاف طور سے کافر کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی بیعت کو مدارِ نجات ٹھہراتے ہیں۔ یعنی جو مرزا غلام احمد قادیانی سے بیعت نہ کرے اسے نجات نہیں وہ جہنمی ہے۔ یہ صفت تو خاص کافر کی ہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی کے نہایت صریح اقوال سے غیر قادیانی کافر ٹھہرتے ہیں تو پھر جو انہیں اپنا پیٹھ پامانتا ہے اسے ضرور ہے کہ ان اقوال کو بھی مانے جس طرح وہ اور اقوال کو مانتا ہے۔) جہاں زیادہ تر پہلے گروہ کے رؤسا ہیں۔ وہ فی الحقیقت ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیشہ اس سال کا ایک یادگار واقعہ سمجھا جائے گا۔

اس جماعت کا بیان ہے کہ ان کی تعداد کم از کم تین لاکھ ہے۔ لیکن مسلمانانِ عالم کی تعداد آج چالیس کروڑ تک اندازہ کی گئی ہے۔ پس اگر غیر قادیانی کو کافر سمجھ لیا جائے تو اس نئی مردم شماری کی بنا پر چالیس کروڑ میں سے اسیالیس کروڑ ستانوے لاکھ کی تعداد نکال دینی پڑے گی۔ پھر افسوس اس دین الہی پر جس کا درخت خدا نے لگایا۔ پر آج اس کی شاخوں میں صرف تین لاکھ پھل باقی رہے گئے ہیں!!

(منقول از الہلال مورخہ ۲۷ ربیع الثانی ۱۳۳۲ھ)



## ہفت روزہ ختم نبوت کراچی

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان ہفت روزہ ختم نبوت کراچی گذشتہ بیس سالوں سے تسلسل کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ اندرون و بیرون ملک تمام دینی رسائل میں ایک امتیازی شان کا حامل جریدہ ہے۔ جو شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ و پیر طریقت حضرت مولانا سید نفیس الحسنی دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی اور مولانا مفتی محمد جمیل خان کی زیر نگرانی شائع ہوتا ہے۔

زر سالانہ صرف =/350 روپے

رابطہ کے لئے:

منیجر ہفت روزہ ختم نبوت کراچی

دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مسجد باب الرحمت

پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کراچی نمبر 3

الحمد لله الذي جعلنا من عباده  
الذين لا ينالون من عظمته

# صحیفہ رحمانیہ

(۷)

حضرت مولانا ابو احمد سید محمد علی مونگیر وی

## خیر خواہان اسلام

اس وقت مذہب اسلام پر دو طرح سے حملے ہو رہے ہیں ایک بیرونی عیسائیوں اور آریوں کا۔ اس کے لئے رسالے دفع التلبسات اور پیغام محمدی شائع کئے گئے، بعض اور رسالے بھی انشاء اللہ شائع ہوں گے۔ مسلمانوں کو اور خصوصاً اہل علم کو اس وقت ان کا دیکھنا اور ان کی اشاعت میں کوشش کرنی ضروری ہے۔ دوسرا حملہ اندرونی گروہ مرزائیہ اور بہائیہ کا، یہ حملہ عوام کے لئے زیادہ خطرناک ہے۔ کیونکہ یہ دونوں گروہ ظاہر میں اسلام کو مان کر دین محمدی اور اسلام قدیم کو مٹا کر نیا مذہب قائم کرنا چاہتے ہیں اور اسلام اس کا نام رکھتے ہیں۔ اس بیچ سے عوام اور کم علم واقف نہیں ہو سکتے۔ اس لئے بہ نظر خیر خواہی اہل اسلام متعدد رسالے اور تحریریں ایسی شائع کی گئیں جن سے بانی مذہب مرزا غلام احمد قادیانی کی حالت معلوم ہو، اس گروہ میں پالیسی اور ناجائز مصلحت بہت برتی جاتی ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اس میں ایک جماعت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم مرزا کو نبی یا رسول نہیں مانتے بلکہ مجدد اور بزرگ مانتے ہیں اور کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے۔ اس رسالے میں مرزا کے صریح اقوال سے ثابت کیا گیا ہے کہ کوئی شخص مرزا کے اقوال والہامات پر ایمان لا کر اور انہیں سچا اعتقاد کر کے سچائی سے نہیں کہہ سکتا کہ مرزا نبی نہیں تھے اور ان کا منکر کافر نہیں ہے کیونکہ مرزا اصاف طور سے نبوت تشریحی کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو افضل الانبیاء سمجھتے ہیں البتہ یہ اقوال ان کے آخر کے ہیں۔ پہلے اقوال اس کے خلاف ہیں یعنی بتدریج انہوں نے ترقی کی ہے۔ اس لئے عجب نہیں کہ بعض ان کے ماننے والے بھی مغالطہ میں ہوں۔ طالبین حق کو چاہئے کہ ان کے متخالف اور متعارض اقوال کو غور سے دیکھیں۔ فرقہ بہائیہ جو تھوڑے عرصہ سے رگنوں سے ضلع چھپرہ میں آیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اطراف عالم میں اس کے ماننے والے بہت ہو گئے ہیں۔ اب ہندوستان اس نجاست سے آلودہ ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس وقت تمام مسلمانوں کو اور خصوصاً اہل علم کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہمت اور توفیق دے۔ آمین!

خاکسار ابو احمد رحمانی





حامداً و مصلیاً

## مرزا کا دعویٰ نبوت و افضلیت

اس سے پہلے کے صحیفہ ۶ میں دکھایا گیا ہے کہ مرزا قادیانی کو نبوت مستقلہ کا دعویٰ تھا اور تین طریقوں سے اسے ثابت کیا ہے۔ اول! یہ کہ مرزا قادیانی نے اپنے آخری زمانے میں دنیا کے ان تمام مسلمانوں کو قطعی کافر کہا ہے جو مرزا قادیانی کے دعوے کو صاف طور سے نہیں مانتے ہیں۔ یہ وہ دعویٰ ہے کہ امت محمدیہ کے کسی عالی مرتبہ بزرگ نے نہیں کیا باوجودیکہ بعض بزرگوں کو کافر کہا گیا مگر انہوں نے کسی کو کافر نہیں بتایا۔ دوم! یہ کہ مرزا قادیانی نے غیر قادیانی کے پیچھے نماز پڑھنے کو قطعاً حرام بتایا ہے اور اسی طرح اس سے رشتہ ناطہ کرنے اور بیٹی دینے کی بھی ممانعت کی ہے اور تمام اہل علم جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا یہ کہنا اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ ان کے خیال کے بموجب دنیا کے تمام مسلمانوں کو کافر تسلیم کر لیا جائے ورنہ ظاہر ہے کہ اہل سنت نے نہایت اہتمام کی وجہ سے اس مسئلہ کو عقائد کی کتابوں میں داخل کر دیا ہے کہ ہر کلمہ گو فاسد العقیدہ اور نیک و بد کے پیچھے نماز درست ہے۔ سوم! مرزا قادیانی کے بعض اقوال نقل کئے ہیں جن میں انہوں نے نہایت صاف طور سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس دعوے کو ثابت کیا جس سے اکثر قادیانی انکار کر رہے ہیں یعنی نبوت تشریفی کو، اور مرزا قادیانی صاف طور سے اربعین میں نبوت تشریفی کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ان کے صاحبزادے مرزا محمود نے (جواب خلافت کی گدی پر بٹھائے گئے ہیں) ایک خاص رسالہ لکھا ہے۔ جس میں نہایت شد و مد سے اپنے والد یعنی مرزا قادیانی کے اقوال سے دنیا کے سارے مسلمانوں کو کافر ہونا ثابت کیا ہے۔ اس صحیفہ میں مرزا قادیانی کے اسی

دعوے کی زیادہ تشریح منظور ہے اور چہارم طریقہ سے دعویٰ نبوت ثابت کر کے یہ دکھانا مد نظر ہے کہ ان کا دعویٰ صرف اسی قدر نہیں ہے کہ میں نبی صاحب شریعت ہوں۔ بلکہ یہ دعویٰ ہے کہ میں ”تمام انبیاء سے افضل ہوں، یہاں تک کہ حضرت سرور انبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ سے بھی افضل ہوں مگر یہ آخری دعویٰ صاف لفظوں میں نہیں ہے البتہ ان کے تمام اقوال دیکھنے اور ان کے ملانے سے بخوبی اظہر من الشمس ہوتا ہے بنظر تحقیق حق ان کے اقوال ملاحظہ کر کے فیصلہ کیا جائے۔

### چوتھے طریقے کے متعلق مرزا کے بعض اقوال

۱..... قول مرزا ”جب کہ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قرآن کریم پر تو کیا انہیں مجھ سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ میں ان کی ظلیات بلکہ موضوعات کے ذخیرے کو ن کراپنے یقین کو چھوڑ دوں جس کی حق یقین پر بنا ہے۔“

(اربعین نمبر ۳ ص ۱۹ خزائن ج ۷ ص ۳۵۴)

نتیجہ..... اس قول سے کئی باتیں ثابت ہوئیں اول ایہ کہ مرزا قادیانی اپنی وحی کو ایسا ہی قطعی اور یقینی خدا کا کلام جانتے ہیں جیسا قرآن مجید ہے۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوئیں ایک یہ کہ مرزا قادیانی کو ایسا ہی نبوت کا دعویٰ ہے جیسا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو تھا۔ ورنہ مرزا قادیانی کی وحی کا قطعی اور یقینی کلام خدا ہونا اور اس پر ایمان لانا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مرزا قادیانی اپنی وحی کے منکر کو ویسا ہی کافر سمجھیں گے جیسا منکر قرآن مجید کو۔ اب جو حضرات ان پر ایمان لا چکے ہیں اور ان کے تمام اقوال کی تصدیق کرتے ہیں وہ ضرور ان کے تمام نہ ماننے والوں کو کافر جانتے ہوں گے۔ اگرچہ کسی مصلحت سے انکار کریں اور تمام کلمہ گو کو مسلمان بتائیں۔ دوم ایہ کہ مرزا قادیانی اپنی وحی کے مقابلہ میں تمام احادیث نبویہ کو بیکار بتاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی وحی کا ثبوت اور منجانب اللہ ہونا قطعی بتاتے ہیں اور احادیث کا ثبوت ظنی کہتے ہیں بلکہ بلا تعین انہیں موضوع یعنی جھوٹی باتیں بنائی ہوئی کہتے ہیں اس میں دوسرے طریقے سے نبوت کا دعویٰ ہے۔

۲..... قول مرزا ”میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر

نازل ہوتا ہے۔“

(ہجۃ الوحی ص ۲۱۱ خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۰)

نتیجہ..... دیکھا جائے کہ کس صفائی سے اپنے الہامات پر ایمان لانا ویسا ہی فرض بتاتے ہیں جیسا قرآن مجید پر اور ان کے کلام خدا ہونے پر، ایسا ہی انہیں یقین ہے جیسے قرآن مجید کے کلام خدا ہونے پر، اس کہنے کے بعد کسی ذی علم کو تا مل نہیں رہ سکتا کہ مرزا قادیانی کو نبوت کا دعویٰ ہے جب ان کی وحی کا مرتبہ کلام الہی ہونے میں ایسا ہی ہوا جیسا قرآن مجید ہے تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ مرزا قادیانی کے نزدیک ان کے الہامات کا منکر کافر نہ ہو، بلکہ ضرور ہے کہ ان کے الہامات کا منکر ویسا ہی کافر ہوگا جیسا قرآن مجید کا منکر۔ اب جو حضرات ان پر ایمان لا چکے ہیں بالضرور انہیں اس قول پر ایمان ہوگا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو ان کے الہامات پر ایمان نہیں لائے انہیں وہ ویسا ہی کافر سمجھیں جیسا قرآن مجید کے منکر کو تمام مسلمان سمجھتے ہیں برادران اسلام اس قول پر مکرر غور کر کے اس کے نتیجہ کو دیکھیں۔

۳..... قول مرزا ”جب امت محمدیہ میں بہت فرقہ ہو جائیں گے، تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا کہ اس ابراہیم کا پیرو ہوگا۔“ (اربعین نمبر ۳ ص ۳۲- خزائن، ج ۷ ص ۴۲۱)

اس رسالہ کے پہلے حصہ میں بھی مرزا قادیانی کے بعض اقوال نقل کئے ہیں جن میں صاف طور سے ان کا بیان ہے کہ میرے ماننے اور میری باتوں پر ایمان لانے پر نجات منحصر ہے، بغیر میرے ماننے نجات نہیں ہو سکتی اس سے بخوبی ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی اپنے نہ ماننے والوں کو کافر کہتے ہیں۔

۴..... قول مرزا ”اس بات کو قریباً نو برس کا عرصہ گزر گیا کہ جب میں دہلی گیا تھا اور میاں نذیر حسین غیر مقلد کو دعوت دین اسلام کی گئی تھی۔“

(اربعین نمبر ۴ حاشیہ ص ۱۱ خزائن ج ۷ ص ۴۲۱)

نتیجہ..... ان دونوں اقوال کو دیکھا جائے کہ اپنے یقینی الہام سے اپنا نام ابراہیم بتاتے ہیں اور نجات کا حصہ اس کی پیروی پر کرتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ جو مرزا قادیانی پر ایمان لا کر ان کا پیرو نہیں ہوا وہ کافر جنہی ہے اس کی نجات نہیں ہے اس کے بعد کے قول میں ایک عالم محدث کو جس نے اپنی عمر کا بڑا حصہ حدیث رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اور کلام رسول اللہ ﷺ کی تبلیغ میں صرف کیا اسے کافر بتاتے ہیں۔ کیونکہ دعوت اسلام تو کافر ہی کو ہوتی ہے میں نے جو دعوت ان کے

اقوال سے بیان کیا ہے اس کی صراحت مرزا قادیانی کے رسالہ سیرۃ الابدال کے باب ۱ سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس باب میں حضرت موسیٰؑ کا ذکر کر کے انبیائے بنی اسرائیل کو ان کا خلیفہ کہتے ہیں اور آخری خلیفہ حضرت عیسیٰؑ کو بتاتے ہیں پھر جناب رسول اللہ ﷺ کو مثیل موسیٰؑ بتا کر ان کے بعد سلسلہ خلفاء یعنی انبیاء کا سلسلہ بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو خاتم الخلفاء یعنی آخر النبیین کہتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں۔ "ولکننا الجننا بنص القرآن الی ان نؤمن بخلیفۃ منا ہو اخر الخلفاء علیٰ قلم عیسیٰ۔ وما کان المؤمن ان یکفر به لانه کفر بکتاب اللہ ولا یفلح الکافر حیث الی۔"

ترجمہ "ہم قرآن کے نص کی رو سے اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ آخری خلیفہ اسی امت میں سے ہوگا اور وہ عیسیٰؑ کے قدم پر آئے گا اور کسی مومن کی مجال نہیں کہ اس کا انکار کرے کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے اور جو کوئی قرآن کا منکر ہے وہ جہاں جائے گا عذاب کے نیچے ہے۔ یعنی کسی طرح اس کی نجات نہیں۔" (خطبہ الہامی ص ۶۷-۶۸، خزائن، ج ۶ ص ۷۷-۷۸)

یہ عربی عبارت اور اردو ترجمہ مرزا قادیانی کی مذکورہ کتاب کا ہے اس عبارت میں مرزا قادیانی اپنی نبوت کو نص قرآنی سے ثابت بتاتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو ایمان لانے پر مجبور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو میرا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن کا منکر کافر ہے اور کافر فلاح نہیں پائے گا بلکہ جہاں جائے گا عذاب الہی اسے نہ چھوڑے گا۔ یعنی کسی صورت سے اس کی نجات نہیں ہے۔ دنیا کے مسلمان مرزا قادیانی کے اقوال پر نظر کریں کہ کس کس طرح سے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دنیا کے کچھ کم چالیں کروڑ مسلمانوں کو کافر بتاتے ہیں اور اپنے اوپر ایمان لانے کو نجات کا مدار ٹھہراتے ہیں۔ اب جو حضرات ان کے تمام اقوال پر ایمان لا چکے ہیں وہ کیونکر تمام اہل قبلہ کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں اور ان کا یہ کہنا کہ ہم کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے ناقص کہتے ہیں۔ صداقت پر کیونکر محمول کر سکتے ہیں؟ البتہ لفظ اہل قبلہ اور کافر اور ناقص کے معنی اپنے خیال میں ایسے قرار دے لئے ہوں جو اس وقت ہم نہیں جانتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں دھوکہ دینے کے خیال میں صادق رہ کر اپنا کام نکال لیں۔ اس کا فیصلہ میں دور بین اور دانشمند حضرات کے حوالہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس دعویٰ نبوت کے لئے پانچواں طریقہ بیان کرتا ہوں۔ اس میں ان کے بعض وہ اقوال آپ کو دکھائے جائیں گے جن میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں تمام اولیاء اور انبیاء سے افضل ہوں۔ جب تمام اولیاء سے افضل ہوئے یعنی حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ

اور حضرت علیؑ سے لے کر تیرہویں صدی کے اخیر تک جس قدر اولیائے کرام گذرے ان سب سے مرزا قادیانی کا مرتبہ زیادہ ہے اور اہل علم اور صوفیائے کرام جانتے ہیں کہ ان کے مرتبہ کے اوپر ولایت کا کوئی مرتبہ نہیں ہے نبوت ہی کا مرتبہ ہے اس لئے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کو نبوت کا دعویٰ ہے اور جب انبیاء سے بھی فضیلت کا دعویٰ ہے تب تو نہایت روشن ہے کہ اعلیٰ مرتبہ کے نبوت کے مدعی ہیں۔ پھر تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ان کا منکر کافر نہ ہو اور ان کے پیروا نہیں کافر نہ سمجھیں۔ اب مرزا قادیانی کا وہ قول نقل کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو تمام اولیاء سے افضل ٹھہرا کر صاف طور سے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

### دعویٰ نبوت کے ساتھ تمام اولیاء پر فضیلت کا دعویٰ

۵..... قول مرزا ”اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیا اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گذر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ..... ان میں پائی نہیں جاتی“

(حقیقۃ الوحی ص ۳۹۱ خزائن ج ۲۲ ص ۴۰۶-۴۰۷)

نتیجہ..... اس عبارت میں صاف طور سے نبوت کا دعویٰ ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صحابہ کرام خصوصاً خلفائے اربعہ یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمان غنیؓ، حضرت علیؓ سے لے کر حضرت جنید، حضرت شبلی، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت معین الدین چشتی، حضرت غوث پاک جیلانی، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی (علیہم الرحمۃ والبرکات) کوئی نبی ہونے کا مستحق نہ تھا صرف مرزا غلام احمد مستحق تھے۔ اس عبارت میں صاف طور سے تمام صحابہ اور تمام اولیاء اللہ سے اپنی افضلیت ثابت کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بعض مرزائی جو یہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں اور بھی نبی ہوئے ہیں اور حضرت مجدد الف ثانی کو نبی بتاتے ہیں یہ ان کی محض نادہشتی یاد ہو کہ وہی ہے۔ اس کے بعد ان اقوال کو ملاحظہ کیا جائے جن میں انہوں نے حضرت مسیحؑ پر اپنی فضیلت کا دعویٰ بڑے زور سے کیا ہے۔ حضرت مسیحؑ صاحب شریعت رسول ہیں جن کی تعریف جا بجا قرآن شریف میں آئی ہے اور ان کے معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔

## دعویٰ نبوت کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام پر فضیلت کا دعویٰ

۶..... قول مرزا ”خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔“

(دافع البلاء ص ۱۳ خزائن، ج ۱۸ ص ۲۳۳)

نتیجہ..... اس قول میں نہایت صاف طور سے نبی مستقل اور صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ ہے کیونکہ مرزا قادیانی اپنی تمام شان کو حضرت مسیح علیہ السلام پر بہت بڑھ کر بتاتے ہیں اور یہ یقینی بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام مستقل نبی صاحب شریعت تھے اور جب مرزا قادیانی اپنی ہر شان میں ان سے بہت بڑھ کر ہوئے تو بالضرورة ان کا یہ دعویٰ ہوا کہ میں مستقل نبی ہوں بلکہ بعض مستقل انبیاء سے بہت بڑھ کر ہوں صاحب شریعت ہوں اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ پر تشریحی نبوت بھی ختم نہیں ہوئی آپ کے بعد مرزا قادیانی صاحب شریعت نبی ہوئے۔ (جس طرح دوسری صدی میں صالح بن طریق تھا) اور ان کا نہ ماننے والا کافر ہے اس پر خوب غور کیا جائے کہ جب مسیح کے انکار سے یہود بالاتفاق کافر ہو گئے تو مرزا قادیانی اپنے آپ کو حضرت مسیح سے بہت زیادہ عالی مرتبہ کہتے ہیں تو ان کے ماننے والے بالضرورة تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایسا ہی کافر سمجھتے ہوں گے جیسا تمام مسلمان یہود کو سمجھتے ہیں اب کسی قادیانی کا زبان سے یہ کہنا کہ ہم کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے کسی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا بجز اس کے کہ کسی خفیہ مصلحت سے اپنے دلی عقیدہ کے خلاف ظاہر کرتے ہیں۔

۷..... قول مرزا ”اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جڑی فضیلت قرار دیتا تھا مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا“ (ھدیۃ الوحی ص ۱۳۹ و ۱۵۰ خزائن، ج ۲۲ ص ۱۵۲-۱۵۴)

نتیجہ..... یہاں صریح طور پر دعویٰ نبوت کے علاوہ نزول وحی کا دعویٰ اس زور سے اور ایسے عنوان سے ہے کہ کسی نبی نے نہیں کیا۔ یہ وہ دعویٰ ہے جس کے مدعی کو بالاتفاق تمام علمائے متاخرین اور حقدین کافر کہتے ہیں اس قول سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو حضرت مسیح پر

فضیلت ملی دیتے ہیں اور اس قول کو پیش نظر رکھ کر مرزا قادیانی کے ان الہاموں پر نظر کرنی چاہئے جن سے جناب رسول اللہ ﷺ سے برابری ہو رہی ہے اور کہیں افضلیت کا بھی دعویٰ ہے، مگر خاص طور سے نہیں عام طور پر، غالباً جب اپنی امت پر پورا وثوق ہو جاتا اس وقت دلی منشاء کو ظاہر فرماتے۔ بہر حال نبوت کا دعویٰ اس قول میں صاف و صریح طور سے ہے اور کنایہ حضرت مسیح سے افضلیت کا بھی دعویٰ ہے۔ (نعوذ باللہ منہ)

۸..... قول مرزا ”مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔“ (ہقیقۃ الوحی ص ۱۴۸، خزائن، ج ۲۲ ص ۱۵۲)

نتیجہ..... ہمارے بھائی، مرزا قادیانی کے الفاظ اور طرز بیان کو ملاحظہ کریں کہ ایک جلیل القدر رسول کے مقابلہ میں اپنی تعلیٰ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ ان کی پوری تحقیر ہوتی ہے صادقوں کی یہ شان ہرگز نہیں ہو سکتی جناب رسول اللہ ﷺ نے کسی رسول کے مقابلہ میں ایسا نہیں فرمایا بلکہ عموماً فضیلت دینے کو منع کیا۔ قرآن پاک میں ”وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین“ (آل عمران ۴۵) ”اولوا العزم من الرسل“ (الاحقاف ۳۵) ارشاد ہے۔

۹..... قول مرزا ”پھر جبکہ خدا نے اور اس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخر زمانے کے مسیح کو اس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے تو پھر یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ کیوں تم مسیح ابن مریم سے اپنے تئیں افضل قرار دیتے ہو۔“

(ہقیقۃ الوحی ص ۱۵۵، خزائن، ج ۲۲ ص ۱۵۹)

نتیجہ..... اس قول کا نتیجہ بالضرور یہ ہوا کہ بعض وہ نبی جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ سے بہت بڑھ کر کہتے ہیں وہاں علانیہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کیونکہ اس قول میں کئی جھوٹے دعوے ہیں (۱) خدا نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے کا مسیح پہلے وقت کے مسیح سے افضل ہوگا۔ (۲) جناب رسول اللہ ﷺ نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے، (۳) تمام انبیائے کرام کا یہی قول ہے (۴) آخری زمانے کے مسیح کی فضیلت اس کے عہدہ اور مفید کاموں کی وجہ سے بیان کی ہے۔ مگر چاروں باتیں محض غلط اور جھوٹ ہیں قرآن و حدیث اور کتب سابقہ موجودہ میں کوئی قادیانی دکھلائے کہ آنے والے مسیح کو پہلے مسیح سے افضل کہاں ٹھہرایا ہے اور اس مسیح نے سوائے اپنی شہرت کے کیا کارنامے دکھائے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچایا؟ کوئی قادیانی بیان تو کرے۔ بجز اس کے کہ دنیا کے مسلمانوں کو

کافر ٹھہرا دیا اور کیا کیا؟ اور اس کے وقت میں اسلام پر اور مسلمانوں پر ہر طرح کی مصیبتیں آئیں۔ یہاں اس امر پر کامل طور سے نظر کی جائے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو جناب رسول اللہ ﷺ کا غل کہتے ہیں اور ان کے مریدین بھی ایسا ہی کہہ دیا کرتے ہیں اور کہیں نائب رسول اور غلام رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو جن کا غل کہتے ہیں اور جن کا نائب اور خادم بتاتے ہیں انہوں نے بھی کسی نبی کا نام لے کر اپنے آپ کو ان سے افضل کہا ہے اور کم سے کم یہ دکھایا جائے کہ اس کو جائز رکھا ہے؟ مگر ایسا نہیں دکھا سکتے بلکہ نہایت صاف طور سے اس کی ممانعت کی ہے اور خاص یہود کے مقابلہ کے وقت حضور انورؐ نے فرمایا لا "تختبرونی علیٰ موسیٰ" یعنی مجھے موسیٰؑ پر فضیلت نہ دو۔ یہ حدیث صحیح بخاری (ج ۱ ص ۳۸۴) باب وفات موسیٰؑ و ذکرہ (بعد) کی ہے اور صحیح بخاری (ج ۱ ص ۳۸۱) باب هل انک حدیث موسیٰؑ اور مسلم (ج ۲ ص ۲۶۷) باب فضائل موسیٰؑ میں حضور انورؐ کا ارشاد بھی ہے۔ "لا یبھی لعبد ان یقول انسا خیر من یونس بن متی"۔ یعنی کسی کو یہ کہنا نہ چاہئے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ اب میں حق پسند حضرات سے سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کے ان ارشادوں کو پیش نظر رکھ کر مرزا قادیانی کے ان دعوؤں پر نظر کریں جو ابھی نقل کئے گئے اور اس کا فیصلہ کریں کہ جو نائب اور خادم ہو کر اپنے خمدوم کی ایسی صریح مخالفت کرے وہ کیسا ہے؟

اب وہ اقوال نقل کئے جاتے ہیں جن میں مرزا قادیانی نے تمام انبیاء پر فضیلت کا دعویٰ کیا ہے۔

### دیگر انبیاء پر فضیلت کا دعویٰ

۱۰..... قول مرزا "بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے میرا جواب یہ ہے کہ اس نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے اس قدر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ باستثنائے ہمارے نبی ﷺ کے باقی تمام انبیاء علیہم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال ہے۔"

(تمیز حقیقت الوحی ص ۱۳۶، خزائن ج ۲۲ ص ۵۷۴)

نتیجہ..... اس قول میں کامل غور کر کے دیکھا جائے کہ مرزا قادیانی اپنی افضلیت کا دعویٰ کس کس



طرح کرتے ہیں اور کیسے کیسے پہلو اس میں ہوتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ معجزات کے اعتبار سے میں اکثر انبیاء سے افضل ہوں البتہ بعض انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزے دکھائے جس قدر میں نے دکھائے ہیں۔ اس کے بعد اپنے اس قول کو جھوٹا اور غلط ٹھہرا کر سچ اس بات کو ٹھہراتے ہیں کہ جس کثرت کے ساتھ میرے معجزات ہیں اور ان کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے اس قدر معجزات کا قطعی ثبوت کسی نبی کے لئے نہیں ہے۔ البتہ حضرت خاتم النبیینؐ کو اس سے مستثنیٰ کرتے ہیں جس سے عوام کم علم یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا قادیانی صاف طور سے استثناء کر کے رسول اللہ ﷺ سے اپنی افضلیت ثابت نہیں کرتے مگر اہل علم اسے خوب سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی اس قول میں تو اپنے معجزات کو کثیر بتا کر ان کے ثبوت کو قطعی اور یقینی بتاتے ہیں۔ اور دوسرا قول جو اس کے بعد نقل ہوگا اس میں خدا کی قسم کھا کر اس کی تعداد تین لاکھ بتاتے ہیں ان دونوں قولوں کو ملا کر اہل علم بالضرور یہی نتیجہ نکالیں گے کہ مرزا قادیانی اگرچہ ظاہر میں جناب رسول اللہ ﷺ سے اپنے آپ کو فضیلت ظاہرہ نہیں دیتے مگر باطن میں ضرور فضیلت دیتے ہیں کیونکہ تین لاکھ معجزات کے قطعی ثبوت کا دعویٰ نہ کسی ذی علم مسلمان نے جناب رسول اللہ ﷺ کے لئے کیا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ کہنا ضرور ہوگا کہ مرزا قادیانی کے اس دعویٰ کا نتیجہ بالیقین یہی ہے کہ جس قدر مجھ سے معجزات ہوئے رسول اللہ ﷺ سے بھی نہیں ہوئے اور جب دونوں قولوں کے ساتھ ان کا وہ قول بھی ملایا جائے جو تحفہ گولڑویہ (ص ۴۰ خزائن ج ۷ ص ۱۵۳) میں ہے کہ رسول اللہ سے تین ہزار معجزے ہوئے۔ تو کامل فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مرزا قادیانی اپنے معجزات کو سوھنے زیادہ جناب رسول اللہ کے معجزات سے بتاتے ہیں۔ اب اہل علم ان تینوں قولوں پر نظر کریں اور پھر اس قول کے استثناء کو دیکھیں کسی منصف کو اب تا مل ہو سکتا ہے؟ کہ یہ استثناء عوام کے خوش رکھنے کے لئے کیا گیا ہے۔ اب ناظرین خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ کیا بات ہے۔

۱۱..... قول مرزا ”اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے ہیں جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں“ (تحریر حقیقۃ الوحی ص ۶۸ خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳)

نتیجہ..... اس قول میں تین طور سے دعویٰ نبوت ہے اور اس کی صداقت پر قسم کھاتے ہیں۔ (۱) یہ کہنا کہ اس نے یعنی خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ رسول ہونے کا دعویٰ ہے جسے خدا تعالیٰ ہدایت کے

لئے بھیجے وہ بلاشبہ رسول ہے جب مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ ہے تو بالضرور خدا کے مستقل رسول ہونے کا دعویٰ ہوا۔ (۲) صریح کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ (۳) یہ کہ مسیح موعود اپنے کو کہا اور مسیح موعود نبی ہوں گے اور افضلیت کا دعویٰ اس طرح ہے کہ اپنے معجزات کو تین لاکھ بتاتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ ﷺ تک کسی نبی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کوئی ان کا ماننے والا لکھتا ہے کہ فلاں نبی سے تین لاکھ معجزے ہوئے، یہاں لائق غور بات یہ ہے کہ معجزہ اور نشان خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور اس سے مقصود اس رسول کی صداقت کا ظاہر کرنا ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ جس قدر اس رسول کی عظمت اور مرتبت اللہ کے نزدیک زیادہ ہوگی اسی قدر اس کی سچائی اور صداقت کا اظہار زیادہ ہوگا۔ اب اس پر غور کرتا چاہئے کہ جب مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ ہے کہ میری تصدیق کے لئے تین لاکھ معجزے ظاہر ہوئے تو اس کا نتیجہ بالضرور یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک میری عظمت اور میرا رتبہ اس قدر عالی ہے کہ کسی نبی کا نہیں ہے یہاں تک کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ بھی اس مرتبہ کو نہیں پہنچے۔ کیونکہ کسی نبی کے لئے اس قدر نشانات تو کیا اس کے عشر عشر کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے لئے بھی نہیں ہے بلکہ بقول مرزا قادیانی تین ہزار معجزے آپ سے ہوئے یعنی مرزا قادیانی کے معجزوں کا عشر عشر، غضب ہے کہ ایسے دعوے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کو نبوت مستقلہ کا دعویٰ نہیں ہے امتی نبی اور ظلی نبی ہیں۔ کیا غل اور سایہ اپنے اصل سے اس قدر بڑھ سکتا ہے؟

### تمہید بیان دعویٰ افضلیت بر سر در انبیاء علیہ السلام

یہاں تک جو اقوال نقل کئے گئے ان سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی کو دعویٰ نبوت بلکہ تمام انبیاء سے افضل ہونے کا دعویٰ ہے۔ مگر میں بنظر توضیح اور بوجہ نہایت مہتمم بالشان ہونے کے مرزا قادیانی کے وہ اقوال پیش کرتا ہوں جن میں وہ اپنی فضیلت جزئی یا کلی جناب رسول اللہ ﷺ پر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جس نے مرزا قادیانی کی تحریروں ابتداء سے ان کی آخر عمر تک کی محققانہ طور سے دیکھیں ہیں وہ یقین کر سکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے بہت کچھ دعوے کئے مگر آہستہ آہستہ دعوؤں میں ترقی کرتے گئے۔ یہ دعویٰ نہایت ہی عظیم الشان تھا اور مسلمانوں کے دلوں کو برہم کرنے والا، اس لئے اس میں انہیں بہت ہی آہستگی اور نہایت حکمت عملی برتنی پڑی ہے پہلے تو نعتیہ قصائد اور عشقیہ اشعار بہت کچھ لکھے ہیں۔ پھر پادریوں اور آریوں کے جواب میں

بعض رسائل لکھ کر مسلمانوں کے دلوں کا اپنی طرف رجوع کیا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے خادم ہونے اور غلام ہونے کا بھی جا بجا دعویٰ کیا ہے۔

اس تمہید کے بعد آہستہ آہستہ کسی کسی فضل و کمال میں اپنی فضیلت دکھائی ہے اور کسی مقام پر جناب رسول اللہ ﷺ کے قاصر رہنے کی طبع زاد وجہ بھی پیش کر دیے ہیں۔

(مثلاً ازالہ اوہام حصہ ۲ ص ۶۹۱ خزائن، ج ۳ ص ۷۳، ۷۴ ملاحظہ ہو)

اس میں شبہ نہیں کہ بہت نیک دل سادہ مزاج ان تمہیدی باتوں کو دیکھ کر ان کے زوردار دعوؤں پر ایمان لے آئے اور پھر جو بات اس کے خلاف ان کے خیال میں آئی اس کی تاویل کے درپے ہو گئے اور افسوس ناک اس کی حالت ہو گئی۔ مگر جب کوئی ذی علم حق پسند محققانہ طور سے ان تمہیدی باتوں میں غور کر کے ان کے ان اقوال و افعال پر منصفانہ نظر کرے گا جو ان تمہیدی باتوں کے خلاف ہیں اس کا کانشنس (ضمیر) اس کی حق پسندی بے اختیار کہہ اٹھے گی کہ یہ تمہیدی مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے تھی اور اصلی غرض کچھ اور تھی یا کچھ لوگوں کی توجہ سے ان کی حالت بدل گئی اور ان کا حوصلہ حد سے زیادہ بلند ہو گیا مگر ان کی عمر نے وفانہ کی۔ ابھی تک وہ اپنی بلند پروازی کا پورے طور سے اظہار نہیں کرنے پائے تھے کہ ان کی عمر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ان کی دلی تمنا پوری نہ ہوئی۔ ذرا سرسری طور سے اس تمہید پر غور کر لیجئے۔ یہ تو فرمائیے کہ بہت شعراء کے نعتیہ قصیدے اور عشقیہ اشعار موجود ہیں پھر کیا ان کے مضامین کی بنیاد ان کا سچا عشق و محبت ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ ان کی خینی باتیں اور جھوٹے دعوے ہیں اور ان کے کذب کی صداقت ان کے دوسرے اقوال و افعال سے بخوبی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی کے اقوال و افعال سے ان کے عشق کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی کا ایک شعر بھی ہے۔

یا نبی اللہ فدائے ہر سرموئے توام وقف راہ تو کہنم گر جان دہندم صد ہزار

(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۶، خزائن ص ۲۶ ج ۵)

جس قدر عشق و محبت مرزا قادیانی کے اشعار سے عموماً اور مذکورہ بالا شعر سے خصوصاً ظاہر ہوتی ہے اگر ان کے دل میں اس کا ختم ہوتا تو کیا ممکن تھا کہ باوجود مقدرت کے وہ روضہ اقدس کی زیارت سے مشرف نہ ہوتے اور جان کا خوف بھی ہوتا تو نہایت جوش سے جان کے قربان کرنے کو موجود ہو جاتے حالانکہ خوف کی کوئی وجہ نہ تھی۔ انہیں تو الہام ہو چکا تھا۔ ”وَاللّٰهُ يَغْنَمُكَ مِنَ النَّاسِ“

(تذکرہ ص ۲۸۰-۲۷۹ طبع سوم)

اور انہیں اپنے الہاموں پر تو ایسا یقین تھا جیسا قرآن شریف پر۔ پھر خوف کی گنجائش کہاں تھی؟ اس کے علاوہ حرمین شریفین میں پوری آزادی ہے کوئی مذہب والا زیارت و حج سے روکا نہیں جاتا۔ دیکھو ان کا بیٹا حج کر آیا مجھے وہاں کے خطوط سے معلوم ہوا کہ شریف مکہ جو وہاں کے حاکم ہیں مرزا محمود کو کافر جانتے تھے مگر کسی قسم کا تعرض ان سے نہیں کیا۔ البتہ بادیہ و تحریک کے ان سے ملاقات نہیں کی۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی دلیل ان کے دعوے عشق و محبت اور دعویٰ غلامی کے غلط بتانے والی اور ان کی اصلی حالت کھولنے والے وہ اشعار ہیں جو انہوں نے قصیدہ اعجازیہ میں اپنی تعلیٰ اور جگر گوشہ اور قرۃ العینین رسول الثقلین حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کے کسر شان میں لکھے ہیں۔ کیا کسی غلام اور عاشق سے یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے محبوب کے محبوب سے اس قدر بے باکی اور بے ادبی سے پیش آئے؟ اور خاص اپنے مقابلہ میں ان کی تحقیر کرے جن کو رسول الثقلینؑ نے نہایت پیار و محبت سے اپنے گودوں میں کھلایا ہو اور جنہیں اہل جنت کا سردار فرمایا ہو۔ بھائیو! بلا طرفداری اس کا جواب دو، مگر جواب سے پہلے قصیدہ کے وہ اشعار بھی ملاحظہ کر لو جن میں مرزا قادیانی نے اپنے دل کا غصہ نکالا ہے۔ پھر کیا کوئی صادق ان باتوں پر نظر کر کے مرزا قادیانی کو محبت و غلامی کے دعوے میں سچا کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ اب اس توضیح کے لئے میں نمونہ کے طور پر چند حوالہ پیش کرتا ہوں جن میں انہوں نے مختلف طور سے اپنی افضلیت کا دعویٰ کیا ہے۔ مگر نہ اس زور کے ساتھ جس طرح حضرت مسیحؑ کے مقابلہ میں کیا ہے کیونکہ مصلحت وقت کے خلاف تھا۔

### حضرت حسینؑ اور مرزا

وہ اشعار اور ان کا ترجمہ ملاحظہ ہو

..... وقالوا على الحسين فضل نفسه

اقول نعم والله ربى سيظهر

(اعجاز احمدی ص ۵۲ خزائن، ج ۱۹ ص ۱۶۴)

ترجمہ..... ”اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے حسینؑ سے اپنے تئیں اچھا سمجھا۔“

.....۲ وشتان ما بینى وبين حسينكم

فانى أئيد كل ان وانصر

۳..... واما حسين فاذا كروا دشت كربلا

الى هذه الايام تبكون فانظروا

(عجاز احمدی ص ۶۹ خزائن، ج ۱۹ ص ۱۸۱)

ترجمہ..... میں کہتا ہوں کہ ہاں میرا خدا عنقریب ظاہر کر دے گا اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ مجھے تو ہر وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے مگر حسین پر تو دشت کر بلا کو یاد کر لو۔ اب تک تم روتے ہو پس سوچ لو۔

۳..... ووالله ليست فيه منى زيادة

وعندي شهادات من الله فانظروا

۵..... وانى قيل الحب لكن حسينكم

قيل العدى فالفرق اجلى واظهر

(عجاز احمدی ص ۸۱ خزائن، ج ۱۹ ص ۱۹۳)

ترجمہ..... اور بخدا اس میں (کوئی بات) مجھ سے زیادہ نہیں ہے۔ میرے پاس خدا کی گواہیاں ہیں پس تم دیکھ لو، اور میں محبت کا کشتہ ہوں مگر تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے پس فرق کھلا اور ظاہر ہے۔

یہ پانچ شعر ہیں جو مرزا قادیانی نے قصیدہ اعجازیہ میں حضرات حسینؑ اور خصوصاً حضرت امام حسینؑ کی توہین اور اپنی فضیلت میں لکھے ہیں۔ ان کے مضامین کو عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہئے کہ ایک اسلام کا دعویٰ رکھنے والا اور اپنے تئیں خادم رسول اللہ اور عاشق رسول کہنے والا اسی سچے رسولؐ کے جگر گوشہ کے مقابلہ میں اپنی فضیلت اس طرح دکھا رہا ہے۔ پہلے شعر میں اپنی فضیلت کا دعویٰ کر کے اس کے ظہور کی قسمیہ پیش گوئی کر رہا ہے یعنی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میری فضیلت امام حسینؑ پر عنقریب ظاہر ہو جائے گی (مگر اب تک تو اس کے نشان کا بھی ظہور نہ ہوا) دوسرے اور تیسرے شعر میں اپنی یہ فضیلت دکھاتے ہیں کہ مجھے ہر وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد پہنچ رہی ہے اور امام حسینؑ کو تو کر بلا میں وہ مصیبت پہنچی تھی جسے یاد کر کے تم اب تک روپا کرتے ہو۔ بھائیو! انصاف سے کہو کہ عاشق رسولؐ کے خیال میں بھی ایسا مضمون گذر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ فضیلت دکھانا ایسا ہی ہے جیسے ہیرودس بادشاہ قاتل حضرت یحییٰ علیہ السلام یا اور کوئی مخالف کافر دنیا کے ناز و نعمت میں رہنے والا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مظلومیت اور شہادت کو دکھا کر حضرت

بھئی پر فخر کرے۔

مرزا قادیانی کے اس بیان کا یہ نتیجہ ضرور ہوگا کہ قرآن مجید کے نصوص قطعہ میں جو مؤمنین کے اتلاء اور کفار کے تنعم دنیا کا ذکر ہے وہ سب غلط ہے۔ (نعوذ باللہ) ایک فضیلت تو یہ دکھائی۔ دوسری فضیلت پانچویں شعر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ میں کشتہ محبت خدا ہوں اور امام حسینؑ دشمنوں کے کشتہ تھے۔ یعنی انہیں محبت الہی سے واسطہ نہ تھا۔ ان کی شہادت محبت خدا کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ میں کشتہ محبت خدا ہوں کیونکہ چین سے گذرتی ہے تو راپلاؤ کھانے کو اور مشک و زعفران استعمال کرنے کو ملتا ہے۔

بھائیو! انصاف سے کہو کسی مسلمان کے قلم و زبان سے یہ کلمات نکل سکتے ہیں اور کوئی انسان رسول الثقلینؐ پر ایمان لا کر اپنے مقابلہ میں ان کے قرۃ العینؑ کی فضیلتی اس طرح کر سکتا ہے؟ ذرا اپنے ایمان پر نظر کر کے جواب دینا چاہئے۔ ان اشعار میں ایک عظیم الشان عبرت ناک مضمون یہ ہے کہ مرزا قادیانی دوسرے اور پانچویں شعر میں تمام مسلمانوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں۔ حسینکم یعنی تمہارا حسینؑ۔ اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں تمام دنیا کے اہل سنت اور اہل تشیع اپنا امام اور مقتداء مان رہے ہیں وہی حسینؑ ہیں۔ جو سید المرسلینؐ کے نواسہ ہیں جنہیں سید المرسلینؐ نے اہل جنت کا سردار فرمایا ہے اور نجات کے لئے کشتی نوح کے مثل ٹھہرایا ہے۔ ان کی نسبت مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ تمہارا حسین یعنی ہمارا نہیں ہے۔

ناظرین! مرزا قادیانی کی حالت کو اس سے سمجھ لیں میں اب زیادہ لکھنا نہیں چاہتا۔

### حضرت سرور انبیاءؑ پر فضیلت کا دعویٰ

اس سے پہلے تہہ ہیتیہ الوحی سے مرزا قادیانی کا دعویٰ نقل کیا گیا ہے کہ میرے بڑے بڑے نشان تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔ مگر اس پر بس نہیں کی بلکہ تین لاکھ سے زیادہ اپنے معجزات کو بیان کیا ہے اور لکھا ہے۔

..... قول مرزا ”میری تائید میں اس نے نشان ظاہر فرمائے..... وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔“ (حقیقت الوحی ص ۶۷، خزائن، ص ۷۰ ج ۲۲)

نتیجہ..... اس قول کو پیش نظر رکھ کر جب ان کی عمر کے مہینوں کا حساب کیا جائے اور اس میں متعدد نشانوں کا ہونا مانا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اپنے دعویٰ نبوت کی عمر میں سوا تین لاکھ معجزوں کے مدعی ہیں اور جناب رسول اللہ ﷺ کی نسبت (تحفہ گوڑ ویہ ص ۴۰ خزائن، ج ۱۷

ص ۱۵۳) میں لکھتے ہیں کہ ”تین ہزار معجزے ہمارے نبی ﷺ سے ظہور میں آئے۔“

ان دونوں قولوں کے ملانے سے ظاہر ہوا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میرے معجزات جناب رسول اللہ ﷺ کے معجزات سے سو حصے سے بھی زیادہ ہیں یعنی سو حصے سے مجھے زیادہ فضیلت ہے جناب رسول اللہ پر۔ کیونکہ جس قدر معجزات کا ظہور زیادہ ہوگا اسی قدر اسے قربت خداوندی کا ثبوت زیادہ ہوگا۔ کیونکہ معجزہ کا ظہور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اپنے رسول کی حمایت اور اس کی صداقت ظاہر کرنے کے لئے اب جس قدر قرب زیادہ ہے اور اس کی حمایت زیادہ منظور ہے اسی قدر اس نبی سے زیادہ معجزہ ہوں گے۔

برادران اسلام! جناب سید المرسلینؐ کی اس خفیہ توہین کو ملاحظہ کریں کہ مرزا قادیانی حضور انور ﷺ کو اپنے سے سو حصہ کم مرتبہ سمجھتے ہیں۔ یہاں سے بالیقین ثابت ہوا کہ دوسرے مقامات پر آپ کی بہت کچھ تعریف کرنا اور اپنے آپ کو خادم کہنا کسی مخفی غرض سے ہے، مگر افسوس ہے کہ ہمارے بھائی غور نہیں کرتے۔

۲..... قول مرزا ”لیکن پھر بھی دو نام دونیوں سے کچھ خصوصیت رکھتے ہیں یعنی مہدی کا نام ہمارے نبی ﷺ سے خاص ہے اور مسیح یعنی مؤید بروح القدس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ خصوصیت رکھتا ہے..... اور نبیوں کی پیش گوئیوں میں یہ بھی تھا کہ امام آخر الزمان میں یہ دونوں صفتیں اکٹھا ہو جائیں گی۔“

(اربعین نمبر ص ۱۳، خزائن، ج ۱ ص ۳۵۸-۳۵۹ حاشیہ)

نتیجہ..... اس قول میں غور کیا جائے اس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک مؤید بروح القدس ہونے کی صفت رسول اللہ ﷺ میں نہ تھی۔ صرف مہدی ہونے کی صفت تھی۔ یعنی ایک عظیم الشان صفت سے جناب رسول اللہ ﷺ محروم تھے (نعوذ باللہ منہ) مگر مرزا قادیانی دونوں صفت کے جامع ہیں اور جناب رسول اللہ ﷺ سے فضیلت رکھتے ہیں۔

۳..... قول مرزا ”دنیا میں کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔“

(ھدیۃ الوحی ص ۸۹، خزائن، ج ۲ ص ۹۲)

نتیجہ..... اس قول میں مرزا قادیانی صاف طور سے اپنے آپ کو تمام انبیاء پر فوقیت دیتے ہیں کیونکہ تخت اترنے سے مقصود معمولی تخت نہیں ہو سکتا بلکہ مثالی طور پر عالی مرتبہ رسالت و نبوت کا تخت مراد ہو سکتا ہے۔ جب مرزا قادیانی کا تخت سب سے بلند بچھایا گیا تو معلوم ہوا کہ مرزا

قادیانی تمام انبیاء سے عالی مرتبہ رکھتے ہیں۔

۴..... قول مرزا ”واللانی مالم یؤت احد من العالمین“

(حقیقۃ الوحی ص ۷۰ خزائن، ج ۲۲ ص ۱۱۰)

نتیجہ..... اس الہام کا یہی مطلب ہے کہ مرزا قادیانی کو جو مرتبہ دیا گیا وہ سارے جہاں میں کسی ولی اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اس میں جناب رسول اللہ ﷺ بھی داخل ہیں یعنی حضور کو بھی وہ مرتبہ نہیں دیا گیا۔ استغفر اللہ! (تفسیرہ اعجاز یہ کے صفحہ ۷۰ خزائن، ج ۱۹ ص ۱۸۲) میں اپنے آپ کو جناب رسول اللہ ﷺ کی اولاد ٹھہرا کر ص ۷۱ میں اپنی فضیلت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں)

۵..... قول مرزا ”لہ خسف القمر المنیر، وان لی غسا القمر ان المشرق ان التکر

(اعجاز احمدی ص ۷۱ خزائن، ج ۱۸ ص ۱۹)

ترجمہ..... اس کے لئے چاند کا خسوف ظاہر ہوا اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا۔ اب کیا تو انکار کرے گا۔ یعنی جناب رسول اللہ ﷺ کے لئے اردو محاورہ کے لحاظ سے حضور انور کے ساتھ مرزا قادیانی کے ادب کو لحاظ کیا جائے۔ کس بے ادبی سے ترجمہ کر رہے ہیں؟

یہ ان کا شعر ہے اور انہیں کا ترجمہ ہے اس شعر میں پہلے رسول اللہ ﷺ کا نشان صرف چاند گہن کو بتاتے ہیں اور اپنا نشان چاند اور سورج دونوں کا گہن کہتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ ﷺ کے اظہار صداقت کے لئے تو صرف چاند گہن ہوا اور میری صداقت کے لئے چاند اور سورج دونوں کا گہن ہوا۔ اب میں اس سے بحث نہیں کرتا کہ چاند گہن اور سورج گہن کس طرح نشان ہو سکتا ہے۔ اس تحقیق کے لئے ایک رسالہ خاص لکھا گیا ہے جس کا نام، شہادت آسمانی، ہے جس کو دیکھنا ہوا اس میں دیکھیے۔ یہاں یہ کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی جناب رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں اپنی ایک فضیلت بیان کرتے ہیں کہ اس قسم کا نشان حضور انور کے لئے ایک ہوا اور میرے لئے دو ہوئے یعنی رسول اللہ ﷺ پر یہ خاص فضیلت مجھے دی گئی۔ جناب رسول اللہ ﷺ کا معجزہ شق القمر تو مشہور اور متواتر ہے اور قرآن مجید سے اس کا پتہ ملتا ہے اور واقع میں یہ خرق عادت ہے۔ تمام عقلاء سے معجزہ مان سکتے ہیں مگر چاند گہن کو معجزہ اور نشان کہنا مرزا قادیانی ہی کے عقل کا تقاضا ہے۔ کوئی ذی عقل تو اسے معجزہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ چاند گہن اور سورج گہن ہمیشہ ہوا کرتے ہیں اور کسی وقت ایک مہینے میں ان کا اجتماع بھی ہوتا ہے اور بالفرض اگرچہ یہ اجتماع کسی مدعی کے وقت میں نہ ہوا ہو بہر حال کسی ذی علم صاحب عقل کے نزدیک خرق عادت اور معجزہ نہیں ہو سکتا اور اگر شق القمر کو چاند



کہن کہا ہے تو یہ سراسر غلط اور دروغ محض ہے کہ میرے لئے دونوں کا کہن ہوا۔ کیونکہ یہاں بھی کہن کے معنی شق ہونے کے ہوں گے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ میرے لئے شق القمر اور شق القمر دونوں ہوئے مگر ساری دنیا واقف ہے کہ محض غلط ہے مرزا قادیانی کے لئے دونوں کیا ایک کا بھی شق نہیں ہوا اور اگر نہایت محدود عقل والوں کی طرح مرزا قادیانی اور ان کے پیرو واقعی شق القمر کو محال بتائیں اور خدا تعالیٰ کی غیر محدود قدرت کو اپنی محدود عقل کے پابند کر کے جناب رسول اللہ ﷺ کے اس عظیم الشان معجزے سے انکار کریں تو میں اس وقت صرف یہ کہوں گا کہ معمولی چاند کہن یا سورج کہن یا دونوں کا اجتماع ایک مہینے میں معجزہ نہیں ہو سکتا۔

خطبہ الہامیہ مرزا قادیانی کی ایک کتاب ہے جو عربی میں ہے اور موٹے موٹے حروف میں چھپی ہے اور درمیان میں اس کا ترجمہ فارسی اور اردو دونوں میں ہے۔ اس کتاب کے (ص ۲۸۹-۲۸۸ خزائن ج ۱۶ ص ۲۸۸-۲۸۹) میں لکھتے ہیں۔ میں اس کی عربی عبارت اور اردو ترجمہ نقل کرتا ہوں۔

۶..... قول مرزا ”وقد مضى وقت فتح مبین فی زمن نبینا المصطفیٰ و بقى فتح آخر و هو اعظم البر و اظهر من غلبه اولی و قد ران وقته وقت المسيح الموعود من اللہ الرؤف الودود و ارحم الرحمین و الیہ اشار فی قوله تعالیٰ سبحان الذی اسرى بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ“ ترجمہ:..... اور ظاہر ہے کہ فتح مبین کا وقت ہمارے نبی کریم کے زمانہ میں گزر گیا اور دوسری فتح باقی رہی کہ پہلے غلبہ سے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے اور مقدر تھا کہ اس وقت مسیح موعود کا وقت ہو اور اسی کی طرف خدا تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے۔ سبحان الذی اسرى۔

اب نہایت ظاہر ہے کہ جس نبی کے وقت میں جس رسول کے ذریعہ سے جس قدر یہ فتح زیادہ نمایاں ہوگی اسی قدر وہ رسول عالی مرتبہ زیادہ ہوگا۔ وہ زمانہ زیادہ خیر و برکت کا ہوگا اور جس قدر یہ فتح کم نمایاں ہوگی اسی قدر اس کے مرتبہ میں کمی ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ کا ارشاد ہے۔ اب تمام مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے اور قرآن وحدیث اس پر شاہد ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ سید المرسلین ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ رسالت خداوندی کا نتیجہ جس قدر ان کی ذات بابرکات سے اعظم اور اکبر اور نہایت ظاہر ہوا کسی رسول سے نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے تمام رسولوں کے سردار قرار پائے مگر مرزا قادیانی کا بیان تو اسے غلط بتا رہا ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسی عظیم الشان فتح مسیح

موعود کے وقت میں ہوگی یعنی مرزا قادیانی کے وقت میں، اور جو عظیم الشان نتیجہ رسالت کا مرزا قادیانی کے ذریعہ سے ہوگا وہ جناب رسول اللہ کے ذریعہ سے ظاہر نہ ہوا ہوگا۔ اس لئے مرزا قادیانی سید المرسلین ہوئے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نہ ہوئے اور خیر القرون مرزا قادیانی کا زمانہ ہوا، جناب رسول اللہ ﷺ کا زمانہ نہ ہوا، اور مرزا قادیانی کے صحابی اور تابعی جناب رسول اللہ ﷺ کے صحابہ اور تابعین سے افضل ہوئے۔ یہ سب دعویٰ ہو رہے ہیں مگر بیچ کے ساتھ، اس لئے عوام اور نیم ملا نہیں سمجھتے۔ وہ اب تک اسی خیال میں ہیں کہ مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے وہ تابع رسول ہیں یا ظلی، بروزی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض نیم ملاؤں نے عوام کو سمجھا دیا کہ امتی نمی ہیں۔ بھائیو! کچھ تو غور کرو، اور خدا سے ڈرو مرزا قادیانی اعلانیہ نہایت صفائی سے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اپنے کو تمام انبیاء سے افضل بتاتے ہیں۔ مگر اس دعویٰ سے قبل یہ بھی کسی وقت کہہ دیا ہے کہ ایک حیثیت سے امتی ہوں اور ایک حیثیت سے نمی ہوں۔

نتیجہ..... اس میں غور کیا جائے کہ مرزا قادیانی دو فتح مبین بیان کرتے ہیں ایک جناب رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں، اور دوسرا مسیح موعود، یعنی اپنے وقت میں، اب خیال کیا جائے کہ فتح مبین سے کیا مراد ہے۔ چونکہ حضور انور سید المرسلین ہیں اور اسی غرض سے آئے ہیں کہ لشکر شیطان کو شکست دیں اور کفر اور شرک اور بد اعمالی کو مٹائیں۔ اس لئے فتح مبین سے مقصود یہی ہو سکتا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے وقت میں ملک عرب میں جو لشکر شیطانی کا نہایت غلبہ تھا اور کفر اور شرک اور بد اخلاقی کا زور تھا۔ جناب رسول اللہ نے اس لشکر کو زیر کر کے اس پر فتح مبین حاصل کی اور اس ملک سے کفر و شرک اور بد اعمالی کو مٹا دیا اور آپ کے صحابہ کرام اور خدام نے دنیا کے اور لوگوں کو درست کیا، یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنے زمانے کو اور اپنے وقت کی امت کو خیر القرون اور خیر امتی قرنی فرمایا ہے اور اس کے بعد صحابہؓ اور تابعینؓ کے زمانہ کو، مگر مرزا قادیانی اس فتح کو یعنی جو فتح جناب رسول اللہ ﷺ کے وقت میں ہوئی اور صحابہؓ اور تابعینؓ کے وقت میں ہوئی، فتح عظیم نہیں کہتے بلکہ جو فتح مسیح موعود (غلام احمد قادیانی) کے وقت میں ہوئی اور ہوگی وہ فتح اکبر ہے اور اعظم ہے اور اظہر ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ مرزا قادیانی اکبر اور اعظم ہوئے جناب رسول اللہ ﷺ سے، مرزا قادیانی کے صحابی افضل ہوئے، جناب رسول اللہ ﷺ کے صحابہؓ سے، اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ حضور انور کا وہ قول جو ابھی نقل کیا گیا، جسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے غلط ہے۔ نعوذ باللہ منہ

۷.....قول مرزا ”ان الله خلق آدم وجعله سيدا وحاكما و اميرا على كل ذى روح من الانس والجن كما يفهم من آية اسجدوا لآدم ثم ازله الشيطان واخرجه من الجنان. وردة الحكومة الى هذا الثعبان ومن آدم ذلة وخذى فى هذه الحرب والهوان وان الحرب سجال وللثقياء مال عند الرحمن فخلق الله المسيح الموعود ليجعل الهزيمة على الشيطان فى اخر الزمان وكان وعدا مكتوبا فى القرآن.“ (سيرة الابدال کے آخر خطبہ الہامیہ کا حاشیہ در حاشیہ ص ۱۶ ج ۲ ص ۳۱۲) ترجمہ..... ”اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اسے تمام انسانوں اور جنوں کا سردار اور حاکم بنایا۔ پھر ان کو شیطان نے بہکا یا اور جنت سے نکالا اور حضرت آدم کی حکومت شیطان کو ملی اور اس لڑائی میں آدم کو ذلت اور رسوائی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود (مرزا) کو پیدا کیا تاکہ آخری زمانہ میں شیطان کو ہزیمت دے۔ یہ وعدہ خداوندی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔“

نتیجہ..... مرزا قادیانی کے اس بیان سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں مسلمانوں کو انہیں نہایت غور اور عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہئے۔ اول یہ کہ حضرت آدم اور شیطان سے لڑائی ہوئی اور حضرت آدم باوجود نبی بلکہ ابوالانبیاء ہونے کے ناکام رہے اور شیطان کے مقابلہ میں انہیں ذلت ہوئی۔ یہاں تک کہ آپ کی سرداری اور حکومت شیطان کو مل گئی اور یہ اس کے محکوم ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ ﷺ تک تمام انبیاء کرام کے وقت میں اور صحابہ کرام اور تمام اولیائے عظام کے زمانے میں شیطان کو ہزیمت نہیں ہوئی بلکہ تمام انبیاء اور اولیاء کے وقت میں شیطان کی حکومت رہی کسی اولوالعزم نبی نے بھی شیطان پر غلبہ نہیں پایا اور نہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شیطان کے مغلوب کرنے کے لئے پیدا کیا تھا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انبیاء کی بعثت بیکار ہوئی کیونکہ انبیاء کرام اسی لئے آتے ہیں کہ شیطان کو ہزیمت دیں اور مخلوق خدا کو شیطان سے بچائیں۔

تیسرا نہایت عظیم الشان دعویٰ یہ ہے کہ مسیح موعود (مرزا) کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے پیدا کیا کہ آخر زمانے میں شیطان کو ہزیمت دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسیح موعود کا وہ مرتبہ ہے جو کسی ولی کا نہیں ہے کیونکہ دنیا میں رسول اور پیغمبر بھیجنے کی بہت بڑی غرض تو یہ ہے کہ شیطان کو ہزیمت دیں۔ یعنی کفر و شرک اور بد اعمالی کو مٹا دیں مگر یہ کسی نبی سے نہیں ہوا اس غرض کے لئے خاص مرزا غلام احمد بھیجے گئے انہوں نے آ کر اس کام کو کیا۔ بھائیو! کیا کسی مسلمان کا ایمان ان

باتوں کو قبول کر سکتا ہے حاشا وکلا، ان باتوں کا ایک نہایت خبیث نتیجہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ حضرت عیسیٰؑ حضرت محمدؐ رسول اللہ ﷺ سب شیطان سے مغلوب رہے ان تمام انبیاء کرام کے وقت میں شیطان ہی حاکم رہا اور تمام انبیائے کرام محکوم رہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ کے تیرہ سو برس کے بعد چودھویں صدی میں مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد نے شیطان کو مغلوب کیا اور حضور انورؐ کا جو ارشاد تھا کہ زمانوں میں میرا اور میرے صحابہ کا زمانہ عمدہ ہے یہ ارشاد غلط ہے (نعوذ باللہ) بلکہ مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد کا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر ہے کیونکہ شیطان کو ہزیمت اسی وقت ہوئی اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔

بھائیو! کوئی مسلمان اس نتیجہ کو سن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ چوتھی بات مرزا قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ وعدہ الہی ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ قرآن مجید میں وعدے کا نشان بھی نہیں ہے۔

طالبین حق! ان عظیم الشان دعوؤں پر نظر کریں اور پھر اسے دیکھیں کہ کیسے غلط اور محض غلط دعوے ہیں جن کی غلطی کسی ذی علم پر پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ پھر ایسے غلط دعوے کر کے تمام انبیائے کرام پر اپنی فضیلت ہی ثابت نہیں کرتے بلکہ تحت توہین کرتے ہیں۔ اب کوئی قادیانی ہے کہ مرزا قادیانی کے اس دعوے کو قرآن مجید سے ثابت کر کے مرزا قادیانی کو سچا ثابت کرے، یہ ہر گز نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ تمام قادیانی مل کر تمام عمر سرماریں۔ اب میں آخر میں مجبور ہو کر کہوں گا کہ جو حضرات ایسے غلط دعوؤں پر ایمان لا چکے ہیں جن کے قلوب ایسے صریح غلط دعوؤں کے ماننے سے تاریک ہو گئے ہیں ان سے صداقت کی امید نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ اپنی حالت کی وجہ سے معذور خیال کئے جائیں۔

حضرات! یہ ہیں مرزا قادیانی کے دعوے جس سے ہمارے بھائی ناواقف ہیں اور مرزا قادیانی کے قصیدہ نعتیہ دیکھ کر اور وہ عاجزی کے الفاظ ملاحظہ کر کے (جن میں وہ اپنے تئیں خادم رسول اللہ ﷺ اور احمد کا غلام کہہ کر مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں) مرزا قادیانی کے معتقد ہیں اور ان سے حسن ظن کر رہے ہیں۔ وہ وقت قریب تھا کہ جس طرح حضرت عیسیٰؑ کے مقابلہ میں بڑے زور سے کہہ چکے تھے کہ میں ہر شان میں ان سے بڑھ کر ہوں حضرت سرور عالم ﷺ کے مقابلہ میں کہتے ہیں، مگر چونکہ مسلمان ہی ان کے سلسلہ میں داخل ہوئے تھے اس لئے وہ خائف رہے اور صاف طور سے ایسی تعلیٰ نہ کر سکے اور چونکہ عیسائی ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اس لئے

حضرت عیسیٰ کے مقابلہ میں صاف کہہ دیا۔

۸..... مرزا کا الہام ”لولاک لما خلقت الافلاک“

(استفتاء حقیقۃ الوحی ص ۹۹ خزائن، ج ۲۲ ص ۱۰۲۔ تذکرہ ص ۶۱۲ طبع سوم)

نتیجہ..... مرزا قادیانی اپنی مدح میں یہ الہام بیان کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو نہ ہوتا یعنی اللہ مجھے پیدا نہ کرتا تو آسمان وزمین پیدا نہ کرتا۔ تیری ہی وجہ سے تمام عالم کو آراستہ کیا۔

عام طور پر مسلمانوں میں یہ روایت مشہور ہے اور سب یہی جانتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کی شان میں یہ مضمون ہے۔ مگر اب مرزا قادیانی اس مضمون کو اپنا الہام بیان کرنے ہیں اور اپنی فضیلت میں یہ کلام الہی بتاتے ہیں۔ غور کے بعد اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ یہ فضیلت خاص میرے لئے ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے لئے نہیں ہے۔ دو وجہ سے، ایک یہ کہ مرزا قادیانی کا الہام ہے اور مرزا قادیانی اپنے الہام کو ویسا ہی قطعی اور یقینی بتاتے ہیں جیسا قرآن مجید اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے مرزا قادیانی اپنے لئے تو اس فضیلت کو یقینی بتا رہے ہیں اب رہی دوسری جانب یعنی تیرہ سو برس سے تمام مسلمانوں کا یہ اعتقاد کہ یہ فضیلت جناب رسول اللہ ﷺ کے لئے ہے اس کا غلط ہونا مرزا قادیانی کے اور بیانات سے اظہر من الشمس ہوتا ہے کیونکہ اول تو اس روایت کو الفاظ کے لحاظ سے محدثین نے صحیح نہیں کیا۔ اب اگر معنی کے لحاظ سے صحیح بھی ہو تو مرزا قادیانی ازالۃ الاولیاء میں لکھ چکے ہیں کہ حدیث اگر صحیح بھی ہو تو مفید ظن ہوگی۔ ”والظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔“

پھر یہ ظنی ثبوت مرزا قادیانی کے قطعی ثبوت کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ مرزا قادیانی کے وہ اشعار بھی ملاحظہ کیجئے جن میں احادیث نبویہ کی دھجیاں اڑائی ہیں وہ اشعار یہ ہیں۔

۱..... هل النقل شنی بعد ایحاء ربنا فای حدیث بعده نتخیر

۲..... وقد مزق الاخبار کل ممزق فکل بما هو عنده یستبشر

(انجاز احمدی ص ۵۶۔ ۵۷ خزائن، ج ۱۹ ص ۱۶۸)

ترجمہ..... اور خدا کی وحی کے بعد نقل کی کیا حقیقت ہے۔ پس ہم خدا تعالیٰ کی حدیث کے بعد کس حدیث کو مان لیں، اور حدیثیں تو کٹڑے کٹڑے ہو گئیں اور ہر ایک گروہ اپنی حدیثوں سے خوش ہو رہا ہے۔

۳..... اخذنا من الحی الذی لیس مثله وانتم من الموتی رویتم ففکروا

(انجاز احمدی ص ۵۷ خزائن، ج ۱۹ ص ۱۶۹)

ترجمہ..... ہم نے اس سے لیا کہ وہ جی و قیوم اور وحدہ لا شریک ہے اور تم لوگ مردوں سے روایت کرتے ہو۔

۴..... رایناء انتم تذکرون روا انکم، وھل من نقول عند عین تبصر

(اعجاز احمدی ص ۶۹ خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۱)

ترجمہ..... ہم نے دیکھ لیا اور تم اپنے راویوں کا ذکر کرتے ہو اور کیا قصے دیکھنے کے مقابل پر کچھ چیزیں۔

ان اشعار میں مرزا قادیانی اپنی وحی کے مقابل میں حدیثوں کو دو چیزوں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ایک تو رُدی کا غذات سے، یعنی جس طرح رُدی کا غذات پھاڑ کر پھینک دیئے جاتے ہیں۔ اسی طرح میری وحی کے بعد حدیثیں پھاڑ کر پھینک دی گئیں۔ دوسرے تشبیہ قصے کہانی سے دی ہے یعنی جس طرح قصے کہانیاں لائق اعتبار نہیں ہوتیں۔ خصوصاً جب وہ قصے چشم دید واقعات کے خلاف ہوں اسی طرح حدیثوں کو مرزا قادیانی کہتے ہیں (احادیث نبویہ کی بے وقوفی عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہئے) الحاصل اس فضیلت کا ثبوت جناب رسول اللہ ﷺ کے لئے تو حدیث سے ہوتا ہے اور حدیث کا غیر معتبر ہونا پوری طرح سے مرزا قادیانی نے بیان کر دیا اس لئے یہ فضیلت رسول اللہ ﷺ کے لئے ثابت نہیں ہوتی، اور مرزا قادیانی کا الہام بقول ان کے چونکہ قطعی ہے اس لئے یہ فضیلت ان الفاظ کے ساتھ مرزا قادیانی کے لئے قطعی الثبوت ہوئی۔ اب جو حضرات جناب رسول اللہ ﷺ کو افضل المرسلین اور سید الاولین والاخرین مان چکے ہیں وہ ملاحظہ کریں کہ مرزا قادیانی اس عظیم الشان صفت کو اپنے لئے خاص کرتے ہیں۔ ذرا خیال تو کیجئے کہ جب تمام عالم کے لئے علت عائی ظہرے اور ایسے محبوب اور پیارے اللہ کے ہوئے کہ زمین و آسمان اور سید الانس والجان کا وجود بھی انہیں کی وجہ سے ہوا تو ان کی فضیلت کا کیا ٹھکانا ہے؟ اب تو تمام عالم ان کا ظل ظہر اور تمام کمالات انسانی وجود کے تابع ہیں اور جب وجود انسانی مرزا قادیانی کے وجود کا طفیل ہو تو تمام کمالات انسانی بھی مرزا قادیانی کا طفیل ہوئے۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ تمام انبیائے کرام اور اولیائے عظام اپنے کمالات ولایت اور نبوت میں مرزا قادیانی کے ظل ہوئے۔ (معاذ اللہ)

الغرض اس الہام سے مرزا قادیانی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت سرور انبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ اپنے وجود اور اپنے تمام کمالات میں میرے ظل ہیں۔ اصل میں ہوں، مگر سخت حیرت

ہے کہ ان کے پیروان کی باتوں پر ایمان لانے والے ان کے اس الہام کا مطلب نہیں سمجھتے اور مرزا قادیانی کو ظلی نبی کہتے ہیں اگر مرزا قادیانی نے کسی وقت اپنے آپ کو ظلی نبی کہا ہو تو ایسا ہی سمجھ لیں جیسا حضرت مسیح کو پہلے اپنے سے افضل سمجھتے تھے اور پھر ہر شان میں اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھنے لگے۔ البتہ اس قدر فرق ہے کہ عیسائیوں سے انہیں امید نہیں رہی تھی اس لئے اعلانیہ طور سے ان پر اپنی فضیلت کا اظہار کر دیا۔

مسلمانوں سے انہیں امید تھی کہ یہی لوگ ہم پر ایمان لائیں گے اس لئے اعلانیہ فضیلت کا اعلان مصلحت کے خلاف سمجھا البتہ ایسے الہامات ہو رہے تھے جن میں غور کرنے سے فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ شاید بارش کی طرح وحی کا نزول نہیں ہوا تھا اس لئے اصلی مدعا بیان کرنے کی نوبت نہیں آئی اور مستقیم حقیقی کا پیام آپہنچا اور مرزا قادیانی کو بے وقت جانا پڑا۔ افسوس ہے کہ ہمارے بہت برادران اسلام ان باتوں سے غافل ہیں اور انہیں خادم رسول جان رہے ہیں اور ان کی اندرونی حالت سے بے خبر ہیں افسوس۔

اب میں مرزا قادیانی کا ایک الہام اور نقل کرتا ہوں جس سے مرزا قادیانی اپنی بہت ہی عظیم الشان فضیلت تمام انبیاء پر ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ الہام نہایت لائق توجہ ہے۔  
الحکم جلد ۹ نمبر ۷ مورخہ ۲۳ فروری ۱۹۰۵ء کے صفحہ ۱۱ میں تو مرزا قادیانی نے ”الوصیت“ عنوان قائم کر کے مضمون لکھا ہے اور طاعون کے غلبہ اور مخلوق کے تباہ ہونے سے بہت ڈرایا ہے اور اپنی طرف متوجہ کیا ہے پھر صفحہ ۱۲ کے آخر میں موٹی قلم سے لکھا ہے۔

### تازہ الہامات

۱..... حضور کی طبیعت ناساز تھی حالت کشفی میں ایک شیشی دکھائی گئی ہے جس پر لکھا ہوا تھا۔ خاکسار  
پہچہ منٹ (تذکرہ ص ۵۲۷)

کشف میں شیشی نظر آتا اور اس پر پہچہ منٹ لکھا ہوتا مرزا قادیانی کے مخصوص مکاشفات سے ہے ایسے مکاشفات کسی اہل اللہ کو نہیں ہوئے۔ کیا کہنا ہے چودھویں صدی کے مسیح ہیں؟

۲..... اِنَّمَا اَمْرُكَ اِذَا ارَدْتُ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ، كُنْ فَيَكُوْنُ۔ یہ عربی الہام (ہیچہ الوحی ص ۱۰۵ خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸) کی پہلی سطر میں بھی لکھا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ یہ عربی عبارت بہت تھوڑے تغیر سے قرآن شریف کی آیت ہے سورہ یسین کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے بیان میں اس طرح ارشاد ہے۔ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ، كُنْ فَيَكُوْنُ۔ (یسین ۸۲)

یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جب کسی چیز کے ہو جانے کا ارادہ کرے اور اسے کہہ دے کہ ہو جاوہ فوراً ہو جائے گی۔

مرزا قادیانی اپنے الہام میں اسی مضمون کو اپنے لئے بیان کرتے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ مرزا قادیانی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تیری شان یا تیرا مرتبہ یہ ہے کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے اور کہہ دے کہ ہو جاوہ فوراً ہو جائے گی۔

اس کا حاصل یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کی وہ خاص صفت جس سے اس کی کامل قدرت ہر شے پر ظاہر ہوتی ہے اور جو کسی ولی اور کسی عالی مرتبہ نبی کو بھی نہیں دی گئی۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ مجھے دی گئی۔ اس میں دو طرح سے کلام ہے ایک یہ کہ مرزا قادیانی کا یہ الہام بتاتا ہے کہ جو قدرت اور فضیلت و مرتبہ مرزا قادیانی کو دیا گیا وہ کسی نبی اور کسی بزرگ کو نہیں دیا گیا یہاں تک کہ حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی نہیں عنایت ہوا۔ کیونکہ آپ نے کسی وقت اس مرتبہ پر پہنچنے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ قرآن مجید میں صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بیان میں یہ جملہ بیان ہوا۔ یہ وہ عظیم الشان صفت ہے جس کی حد و انتہا نہیں ہے۔ اس کے عطا ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اپنی خدائی مرزا قادیانی کے حوالے کر دی اور اپنا شریک بنالیا اور مرزا قادیانی وہی کام کر سکتے ہیں جو خدا تعالیٰ کر سکتا ہے۔ صرف فرق یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی قادر تھا اور ہے، اور مرزا قادیانی کو خدا نے یہ قدرت دے دی اور اس خاص صفت میں اپنے شریک کر لیا۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ اپنی خدائی میں شریک کر لیا اور مرزا قادیانی کو قادر مطلق کر دیا۔ اس بیان سے اظہر من الشمس ہو گیا کہ مرزا قادیانی کو دعویٰ ہے کہ میں تمام انبیاء سے بہت ہی افضل ہوں۔ حضرت سید المرسلینؐ سے بھی میرا مرتبہ بہت ہی عالی ہے کیونکہ اس الہام نے تو مرزا قادیانی کو خدائی کے درجہ تک پہنچا دیا اور خدا تعالیٰ میں اور مرزا قادیانی میں صرف بالذات اور بالغیر کا فرق رہ گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود بخود بغیر کسی کے بنائے اس صفت کے ساتھ موجود ہے اور مرزا قادیانی کو خدا تعالیٰ نے یہ صفت عنایت کی اس وجہ سے وہ قادر مطلق ہو گئے پھر یہ مرتبہ تو تمام انبیاء کے کرام کے مرتبہ سے بہت ہی عالی ہے۔ اب تو انبیاء میں اور مرزا قادیانی میں گویا عبدیت اور معبودیت کا فرق ہو گیا اس کے نہایت قریب (نعوذ باللہ من هذه الکفریات) دوسرا کلام اس الہام پر ہمارا یہ ہے کہ مرزا قادیانی اور ان کے مریدین حضرت عیسیٰ کے مردے زندہ کرنے کو محض غلط بتاتے ہیں اور اس کے صحیح ماننے کو شرک کہتے ہیں۔ یعنی مردہ کو زندہ کرنا خدا کی صفت ہے بندے میں اس صفت کو ماننا شرک ہے



اگرچہ باذن اللہ زندہ کرے۔ اب میں دریافت کرتا ہوں کہ مردہ کا زندہ کرنا خدا کا ایک فعل ہے اور احیائے موتی اس کی صفت ہے۔ اس ایک صفت کا ظہور باذن خداوندی بھی کسی مقرب بندے سے نہیں ہو سکتا اور جو ایسا اعتقاد کرے کہ اللہ کے کسی مقبول بندے سے باذن خداوندی بطور معجزہ اس صفت کا ظہور ہو سکتا ہے اور کسی وقت ہوا بھی ہے تو مرزا قادیانی اور ان کے مریدین کے نزدیک وہ مشرک ہے۔ اب جو شخص ایسا دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مارنے اور جلانے اور تمام باتوں کا اختیار کلی دے دیا ہے اور جس طرح خدا تعالیٰ کے لئے لفظ ”کُن“ کہنے سے ہر ایک چیز موجود ہو سکتی ہے اور جسے نیست و نابود کرنا چاہے یعنی ہو جاوہ نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے ”کُن“ کہنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب قادیانی جماعت بتائے کہ وہ مدعی اور اس دعوے پر ایمان لانے والے کتنے بڑے مشرک ہوں گے اور کتنا بڑا پہاڑ مشرک کا ان پر ٹوٹے گا۔ غصہ نہ فرمائیں کیا وجہ ہے کہ اس الہام پر ایمان لانے والوں کو ابوالمشرکین نہ کہا جائے۔ انصاف سے مرزا قادیانی کے اس الہام میں غور کر کے اس کا فیصلہ کریں۔ اگر مرزا قادیانی کو سچا جانتے ہیں تو انہیں یہ الزام ضرور ماننا ہوگا۔

حضرات! مرزائی اپنی کم علمی اور ناتجہی سے اس کے جواب میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا کلام پیش کرتے ہیں ان عالی مرتبہ بزرگوں کے کلام سمجھنے کیلئے علم ظاہری کے علاوہ نور باطن ہونا چاہئے۔ جس سے قادیانی جماعت بالکل محروم ہے، حاصل کلام شیخ بیان کرتا ہوں، حضرت شیخ فتوح الغیب میں کسی کتاب سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندے سے فرماتا ہے کہ عالم میں ہر طرح کا تصرف کرنا یعنی ”کُنْ فَيَكُونُ“ خاص میرے لئے ہے۔ اگر تو میری کامل تابعداری کرے گا تو میں تجھے ”کُنْ فَيَكُونُ“ کا مرتبہ عنایت کروں گا جس سے تمام عالم میں تو تصرف کر سکے۔ یہاں حضرت شیخ یہ نہیں فرماتے کہ یہ مرتبہ مجھے یا کسی کو عنایت کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت اس کے فرمانبردار بندوں پر بے انتہا عنایت کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی اگرچہ کسی کتاب الہی اور کسی حدیث نبوی سے ثابت نہیں ہوا کہ انبیائے سابقین میں سے کسی نبی کو یہ مرتبہ دیا گیا۔ نہ کوئی نبی اپنی وحی کا یہ مضمون بیان کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عنایت کیا مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی انتہا نہیں ہے اور اس کی بندہ نوازی اور عنایت کی بھی حد نہیں ہے۔ اس لئے اس کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ اپنے کامل فرمانبردار بندے کو تصرف کا یہ مرتبہ عنایت کرے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور غناء کے بیان میں فرماتا ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن

يُشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ (البقرہ ۱۸۴) مرزا قادیانی نے غالباً حضرت شیخ کا یہ کلام دیکھ کر دعویٰ کر دیا کہ تصرف کا یہ مرتبہ مجھے عنایت کیا گیا۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ مرزا قادیانی کو دعویٰ ہے کہ مجھے وہ فضیلت دی گئی جو کسی ولی نبی کو نہیں دی گئی۔ یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو بھی یہ مرتبہ نہیں دیا گیا۔ طالبین حق کے لئے مرزا قادیانی کے اسی ایک دعوے کا جانچ لینا کافی ہے جس سے ان کی حالت بخوبی معلوم ہو سکتی ہے۔ اول تو یہی ملاحظہ کریں اگر یہ الہام سچا ہوتا تو منکوحہ آسمانی کا تادم مرگ انہیں انتظار نہ کرنا پڑتا اور اس قدر رسوائی نہ ہوتی، صرف لفظ ”کُنْ“ کہہ دینے سے اس کا شوہر مرجاتا، یا طلاق دے دیتا، یا محمدی بیگم خلع کر لیتی اور وہ مرزا قادیانی کے نکاح میں آ جاتی۔ غرضیکہ جب تصرف کا پورا اختیار تھا تو سب کچھ ہو سکتا تھا۔ مگر کچھ نہ ہوا اور آخر عمر تک بہت لوگوں کو انتظار میں رکھا اور خود بھی منتظر رہے جس سے یقینی طور سے ثابت ہوا کہ یہ الہام الہی نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ رسول اللہ ﷺ کا اپنے آپ کو ظل کہنا مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لئے تھا۔ دراصل مرزا قادیانی کا خیال اس کے برعکس تھا اور حضور انور کو خاتم النبیین نہیں مانتے تھے بلکہ اپنے تئیں خاتم النبیین اور سرور انبیاء اعتقاد کرتے تھے۔

حاصل کلام! جس قدر اقوال مرزا قادیانی کے نقل کئے گئے ہیں ان سے یقینی طور سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کو نبوت مستقلہ اور تشریحی نبوت کا دعویٰ تھا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ اپنے آپ کو افضل الانبیاء اور خاتم الخلفاء سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت سید المرسلینؐ سے بھی اپنے آپ کو بہت افضل سمجھتے تھے اور اپنے منکر کو کافر، جہنمی کہتے تھے اور اپنے اوپر ایمان لانے کو مدار نجات ٹھہراتے تھے۔ اب ان کے ماننے والے دو تین فرقے ہو گئے ہیں۔ ایک تو اعلانیہ طور سے انہیں خدا کا رسول مانتے ہیں اور ان کے منکر کو کافر کہتے ہیں اور مرزا قادیانی کی بعثت کا یہی فائدہ بتاتے ہیں کہ ان کے منکر یعنی تقریباً دنیا کے تئیں چالیس کروڑ مسلمان کافر ہو گئے۔

دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم انہیں مجدد اور بزرگ مانتے ہیں اور کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے مگر یہ کسی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا اور کوئی صاحب عقل اس کو باور نہیں کر سکتا کہ مرزا قادیانی کو اپنے دعوؤں میں صادق مان کر اور ان کے اقوال پر ایمان لا کر کوئی ذی فہم یہ کہہ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کو نبوت کا دعویٰ نہ تھا اور ان کا منکر کافر نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کے نہایت صاف و صریح اقوال پیش کر دیئے گئے، اور ایک قول نہیں۔ صحیفہ کے نمبر ۶ میں چند اقوال پیش کئے گئے ہیں جن سے ان کا دعویٰ نبوت اور اپنے منکر کو کافر کہنا آفتاب کی طرح روشن ہو رہا ہے اور اس دعوے کو تین

طریقوں سے ثابت کیا ہے۔ اس نمبر میں بھی یہ دونوں دعوے ان کے اقوال سے ثابت کئے ہیں اور دعویٰ نبوت کو دو طریقوں سے ثابت کیا ہے۔ اس نمبر میں مرزا قادیانی کے وہ اقوال نہایت قابل لحاظ ہیں جن میں انہوں نے تمام انبیاء پر صراحۃً اور جناب رسول اللہ ﷺ پر ضمناً اپنی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ سید محمد جوہوری مدعی مہدویت نے دعویٰ نبوت کے ساتھ انبیائے سابقین پر فضیلت کا دعویٰ کیا تھا مگر جناب رسول اللہ ﷺ پر اسے اپنی فضیلت جتانے کی ہمت نہ ہوئی صرف برابری کا دعویٰ کر کے رہ گیا۔

مرزا قادیانی اس سے زیادہ بلند حوصلہ تھے۔ اس لئے اس سے ترقی کر گئے اور جناب سید المرسلین ﷺ پر بھی فضیلت کا اظہار کیا، مگر صاف طور سے اس دعوے کے لئے مصلحت مانع رہی۔ مگر جو اقوال اوپر نقل کئے گئے ہیں ان سے بخوبی ظاہر ہے کہ انہیں دعویٰ الفضیلت ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ماننے والے انہیں افضل الانبیاء نہ سمجھیں اور ان کی نبوت کی اشاعت نہ کریں۔ البتہ ان کی دانشمندی کا یہ تقاضا معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ہماری وقعت دنیا کے تمام مسلمانوں کے دل میں نہ ہو اور ہمیں وہ چادین محمدی کا خیر خواہ پورے طور سے نہ سمجھ لیں اس وقت تک مرزا قادیانی کا نام نہ لو جب تمام مسلمان یا اکثر کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی اس وقت ہم دین قادیانی کا اعلان کریں گے اور جناب مرزا قادیانی کی نبوت پر زور دیں گے۔ اس وقت اس پر زور دینا اور سب کو کافر کہہ دینا تمام مسلمانوں کو برہم کر دینا ہے۔ یہی مصلحت انہیں دلی مشاء ظاہر کرنے کے مانع ہوئی ہے اور ”دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز“ پر عمل کر رہے ہیں۔

ملاحظہ کیجئے کہ دہلی کی انجمن نے دو لائق اہل سنت کو خواجہ کمال الدین مرزائی کی مدد کیلئے بھیجنا چاہا تھا مگر انہوں نے منظور نہ کیا اور حیلہ کر کے ٹال دیا اپنے ہی گروہ کے شخص کو چاہتے ہیں۔ سمجھنے والے اس سے سمجھ لیں اور اگر سچائی سے مرزا قادیانی کی نبوت سے انہیں انکار ہے اور دنیا کے مسلمانوں کو وہ مسلمان جانتے ہیں، تو ہم ان کے خیر مقدم کے لئے ہر طرح حاضر ہیں۔ مگر مرزا قادیانی کے ان اقوال کو غلط کہہ دیں جو اوپر نقل کئے گئے ہیں۔ ہذا بلاغ لجمع المسلمین..... وما علينا الا البلاغ المبين

البلغ  
ابو احمد رحمانی

## ضمیمہ صحیفہ رحمانیہ (۷)

### حقانی ہائی کورٹ کا فیصلہ

تمام برادران اسلام سے عموماً اور جدید تعلیم یافتوں سے خصوصاً کچھ کہنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری گزارش کو توجہ سے سنیں گے اور یقین کریں گے کہ ایک درد مند اسلام کی یہ صدا ہے اور مسلمانوں کے خیر خواہ کے شکستہ دل سے نکلی ہے۔ جنہوں نے مسلمانوں کی گزشتہ اور موجودہ حالت پر پوری قابلیت اور فہم و فراست سے نظر کی ہے۔ وہ جانتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہر طبقہ میں ہر قسم کے مسلمان تھے اور ہیں۔ بعض کم علم، کم فہم، بعض علامہ وقت، نہایت عالی فہم، بعض مشائخ وقت اور اسرار شریعت کے جاننے والے، بعض باوجود علم کے اس کوچہ سے بالکل ناواقف، بعض درد مند ان اسلام اور شریعت الہیہ محمدیہ کے پورے پابند اور اس کے جانثار، بعض صرف زبانی اسلام کے مدعی اور پابندی احکام سے بے نصیب، مگر اہل کمال تاریخی حالات سے پوری اس کی شہادت دے سکتے ہیں کہ گزشتہ زمانہ میں جس قدر اہل فضل و کمال اور سچے درد مند اسلام ہوتے رہے ہیں اور کامل پابندی شریعت کیساتھ درد مندی کا اظہار ان سے ہوتا رہا ہے۔ اب وہ حالت نہیں ہے۔ اب بہت کم ایسے حضرات نظر آتے ہیں جنہیں علم و فضل اور تقویٰ کے ساتھ درد مندی اسلام اور مصالح وقت پر ان کی پوری نظر ہو۔ اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ اسلامی مصالح سے پورے طور سے وہی واقف ہو سکتا ہے جس کو علوم دینیہ اور پابندی شریعت کے علاوہ نور فراست اور کمال دانشمندی اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے اور اس نے اپنی عمر کا ایک حصہ اسی غور و فکر میں صرف کیا ہے۔ اب عقل و انصاف پورے طور سے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو حضرات پورے طور سے علوم دینیہ سے واقف نہیں ہیں اور نیز اسلام کی محبت نے ان کے

کامل بیرونی پر انہیں مجبور نہیں کیا ہے۔ وہ اپنے خیال کے بموجب کیسے ہی دردمند اسلام ہوں اور مصالح وقت پر ان کی نظر ہو مگر ان کی کچی خیر خواہی کا مقتضایہ ہونا چاہئے کہ ایسے عالم دیندار کے مقابل اپنی رائے کو فوقیت نہ دیں، جس کی حالت ابھی بیان کی گئی البتہ انہیں ضروری ہے کہ محبت اسلامی کی وجہ سے اپنی رائے ایسے متبرک عالم کے رو برو پیش کریں۔ اگر ان کی رائے عمدہ ہے اور اس عالی فہم ذی علم نے کسی جزئی ناواقف سے غلط رائے قائم کی ہے تو وہ ضرور اپنی رائے سے رجوع کرے گا اور نہایت مسرت سے اس دردمند اسلام کی رائے کو قبول کرے گا۔

اس قبول کرنے میں بھی کسی صاحب کو تاثر نہیں ہو سکتا کہ جس طرح عام طور سے جدید تعلیم یافتہ حضرات کو بے دین اور محض ناواقف سمجھ لینا غلط ہے۔ اسی طرح تمام علمائے دیندار سے بدگمانی کرنا اور انہیں مصالح وقت سے ناواقف خیال کر کے اپنے علم کو ترجیح دینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور کرنا چاہئے کہ جن حضرات کو علوم دینیہ سے پوری واقفیت نہیں ہے شریعت کی پابندی سے انہیں دلچسپی نہیں ہے پھر وہ اسرار شریعت اور مصالح شرعی سے کیونکر واقف ہو سکتے ہیں؟ ہاں اگر اپنی محض ناواقف سے اپنے آپ کو واقف سمجھیں اور زمانے کا اثر ان کے قلب میں خود بنی کا تخم بودے تو ہو سکتا ہے۔ مگر درحقیقت اس فیصلہ کے لئے علم دین کے علاوہ کمال دانشمندی اور بے نفسی اور انصاف کن طبیعت کی حاجت ہے تاکہ دونوں گروہ کے افراد کی حالت۔ نس سچا فیصلہ کر سکے۔ میں نہایت ہمدردی سے ان سے سچی بات کہہ رہا ہوں۔

اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ گزشتہ زمانہ میں جس طرح کالمین اور سچے مجدد وقت گزرے ہیں اسی طرح جھوٹے مجدد اور مدعی نبوت بھی گزرے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور دیگر خلفاءؓ اور حضرت جنید و شبلی علیہما الرحمہ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اور حضرت خولہ معین الدین چشتیؒ اور حضرت مجدد الف ثانیؒ بھی گزرے اور ان کے ماننے والے اور ان پر کفر کا فتویٰ دینے والے بھی گزرے ہیں۔ اسی طرح صالح اور ابوعیسیٰ اور مسیلہ کذاب وغیرہم متقدمین ہیں اور سید محمد جوہنوری اور علی محمد بابی وغیرہ متاخرین ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے اور ان پر کفر کا فتویٰ لگانے والے بھی گزرے ہیں۔ اسی طرح اب بھی صلحائے کالمین اور کسی مرتبہ کے مجدد گزر رہے ہیں اور متعدد مہدویت اور عیسویت اور امام وقت اور مجدد ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر چکے ہیں اور بعض کر رہے ہیں۔ مثلاً مرزا غلام احمد قادیانی گزر چکے اور ان کے ماننے والے اور ان کے انکار کرنے والے موجود ہیں اور عبدالبہاء مدعی نبوت و مہدویت اور بعض دیگر مجددین موجود ہیں اور ہر

ایک کے کچھ نہ کچھ ماننے والے اور بعض کفر کا فتویٰ دینے والے بھی موجود ہیں۔ اب تعلیم یافتہ حضرات انصاف سے فرمائیں کہ وہ ان سب کو یکساں سمجھیں گے اور مسئلہ اور صالح بن طریف پر کفر کا فتویٰ دینے والے ویسا ہی خیال کریں گے جیسا حضرت صدیق اور حضرت شیخ عبدالقادر کے منکر اور کفر کے فتویٰ دینے والے کو، ذرا اپنے نور ایمانی سے ملاحظہ کر کے اس کا جواب دیں۔ کیا ہر ایک جھوٹے مدعی کے ماننے والے صادقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارا انکار اور کفر کا فتویٰ ایسا ہی ہے جیسا حضرت صدیق اکبر اور حضرت محبوب سبحانی کا انکار اور کفر کا فتویٰ ہے۔ ضرور کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کہنا ان کا لائق توجہ ہو سکتا ہے اور یہ دونوں انکار اور کفر کے فتویٰ یکساں ہو سکتے ہیں؟ ذرا سوچ کر جواب دیا جائے۔

الغرض یہ مختصر بیان ہر ایک منصف کے نزدیک اس قدر فیصلہ ضرور کرتا ہے کہ ایک مدعی کاذب، بزرگان سلف پر کفر کا فتویٰ پیش کرے کہ اپنے آپ کو بزرگان سلف کے مثل قرار نہیں دے سکتا اور اپنے کفر کے فتویٰ کو ویسا ہی غلط نہیں کہہ سکتا جیسا بزرگان سلف پر کفر کے فتویٰ کو اہل حق کہتے ہیں۔ اب شخصی فتویٰ کے حق و باطل کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر ایک اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ بعض فتویٰ دینے والے حالات سے ناواقف اور کم عقل ہوتے ہیں اور سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اگرچہ وہ اپنے خیال میں اپنے آپ کو کم علم نہ سمجھتے ہوں اور دینداری کا خیال بھی انہیں ہو۔ بعض تعصب اور نفسانی غرض سے ایسا کرتے ہیں اور حق و باطل سے انہیں غرض نہیں ہوتی۔ اس لئے ضرور ہے کہ فتویٰ دینے والا۔ علوم دینیہ میں کامل مہارت رکھنے والا۔ دیندار، بالخصوص، حق پسند جس پر فتویٰ دے اس کی حالت سے پورا واقف ہو۔ اب اگر اس کے فتویٰ کی بنیاد صریح قول شارع علیہ السلام کا ہے تو اس کا اتباع ہر مسلمان پر واجب ہے اور اگر کمال علمی اور دیانت سے اس کا استنباط ہے تو جو حضرات علم اور فضل وغیرہ صفات کمالیہ دینیہ میں اس عالم دیندار کے مرتبہ کو نہیں پہنچے۔ انہیں بہ مقتضائے نص قرآنی والْبَیْعِ مَسْبُورٌ مِنَ الْاَثَابِ اِلٰی (القمان ۱۵)

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کامل طور سے میری طرف متوجہ ہوئے ہیں، ان کی پیروی کر“ اس کے قول کا اتباع چاہئے اور ان کی راستی اور محبت اسلامی کا یہ تقاضا کسی طرح نہ ہونا چاہئے کہ ایسے عالم دیندار پر بدگمانی کریں۔ وما علینا الا البلاغ

خاکسار خیر خواہ اسلام و مسلمین  
ابو احمد رحمانی

## مسئلہ کذاب

مسئلہ کذاب کی حالت پر خوب غور کرنا چاہئے، اس نے بالکل ابتدائے اسلام میں نبوت کا دعویٰ کیا اور جناب رسول اللہ ﷺ کی نبوت کو مان کر مدعی نبوت تھا۔ حضور انور مکی رسالت سے اسے انکار نہ تھا اور یہ وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور گویا تمام دنیا اسلام کے مخالف تھی۔ با ایں ہمہ ایسے نازک وقت میں جب بھی جناب رسول اللہ ﷺ نے اور آپ کے بعد آپ کے خلیفہ ارشد حضرت صدیق اکبرؓ نے اس کاذب سے کسی قسم کی پالیسی نہیں برتی اور صاف طریقے سے اس سے مقابلہ اسی طرح کیا جس طرح اس وقت انہوں نے مناسب خیال کیا اور بالآخر انہیں فتح ہوئی۔ اب جس وقت میں مسلمانوں کی تعداد چالیس کروڑ کے قریب بیان کی جاتی ہے اس وقت اگر کوئی سچا مسلمان اپنے بھائیوں کی کثرت پر نظر کر کے رسول اللہ ﷺ اور ان کے خلیفہ اول کی پیروی کرے اور کسی مدعی کاذب کے فتنہ کو مٹائے اور دین حقانی کی حفاظت اس وقت مناسب کرے۔ اسے اہل حق اسلام کے سچے شیدائی کیا کہیں گے۔ آیا وہ اسلام کا سچا خیر خواہ اور جناب رسول اللہ ﷺ اور حضرت صدیق اکبرؓ کا پورا پیرو ہے یا جھگڑا مولوی اور مسلمانوں کو کافر کہنے والا؟

ذرا حق پسندی اور مسئلہ کے قصہ میں غور کر کے اس کا جواب دیا جائے کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ایسے ذی علم کو جناب رسول اللہ ﷺ اور حضرت صدیق اکبرؓ کا پیرو نہ کہا جائے؟



## ضروری اعلان

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع ہونے والا ﴿ماہنامہ لولاک﴾ جو قادیانیت کے خلاف گرانقدر جدید معلومات پر مکمل دستاویزی ثبوت ہر ماہ مہیا کرتا ہے۔ صفحات 64، کمپوٹر کتابت، عمدہ کاغذ و طباعت اور رنگین ٹائٹل، ان تمام تر خوبیوں کے باوجود زر سالانہ فقط یک صد روپیہ منی آرڈر بھیج کر گھر بیٹھے مطالعہ فرمائیے۔

رابطہ کے لئے

ناظم دفتر ماہنامہ لولاک ملتان

---

دفتر مرکزی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت

حضور باغ روڈ ملتان



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَجْلَدُ التَّحْقِيقِ فِي سِيَرَةِ النَّبِيِّينَ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ

# عبرت خیز صحیفہ رحمانیہ

(۹/۸)

حضرت مولانا ابو احمد سید محمد علی مونگیر وی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## عبرت خیز

جس میں خدا تعالیٰ کی عبرت خیز قدرت کا یہ نمونہ دکھایا گیا ہے کہ بعض نہایت مفسد اور غلط کو گمراہ کر نوا لے دنیا میں بہت کچھ کامیاب ہوئے اور بعض انبیاء اور برگزیدہ خدا اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے شہید کر دیئے گئے اور بعض پر نہایت مصیبتیں آئیں، مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنی تھوڑی کامیابی کو اپنی صداقت کی دلیل قرار دیتے تھے اُس کا غلط ہونا نہایت روشن ہو گیا اور یہ بیان اُن کے جمعوں نے ہونیکلی ایک دلیل تھی یہ رسالہ حضرت اقدس مولانا سید ابوالاحمد رحمانی کے اقادات کاملہ سے ہے۔ جن کی ذات سے صدی کے شروع میں قدیم مسیحیوں کے جواب میں لا جواب رسالہ پیغام محمدی و دفع التلبیسات وغیرہ مشتہر ہوئے اور اس وقت جدید مسیحیوں (قادیانیوں) کے فریب سے بچانے کیلئے نہایت نادر الوجود رسائل تحریر فرما کر لاکھوں مسلمانوں کو گمراہی سے بچایا اور اُن کے ایمان کو محفوظ رکھا۔



## آثار قیامت کے نمونے

حضور سرور عالم ﷺ کا ارشاد ہے کہ قیامت اشراۃ الناس پر قائم ہوگی جس کا ظہور اس زمانہ میں بخوبی ہو رہا ہے اہل نظر عبرت کی نگاہ سے واقعات حال پر نظر ڈالیں کہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ اور احادیث صحیحہ نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ حضرت خاتم المرسلینؐ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جس سے معلوم ہوا کہ تشریحی اور غیر تشریحی غلطی اور بردہ کی ہر ایک قسم کی نبوت کا ہمیشہ کے واسطے خاتمہ ہو گیا اور حضورؐ کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنی تمام مخلوق پر قیامت تک کیلئے رسالت و نبوت کو بند کر دیا مگر افسوس کہ باوجود اس زبردست دلیل اور قطعی فیصلہ کے کتنے مدعیان نبوت زمانہ گذشتہ اور موجودہ میں ہوئے اور ہو رہے ہیں زمانہ حال میں پنجاب میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت اور مسیحیت وغیرہ کے دعوے کئے اور ہزار ہا بندگان خدا کو گمراہ کر دیا یہ بھی منجملہ آثار قیامت کے ایک بڑا نمونہ ہے اب اُنکے پیرو سادہ لوح مسلمانوں کو ہر طرح کی شرمناک ترغیب و تحریص دیکر گمراہ کر نیکی کو شش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی نبوت و مسیحیت پر ایمان لانے میں ترقی کا راز مضمر ہے حالانکہ اُن کی ذات سے کسی قسم کا فائدہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نہیں ہوا بلکہ دنیا کو انھوں نے کفر سے بھر دیا بھائیو انھیں ایمان سوز اور گمراہ کن مرزائی تعلیمات اور خیالات کے رد میں خانقاہ رحمانیہ سے محض جتن لگا دیا ایک سلسلہ رسائل عرصہ سے جاری کیا گیا ہے تاکہ واقف مسلمان مرزائیوں کی قید سے محفوظ رہیں یہ رسالہ بھی انھیں مقاصد اور اغراض کی تکمیل کے واسطے شائع کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مسلمان بھائیوں کو نفع بخشے اور زمانہ حال کی ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

خیر خواہ مسلمین محمد احق غفر اللہ لہ رزاق

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اُس خدائے حکیم کی تعریف سے ہماری زبان تر اور دل سرور ہونا چاہئے، جس کی حکمت بالغہ کی انتہا نہیں ہے جس نے اپنے کرم سے ہماری ہدایت کیلئے انبیاء بھیجے جن کے سردار حضرت محمدؐ ہیں۔ جن کا ایک خطاب رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ ہے اور دوسرا خطاب خَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ یعنی تمام انبیاء کے آخر میں آنے والے، اس خطاب سے مقصد یہ ہے کہ اصل مقصود آپؐ ہی کا بھیجنا تھا مگر اور تمام انبیاء بطور مقدمہ لکھیں بھیجے گئے تھے تاکہ عالم کو آراستہ کریں اور اس لائق کر دیں کہ آپؐ کی شریعت کاملہ کے تحمل ہو سکیں، آپؐ کے بعد کسی نبی کی حاجت نہ رہے، جس طرح آفتاب نکلنے کے بعد تاروں کی حاجت نہیں رہتی خدائے تعالیٰ نے جو کتاب آپؐ کو عنایت کی جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں وہ قیامت تک عالم کی ہدایت کے لئے کافی ہے دنیا کے ہر حصہ کا ہر شخص بے تکلف اُسے سمجھ کر اُس پر عمل کر کے نجات کا مستحق ہو سکتا ہے، اُس کے معافی اور مطالب نہایت ظاہر ہیں، مگر یہ عجب قدرت خدا ہے کہ باوجود ظہور کے اُس کے مطالب دقیقہ تک پہنچنا اور کامل طور سے اُس کے اسرار غامضہ کا سمجھنا انسانی قدرت سے باہر ہے یہاں یہ شعر مناسب حاصل ہے۔

لما تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے

دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں

یہی وجہ ہے کہ ہر ایک ذی علم اپنے علم و فہم اور کوشش کے مطابق سمجھتا ہے اور اگر علم و فہم کے ساتھ نور قلب بھی اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے تو اُس پر سچے اور واقعی اسرار کھولے جاتے ہیں اور جس قدر یہ نور خدا داد زیادہ عنایت ہوتا ہے اُسی قدر اُس پر زیادہ انکشاف ہوتا ہے اور قرآن مجید کے معانی اور اسرار اُس پر زیادہ کھلتے ہیں اور علم و فہم اگرچہ بہت کچھ ہو مگر اللہ تعالیٰ نے وہ نور قلب عنایت نہیں کیا جس کی نسبت کہا جائے کہ ”ینظر بنور اللہ“ تو اب دو حالتیں ہوں گی یا تو

معمولی ضروری باتیں سمجھے گا اور بیان کرے گا یا اُس کا علم اس کا مصداق ہوگا۔ اے روشنی طبع تو برسن بلاشدی، اللہ اُس سے بچائے اللہ تعالیٰ اُن کا طینِ علما پر بے انتہا رحمت نازل کرے جنہوں نے اپنی ہمت اور کوشش کو قرآن مجید کے سمجھنے میں صرف کیا اور بقدران کی نور ایمانی کے معانی قرآن اور اُس کے حقائق اُن پر منکشف ہوئے اور ہم تک ان کے انکشافات پہنچے مگر یہ بھی معلوم کر لینا ضرور ہے کہ بعض نے قرآن دانی کا بہت کچھ دعویٰ کیا اور مسلمانوں پر اس بات کے ظاہر کرنے کی بڑی کوشش کی کہ ہم قرآن مجید کے معارف و حقائق سے اس قدر واقف ہیں کہ دوسرا نہیں، مگر میں نہایت سچائی اور مسلمانوں کی خیر خواہی سے کہتا ہوں کہ اُن کی تفسیر یا تو بالکل یہودیانہ تحریف معنوی ہے قرآن مجید کا وہ مطلب ہرگز نہیں ہے یا وہ تفسیر خوش کن باتیں ہیں جسے قرآن مجید کے الفاظ سے کچھ تعلق نہیں ہے، اتفاقاً کہیں صحیح تفسیر بھی ہو مرزا غلام احمد قادیانی کی قرآن دانی کا یہی حال ہے اب میں نمونہ کے طور پر قرآن مجید کے ایسے مضمون کا ذکر کرتا ہوں جس سے اُس کا اشکال اور خدا تعالیٰ کی بے نیازی دونوں ظاہر ہوں گی مرزا قادیانی نے چونکہ صادق اور کاذب کا معیار دنیاوی کامیابی اور ناکامی کو ٹھہرایا ہے اور قرآن شریف سے اسے ثابت بتایا ہے اس لئے میں اسی مضمون کی بعض آیتیں پیش کرتا ہوں ذرا خوب متوجہ ہو کر اور دل کو طرف داری اور تعصب کے گرد و غبار سے صاف کر کے ملاحظہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی سورہ کے پہلے ہی رکوع میں ایمانداروں کو بشارت دی اور فرمایا ”وَأُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ (البقرہ ۵) یعنی یہی لوگ اپنے پروردگار کے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے اور مراد کو پہنچنے والے ہیں جو حضرات عربیت سے واقف ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایمانداروں کو فلاح کی بشارت ہی نہیں دی گئی بلکہ اس بشارت کو اُن کے ساتھ مخصوص کر دیا یعنی ایماندار ہی کامیاب ہوں گے اور جو نعمت ایمان سے محروم ہے وہ فلاح سے بھی محروم ہے اس مطلب کو قرآن مجید میں متعدد جگہ مختلف طور سے بیان فرمایا ہے کہیں ”هُمُ الْمُفْلِحُونَ“ فرمایا ہے کہیں ”هُمُ الْفَائِزُونَ“ ارشاد ہوا ہے جس سے یقینی طور سے ثابت ہوتا ہے کہ فلاح پانا اور فائز المرام ہونا مسلمانوں ہی سے مخصوص ہے کوئی منکر کوئی کافر فلاح نہیں پاسکتا اس مدعا کو دوسرے مقام پر نہایت صفائی سے فرمایا ہے مثلاً سورہ مومنوں ۷۰ کے آخر میں ارشاد ہوا ”إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ“ یعنی اس میں شبہ نہیں ہے کہ کافر فلاح نہیں پاتے یہ مدعا متعدد آیات سے ثابت ہے یہ آیتیں نہایت صفائی سے بتاتی ہیں کہ کافر یہودی ہو یا عیسائی، مشرک ہندو ہو یا آریہ

کسی قسم کا ہو سب کے لئے ارشاد خداوندی یہی ہے کہ وہ فلاح نہ پائیں گے اور فائز المرام نہ ہوں گے اب فلاح نہ پانے اور نقصان میں رہنے کو کسی خاص کافر سے مخصوص کرنا مثلاً یہ کہنا کہ وہ مفتری فلاح نہیں پائے گا جو الہام وحی (جیسا کہ مرزا قادیانی اور ان کے پیرو کہتے ہیں) کا جھوٹا دعویٰ کرے قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے کیونکہ قرآن میں نہایت صفائی سے مکرر ارشاد ہے کہ کوئی کافر کوئی مفتری فلاح نہیں پائے گا آیت مذکورہ کے علاوہ ذیل کی آیت ملاحظہ کی جائے اس میں وہی حکم دوسرے الفاظ میں انہیں عام مکرین کے لئے بیان ہوا ہے ارشاد ہے "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ" (انعام ۲۱)

اُس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے یا اُس کی آیتوں کو جھٹلائے اس میں شبہ نہیں کہ ظالم (نافرمان) فلاح نہیں پائیں گے اس آیت سے پہلے مشرکین اور اہل کتاب کا ذکر ہے یہاں انہیں کی مذمت میں ارشاد ہوا کہ مفتری علی اللہ اور کذاب سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے یعنی مذکورہ دونوں گروہ مفتری بھی ہیں اور کذاب بھی ہیں پھر ان سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے مفتری اس لئے ہیں کہ بعض محض غلط باتوں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں مثلاً فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں یا حضرت مسیحؑ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں یا محرف شدہ باتوں کو کتاب الہی کا حکم بتاتے ہیں۔

الفرض اس آیت میں دو شخصوں کو بہت بڑا ظالم کہا ہے ایک وہ جو خدا پر افتراء کرے دوسرا وہ جو خدائی آیتوں کو اُس کی نشانیں کو جھٹلائے اور انکار کرے اس کے بعد عام ظالموں کے لئے باتا کید یہ ارشاد ہے کہ کوئی فلاح نہیں پائے گا سب نامراد رہیں گے اور جب ہر ایک ظالم کے لئے یہی حکم ہے تو دنیا میں مسلمانوں کے سوا جس قدر فرقے خدا کے ماننے والے ہیں مثلاً یہود نصاریٰ مشرک بت پرست آریہ اور جو سرے سے خدا ہی کو نہیں مانتے جیسے اس وقت کے دہریہ سب کے لئے اس آیت میں یہی ارشاد ہے کہ فلاح نہیں پائیں گے نامراد رہیں گے غرضیکہ آیت میں مفتری علی اللہ کی خصوصیت ہرگز نہیں ہے فلاح نہ پانے میں مفتری اور دوسرے کذاب کلام الہی اور معجزات محمدیؐ دونوں برابر ہیں اب جو کوئی اس حکم خداوندی کو مفتری کے ساتھ خاص کرے اور مفتری کے معنی بھی ایسے کرے جس سے مشرکین اور اہل کتاب خارج ہو جائیں وہ قرآن شریف کی صریح مخالفت کرتا ہے ایک اور آیت ملاحظہ ہو ارشاد ہے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ط (یونس۔ ۷۱)

کہ اُس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے خدا پر جھوٹ، بہتان باندھا یا اُس کی آیتوں کو جھٹلایا اس میں شک نہیں کہ ایسے گنہگار فلاح نہیں پائیں گے

ان دونوں آیتوں میں دو طرح سے عموم کو بیان کیا گیا ہے پہلے تو یہ ارشاد ہوا کہ مفتری اور کذاب سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے ان دو لفظوں میں سب کا فرآ گئے خواہ وہ یہود و نصاریٰ ہوں یا کوئی مفتری ہو فلاح نہیں پائیں گے پھر ان سب کو مجرموں میں داخل کیا جو بہت عام لفظ ہے ہر گنہگار کو مجرم کہتے ہیں اس عموم کے ساتھ ارشاد ہوا کہ کوئی مجرم فلاح نہیں پائے گا اس پر بھی نظر کی جائے کہ یہاں تین آیتیں نقل کی گئیں تینوں میں تین طریقوں سے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے پہلی آیت میں ارشاد ہوا کہ کوئی کافر فلاح نہیں پائے گا یہاں تو مفتری کا لفظ ہی نہیں لایا گیا 'عام منکرین خدا اور رسول کے لئے عدم فلاح کا حکم سنایا گیا دوسری اور تیسری آیت میں مفتری کے ذکر کے ساتھ دوسرے عنوان سے عموم کو بیان فرمایا مختلف طریقوں سے اس حکم کے بیان کرنے میں ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ فلاح نہ پانے کی تین وجہیں معلوم ہوئیں۔

اول! یہ کہ اپنے پروردگار اور اپنے منعم حقیقی کے منکر ہیں۔  
دوم! یہ کہ ظالم ہیں۔

سوم! یہ کہ مجرم ہیں اپنے پروردگار حقیقی کا انھوں نے جرم کیا ہے ان دو آیتوں کے طرز بیان سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ہر ایک ظالم اور ہر ایک مجرم اس کا مستحق ہے کہ فلاح نہ پائے اور اپنی مراد کو نہ پہنچے جب ہر ایک ظالم اور مجرم اس کا مستحق ہے تو جو شخص بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا مجرم ہے وہ اس سزا کا بہت زیادہ مستحق ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں دو گروہ کو بہت بڑا ظالم فرمایا ہے ایک مفتری علی اللہ کو دوسرے اللہ تعالیٰ کے نشانوں کے کذاب کو ان دونوں گروہوں میں کوئی تفرقہ نہیں فرمایا دونوں کو بہت بڑا ظالم ٹھہرا کر یہ وعید بیان فرمائی کہ فلاح نہیں پائیں گے نامراد اور ہیں گے۔

الحاصل آیات قرآنیہ اور نصوص قطعیہ سے ثابت ہوا کہ ایمان لانے والے اور نیک کام کرنے والے فلاح پائیں گے اور کامیاب ہوں گے اور جو کافر ہیں یعنی خدا کے کسی رسول کے منکر ہیں اور خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے یا خدا پر افتراء کرتے ہیں وہ نامراد اور ناکام رہیں گے انہیں فلاح ہرگز نہ ہوگی اب جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم کے ساتھ علم کی نعمت دی ہے اور تحقیق حق اُن کا شیوہ ہے وہ اس پر غور کریں کہ فلاح پانے اور فائز المرام ہونے سے کیا مقصد ہے؟ آیا دنیاوی

مقاصد کا پورا ہونا مثلاً قورمہ پلاؤ کھانے کو اور مٹک وزعفران استعمال کرنے کو بخوبی ملنے لگے کسی نہ کسی عنوان سے روپیہ ہاتھ میں آنے لگے یا جائیداد اور ملک ہاتھ آ جائے یا کہیں کا حاکم یا بادشاہ ہو جائے یا اولاد اور معتقدین زیادہ ہو جائیں کیا قرآن شریف میں ایسے شخص کو فلاح پانے والا اور فائز المرام کہا ہے؟ ہرگز نہیں اور فلاح نہ پانے اور کامیاب نہ ہونے سے یہ غرض ہے کہ دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہوں گے ہر طرح کی تنگی اُن پر آئے گی یا ذلت سے تباہ و برباد کئے جائیں گے یہ مطلب عوام خیال کر سکتے ہیں مگر جنہیں قرآن مجید پر نظر ہے اور عقل و دانش کے ساتھ دنیا کے حالات پر اُن کی نظر وسیع ہے اور نیکیوں اور بدوں کے واقعات کو انہوں نے عبرت کی نگاہ سے دیکھا ہے وہ یقین کرتے ہیں کہ ان آیتوں میں فائز المرام ہونے سے دنیا کی کامیابی مراد نہیں ہے یعنی جسے دنیا کے لوگ دنیاوی چیزوں کے فریفتہ نفس پرست کامیابی سمجھتے ہیں ان آیتوں میں یہ کامیابی مراد نہیں ہے اور دنیا کی مذمت جو قرآن و حدیث میں آئی ہے وہ بھی اس کی شاہد ہے کہ ایماندار کے فائز المرام ہونے سے دنیا کا مل جانا اور اُس میں خوش ہو جانا مراد نہیں ہو سکتا اب اس کے شواہد اور دلائل پر نظر کی جائے اس کا ثبوت قرآن مجید کے نصوص صریحہ اور واقعات زمانہ سے اظہر من الشمس ہو رہا ہے پہلے قرآن مجید کی آیت ملاحظہ کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے فرعون نے جس وقت جادوگروں اور اپنے درباریوں اور رعایا کا مجمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے اس وقت حضرت موسیٰ نے فرعون سے اور تمام حاضرین جلسہ سے فرمایا۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيَلَكُمْ لَافْتَرَاؤُنَ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ الْفَتْرَىٰ (طہ: ۶۱)

تمہارے حال پر افسوس آتا ہے تم خداے تعالیٰ پر افتراء نہ کرو اگر ایسا کرو گے تو خداے تعالیٰ تمہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیگا (حضرت موسیٰ نے یہ پیشگوئی خاص فرعون اور اُس کے لوگوں کے لئے کی پھر عام طور سے فرمایا) اور اس کا یقین کر لو کہ جس نے خدا تعالیٰ پر افتراء کیا وہ نامراد و ہائز المرام نہ ہوگا۔

اس آیت میں کئی باتیں قابل غور ہیں اول فرعون کو اور اُس کے ماننے والوں کو مفتری علی اللہ کہا گیا حالانکہ اُن میں سے کوئی الہام یا وحی کا مدعی نہیں تھا دوم عام مفتری کے لئے یہ ارشاد ہے کہ جو افتراء کرے گا وہ یقیناً نامراد ہے اب اُس کا افتراء خواہ اس طریقے سے ہو کہ وہ الہام و



وحی کا جھوٹا دعویٰ کرنے یا دوسرے طریقے سے ہو مثلاً یہود و نصاریٰ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے مفتری کہا ہے، یہ بھی مفتری ہیں، مگر دوسرے طریقے سے ان کا افتراء ہے، سوم ایک بڑی بات قابل لحاظ یہ ہے کہ فرعون جس نے چار سو برس تک حکومت کی اور اُس کے عروج اور غرور کی یہ نوبت پہنچی کہ خدائی کا دعویٰ کیا اور ”اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰی“ (تازعات ۲۳) کہا، اور باوجود اس سرکشی اور افتراء پر دازی کے ایسا کامیاب رہا کہ اُس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، اور اس دراز مدت میں کبھی اسے بخار بھی نہ آیا، اُس کی نسبت بھی ارشاد ہے کہ خائب و خاسر رہا، فائز المرام نہ ہوا، جب فرعون کی نسبت ایسا کہا گیا جس نے چار سو برس حکومت کی اور دعویٰ خدائی کر کے مخلوق خدا سے اپنے آپ کو خدا منوایا تو اظہر من الشمس ہو گیا کہ دنیا میں کوئی کیسا ہی خوش حال ہو جائے کسی بلند مرتبہ پر پہنچ جائے، ہر طرح کی مرادیں اُس کی پوری ہوں اُسے قرآن مجید فائز المرام نہیں کہتا، اس مقصد کے لئے یہی ایک آیت کافی ہے، مرزا قادیانی نے اپنے دعوے کے ثبوت میں اس آیت کو متعدد جگہ پیش کیا ہے، مگر صرف آخر کا جملہ یعنی ”وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰی“، نقل کیا ہے پوری آیت نقل نہیں کی، کیونکہ پوری آیت اُن کے مدعا کے خلاف تھی چہارم اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خدا پر افتراء کرنے والا تین چار سو برس تک نہایت کامیابی سے زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ فرعون کو مفتری کہا گیا، اور باوجود مفتری ہونے کے غالباً چار سو برس تک اُس نے حکومت کی، اور بہت کچھ کامیاب رہا، اب یہ کہنا کہ جو الہام وحی کا جھوٹا دعویٰ کر کے خدا پر افتراء کرے وہ جلد ہلاک ہوتا ہے جیسا کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں، محض زبردستی ہے جسے تھوڑی بھی عقل دی گئی ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بالکل خلاف عقل ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرے اور خدا تعالیٰ کا منکر ہو اور مخلوق سے اپنی خدائی کو منوائے اور خدا کے ماننے والوں کو سخت ایذا پہنچائے وہ تو جلد ہلاک نہ ہو اور جو خدا تعالیٰ کو مان کر اپنے نفس کے لئے الہام وحی کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ جلد ہلاک کیا جائے، اسے نہ کوئی عقل باور کر سکتی ہے نہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے اربعین میں ایسے مفتری کی ہلاکت کی وجہ یہی لکھی ہے کہ وہ مخلوق کو ہلاکت کی راہ بتاتا ہے اس لئے وہ خود ہلاک کر دیا جاتا ہے، مگر تا مل سے دیکھا جائے کہ یہ وجہ تو دونوں میں پائی جاتی ہے، کیونکہ جس طرح مدعی وحی اپنی جھوٹی وحی کو منوا کر مخلوق کو گمراہ کرتا ہے اسی طرح فرعون نے مخلوق سے اپنی خدائی منوا کر خلق کو گمراہ کیا اور فرعون کی گمراہی جھوٹے ملہم کی گمراہی سے لاکھ حصہ زیادہ ہے، کیونکہ یہاں سرے سے خدا تعالیٰ جو پروردگار اور منعم حقیقی ہے اُسی سے نہایت زور کے ساتھ غضب کا مشتعل کرنے والا اُس کا دعویٰ

خدائی ہے مگر اُس قہار کی آتش غضب نے ایسے مفتری کو چار سو برس کی مہلت دی پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایسا سخت مجرم گمراہ کرنے والا تو جلد ہلاک نہ ہو اور جھوٹا مدعی الہام جلد ہلاک کیا جائے اسے کوئی عقل سلیم باور نہیں کر سکتی افسوس ہے اُن کی عقل پر جو قرآن مجید کے نصوص قطعیہ کے خلاف اور صریح عقل کے مخالف ایسی بدیہی حماقت کو الہامی بات خیال کرتے ہیں اور اہل علم سے کہتے ہیں کہ اسے مان کر گفتگو کرو بہت اچھا ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں مگر آپ کے راہ راست پر آنے کی امید نہیں ہے البتہ سب ”خَتَمَ اللَّهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ“ کے مصداق نہیں ہو سکتے اس لئے میں ایسی مثالیں بھی پیش کر چکا ہوں اور اب زیادہ توضیح کیسا تھ پیش کرتا ہوں جس سے بعض احمدی اہل علم کی بے خبری یا حق پوشی اظہر من الشمس ہو جائیگی جھوٹے مدعیان وحی والہام میں ایک صالح بن طریف بھی ہے اُس کی کامیابی اور حالت کو ملاحظہ کیا جائے آئندہ میں صالح کے علاوہ اُس کی اولاد کی کچھ حالت اور پھر بعض انبیاء کی حالت بھی دکھاؤں گا تاکہ دنیا کے واقعات سے بھی فلاح اور عدم فلاح کے معنی پر روشنی پڑے اور ہمارے بیان کی صداقت ظاہر ہو

### صالح بن طریف

انتہائے مغرب میں برغواطہ قوم کا یہ عالم اور صلحائے قوم میں تھا یہ وہ شخص ہے جس کے واقعات اور حالات پر نظر کرنے سے مرزا غلام احمد قادیانی کا بہت بڑا دعویٰ غلط ہو جاتا ہے اور پھر کسی منصف مزاج کو اُن کے کاذب ہونے میں تاثر نہیں رہ سکتا اس کی مختصر حالت ملاحظہ کی جائے اس کا باپ طریف ایک غریب شخص تھا مگر دوسری صدی کے شروع میں اپنی قوم کا بادشاہ اور سردار ہو گیا تھا اور نبوت کا دعویٰ بھی اس نے کیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ دعویٰ نبوت کے بعد اسے ایسا فروغ ہوا اور اس قدر لوگ معتقد ہوئے کہ بادشاہ ہو گیا اُس کے مرنے کے بعد اُس کی سرداری اور حکومت اُس کے بیٹے کو ملی چونکہ یہ پہلے سے عالم اور نیک مشہور تھا حکومت اور سرداری ملنے سے اس کی حالت بھٹی اور ایسے خیالات اس کے بلند ہوئے کہ نبوت کا دعویٰ اور زور سے کیا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے اور جس طرح ہمارے قرآن مجید میں سورتیں ہیں اسی طرح اُس نے بھی اپنے قرآن میں سورتیں بیان کیں اُن میں سے بعض کے نام یہ ہیں

سورة الدیک، سورة النمر، سورة الفیل، سورة آدم، سورة نوح، اس کے سوا بہت انبیاء وغیرہم کے نام پر سورتوں کے نام تھے سورہ ہاروت وماروت واثلیس، سورة غرائب الدنیا، اُن کے

معتقدین کے گمان میں اس سورۃ میں بہت کچھ علم تھا اور کچھ احکامات حلال اور حرام کے متعلق بھی اس میں تھے اس سورۃ کو اُس کے مریدین نماز میں پڑھتے تھے۔

اب میں فہمیدہ حضرات کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مدعی اور اس کے پیرو قرآن مجید کو مان کر اور حضرت محمد ﷺ کو سچا جان کر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جناب رسولؐ کے بعد مستقل نبی آ سکتا ہے اور اُس پر ایسے الہامات اور وحی ہو سکتے ہیں کہ اُس میں حلال و حرام کے احکام ہوں جس کا حاصل یہ ہے کہ قادیانی جماعت جنہیں تشریحی نبی کہتے ہیں وہ بھی آ سکتا ہے اور آیت ”وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ“ (احزاب ۴۰) بھی صحیح و درست رہ سکتی ہے کیونکہ یہ شخص اپنے آپ کو صاحب شریعت نبی کہتا تھا (جب اس نے اپنے قرآن کی سورہ غرائب الدنیا میں حرام و حلال کے احکام بیان کئے تو معلوم ہوا کہ اس کو صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ تھا) اور اس کے پیرو اُس کی تصدیق کرتے تھے مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی ایسا ہی دعویٰ کیا ہے اور نہایت صراحت کے ساتھ کیا ہے مگر چونکہ ان کی باتیں نہایت پیچیدہ ہوتی ہیں اور ان کے کلام میں بہت تخالف ہے ایک ہی دعویٰ کی نسبت کہیں اقرار ہے اور بہت زور کیساتھ دعویٰ کیا ہے اور کہیں اُس سے انکار ہے اور اُس میں کوئی قید لگا دی ہے اور اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے مختلف مواقع اور مختلف طبیعتوں کا خیال کر کے مختلف باتیں کہیں ہیں تاکہ ہر ایک موقع پر جو مناسب ہو وہ قول پیش کر دیا جائے مگر اس میں شبہ نہیں کہ مرزا قادیانی نے نہایت شد و مد سے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے (اس کے ثبوت میں خاص رسالہ لکھا گیا جس کا نام ”دعویٰ نبوت مرزا“ ہے اور صحیفہ رحمانیہ نمبر ۶، ۷ میں چھپا ہے پہلے تو مرزائی اکثر یہی کہتے تھے کہ مرزا قادیانی کو نبوت کا دعویٰ نہیں ہے اب دیکھئے کیا باتیں بتاتے ہیں) اور صاحب شریعت نبی ہونے کا انھیں دعویٰ ہے اُن کا رسالہ اربعین نمبر ۴ صفحہ ۶ (خزائن ج ۱ ص ۴۳۵) دیکھا جائے مگر اُن کے مریدین چونکہ جانتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا صریح آیت قرآنیہ مذکورہ سے انکار ہے اس لئے عوام کے دھوکا دینے کو باتیں بتاتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ خاتم کے معنی مہر کے ہیں حالانکہ محض غلط ہے تمام اہل لغت اور مفسرین خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے لکھتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ رسول تشریحی انبیاء کے خاتم ہیں مگر جب مرزا قادیانی نے صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ جواب بھی غلط ہو گیا کیونکہ جناب رسولؐ کے بعد مرزا قادیانی اپنے دعوے کے بموجب صاحب شریعت ہی ہوئے یہاں تک کہ بعض احکام بھی منسوخ کئے مثلاً جہاد کو منسوخ کیا حیثیت سے زیادہ دین کو منسوخ کیا

اس لئے نبوت کی کوئی قسم باقی نہیں رہی جس کے خاتم جناب رسول اللہؐ ٹھہریں اور مرزا قادیانی کے دعوے کے بموجب آیت ”وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ“ غلط ہوگئی (نعوذ باللہ منہ) مگر جس طرح صالح باوجود دعویٰ صاحب شریعت نبی ہونے کے اُمت محمدی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اسی طرح مرزا قادیانی اور اُس کے پیرو کرتے ہیں اور عوام کے بہکانے کو کوئی بیہودہ بات بنا دیتے ہیں مگر صالح مرزا قادیانی سے زیادہ سلطان اقلیم تھا اس کی وجہ نہایت ظاہر ہے کہ جس طرح جناب رسول اللہؐ نے نزول قرآن کا دعویٰ کیا اُس نے بھی کیا اور اُس ملک کے بہت اہل زبان اُس پر ایمان لے آئے یہاں تک کہ نماز میں اُسے پڑھتے تھے مرزا قادیانی نے اگرچہ معجز کلامی کا دعویٰ کیا مگر ایسا دعویٰ نہ کر سکے جیسا صالح نے کیا تھا صرف اتنا ہی کیا کہ چند آیات قرآنیہ کی نسبت یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا الہام ہے اور بعض اپنے رسالوں کی نسبت اعجاز کا دعویٰ کیا اسی سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ جو جھوٹا بات بنانا چاہے اور الفاظ قرآنیہ میں عام کو خاص اور خاص کو عام کر کے اور نئے معنی تراش کر اپنے موافق کر سکتا ہے اور ماننے والے ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں اسی طرح مرزا قادیانی نے ایران کی توران ملائیں اور آیات کے نئے معنی تراش کر سنائے تو کوئی نئی بات نہیں ہے جدت پسند طبیعتیں نئی باتوں کو بہت پسند کرتی ہیں ایسے ہی حضرات نے انھیں پسند کیا صالح نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ مہدی اکبر میں ہوں۔ جن کی خبریں حدیثوں میں آئی ہیں جن کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا۔

اب یہ دیکھنا چاہئے کہ جھوٹا مدعی جس نے وحی والہام کا اس زور سے دعویٰ کیا کہ دوسرے قرآن کا نزول اپنے اوپر بتایا کس قدر کامیاب ہوا تاریخ ابن خلدون سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ چھیالیس برس یا اس سے بھی کچھ زائد دعویٰ نبوت کیساتھ اُس نے بادشاہت کی اور اُس کی اولاد میں کئی سو برس تک بہت زور شور سے بادشاہت رہی ملاحظہ کیا جائے تاریخ مذکور کی جلد ۶ ص ۲۰۷ میں پہلے لکھا ہے کہ اس کا باپ مرزا اور اُس کی سلطنت کا یہ مالک ہوا پھر اس کے دعویٰ نبوت اور نزول قرآن کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ صالح کا ظہور یعنی اس کے دعوے کی ابتدا یا اُس کا شہرہ ہشام بن عبد الملک کی خلافت میں ہوا۔

نوٹ: صالح بن طریف کے حالات ائمہ تلمیذ ص ۱۹۱ تا ۱۹۴ جلد ۱ میں مولانا رفیق دلاوریؒ نے الاستفتاء الاخبار الاول المغرب الاقصیٰ مطبوعہ مصر کے حوالہ سے تحریر فرمائے ہیں جو قابل مطالعہ ہیں۔

## ابن خلدون کی عبارت

وَكَانَ ظَهْرُ صَالِحٍ هَذَا فِي خِلَافَةِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ سِتَّةِ سَبْعٍ وَعَشْرٍ  
 بَنٍ مِنَ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ ثُمَّ زَعِمَ أَنَّهُ الْمَهْدِيُّ الْكَبِيرُ الَّذِي يُخْرِجُ فِي  
 آخِرِ الزَّمَانِ وَأَنَّ عِيسَى يَكُونُ صَاحِبَهُ وَيُصَلِّيُ خَلْفَهُ وَأَنَّ اسْمَهُ فِي الْعَرَبِ صَالِحٌ  
 وَفِي سُرْيَانِيَّةِ مَالِكٍ وَفِي الْعَجَمِيِّ عَالِمٌ وَفِي الْعِبْرَانِيَّةِ رُوبِيَا وَفِي الْبَرْبَرِيَّةِ وُربَا  
 وَمُضَاهٍ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ وَخَرَجَ إِلَى الْمَشْرِقِ بَعْدَ أَنْ مَلَكَ أَمْرَهُمْ سَبْعًا  
 أَرْبَعِينَ سَنَةً وَوَعَدَهُمْ أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فِي دَوْلَةِ السَّابِعِ مِنْهُمْ وَأَوْصَى بِدِينِهِ إِلَى  
 ابْنِهِ الْيَاسِ وَعَهْدَ إِلَيْهِ بِمَوَالَاتِ صَاحِبِ الْأَنْدَلُسِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةٍ وَبِإِظْهَارِ دِينِهِ إِذَا  
 قَوِيَ أَمْرُهُمْ أَقَامَ بِأَمْرِهِ بَعْدَهُ ابْنُهُ الْيَاسُ وَلَمْ يَزَلْ مَظْهَرُ الْإِسْلَامِ مُسِيرًا لِمَا وَضَاهِ  
 أَبُوهُ مِنْ كَلِمَةِ كُفْرِهِمْ وَكَانَ طَاهِرًا عَفِيفًا زَاهِدًا وَهَلَكَ خَمْسِينَ سَنَةً مِنْ مَلِكِهِ  
 وَوَلَّى أَمْرَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ ابْنُهُ يُونُسُ فَإِظْهَرِ دِينَهُمْ وَدَعَا إِلَى كُفْرِهِمْ وَكَتَلَ مَنْ لَمْ  
 يَدْخُلْ فِي أَمْرِهِ حَتَّى حُرِّقَ مَدَائِنُ تَامَسَاوَمَا وَالْأَبَايَقَالُ أَنَّهُ حُرِّقَ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَ  
 ثَمَانِينَ مَدِينَةً وَاسْتَلْحَمَ أَهْلُهَا بِالسَّيْفِ لِمُخَالَفَتِهِمْ إِيَّاهُ. قَالَ رُمُونُ دَرَّحَلُ يُونُسَ  
 إِلَى الْمَشْرِقِ وَحُجَّ وَلَمْ يَحْجِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَهَلَكَ لَارْبَعٍ  
 وَأَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ مَلِكِهِ وَانْتَقَلَ الْأَمْرُ عَنْ بَنِيهِ وَوَلَّى أَمْرَهُمْ أَبُو غَفِيرٍ مُحَمَّدُ بْنُ  
 مُعَادٍ بْنُ إِسْعَاقِ بْنِ صَالِحِ بْنِ طَرِيفٍ فَاسْتَوْلَى عَلَى مَلِكِ رَغَوَاطِ وَآخَذَ بِدِينِ  
 آبَائِهِ وَاشْتَدَنَ شَوْكُتٌ وَعَظُمَ أَمْرُهُ وَكَانَتْ لَهُ فِي الْبَرْبَرِيَّةِ قَائِمٌ مَشْهُورَةٌ وَأَيَّامُ  
 مَذْكُورَةٍ وَاتَّخَذَ أَبُو غَفِيرٍ مِنَ الزَّوْجَاتِ أَرْبَعًا وَأَرْبَعِينَ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ مِثْلُهَا  
 أَوْ أَكْثَرَ وَهَلَكَ آخِرِيَّاتِ الْمِائَةِ الثَّلَاثَةِ لَتِسْعٍ وَعَشْرِينَ سَنَةً مِنْ مَلِكِهِ وَوَلَّى بَعْدَهُ  
 ابْنُهُ أَبُو الْأَنْصَارِ عَبْدِ اللَّهِ فَاتَّقَى سُنَّتَهُ وَكَانَ كَثِيرَ الدَّعْوَةِ مَهَابًا عِنْدَ مَلُوكِ عَصْرِهِ  
 بِبَهَادُونِهِ وَبِدَا لِعَمَلِهِ بِالْمَوَاصِلَةِ وَكَانَ حَافِظًا لِلْجَارِ وَفِيَّ بِالْعَهْدِ وَتَوَفَّى سَنَةً  
 أَحَدَى وَأَرْبَعِينَ مِنَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ لَارْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ مَلِكِهِ وَدُفِنَ بِإِسْلَاخَتْ  
 وَبِهَا قَبْرُهُ وَوَلَّى بَعْدَهُ ابْنُهُ أَبُو مَنصُورٍ عِيسَى بْنُ اثْنَيْنِ وَعَشْرِينَ سَنَةً لِمَسَارِيرِ  
 آبَائِهِ وَادْعَى النُّبُوَّةَ وَالْكَهَانَةَ وَاشْتَدَّ أَمْرُهُ وَعَلَى سُلْطَانِهِ وَدَانَتْ لَهُ قِبَائِلُ

مطلب: یعنی ۱۲۷ ہجری میں دعویٰ نبوت کے بعد اس نے یہ کہا کہ مہدی اکبر میں ہوں جو آخر وقت عین ظہور کریں گے اور عیسیٰ اُن کے ساتھ ہوں گے اور اُن کے پیچھے نماز پڑھیں گے چونکہ سلف میں یہ امر محقق اور سب کا مسلم تھا کہ مہدی اور عیسیٰ دو ہیں اور مہدی اکبر کے وقت مسیح کا نزول ہوگا اور امام مہدی کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے اس لئے وہ کہتا تھا کہ میں مہدی اکبر ہوں اور عیسیٰ میرے مصاحب ہوں گے عرب کی زبان میں اُس کا نام صالح تھا اور سریانی میں مالک اور فارسی میں عالم اور عبرانی میں روبیا اور بربری میں دریا اس لفظ کے معنی خاتم النبیین کے ہیں غرض کہ سینتالیس برس سلطنت اور نبوت کی وجہ سے اپنی قوم کے دینی اور دنیاوی امور کا حاکم رہ کر غالباً زہد کے غلبہ سے مشرق کی جانب کسی پہاڑ کی طرف یا مکہ معظمہ چلا گیا اور اپنے لوگوں سے وعدہ کر گیا کہ تمہارے ساتویں پشت کا جو بادشاہ ہوگا اُس وقت میں لوٹ کر آؤں گا یہ وعدہ صاف شہادت دیتا ہے کہ اُس پر زہد کا غلبہ ہو گیا تھا اور اُس کی وجہ سے اُس کے خیال میں سا گیا تھا کہ اس مدت تک میں زندہ رہوں گا اس لئے پیشگوئی کرتا تھا کہ پھر آؤں گا اور اپنے بیٹے کو اپنے مذہب پر چلنے کی وصیت کی اور اُس سے عہد لیا کہ اندلس کے حاکم سے دوستی رکھنا اور جب تمہاری حکومت کی حالت بمقابلہ اس کے خوب مضبوط ہو جائے اپنے دین کا اظہار حاکم اندلس سے یا عام طور سے کرنا اُس کے جانے کے بعد اُس کا بیٹا اُس کی حکومت کا مالک ہوا اور اپنے تمام عہد حکومت میں خالص اسلام کا پابند رہا اور جن عقاید کفریہ کی وصیت اس کے باپ نے کی تھی انہیں پوشیدہ رکھا یہ شخص پاکباز اور زہد تھا شاید اسی وجہ سے اُسے اپنے باپ کی نبوت میں تردد نہ ہو گیا ہو اور اُس نے اس کے مذہب کا اظہار نہ کیا ہو۔ الیاس پچاس برس حکومت کر کے مر گیا اور اُس کے بعد اس کا بیٹا یونس بادشاہ ہوا اُس نے بادشاہ ہوتے ہی اپنے دادا کے مذہب کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو اس کے ماننے پر مجبور کیا اور جس نے نہ مانا اسے قتل کیا یہاں تک کہ بعض شہروں کو جلا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ تین سو اسی شہر جلا دیئے گئے اور اُن کے باشندہ تہ تیغ کر دیئے گئے اس کے بعد بقول رمون یونس حج کو گیا اور اس کے علم میں نہ اس سے پہلے اُس کے گھر کے لوگوں میں کسی نے حج کیا تھا نہ اسکے بعد (الحاصل باوجود ایسے ظلم و تعدی کے اپنے دادا کی گمراہی کو پھیلاتا رہا مگر چوالیس برس بادشاہت کر کے معمولی موت سے اس نے انتقال کیا اور اس عرصہ دراز تک خدائے قہار کے آتش غضب نے اسے نہیں کھایا) اس کے بعد یونس کے بیٹے کو سلطنت نہیں ملی بلکہ ابوغفیر کو ملی جو اس کا بھتیجا اور صالح کے

دوسرے بیٹے یسوع کا پوتا تھا غرضیکہ صالح کا دوسرا پوتا بادشاہ ہوا اور برغواطہ کے تمام ملک پر غالب ہو گیا اور اپنے باپ دادا کے مذہب کو اختیار کیا اور اس کی حکومت و شوکت بہت زور کی ہوئی اس نے چوالیس بیٹیاں کیں اور اسی قدر اس کے اولاد ہوئی اور ۲۹ برس بادشاہی کر کے مرا اس کے بعد اس کا بیٹا ابوالانصار عبداللہ بادشاہ ہوا اس نے بھی اپنے باپ ابوغفر کا طریقہ اختیار کیا یعنی اپنے دادا صالح کا مذہب اختیار کیا اور لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف بہت بلاتا تھا اس کے وقت میں دوسرے بادشاہ اس سے ڈرتے تھے اور اس سے میل کر کے اپنا بچاؤ کرتے تھے یہ شخص اپنے بڑی کے حقوق کا لحاظ رکھتا تھا اور اپنے عہد کو پورا کرتا تھا (مگر افسوس ہے کہ مرزائیوں کے نزدیک خدا تعالیٰ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا) ابوالانصار ۴۴ برس بادشاہت کر کے ۲۴۱ھ میں مر گیا اس کے بعد اس کا بیٹا ابو منصور عیسیٰ ۲۲ برس کی عمر میں بادشاہ ہوا اور اپنے باپ دادا کا طریقہ اختیار کیا اور نبوت و کہانت کا مدعی ہوا اور اس کی سلطنت بہت زور کی ہوئی اور مغرب کے تمام قبیلے اس کے مطیع و منقاد ہو گئے۔ ابن خلدون کا مضمون ختم ہوا اس سے کئی باتیں ثابت ہوئیں

۱..... صالح نے وحی اور الہام کا دعویٰ کیا اس کا ثبوت دو وجہ سے ہے اول یہ کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لئے ضرور ہے کہ وحی والہام خداوندی کا دعویٰ کئے بغیر اس کے نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا دوسرے یہ کہ اس نے نزول قرآن کا دعویٰ کیا اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ جس طرح جناب رسول اللہ پر قرآن شریف نازل ہوتا رہا اسی طرح صالح لکھتا ہے کہ مجھ پر نازل ہوتا رہا جس طرح قرآن مجید میں سورتیں ہیں اسی طرح وہ بھی اپنے قرآن کی سورتوں کا نام بتاتا ہے دعویٰ وحی کے لئے اس قدر کہنا کافی ہے اب اگر کوئی احمدی کسی تاریخ میں ان سورتوں کو نہ دیکھے تو صالح کا دعویٰ وحی والہام غلط نہیں ہو سکتا

۲..... دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ صالح کا چلا جانا کسی خوف کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ وہ نہایت اطمینان سے اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا کر اور اسے وصیت کر کے گیا جانے کی وجہ اوپر بیان کر دی گئی ہے اب جن کی آنکھیں ہوں اور علم سے انھیں کچھ حصہ ملا ہو وہ ابن خلدون کے ص ۲۰۷ کی سطر ۲۳ سے ۲۶ تک ملاحظہ کریں جانے کے وقت صالح نے چار باتیں کہیں اول اس نے اپنے سب متعلقین کے رو برو پیشینگوئی کی کہ جس وقت تم میں ساتواں بادشاہ ہوگا اس وقت میں آؤں گا صالح نے پیشینگوئی اپنی قوم برغواطہ سے کی تھی اس قوم میں اول بادشاہ طریف ہوا دوسرا صالح اور ساتواں ابو منصور عیسیٰ ہوا جس نے بادشاہت کے ساتھ نبوت کا بھی دعویٰ کیا اس پیشینگوئی سے

نہایت صفائی سے ظاہر ہو گیا کہ اُسے اپنی قوم میں بلکہ خاص اپنی اولاد میں عرصہ تک سلطنت رہنے کا یقین تھا۔ اب جس طرح مرزا قادیانی کی پیشینگوئیوں میں باتیں بتائی جاتی ہیں اُس لحاظ سے یہ پیشینگوئی پوری ہوئی، کیونکہ جس طرح یہ بادشاہ اور مدعی نبوت تھا اُسی طرح اُس کی اولاد میں برغواطی قوم کا ساتواں بادشاہ مدعی نبوت ہوا، اُس کی نسبت صالح کا یہ پیشینگوئی کرنا کہ میں ساتویں پشت میں آؤں گا، بچا نہیں ہے، کیونکہ اس کی قوم کا ساتواں بادشاہ اُس کی اولاد میں ہونا اور اُس کے ساتھ اُس کا دعویٰ نبوت کرنا گویا اسی کا لوٹ کر آنا ہے۔

ایک اور طریقے سے بھی اس پیشینگوئی کی صحت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ جس طرح مرزا قادیانی نے مخصوص عقائد اسلامیہ کے اصلی مقاصد کو بدل دیا اسی طرح صالح اگر تنازع کا قائل ہو تو عجب نہیں اسی لئے ممکن ہے کہ اس کی قوم ابوالمصور کے جون میں صالح کا آنا خیال کرتی ہو اور ابوالمصور کے آنے کو صالح کا آنا سمجھتی ہو اور تنازع کا مسئلہ ایسا ہے کہ بعض (خام خیال) مسلمان بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں، مولوی قلندر علی پانی پتی جو راجہ کشمیر کے وزیر کرپام اور اس کے بیٹے انت رام کے استاذ تھے وہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت کرتے تھے، جس طرح مرزائی خدا تعالیٰ کی وعدہ خلافی قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں، اور اُس کی وجہ سے خدائے قدوس پر جو سخت الزام آتا ہے اس کی کچھ پروا نہیں کرتے۔

الحاصل جس طرح مرزائی مرزا قادیانی کی پیشینگوئیوں کو پیش کیا کرتے ہیں اسی طرح برغواطی اس پیشینگوئی کو پیش کرتے ہوں گے یا پیش کر سکتے تھے، دوم..... جانے کے وقت خاص اپنے بیٹے سے اپنے مذہب کی وصیت کی یعنی اس پر قائم رہنا۔ سوم..... تاکید کے ساتھ یہ وصیت کی کہ اندلس کے حاکم سے دوستی رکھو (یہ حاکم بنی امیہ میں تھا)۔ چہارم..... یہ کہا کہ جب تمہاری سلطنت کے امور (بمقابلہ بنی امیہ کے) قوی ہو جائیں تو اپنا مذہب خاص اندلس کے حاکم پر یا عام بنی امیہ پر پیش کیجیو۔ ایسی صراحتوں کے ساتھ کسی ذی علم کا یہ کہنا کہ صالح خوف کی وجہ سے بھاگ گیا، سوائے اس کے کہ وہ قصد انا و اقربوں کو دھوکا دیتا ہے اپنے کسی نفع کے واسطے یا اللہ نے اُس کے علم و فہم کو سلب کر لیا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

۳..... تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ صالح نے ۴۷ برس دعویٰ نبوت کیا، اس کے بعد جب اس دراز مدت تک نبوت اور سلطنت کر چکا اور بوڑھا ہو گیا اس وقت وہ جانب مشرق یعنی مکہ معظمہ کی طرف یا پہاڑوں میں چلا گیا، اگر حق طلبی ہے تو اُس کی تفصیل ملاحظہ کیجئے، اس مقام پر ابن خلدون



نے کئی پشتوں تک کسی کا سنہ وفات نہیں بیان کیا بلکہ صرف تخت نشینی کی مدت بیان کی، البتہ ابوالانصار کا سنہ وفات اور اُس کی سلطنت کی مدت دونوں بیان کی ہیں، اب حساب کرنے سے صالح کا دعویٰ نبوت کا زمانہ بخوبی معلوم ہو سکتا ہے، ذیل کا نقشہ ملاحظہ کیا جائے۔ اس نقشہ سے صالح کی نبوت کا زمانہ اور اُس کی اولاد کی سلطنت کا وقت معلوم ہوتا ہے۔

نام: ابوالانصار عبداللہ

کیفیت: اس کی وفات اور سلطنت کی مدت ابن خلدون نے لکھی ہے جس سے ظاہر ہے کہ ۲۹۷ھ میں یہ بادشاہ ہوا اور ۳۳۱ھ میں انتقال کر گیا

وفات: ۳۳۱ھ، زمانہ سلطنت: ۴۴، حساب: ۳۳۱، ۴۴، ۲۹۷، سنہ جلوس: ۲۹۷ھ

نام: ابوغفر محمد، کیفیت: یہ ابوالانصار کا باپ ہے، وفات: ۲۹۷ھ، زمانہ سلطنت: ۲۹

حساب: ۲۹۷، ۲۹، ۲۶۸، سنہ جلوس: ۲۶۸ھ

نام: یونس

کیفیت: یہ صالح کا پوتا اور ابوغفر کا چچا ہے جب اُس کے مرنے کے بعد اُس کا بھتیجا اور ابوغفر بادشاہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ابوغفر کا سنہ جلوس یونس کی وفات کا سنہ ہے۔

وفات: ۲۶۸ھ، زمانہ سلطنت: ۴۴، حساب: ۲۶۸، ۴۴، ۲۲۴، سنہ جلوس: ۲۲۴ھ

نام: الیاس

کیفیت: یہ صالح مدعی نبوت کا بیٹا اور یونس کا باپ ہے جب اس کے مرنے کے بعد ہی یونس بادشاہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ۲۲۴ھ میں اس کی وفات اور ۱۷۴ھ میں اپنے باپ صالح کے بعد بادشاہ ہوا۔

وفات: ۲۲۴ھ، زمانہ سلطنت: ۵۰، حساب: ۲۲۴، ۵۰، ۱۷۴، سنہ جلوس: ۱۷۴ھ

نام: صالح بن طریف

کیفیت: یہی مدعی نبوت ہے اس کے دعویٰ کا ظہور ۱۲۷ھ میں ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ۱۷۴ھ میں سلطنت چھوڑ کر اپنے بیٹے الیاس کو اپنا قائم مقام کر کے چلا گیا

اس نقشہ سے یقینی طور سے آفتاب کی طرح روشن ہو گیا کہ صالح بن طریف ۱۷۴ھ ہجری میں اپنے بیٹے الیاس کو سلطنت حوالہ کر کے گیا ہے اب اس نقشہ کو سیدھے طور سے جانچ لیجئے اور ذیل کا نقشہ ملاحظہ کیجئے۔

نام: صالح بن طریف

ابتداء ظہور دعویٰ یا ابتداء سلطنت: ۱۲۷ھ

انتہا: ۱۷۳ھ، مدت دعویٰ یا تحت نشینی: ۴۷ برس

نام: الیاس

ابتداء ظہور دعویٰ یا ابتداء سلطنت: ۱۷۳ھ

انتہا: ۲۲۲ھ، مدت دعویٰ یا تحت نشینی: ۵۰ برس

نام: یونس

ابتداء ظہور دعویٰ یا ابتداء سلطنت: ۲۲۲ھ

انتہا: ۲۶۸ھ، مدت دعویٰ یا تحت نشینی: ۴۶ برس

نام: ابوغفیر

ابتداء ظہور دعویٰ یا ابتداء سلطنت: ۲۶۸ھ

انتہا: ۲۹۷ھ، مدت دعویٰ یا تحت نشینی: ۲۹ برس

نام: ابوالانصار

ابتداء ظہور دعویٰ یا ابتداء سلطنت: ۲۹۷ھ

انتہا: ۳۳۱ھ، مدت دعویٰ یا تحت نشینی: ۳۴ برس

اس نقشہ سے بھی پہلے نقشہ کی صحت ظاہر ہوگئی اب معلوم ہوا کہ صالح ۱۷۳ھ کو پورا کر کے ۱۷۴ھ میں گیا، کیونکہ مؤرخ نے ابوالانصار کی موت کا جو سن لکھا ہے وہ اسی حساب سے مطابق ہوتا ہے جو نقشہ میں لکھا گیا، اب اس کا ثبوت کہ ۴۷ برس تک صالح نے دعویٰ کیا دو طور سے بخوبی ہوتا ہے، اول مؤرخ کے بیان سے کہ وہ طریف کے مرزیا ذکر کر کے لکھتا ہے۔ ”وولی مکانہ ابنہ صالح وکان من اهل العلم و الخیر فیہم ثم انسلخ من آیات اللہ وانتحل دعوی النبوة۔“

یعنی طریف کے مرنے کے بعد اُس کی جگہ اُس کا بیٹا صالح مالک ہوا یہ شخص عالم اور صاحب خیر تھا، مگر بادشاہ ہونے کے بعد آیات خداوندی سے علیحدہ ہو کر جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے لگا اور دوسرے قرآن کے نزول کا دعویٰ کیا، یہ سب بیان کر کے مؤرخ اس کے ابتداء دعویٰ نبوت یا اس کی شہرت کے وقت کو بیان کرتا ہے اور لکھتا ہے ”وکان ظہور صالح هذا من سنة سبع و عشرين من المائة الثانية من الهجرة“ یعنی صالح کے ظہور کا دعویٰ اور اُس کی شہرت کی

ابتداء ۱۲ھ سے ہوئی، کیونکہ دعویٰ کا ذکر مؤرخ پہلے بیان کر چکا ہے اب بالنصر و ظہور صالح سے یہی غرض ہو سکتی ہے کہ اُس کے دعویٰ کا وقت یا دعویٰ کی شہرت کا وقت بیان کرتا ہے اس عرصہ میں صالح کہیں پوشیدہ نہیں تھا، جس کے لئے ظہور کا وقت بیان کیا گیا، البتہ اُس کا دعویٰ پوشیدہ تھا جس کا ظہور سنہ مذکور میں ہوا اہل علم جن کو عربی عبارت کے سمجھنے کا ذوق ہے وہ یہی مطلب اس عبارت کا کریں گے جو میں نے بیان کیا، اس کا ثبوت بعد کی عبارت سے اور محاورہ اہل زبان سے بخوبی کر دیا گیا ہے اب مؤرخ کا یہ قول ”وخرج الى المشرق بعد ان ملك امرهم سبعاً واربعين سنة“ یعنی بعد اس بات کے کہ سینتالیس برس رعایا کی تمام باتوں کا مالک رہا اور سیاسی اور مذہبی حکومت اُس کے اختیار میں رہی سلطنت چھوڑ کر مشرق کی طرف چلا گیا، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ صالح کا زمانہ سلطنت اور زمانہ نبوت ایک تھا، جس سے معلوم ہوا کہ تخت نشین ہوتے ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ظاہر حالات سے بھی یہی پایا جاتا ہے، کیونکہ اس کا باپ پہلے سے بادشاہت حاصل کر چکا تھا، اس لئے اُس نے اس کی تعلیم میں پوری توجہ کی ہوگی اور چونکہ یہ خود بھی نیک تھا تو علم کا شائق بھی ہوگا، اور اپنے باپ کے مرنے سے پہلے ہی علم کے کمال درجہ کو پہنچ چکا ہوگا، اور مزاج میں علو اور تکبر سا گیا ہوگا، اس لئے تخت سلطنت پر بیٹھتے ہی اس کا خیال علو کمال مرتبہ کو پہنچ گیا اور یہی خیال دعویٰ نبوت کا باعث ہوا اور سینتالیس برس دعویٰ نبوت کے ساتھ بادشاہت کی الغرض اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ صالح نے کامل چھیالیس برس دعویٰ نبوت کیا اور سینتالیسویں برس اپنے بیٹے کو بادشاہت دیکر چلا گیا، اس تاریخ میں اس کا کہیں اشارہ بھی نہیں ہے کہ کس خوف سے وہ چلا گیا، بلکہ چلنے کے وقت اس نے جو وصیتیں اپنے بیٹے کو کیں اُن سے اظہر من الشمس ہے کہ اُس نے پورے اطمینان کی حالت میں سلطنت چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا، اور سلطنت چھوڑنے کی وجہ بجز اس کے کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ قلبی حالت نے اُسے مجبور کیا، آخر ابراہیم ادہم اسی وجہ سے بادشاہت سے علیحدہ ہو کر درویش ہو گئے گو خیالات میں اور حالت میں نوعی اختلاف ہو مگر غرض یہ ہے کہ قلبی حالت ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان بادشاہت کو چھوڑ دے، جس وقت صالح نے جانے کا ارادہ کیا ہے اُس وقت کوئی اس کا مخالف اُس پر چڑھ کر نہیں آیا تھا، کسی بادشاہ نے اُسے دھمکی بھی نہیں دی تھی، بلکہ مؤرخ نے کسی مخالف کا ذکر بھی نہیں کیا، اس کے قریب ہی بنی امیہ کا جو بادشاہ تھا اس سے ایسی دوستی اور رابطہ تھا کہ جانے کے وقت اپنے بیٹے سے اس سے رابطہ رکھنے کی وصیت کر گیا، پھر خوف کس کا اُسے ہوتا بلکہ جانے کے وقت اس کا یہ کہنا کہ ساتویں بادشاہ کے وقت

میں میں پھر آؤنگا اور اپنے بیٹے کو سلطنت حوالہ کرنا اور اُس کے جانے کے بعد اُس کی اولاد میں زور شور کے ساتھ سلطنت رہنا نہایت بدیہی دلیل ہے کہ وہ کسی خوف و خطر کی وجہ سے سلطنت سے علیحدہ نہیں ہوا ایسا خیال وہی کر سکتا ہے جس کی عقل و فہم نے جواب دیدیا ہو۔

اب جو حضرات خدا اور رسول کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں کتاب اللہ کے سمجھنے کا شوق ہے وہ غور سے ملاحظہ کریں کہ اس وقت میں نے سات بادشاہوں کا ذکر کیا یعنی فرعون، صالح بن طریف، الیاس، یونس، ابوغنیم، ابوالانصار، ابوالمصو، عیسیٰ یہ ساتوں شخص باوجود کافر اور مفتری علی اللہ ہونے کے دنیا کے بادشاہ ہو گئے اور ۲۳ برس سے زیادہ اور بعض بہت زیادہ نہایت شان سے بادشاہت کرتے رہے ان میں سے سب سے اول فرعون ہے جس نے چار سو برس کی عمر پائی اور حکومت کرتا رہا، اور اُس وقت کے ایمانداروں کو یعنی بنی اسرائیل کو اقسام کی تکلیفیں دیتا رہا، اور پھر بادشاہت کے ساتھ خدائی کا دعویٰ بھی کیا اور اس قوت اور فائز المرای سے کہ کوئی اس کا مخالف نہیں ہوا جو اُسے ضرر پہنچاتا اور اتنی مدت میں اُسے بخار تک نہیں آیا یہ وہ عظیم الشان کافر ہے جس نے مخلوق کو اپنی خدائی کی طرف بلایا اور خدا سے برحق سے انکار کرایا، جس کی مذمت بار بار قرآن مجید میں کی گئی ہے، اور خاص طور پر اُسے مفتری علی اللہ ٹھہرا کر قرآن میں ارشاد ہوا ”وَلَقَدْ خَابَ مَنْ افترى“ (طہ ۶۱) یعنی جس نے خدا پر افتراء کیا وہ ضرور خائب و خاسر رہا، فرعون خائب و خاسر ہوا مگر کئی سو برس کے بعد (۲) دوسرا صالح یہ وہی مدعی نبوت ہے جس کا ذکر ابھی کیا گیا جس نے ۴۷ برس تک باوجود جھوٹے دعویٰ وحی و الہام اور مفتری علی اللہ ہونے کے بادشاہت کی اور تشریقی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس مدت کے بعد بھی وہ نہ خود مراد نہ مارا گیا، بلکہ اپنے بیٹے کو بادشاہت حوالہ کر کے چلا گیا، تیسرا ان میں الیاس ہے اس نے اگرچہ اپنے باپ کے دین کو فروغ نہیں دیا مگر اُس نے انکار بھی نہیں کیا، جس سے ظاہر ہے کہ اُس کی گمراہی سے یہ راضی رہا، چوتھا ان میں یونس ہے جس نے بادشاہ ہو کر اپنے دادا صالح کی گمراہی کو نہایت ظلم و تعدی سے ترقی دی اور ہزاروں بلکہ لاکھوں مخلوق کو گمراہ کیا، مگر چوالیس برس بادشاہت کر کے اپنی طبعی موت سے مرآ یہ کامیابی صالح مفتری کی وراثت ہی سے ملی تھی اس نے اس کے افتراء کو بہت کچھ ترقی دی اس کی فائز المرای اس کے دادا صالح کی فائز المرای ہے، مرزا قادیانی کے کہنے کے بموجب صالح کو ۲۳ برس کے اندر ذلت کی موت سے مرنا چاہئے، مگر یہ نہیں ہوا بلکہ وہ ہر طرح کی کامرانی سے ۴۷ برس بادشاہت کر کے اپنے جگر گوشہ کو سلطنت دے گیا، پھر اُس کے بیٹے اور پوتے نے ۹۵ برس تک

عیش و عشرت کی اور اپنے باپ دادے کی فائز المرامی کا ثبوت مخلوق کو دکھایا، پانچواں ان میں ابوغفیر ہے جس کی نسبت مؤرخ لکھتا ہے کہ اُس نے اپنے باپ دادے کا مذہب اختیار کیا یعنی صالح کا ”واشدت شوکھ و عظم امره“ یعنی اُس کی شوکت اور حکومت بہت سخت اور عظیم الشان ہوئی، الغرض باوجود مفتری ہونے کے ۳۹ برس تک بادشاہ رہا اور پھر بھی کسی قسم کا زوال نہیں آیا، اور سلطنت اپنے بیٹے کو دے گیا، چھٹا ان میں ابوالانصار ہے جس نے اپنے باپ دادے کا طریقہ اختیار کیا اور جس طرح اس کے باپ دادا خدا پر افتراء کر کے کافر ہوئے تھے یہ بھی کافر ہوا، مگر اس کی عظمت شوکت ایسی ہوئی کہ اس کے وقت کے بادشاہ اس سے ڈرتے تھے اور تحفہ تحائف بھیج کر اسے راضی رکھتے تھے اور اس شوکت و عظمت کیساتھ ۴۴ برس اس نے بادشاہت کی اور اپنے بیٹے کو بادشاہ کر گیا ساتواں ان میں ابو منصور عیسیٰ ہے یہ ساتواں بادشاہ ہے برغواطہ قوم میں ۳۲ برس کی عمر میں ۳۴۱ھ میں اپنے باپ کی سلطنت کا مالک ہوا اس نے سلطنت پر بیٹھتے ہی نبوت کا دعویٰ کیا، اور بیان سابق کے لحاظ سے اس کی دادا صالح کی پیشینگوئی پوری ہوئی، اس کی حکومت اور سلطنت بہت زور و شور کی ہوئی اور مغرب کی تمام قومیں اس کی مطیع ہو گئیں، اور ایسی مطیع اور معتقد ہوئیں کہ تمام قبائل کے سردار اسے سجدہ کرتے تھے اس شوکت و عظمت کیساتھ ۲۷ برس تک یا اس سے بھی کچھ زیادہ اس نے بادشاہت کی ۳۶۸ھ میں بلکین اس پر چڑھ آیا اور اُس کی قوم پر جہاد کیا اُس میں یہ مارا گیا، مگر دعویٰ نبوت سے ۲۳ برس کے بعد مارا گیا، اس مدت کے اندر نہ اپنی موت سے مر اور نہ کسی نے اُسے قتل کیا، تاریخ ابن خلدون جلد ۶ ص ۲۰۸، ۲۰۹ بغور دیکھا جائے مؤرخ مذکور اس کے والد ابوالانصار کی موت کو بیان کر کے لکھتا ہے۔

”وولی بعده ابنه ابو منصور عیسیٰ ابن اثنین و عشرين سنة فسار سیر آبانہ و ادعی النبوة والکھانة واشتد امره و علا سلطانه و دانت له قبائل المغرب“ الخ  
 ابوالانصار کے بعد اُس کا بیٹا ابو منصور عیسیٰ ۳۲ برس کی عمر میں اپنے باپ کی سلطنت کا مالک ہوا اور اپنے باپ دادا کی روش اس نے اختیار کی اور نبوت اور کہانت کا دعویٰ کیا اور اس کی حکومت اور سطوت زبردست ہوئی اور مغرب کے تمام قبیلے اس کے مطیع ہو گئے  
 (اس جملہ کا عطف ولی پر ہے یا سار پر اور واؤ عطف کے ساتھ عطف ہے جس سے ولایت اور دعویٰ نبوت کی معیت اور جمعیت ظاہر ہوتی ہے جو اس کے خلاف دعویٰ کرے وہ ثابت کرے)  
 یہ عبارت صاف طور سے شہادت دیتی ہے کہ ابو منصور جب بادشاہ ہوا ہے اُسی وقت

اُس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور دعویٰ نبوت اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اُس نے وحی والہام الہی کا بھی دعویٰ کیا ہے کیونکہ نبوت کا علم مدعی نبوت کو وحی کے ذریعہ سے ہوتا ہے اس لئے جھوٹے مدعی کو بھی یہ دعویٰ کرنا ضرور ہے کہ مجھ پر وحی آئی اور خدا نے مجھے اطلاع دی کہ میں نبی ہوں اور دعویٰ نبوت کیساتھ کہانت کا بھی دعویٰ تھا اس لیے پیشین گوئی کرنا بھی ضرور ہے یہی وجہ ہوئی کہ تمام مغرب کے قبیلے اس کے مطیع اور معتقد ہو گئے یہاں تک کہ اُسے سجدہ کرنے لگے بالآخر بقول مشہور ہر کمالے راز والے یہ مارا گیا اس کے بعد بلکین نے اس کی قوم میں بہت خونریزی کی اس کے بعد بھی صالح کی قوم پر جہاد ہوتے رہے یہاں تک کہ ابوبکر نے ان کی بیخ و بنیاد اکھڑ کر پھینک دی اور روئے زمین سے اُن کا نشان مٹا دیا اس قوم کا آخری بادشاہ ابوجحف عبداللہ تھا ابو منصور عیسیٰ کی اولاد میں یہ آخری بادشاہ پانچویں صدی کے آخر میں تھا ابن خلدون لکھتا ہے ”فرح حف الیہم ابوبکر بن عمر امیر ملتونة فی المرباطین من قومہ وکانت لہ فیہم وقائع استشهد فی بعضها صاحب الدعوة عبد اللہ بن یاسین الکبروی ۳۵۰ و استمر ابوبکر وقومہ من بعدہ علی جہاد ہم حتی استا صلوا شا فثمہ و محوام الارض آثار ہم“ (جلد ۶ ص ۲۰۹)

الغرض جس طرح صالح بن طریف نے مرزا قادیانی کے دعویٰ کو غلط کر دیا تھا اسی طرح ابو منصور نے بھی ان کے دعوے کو اُن کے خیال اور اُن کے اقرار کے بموجب غلط کیا یعنی اُن کا دعویٰ تھا کہ کوئی جھوٹی وحی والہام کا دعویٰ کر کے تیس برس زندہ نہیں رہ سکتا بلکہ اس مدت کے اندر ذلت کی موت سے ہلاک کر دیا جاتا ہے اُن دونوں مدعیان نبوت نے اس دعویٰ کو غلط ثابت کر دیا ان گذشتہ واقعات کو ذہن نشین کر کے اس زمانے کی حالت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھئے کیا ہو رہا ہے؟ یہود نصاریٰ آریہ مشرکین وغیرہ کی دنیاوی کامیابی اہل اسلام کے مقابلہ میں کیسی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مفتری علی اللہ کہا ہے اور ان میں سے بعض گمراہی بھی بہت کچھ پھیلا رہے ہیں مگر دنیا کے لحاظ سے ہر طرح کامیاب ہیں اب نہایت غور کے قابل یہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کافر اور مفتری علی اللہ فلاح نہیں پاتے مگر جن کا ذکر پیشتر کیا گیا یہ لوگ باوجود کافر اور مفتری ہونے کے ایسے کامیاب ہوئے کہ بعض بادشاہ ہو گئے اور بعض اگرچہ بادشاہ نہیں ہوئے مگر بہت کچھ کامیاب ہیں دنیا میں بادشاہت سے زیادہ کامیابی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس سے زیادہ کوئی فلاح کی صورت ہو سکتی ہے یہاں سے بالیقین دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ دنیا

کی کامیابی اگرچہ کسی مرتبہ کی ہو صداقت اور برگزیدہ خدا ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی دوسرے یہ کہ کتاب اللہ جو ایمانداروں کے لئے فلاح کی بشارت دی اور کفار کے لئے نادمہ ہونا اور فلاح نہ پانا مخصوص کیا اس سے مقصود دنیا کی فلاح اور عدم فلاح نہیں ہے کیونکہ کفار کو اور ان کو جنہوں نے خدا پر افتراء کیا ہر قسم کی فلاح ہوئی اور نہایت اعلیٰ مرتبہ کی فلاح ہوئی بادشاہ ہو گئے لوگوں کے اعتقاد کی یہ حالت ہوئی کہ سجدہ کرنے لگے اور سجدہ کرنے والے سودو و سونیس ملک مغرب کے تمام قبیلے سجدہ کرنے لگے پھر ایک ملک کے تمام قبیلوں میں لاکھوں کی تعداد سے کم نہیں ہو سکتے یہ بھی خوب سمجھ لینا چاہئے کہ جس طرح جھوٹا مدعی نبوت والہام مفتری ہے اور خلقت کو گمراہ کرتا ہے اسی طرح جو اس کے پیرو ہیں وہ بھی مفتری ہیں کیونکہ وہ مفتری کی تصدیق کرتے ہیں اور خدا پر یہ افتراء کرتے ہیں کہ خدا نے اُسے اپنا رسول بنایا خدا کی وحی اس پر اتری اور یہ کہہ کر مخلوق کو گمراہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یہود کو نصاریٰ کو مشرکین کو مفتری علی اللہ کہا ہے کیونکہ بہت سی جھوٹی باتوں کو خدا کی طرف سے وہ بیان کرتے تھے اور اب بھی بیان کرتے ہیں اب ان میں جس نے افتراء کے علاوہ اور عظیم الشان گناہ کیا ہے اسے زیادہ مستحق سزا ہوتا چاہئے مثلاً فرعون کہ اُس نے خدائی کا دعویٰ کیا یا صالح کا پوتا یونس کہ اُس نے علاوہ کفر و افتراء کے نہایت ظلم سے مخلوق کو تباہ کیا اور جبر سے اپنے دادا کی نبوت کو منوایا

اس بیان سے نہایت روشن ہو گیا کہ یہ دعویٰ کہ مفتری ۲۳ برس یا بیس برس کے اندر ہلاک ہو جاتا ہے محض غلط ہے جن بادشاہوں کا ذکر کیا گیا ان کی کارنامی اور فائز المرامی اس غلطی کا روشن ثبوت ہے اُن میں ایک دعویٰ نبوت سے بڑھ کر دعویٰ خدائی کرتا رہا اور ایسا کامیاب رہا کہ اس کی نظیر دنیا میں ملنا مشکل ہے (فرعون کے طویل العمر ہونے میں تو سب کا اتفاق ہے البتہ بعض مجمل لکھ دیتے ہیں کہ طویل العمر تھا جیسا کہ کامل ابن اثیر وغیرہ میں ہے اور بعض صاف طور سے اُس کی عمر کی تعیین کرتے ہیں مثلاً تفسیر فتوحات الہیہ میں ہے ”و عمر فرعون اکثر من اربع مائتہ سنۃ“ یعنی فرعون کی عمر چار سو برس سے زیادہ ہوئی بعینہ یہی مضمون تفسیر مظہری میں اور تفسیر خازن میں اور تفسیر معالم التنزیل میں اور مراح البید میں اور فتح البیان میں ہے اور معتبر مؤرخین یہ کہتے ہیں کہ سلطنت اس کی خاندانی ہے مگر یہ کہ خاص فرعون کتنے دنوں بادشاہ رہا اس کو میں پورے طور سے نہیں کہہ سکتا اکثر کتب تواریخ سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زمانہ دراز تک اس نے ظلم و تعدی کی ہے اور بنی اسرائیل کو ہر طرح تک کرتا رہا ہے مگر بادشاہ اپنے بھائی کے مرنے کے بعد

ہوا ہے، اُس کے بعد حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ اس کی طرف بھیجے گئے ہیں اب ممکن ہے کہ جس وقت بھائی بادشاہ تھا اس کی طرف سے یہ گورنر ہو یا اُس کا وزیر ہو اور ہر قسم کے ظلم و تعدی اور حکمرانی کا اسے موقع ہو اور جس طرح بادشاہ ہو کر مخلوق کو پریشان و گمراہ کرتا اس طرح گدی نشین ہونے کے پہلے سے گمراہ کر سکتا تھا اور کیا اور گدی نشین ہونے کے بعد ہی کیا۔ (دوسرے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ خود ۴۷ برس بادشاہ رہا اور کئی سو برس اُس کی اولاد میں بادشاہت رہی..... اور اس کی اولاد اس مفتری کے پیرو اور خود مفتری رہے اور اُس مفتری کی گمراہی کو اُس سے بہت زیادہ پھیلا یا اور باوجود مفتری ہونے اور گمراہی پھیلانے کے فائز المرام رہے اور سب نے ۲۳ برس سے زیادہ سلطنت کی جو فائز المرامی کا انتہائی مرتبہ ہے۔) جو حضرات مرزا غلام احمد قادیانی پر آنکھیں بند کر کے ان کی ہر بات پر ایمان لائے ہیں وہ خدا کے لئے آنکھیں کھولیں اور اس روشن بیان کو دیکھیں، کیسی عظیم الشان غلطی مرزا قادیانی کی آپ کو دکھائی گئی، محض آپ کی خیر خواہی کے خیال سے ذرا اس پر نظر کیجئے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ مفتری ۲۲ برس تک تو کامیاب رہ سکتا ہے اور گمراہی پھیلا سکتا ہے مگر ۲۳ برس تک نہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بہت سے مفتری اگر ۱۵ برس ۲۰ برس ۲۲ برس گمراہی کو پھیلائیں اور مخلوق کو تباہ کریں اور اپنی معمولی موت سے مر جائیں اور میراث اپنی اولاد کو چھوڑ جائیں تو صادق اور کاذب میں اشتباہ نہ ہو مگر ۳۲ برس اگر زندہ رہے تو اشتباہ ہو جائے، کیا یہ کامل بے عقلی نہیں ہے یا محض زبردستی اس کو نہ کہیں گے ذرا ہوش کر کے جواب دو اور اس قرآن شریف سے ثابت بتانا کلام خدا پر الزام لگانا ہے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ سات نظیریں تو میں نے ایسی پیش کیں جنہیں تمام دنیا کے مسلمان ان کی حالت دیکھ کر عبرت پڑ سکتے ہیں اور مرزائیوں کیلئے خصوصاً ان مثالوں میں کمال عبرت ہے۔

اب میں جماعت مرزائیہ محمودیہ (یعنی جنہوں نے مرزا محمود کو خلیفہ اور اپنا مقتدیٰ مانا ہے جن کا یہ اعتقاد ہے کہ جس نے مرزا قادیانی کو مسیح موعود نہیں مانا وہ کافر ہے) سے خاص خطاب کرتا ہوں کہ وہ فرمائیں کہ جن اہل علم نے مرزا قادیانی کا سخت مقابلہ کیا اور ان کی آخری زندگی تک انہیں ہزیمت دیتے رہے اور ان کے مذہب کی اشاعت میں بہت ہی ہارج ہوئے اور ساری مخلوق پر مرزا قادیانی کی برائیاں بہت کچھ ظاہر کیں وہ اپنے مطالب میں کیوں کامیاب ہوئے یعنی قرآن مجید میں تو خاص ایمانداروں ہی کیلئے فلاح اور فائز المرامی کو مخصوص کیا ہے پھر مرزا قادیانی کے سخت مخالف کیسے کامیاب ہوئے؟ ان میں سب سے اول ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب ہیں کہ



برسوں اُن کے خاص مریدوں میں رہ کر کیسے مخالف ہوئے اور الہام کا بھی دعویٰ کیا اور مرزا قادیانی کے خاص الہاموں میں شریک ہوئے اور مرزا قادیانی کے مقابلہ میں پیشین گوئیاں بھی کیں اور آخر میں وہ پیشین گوئی کی جس نے مرزا قادیانی کا خاتمہ ہی کر دیا اور مرزا قادیانی نے نہایت غیرت اور جوش کیساتھ اُس کے مقابلہ میں پیشین گوئی کی مگر مرزا قادیانی بالکل ناکام رہے اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے نہایت ذلت کی موت سے مرے۔ انہوں نے متعدد در سالے (ان کے رسالوں کے نام یہ ہیں اعلان الحق مسیح الدجال اُس میں ڈاکٹر صاحب نے وہ باتیں لکھی ہیں جن کی وجہ سے مرزا قادیانی کو انہوں نے چھوڑا اور ان کے مخالف ہوئے پہلے بڑے صادق مرید تھے میں روپیہ ماہوار مرزا قادیانی کے پاس بھیجتے رہے اور ہزاروں روپیہ ان کی صداقت کے اظہار میں صرف کیا پھر نہایت تحقیق اور حق طلبی نے انہیں مجبور کیا کہ انہیں جھوٹا اعتقاد کریں ان کا تیسرا رسالہ الذکر الحکیم ہے اس کے کئی نمبر ہیں نمبر ۶۶ لائق دید ہے) مرزا قادیانی کے مقابلے میں لکھے جن کا جواب نہ مرزا قادیانی دے سکا اور نہ کوئی انکا مرید دوسرے سخت مخالف مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری ہیں جن سے مرزا قادیانی نے عاجز ہو کر ۱۵۔ اپریل ۱۹۰۷ء میں اعلان شائع کیا جس کا عنوان جلی قلم سے یہ تھا۔

### مولوی ثناء اللہ کیساتھ آخری فیصلہ

اس عنوان کے نیچے مولوی صاحب کی بہت شکایت ہر ایک بیان کر کے لکھتے ہیں۔ ”اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر ایک پرچے میں مجھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا‘ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے (مرزا قادیانی کا یہ قطعی حکم یاد رہے) اور اُس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔“ یہ تو مرزا قادیانی نے کذاب اور مفتری کے ہلاک ہو جانے کی خبر دی اور اس کی ہلاکت کی وجہ بھی بیان کر دی اس کے بعد دو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی سے دعا کی جس سے خوب ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی مولوی ثناء اللہ صاحب سے نہایت تنگ ہیں پہلی دعا ملاحظہ ہو)

”اے میرے مالک..... اگر میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات

افتراء کرتا میرا کام ہے تو اے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے، آمین!“ (یہ پہلی دعا تھی اب دوسری دعا بھی ملاحظہ کی جائے)

”اے میرے آقا!..... اب میں تیرے تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں پہنچا ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اُس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھالے..... اے میرے پیارے مالک تو ایسا ہی کر آمین، خم آمین!“ (مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۷۸/۵۷۹)

دیکھا جائے کہ کیسی عاجزانہ اور پر مغز دعا ہے اس دعا کے کچھ دنوں کے بعد خدا تعالیٰ کی رحمت عامہ کا مقتضایہ ہوا کہ مولوی صاحب کے سامنے مرزا قادیانی وہابی مرض میں مبتلا ہو کر بہت جلد اپنی دعا کے بموجب ہلاک ہو گئے اور اس دعا کی قبولیت میں تقریباً ایک سال کی دیر ہوئی زیادہ نہیں ہوئی اور خدا کے فضل سے مولوی صاحب اب تک زندہ ہیں (پاکستان بننے کے بعد سرگودھا میں فوت ہوئے) اس دعا کی قبولیت کا نہایت عمدہ اور مفید نتیجہ یہ ہوا کہ نہایت صفائی سے امر حق ظاہر ہو گیا یعنی مرزا قادیانی اپنے مکرر اقرار سے مفسد اور کذاب ٹھہرے اور جو علامت مفسد و کذاب کی انہوں نے بیان کی تھی وہ اُن میں پائی گئی اور مرزا قادیانی کے مقدمہ میں گویا اقراری ڈگری ہو گئی اب حق پسند حضرات ان دعاؤں کو اور اُن کے انجام کو دیکھیں اور مرزا قادیانی کے اُن الہاموں پر نظر کریں جو انہوں نے اپنی قرب خداوندی اور عالی مرتبہ ہونے میں بیان کی ہیں..... ”مثلاً تو بمنزلہ میرے توحید کے ہے اور تو میرے مثل ولد کے ہے“ مرزا قادیانی اپنے لئے یہ الہامات خداوندی بیان کرتے ہیں ہمارے بھائی انصاف فرمائیں کہ جو ایسا مقرب بارگاہ خداوندی ہو وہ اس عاجزی سے دعا کر کے مشتہر کرے اور پھر اس دعا کا یہ نتیجہ ہو کہ اپنے اقرار کے بموجب تمام دنیا کے سامنے مفسد و کذاب ٹھہرے یہ ہو سکتا ہے اس میں غور کر کے مرزا قادیانی کے بارے میں فیصلہ کیجئے ان دونوں حضرات کے علاوہ اور بھی مرزا قادیانی کے مخالفین ہیں مثلاً مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور مولوی عبدالحق صاحب غزنوی کہ تازہ زندگی ان سے سخت مقابلہ رہا بالآخر مرزا قادیانی ہی ان حضرات کے سامنے نہایت حسرت کیساتھ دنیا سے تشریف لے گئے اب یہ دیکھا جائے کہ فلاح پانے والے کون ہوئے؟

جو قادیانی حضرات مسلمانوں کو ذرا یا کرتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی کا مخالف ہوا جس

نے انھیں برے الفاظ سے یاد کیا وہ ضرور مرجائے گا یا مصیبت میں مبتلا ہوگا وہ بتائیں کہ یہ حضرات جن کا ذکر کیا گیا ان سے زیادہ مرزا قادیانی کا مخالف کون ہے اور انھیں نہایت برا کہنے والا ان کے معائب کا ظاہر کرنا والا کون ہے پھر دیکھئے کہ باوجود سخت مخالفت کیسے کامیاب رہے؟ اور صرف مرزا قادیانی ہی ان کے سامنے ہلاک نہیں ہوئے بلکہ ان کے خلیفہ اعظم اور جانشین اول بھی ان حضرات کے رو برو ہلاک ہوئے اور انھیں کے سامنے مرزا قادیانی کی جماعت میں نہایت تفرقہ پڑ گیا اور دو تین گروہ ہو گئے اور ہر ایک گروہ کے نصیحت کن حالات اخبار و غنیمت شائع ہو رہے ہیں اخبار وطن وغیرہ ملاحظہ کیا جائے اگر بقول بعض مرزا نیان انھیں ڈھیل دی گئی تو یہ فرمائیے کہ بعض مخالف جو مرزا قادیانی کے سامنے انتقال کر گئے تو مرزا قادیانی نے کیوں غل چھایا اور اپنی مخالفت کا نتیجہ ظاہر کیا۔ کیونکہ جس طرح یہاں ڈھیل دینے کیلئے کہا جاتا ہے اسی طرح اُن کے قلعین یہ کہیں گے کہ اس وقت مرزا قادیانی کو ڈھیل دی گئی تھی اور اس ڈھیل دینے کی عمدہ وجہ یہ پیش کر سکتے ہیں کہ مشیت الہی نے یہ قرار دے رکھا تھا کہ وہ اپنے ایک سخت مخالف کی پیشین گوئی کے مطابق ہلاک ہوں اور کاذب قرار پائیں اور دوسرے مخالف کے مقابلہ میں اعلانیہ طور سے اپنے اقرار سے منہ دو کذاب ثابت ہوں اگر اس سے پہلے مرتے تو اس امر حق کا ثبوت اس طور سے نہ ہوتا۔ ”فاعتبر و یا اولی الابصار“ اب میں پھر آپ کو اصلی مطلب کی طرف توجہ دلاتا ہوں گذشتہ بیان سے اظہر من الشمس ہو گیا کہ دنیا میں کسی قسم کی فلاح ایمان اور صداقت کی علامت نہیں ہے کیونکہ منکر خدا اور منکر رسول اور ہر قسم کے مفتری اور جھوٹے بہت کچھ کامیاب ہوئے اور ہو رہے ہیں (منکر خدا میں فرعون کی کامیابی دکھائی گئی اور مفتری اور جھوٹوں میں صالح بن طریف اور اس کی اولاد کی فیروز مندی اور بادشاہت دکھائی گئی اور اس وقت کی حالت مشاہدہ ہو رہی ہے دیکھا جائے کہ آریہ کس قدر مخالف اسلام ہیں اسی طرح پادریوں کو دیکھا جائے پھر اُن کی ترقی اور کامیابی کو ملاحظہ کیا جائے یہ بھی خیال رہے کہ اس کامیاب جماعت میں وہ بھی ہیں جنہوں نے وحی والہام کا جھوٹا دعویٰ کیا جن کی کامیابی سے مرزا قادیانی انکار کرتے ہیں) بالتخصیص یہ بھی دکھادیا گیا کہ جھوٹے مدعی وحی والہام میں بھی بہت کچھ کامیاب ہوئے یہاں تک کہ بادشاہ ہو گئے بے شمار خلق نے انھیں نبی و رسول مانا اور اُن کے اعتقاد کی یہ نوبت پہنچی کہ لاکھوں نے انھیں سجدہ کیا اور سینکڑوں برس تک ان کی کامیابی کا آفتاب چمکتا رہا اور دعویٰ نبوت و رسالت کا پھر پراڈتا رہا ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بالاتفاق جھوٹے اور مفسد تھے اور اُن حضرات کی کامیابی کو بھی دکھایا جو خاص مرزا

قادیانی کے مخالف تھے جن کی ناکامی اور موت کے لئے مرزا قادیانی نے ایڑی سے چوٹی تک زور لگایا مگر ان کا کچھ نہ ہوا بلکہ مرزا قادیانی ہی ناکام رہے اور جنہیں وہ مفسد و کذاب کہتے تھے وہ ہی کامیاب ہوئے۔ (اس کی نظیر میں ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب جو الہام کے بھی مدعی ہیں اور مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری اور مولوی محمد حسین صاحب بنالوی اور مولوی عبدالحق صاحب غزنوی پیش کئے گئے آخر الذکر مولوی صاحب وہ ہیں جنہوں نے مرزا قادیانی سے مباہلہ کیا تھا اور کامیاب ہوئے تھے۔) (اعلان اثر مباہلہ عبدالحق غزنوی بر غلام احمد قادیانی مطبوعہ ۱۳۱۲ء ملاحظہ ہو۔)

اب دوسرے پہلو پر نظر کیجئے اور بعض مؤمنین کا ملین کی حالت ملاحظہ فرمائیے، اگرچہ قرآن مجید میں عام سچے مسلمانوں کے لئے فلاح کو خالص کیا ہے مگر ہم بعض مؤمنین کا ملین کی دنیاوی ناکامی دکھا کر یہ ثابت کرینگے کہ قرآن مجید میں فلاح سے مراد دنیا کی کامیابی نہیں ہے کیونکہ دنیا کی ناکامی اگرچہ نہایت درجہ کی ہو مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے یا یہ مدعی جھوٹا ہے، خوب متوجہ ہو کر دیکھئے، کامل مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے اس لئے میں بعض انبیاء کی حالت دکھاتا ہوں اور ان میں سے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا اور حضرت ایوب علیہم السلام کی حالت پیش کرتا ہوں، ذرا عبرت کی نگاہ سے دیکھئے ان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ ہیں جنہیں مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ سے بہت افضل بتاتے ہیں۔

(رسالہ دافع البلاء کا صفحہ آخر، خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۰ حاشیہ ملاحظہ کیا جائے)

اور قرآن مجید میں ان کی فضیلت خاص طور سے بیان ہوئی ہے اور علمائے متعقین نے انہیں سید الشہد اکہا ہے

### حضرت یحییٰ علیہ السلام

حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں اور ہمسر تھے صرف چھ مہینے بڑے تھے بعض کہتے ہیں کہ تین برس آپ کی تعریف میں تفسیر درمنثور میں ایک حدیث نقل کی ہے اس کا نقل کر دینا کافی ہے جس سے حضور انور کی حالت اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مرتبت ظاہر ہوتی ہے صحابہ کرام انبیاء کی فضیلت کا ذکر کر رہے تھے حضور انور تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا ذکر کر رہے ہو صحابہ نے عرض کیا جن انبیاء کی فضیلت کا ذکر اُس وقت آیا ان میں حضرت یحییٰ کا ذکر نہیں تھا۔ ”لَقَالَ اَمَا اَنْه لَا يَنْبَغِي اَنْ يَكُونَ اَحَدٌ خَيْرَ اَمْنٍ يَحْيٰى بَنَ زَكَرِيَّا اَمَا

سمعتم اللہ کیف وصفہ فی القرآن یا یحییٰ خذ الكتاب بقوة“ الخ

(درمنثور ص ۲۶۲ ج ۳ عن ابن عباس)

قرآن مجید میں جو اوصاف حضرت یحییٰ کے آئے ہیں اُس کی بناء پر جناب رسول اللہ نے اپنا خیال صحابہ سے ظاہر فرمایا کہ زیبا نہیں ہے کہ یحییٰ پر کسی کو فضیلت ہو تم نے اللہ کا کلام نہیں سنا اللہ تعالیٰ قرآن میں اُن کی کیسی تعریف کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے یحییٰ کتاب مضبوط پکڑ۔ آپ لڑکپن ہی سے بڑے عابد اور پرہیزگار اور اعلیٰ درجہ کی فہم رکھتے تھے ایک روز لڑکوں نے آپ سے چیلنے کو کہا تو فرمایا کہ ہم اس لئے نہیں بنائے گئے۔ آپ کی خوراک درختوں کے پتے اور جنگل کی گھاس تھی آپ کے پاس دنیا کے مال و متاع سے کچھ بھی نہ تھا اور نہ رہنے کو مکان تھا کھل پہنتے اور جہاں رات ہوتی پڑتے عبادت کرتے کرتے آپ بالکل نحیف و لاغر ہو گئے تھے اور خوف خدا سے روتے روتے آپ کے رخساروں کا گوشت جاتا رہا تھا جس سے آپ کی ڈاڑھیں معلوم ہوتی تھیں جس پر آپ کی والدہ نے دو کپڑے سوتی کپڑے کے رکھ دیئے تھے تاکہ دانت کو ڈھانپ لیں خدا تعالیٰ کی خشیت اور زہد ایسا غالب تھا کہ دنیا کی کسی شے پر نظر نہیں پڑتی تھی اور نہ دنیا کی کوئی خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوتی تھی اسی لئے تمام عمر آپ نے عورت کی صورت نہیں دیکھی آپ کے والد حضرت زکریا اگر وعظ فرماتے اور اُس میں آپ ہوتے تو حضرت زکریا آپ کے خیال سے دوزخ و جنت کا ذکر نہ فرماتے

یہاں آپ کی تمام عمر کی گذران پر نظر کی جائے کہ کس عسرت اور تنگی سے آپ نے اپنی زندگی بسر کی اب اہل دنیا اور مرزا قادیانی ایسے سخت گذران کو کیا کہیں گے اور اُس وقت جو حضرت یحییٰ کے مخالف تھے۔ وہ آپ کو کس قدر نامراد اور ناکام کہتے ہوں گے اور خصوصاً اس واقعے سے جو انجام کار آپ کے ساتھ پیش آیا اور باوجود نہایت عالی مرتبہ نبی ہونے کے کس مظلومانہ حالت سے شہید کئے گئے تقریباً ۳۰ برس کی عمر میں بادشاہ نے آپ کو قید کیا اور دو برس تک قید میں رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمان پر اٹھائے نہیں گئے تھے کہ آپ (یحییٰ) کا سر مبارک بادشاہ نے کنوا کر آپ کے مخالف دشمن کے حوالہ کیا۔ غرضیکہ ۳۲ برس کا آپ کا سن تھا کہ آپ شہید کئے گئے آپ کی پوری حالت بیان کرنے کے لئے تو ایک رسالہ ہونا چاہیے اس مقام پر صرف اس امر کی ضرورت ہے کہ آپ کے شہید ہونے کا ذکر کیا جائے اس لئے میں نہایت معتبر شہادتوں سے اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں اور اس قدر کتب تفاسیر اور تواریخ وغیرہ کے حوالے آپ کو دکھاتا ہوں

کہ آپ کو بجز تسلیم خم کرنے کے کچھ چارہ نہ ہوگا۔

### کتب تفاسیر

۱۔ نام تفسیر: تفسیر عزیزی

اصل عبارت: وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ یعنی ”وہی گفتند پیغمبران را چنانچہ حضرت ہعیاء و زکریا و یحییٰ علیہ السلام را کشیدند و حضرت عیسیٰ علیہ السلام را نیز بزم خود بردار کشیدند۔“  
حاصل مطلب: یہود نے پیغمبروں کو شہید کیا چنانچہ حضرت ہعیاء کو اور زکریا اور یحییٰ کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ کو بھی اپنے گمان میں سولی دیدی

۲۔ نام تفسیر: بیضاوی ص ۷۹

اصل عبارت: وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ فَاَنْتَهُمْ قَتَلُوا شُعِيَاءَ، زَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ  
حاصل مطلب: بلاشبہ یہود نے حضرت ہعیاء اور حضرت زکریا و حضرت یحییٰ و غیرہ کو قتل کیا علیہم السلام  
۳۔ نام تفسیر: مدارک التنزیل جز ۱ ص ۴۱

اصل عبارت: وَقَدْ قَتَلَتِ الْيَهُودُ وَشُعِيَاءَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ صَلَوةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ  
حاصل مطلب: یہود نے حضرت ہعیاء و حضرت زکریا و حضرت یحییٰ کو قتل کیا  
۴۔ نام تفسیر: جلالین مطبوعہ کارخانہ تجارت کتب کراچی ص ۱۴

اصل عبارت: وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اَي قَتَلْتُمْ زَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ  
حاصل مطلب: یعنی تم نے قتل کیا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔  
۵۔ نام تفسیر: معالم التنزیل (مطبوعہ بمبئی) ج ۱ ص ۳۸

اصل عبارت: وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اَي قَتَلْتُمْ مِثْلَ زَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَشُعِيَاءَ وَسَائِرٍ مِّنْ قَتَلُوا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

حاصل مطلب: یہود سے خطاب ہے کہ تم نے قتل کیا زکریا کو یحییٰ کو اور ہعیاء کو اور سوا ان کے اور انبیاء کو علیہم السلام

۶۔ نام تفسیر: مراح اللہ مطبوعہ مصر معتقد امام نووی

اصل عبارت: رَوَىٰ أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْ سَبْعِينَ نَبِيًّا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَلَمْ يَغْتَمُوا حَتَّىٰ قَامُوا فِي آخِرِ النَّهَارِ يَتَسَوَّقُونَ مَصَالِحًا وَقَتَلُوا زَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَشُعِيَاءَ وَغَيْرَهُمْ مِّنْ

الانبياء عليهم السلام لَمْ يجعل لَهُ من قبل سميّاً اى شبيهاً فى الفضل و الكمال  
لانه لم يعص ولم يهجم بمعصية من حال الصغر وانه صار سيد الشهداء على  
الاطلاق

حاصل مطلب: امام نووی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہود نے ابتدائے دن میں ستر انبیاء کو  
قتل کیا اور اس کا کچھ غم و الم انھیں نہ ہوا یہاں تک کہ سہ پہر کو اپنے کام کے لئے بازار گئے اور  
حضرت زکریا اور یحییٰ اور شعیا وغیرہ کو قتل کیا علیہم السلام حضرت یحییٰ کی تعریف میں اللہ کا ارشاد ہے  
کہ ہم نے اس کا سا صاحب فضل و کمال کسی کو نہیں کیا انہوں نے بچپن سے آخر عمر تک گناہ کرنا تو  
کیسا گناہ کا خیال بھی نہیں کیا اور جتنے انبیاء داویا وغیرہ شہید ہوئے مرتبہ شہادت میں سب کے  
سردار آپ ہوئے۔ اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی شہادت کا واقعہ نہایت ہی عبرت خیز  
ہے جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔

۷۔ نام تفسیر: الوجہ فی تفسیر القرآن العزیز

اصل عبارت: فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ مِثْلَ عِيسَىٰ وَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَرِيقًا  
تَقْتُلُونَ مِثْلَ يَحْيَىٰ وَ زَكَرِيَّا

حاصل مطلب: تم نے انبیاء کے ایک گروہ کی تکذیب کی جیسے عیسیٰ اور محمدؐ اور ایک گروہ کو قتل  
کیا مثلاً یحییٰ اور زکریا علیہم السلام

۸۔ نام تفسیر: نیشاپوری بر حاشیہ طبری ج اول

اصل عبارت: وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ وَ لَقَدْ قَتَلُوا الْيَهُودَ يَبْنُو أَسْغِيًا وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيَىٰ  
و غیرہم

حاصل مطلب: یہود ملعون نے شعیا اور زکریا اور یحییٰ وغیرہ کو بلاشبہ قتل کیا، علیہم السلام

۹۔ نام تفسیر: مظہری جلد ۱ ص ۷۷

اصل عبارت: روى ان اليهود قتلت سبعين نبيا في يوم واحد اول النهار  
وقتلتم مثل زكريا ويحيى وشعيا وغيرهم

حاصل مطلب: مروی ہے کہ یہود نے ایک دن میں بیشتر انبیاء کو قتل کر دیا تم نے (یہود نے)  
حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت شعیا کو قتل کیا۔

۱۰۔ نام تفسیر: کشاف جلد اول ص ۱۴۶

اصل عبارت: ذلک ای بسبب کفر ہم و قتلہم الانبیاء و قد قتلوا الیہود لعنوا اشعیا و زکریا و یحییٰ و غیر ہم

حاصل مطلب: یہود ملعون نے حضرت شعیا اور زکریا و یحییٰ وغیرہم کو قتل کیا۔

۱۱۔ نام تفسیر: رحمانی ص ۳۶

اصل عبارت: ویقتلون النبین شعیا و زکریا و یحییٰ و غیر ہم علیہم السلام

حاصل مطلب: یہود نے قتل کیا شعیب کو اور زکریا اور یحییٰ وغیرہ کو علیہم السلام

۱۲۔ نام تفسیر: تفسیر خازن ج اول ص ۵۸

اصل عبارت: یروی ان الیہود قتلت سبعین نبیا فی اول النهار وقامت الی

السوق بقلہا فی آخرہ و قتلوا زکریا و یحییٰ و شعیا و غیرہم من الانبیاء

حاصل مطلب: روایت ہے کہ یہود نے ابتداء دن میں ستر انبیاء کو قتل کیا اور دن کے آخر میں

اپنے بازار کا کام کیا اور حضرت زکریا اور یحییٰ اور شعیا وغیرہ انبیاء کو قتل کیا۔

۱۳۔ نام تفسیر: تفسیر علامہ ابی السعود جلد اول جز اول ص ۱۰۷

اصل عبارت: ویقتلون النبین بغیر الحقّ کشعیا و زکریا یحییٰ علیہم السلام

حاصل مطلب: یہود نے انبیاء کو قتل کیا مثلاً حضرت شعیا کو اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو علیہم السلام

۱۴۔ نام تفسیر: درمنثور جلد ۴ ص ۲۶۲۔ ایضاً جلد ۱ ص ۷۳

اصل عبارت: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن اشہید ابن اشہید یلبس

الوبر و یا کل الشجر مخافة الذنب یحییٰ بن زکریا علیہ السلام

حاصل مطلب: صحابہ انبیاءوں کی فضیلت کا ذکر کر رہے تھے کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ شہید

کے بیٹے شہید کہاں ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے جو کبیل پہننے تھے اور پتے کھاتے تھے یعنی یحییٰ زکریا

کے بیٹے علیہم السلام، یہاں صاف حدیث سے حضرت یحییٰ اور زکریا علیہم السلام کا شہید ہونا ثابت

ہوا تفسیر درمنثور کے حوالے مرزا قادیانی نے اپنے دعوؤں کے اثبات میں بہت دیئے ہیں اس

لئے ان کے متبعین کو ضرور ہے کہ اس روایت کو وہ تسلیم کریں حدیث کا یہ ٹکڑا کثر العمال میں ابن

شہاب زہری سے مرسل مروی ہے اور اب مرزائیوں کے کثر العمال کے حوالے دیکھے جاتے ہیں

اس لئے یہ روایت بھی انہیں ماننا ہوگی غرضیکہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کا شہید ہونا حدیث

مرفوعہ اور حدیث مرسل دونوں سے ثابت ہو گیا۔



وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَتْ  
 بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْيَوْمِ تَقْتُلُ ثَلَاثَ مِائَةِ نَبِيٍّ ثُمَّ يَقِيمُونَ سُوقَ بَقْلِهِمْ فِي آخِرِ النَّهَارِ  
 حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ ایک روز میں تین  
 سو انبیاء کو قتل کیا اور پھر دوسرے وقت بازار ہاٹ کا کام کیا یعنی ایسے برگزیدگان خدا کے قتل کی کچھ  
 پرواہ نہیں کی اس روایت کو ابوداؤد طیالسی نے نقل کیا ہے۔

۱۵۔ نام تفسیر: النہر الماد بر حاشیہ بحر محیط ج ۱ ص ۲۳۶

اصل عبارت: وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ يَحْيَىٰ وَشُعْيَا وَزَكَرِيَّا قِيلَ قَتَلُوا ثَلَاثَ مِائَةِ نَبِيٍّ أَوْ سَبْعِينَ  
 حاصل مطلب: یہود نے انبیاء کو قتل کیا یعنی حضرت یحییٰ اور شعیا اور حضرت زکریا کو یہ بھی کہا  
 گیا ہے کہ تین سو انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا یا ستر کو یعنی دونوں روایتیں ہیں۔

۱۶۔ نام تفسیر: بحر محیط جلد اول ص ۲۳۶

اصل عبارت: وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ قَتَلُوا يَحْيَىٰ وَشُعْيَا وَزَكَرِيَّا وَرَوَىٰ عَنْ ابْنِ  
 مَسْعُودٍ قَتَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ سَبْعِينَ نَبِيًّا وَفِي رِوَايَةٍ ثَلَاثَ مِائَةِ نَبِيٍّ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ  
 وَقَامَتْ سُوقُ بَقْلِهِمْ فِي آخِرِهِ

حاصل مطلب: یہود نے حضرت یحییٰ اور شعیا اور زکریا کو قتل کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود  
 سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل نے ستر نبیوں کو قتل کیا اور ایک روایت میں تین سو انبیاء کا قتل ہونا آیا ہے۔

۱۷۔ نام تفسیر: تفسیر ابن عباس بر حاشیہ درمنثور جلد اول ص ۳۹

اصل عبارت: وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَفَرِيقًا قَتَلَهُمْ يَحْيَىٰ وَزَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ  
 حاصل مطلب: حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رضی اللہ عنہ کی تفسیر جو مشہور ہے اُس میں بھی  
 وہ فرماتے ہیں کہ یہود کے ایک گروہ نے حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کو قتل کیا

۱۸۔ نام تفسیر: جمل ج ۱ ص ۷۲

اصل عبارت: رَوَىٰ أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْ سَبْعِينَ نَبِيًّا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ رَوَىٰ لَمْ يَبَالُوا وَلَمْ  
 يَفْتَمَحُوا حَتَّىٰ قَامُوا فِي آخِرِ النَّهَارِ يَتَسَوَّفُونَ مَصَالِحَهُمْ وَقَتَلُوا زَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَ  
 شُعْيَا وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

حاصل مطلب: مروی ہے کہ یہود نے ایک دن دو پہر سے پہلے ستر انبیاء کو قتل کیا اور کچھ  
 پرواہ اس کی نہ کی کہ ہم نے خدا کے برگزیدہ رسولوں پر یہ ظلم کیا یہاں تک کہ سہ پہر کو بازار ہاٹ کا

کام بے تکلف کیا اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ وغیرہ انبیاء کو بھی قتل کیا۔

۱۹۔ نام تفسیر: کبیر ج ۲ ص ۶۶۴

اصل عبارت: قال ابن عباس لم قتل یحییٰ قبل رفع عیسیٰ علیہما السلام حاصل مطلب: حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ کے اٹھائے جانے سے قبل یحییٰ قتل کئے گئے۔

و یوم یبعث حیا و انما قال (حیا) تنبیہا علی کونہ من الشهداء لقولہ تعالیٰ (بل اخیاء عند ربہم یروزقون) ایضاً

حضرت یحییٰ کی نسبت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز حالت زندگی میں اٹھائے جائیں گے امام رازی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لفظ حیا نے متنبہ کر دیا کہ حضرت یحییٰ شہیدوں میں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں جب حضرت یحییٰ کی نسبت خاص طور پر ارشاد خداوندی ہے کہ وہ قیامت کے روز زندہ میدان حشر میں لائے جائیں گے بغیر مکر جلائے جانا اور میدان میں اُن کا لانا تو حضرت یحییٰؑ سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام مخلوق کا یہی حال ہوگا تو حضرت یحییٰؑ کی نسبت یہ کہنا کہ وہ زندہ اٹھائے جائیں گے اسی غرض سے ہے کہ وہ شہید ہو کر اللہ کے پاس زندہ رہے اور اُسی زندگی کی حالت میں میدان حشر میں آکھڑے ہوں گے حضرت یحییٰؑ کے شہید ہونے پر امام رازی کا یہ عمدہ استدلال ہے۔ الحاصل حضرت یحییٰؑ کا شہید ہونا امام رازی قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں اور اس سے پہلے قول میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے قول سے ان کا شہید ہونا بیان کیا تھا امام رازی کی تفسیر کا حوالہ مرزا قادیانی اپنے قول کے ثبوت میں شذوذ سے پیش کرتے ہیں انجام آتھم دیکھا جائے اسی سے معلوم ہوا کہ تفسیر کبیر بہت مستند تفسیر ہے۔

۲۰۔ نام تفسیر: ابوالسعود جلد اول جز ثانی ص ۳۲

اصل عبارت: قال ابن عباس علیہ السلام ان یحییٰ کان اکبر من عیسیٰ علیہما الصلوۃ والسلام بستہ شہر وقیل بہ ثلث سنین و قتل قبل رفع عیسیٰ علیہ السلام بمملۃ بیسرۃ حاصل مطلب: عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یحییٰ عیسیٰؑ سے چھ مہینے بڑے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ تین برس اور حضرت عیسیٰؑ کے اٹھائے جانے کے کچھ دنوں پہلے حضرت یحییٰ قتل کئے گئے۔

۲۱۔ نام تفسیر: روح المعانی جز ۲ ص ۱۲۹

اصل عبارت: سَمِیْ یَحِیْیْ لَانَهْ عَلِمَ اللّٰهُ سُبْحَانَهْ اَنْ یَسْتَشْهَدَ وَ الشَّهَدَاءُ اَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یَرْزُقُوْنَ

حاصل مطلب: صاحب روح المعانی نے یحییٰ نام رکھنے کی کئی وجہ بیان کی ہیں ایک وجہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کا نام اللہ تعالیٰ نے یحییٰ اس لئے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ شہید ہونے والے تھے اور شہداء اللہ کے نزدیک زندہ ہیں انھیں موت نہیں ہے اور یحییٰ کے معنی زندہ کے ہیں اس لئے ان کا نام یحییٰ رکھا گیا یعنی ہمیشہ زندہ رہیں گے۔

و یَحِیْیْ عَلَیْہِ السَّلَامُ اِنَّمَا قَتَلَ لِقِصَّةِ تِلْكَ الْاَمْنِ لَعْنَهَا اللّٰهُ تَعَالٰی وَ کَذٰلِکَ زَکَرِیَّا۔ ایضاً زل اوّل ص ۲۵۲

حضرت یحییٰ اور زکریا اس ملعونہ عورت کے قصہ کی وجہ سے قتل کئے گئے (جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔

۲۲۔ نام تفسیر: فتح البیان جلد ۱ ص ۱۲۰

اصل عبارت: لَانِ الْاَنْبِیَاءَ لَمْ یُعَارِضُوْهُمْ فِیْ مَالٍ وَ لَا جَاوِہٍ اِلَّا رِشْدٌ وَ هُمْ اِلٰی مَصَالِحِ الدِّیْنِ وَ الدُّنْیَا کَمَا کَانَ مِنْ شَعْبًا وَ زَکَرِیَّا وَ یَحِیْیَ فَاَنْهَمُ قَتَلُوْهُمُ وَ هُمْ یَعْلَمُوْنَ وَ یَعْتَقِدُوْنَ اَنْهُمْ ظَالِمُوْنَ وَ اِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلٰی ذٰلِکَ حُبُّ الدُّنْیَا وَ اتِّبَاعُ الْهَوٰی

حاصل مطلب: انبیاء علیہم السلام نے کسی کے مال و جاہ میں جھگڑا نہیں کیا بلکہ دین اور دنیا کے مصالح کی طرف انہیں ہدایت کی مثلاً حضرت شعیا اور زکریا اور یحییٰ (علیہم السلام) نے مگر انہوں نے ان انبیاء کو قتل کیا حالانکہ جانتے تھے کہ ہم ظالم ہیں اور دنیا کی محبت اور نفس کی پیروی نے انہیں اس پر آمادہ کیا تھا مرزائیوں کی حالت سے اس کا معائنہ ہو رہا ہے قتل کرنے سے تو مجبور ہیں مگر اور سب کچھ کر رہے ہیں جنہیں کوئی سچا مسلمان نہیں کہہ سکتا۔

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ کَانَتْ بَنُوْ اِسْرَآئِیْلَ فِی الْیَوْمِ یَقْتُلُوْنَ ثَلَاثَ مِائَةِ نَفْسٍ ثُمَّ یَقِیْمُوْنَ سَوْقٍ بِقُلُوْبِهِمْ فِیْ اَحْرَآئِنَہَا۔

عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ ایک دن میں انہوں نے تین سو انبیاء کو قتل کیا اور شام کو ترکاری کا بازار لگایا یعنی کچھ پرواہ نہیں کی

۲۳۔ نام تفسیر: الفتوحات البیہ جلد ۱ ص ۷۲

**اصل عبارت:** قوله و يقتلون النین الخ روى عن اليهود قتل سبعین نبیاً فی اول النہار ولم یبالوا ولم یفتنوا حتی اقاموا فی اخر النہار یتسوقون مصالحہم وقتلوا زکریا۔

**حاصل مطلب:** روایت ہے کہ یہود نے ستر انبیاء کو سویرے شہید کر دیا اور کچھ پرواہ نہ کی اور ایسے بے پرواہ ہوئے کہ شام کو بازار کے کام کئے اور زکریا اور یحییٰ اور شعیا وغیرہ کو قتل کیا۔

انبیاء کے قتل کی تعداد بعض روایتوں میں تین سو ہے اور بعض میں ستر ہے اس کی ظاہر وجہ یہ ہے کہ قتل کا ایک واقعہ نہیں ہے متعدد واقعے ہیں کسی وقت ستر انبیاء کو قتل کیا اور کسی وقت تین سو یہ دونوں واقعے علیحدہ علیحدہ روایت ہوتے چلے آتے ہیں۔

یہ ۲۳ تفسیروں کی شہادتیں پیش کی گئی اب چند مرقمیں بھی گواہیاں بھی ملاحظہ ہوں۔

## عبارات کتب توارخ

نمبر شمار: ۲۴/۱

نام کتاب: تاریخ طبری جلد ۲ ص ۱۳۶۳

**اصل عبارت:** ان یحیی قتل قبل ان یرفع عیسی قال حاجتی ان تذبح لی یحیی بن زکریا فقال سلینی غیر هذا قالت ما اسئلك الا هذا قال فلما ابت علیہ دعا یحیی و دعا بطست فذبحہ انتھی ملتقطاً۔

**مطلب:** علامہ مؤرخ طبری لکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰؑ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کے اٹھائے جانے سے پہلے شہید کئے گئے۔ مؤرخ ممدوح حضرت یحییٰؑ کی شہادت کی وجہ اس طرح روایت کرتا ہے کہ اُس وقت کا بادشاہ اپنی بھتیجی پر فریفتہ تھا اور اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا اور بسبب ممنوع ہونے کے حضرت یحییٰؑ اُسے منع کرتے تھے ایک روز وہ آئی اور بادشاہ نے اُس سے کہا تو کیا مانگتی ہے اُس (ملعون) نے کہا کہ حضرت یحییٰؑ کو ذبح کر کے مجھے دیدے بادشاہ نے کہا کچھ اور مانگ لڑی نے کہا میں اور کچھ نہیں مانگتی یہی مانگتی ہوں بادشاہ نے حضرت یحییٰؑ کو بلایا اور ایک طشت منگایا اور سر مبارک کاٹ کر اس میں رکھ دیا اس کے بعد مؤرخ نے حضرت یحییٰؑ کے قتل کر نیکی مفصل وجہ ۱۵۱۳ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کی ہے۔

نمبر شمار: ۲۵/۲

نام کتاب: ابن خلدون جلد ۲

اصل عبارت: وقتل فیہم یحییٰ صلوة اللہ علیہ وقد ذکر فی قتله اسباب کثیرہ ص ۱۴۴ اختصار کے خیال سے پوری عبارت نقل نہیں کی گئی صرف حضرت یحییٰ کے قتل کے متعلق جملہ لکھ دیا گیا ہے

مطلب: ابن خلدون نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور ان کی نبوت اور آسمان پر اٹھائے جانے کے ذکر میں حضرت یحییٰ کی ولادت اور شہادت کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اُس وقت یہود کا بادشاہ ہیرودس تھا اور بڑا شریر اور فاسق تھا اُس نے کتنے حقانی علماء کو قتل کیا اور حضرت یحییٰ کو بھی شہید کر دیا اور آپ کے شہید کر دینے کے مختلف وجوہ بیان کئے گئے ہیں۔

نمبر شمار: ۲۶/۳

نام کتاب: تاریخ طبری فارسی جلد ۲ ص ۲۳۵

اصل عبارت: پس ملک در اں مستی بفرمود کہ سر یحییٰ را بیا رند و یحییٰ علیہ السلام را سر بریدند و رطشتی نہادہ بہ پیش ملک بردند و ملک آن طشت را با سر بریدہ یحییٰ علیہ السلام پیش آن دخت نہاد۔ مطلب: تاریخ طبری فارسی میں علامہ ابوعلی محمد نے حضرت مریم کے انتقال اور حضرت یحییٰ کے شہید ہونے کی نسبت خاص باب منعقد کر کے حضرت یحییٰ کے شہید ہونے کی حالت لکھی ہے کہ بادشاہ ہیرودس نے نشہ میں سرشار ہو کر اپنی محبوبہ کے کہنے سے حضرت یحییٰ کے سر کاٹنے کا حکم دیا اور اس کے لوگ سر مبارک کاٹ کر لائے اور طشت میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور بادشاہ نے وہ طشت معاً اُس سر مبارک کے اپنی محبوبہ لڑکی کو دیدیا۔

نمبر شمار: ۲۷/۴

نام کتاب: تاریخ کامل جلد اول ص ۲۳۰/۲۳۱ باب ذکر المسیح عیسیٰ بن مریم و یحییٰ بن زکریا علیہم السلام

اصل عبارت: وبعث اللہ عیسیٰ رسولاً نسخ بعض احکام التوراة فکان ممانسخ انہ حرم نکاح بنت الاخ و کان الملکھم و اسمہ ہیرودس بنت اخ تعجبہ یریدان یتز و جہا فنهاہ یحییٰ عنہا و کان بہا کل یوم حاجتہ یقضیہا لہا فلما بلغ ذلک امہا قالت لہا اذا سالک الملک ما حاجتک فقولی ان تذبح یحییٰ ابن زکریا فلما دخلت علیہ و سالہا ما حاجتک قالت ارید ان تذبح یحییٰ

بن زکریا فقال مثل غیر هذا قالت ما سالک غیرہ فلما ابت دعا یحییٰ و دعا  
بسطت فلدبحہ فلما رات الراس قالت الیوم قرت عینی

مطلب: علامہ ابن اثیر اپنی مشہور تاریخ کامل میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰؑ کو  
اپنا رسول کہا۔ انہوں نے توریت کے بعض احکام منسوخ کئے جو احکام منسوخ کئے گئے ان میں  
سے ایک یہ تھا کہ بھائی کی بیٹی سے نکاح حرام ہے پہلے حرام نہ تھا اس وقت جو بنی اسرائیل کا بادشاہ  
تھا اُس کی ایک بھینچی تھی وہ اُسے بہت چاہتا تھا اور اُس سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا حضرت یحییٰ  
نے اُسے منع کیا وہ لڑکی اُس بادشاہ کے پاس آیا کرتی تھی اور جو خواہش وہ کرتی تھی بادشاہ اُسے پورا  
کرتا تھا اتفاق سے لڑکی کی ماں کو خبر پہنچی کہ حضرت یحییٰ لڑکی کے نکاح کو منع کرتے ہیں۔ اُس نے  
اپنی لڑکی سے کہہ دیا کہ بادشاہ جس وقت پیار میں تجھ سے دریافت کرے کہ تو کیا چاہتی ہے تو کہو  
کہ یحییٰ کو ذبح کر دے اُس کے بعد جو وہ لڑکی بادشاہ کے پاس گئی اور بادشاہ نے اُس سے پوچھا کہ  
تو کیا چاہتی ہے اُس نے حضرت یحییٰ کا سر مانگا بادشاہ نے کہا کہ اس کے سوا اور کچھ مانگ لڑکی نے  
کہا کہ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگتی جب اس لڑکی نے انکار کیا تو بادشاہ نے حضرت یحییٰ کو بلایا  
اور ایک طشت منگایا اور حضرت یحییٰ کا سر مبارک کاٹ کر طشت میں رکھ دیا اُس لڑکی نے جب سر  
مبارک کو طشت میں رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ آج میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔

نمبر شمار: ۲۸/۴

نام کتاب: الاخبار الطوال ص ۴۲

اصل عبارت: لما انبعث اللہ عیسیٰ بن مریم فاقلت اليهود لقتله فرفعہ اللہ الیہ  
التو یحییٰ بن زکریا فقتلوه

مطلب: جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو یہود ان کے قتل کے درپے ہوئے انہیں  
اللہ تعالیٰ نے اٹھالیا حضرت یحییٰ تشریف لائے انہیں یہود نے قتل کر دیا ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا  
ہے کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کے رفع کے بعد قتل کئے گئے مگر اور کتب تواریخ سے معلوم ہوتا ہے  
کہ کچھ پہلے شہید کئے گئے ہیں شاید مؤرخ کا مقصود دونوں واقعوں کا بیان کرنا ہے ترتیب واقعہ کا  
ذکر مقصود نہیں ہے حاصل یہ کہ حضرت یحییٰ کا شہید ہونا جس طرح اور مؤرخین نے بیان کیا اسی  
طرح صاحب اخبار الطوال بھی بیان کرتا ہے۔

نمبر شمار: ۲۹/۶

نام کتاب: تاریخ الفدا جلد اول ص ۳۳

مطلب: حضرت زکریا حضرت مریم کے خالوتھے اس لئے مریم انہیں کی کفالت میں تھیں قدرت خدا سے جب یہ حاملہ ہوئیں تو یہود نے حضرت زکریا پر تہمت لگائی اور انہیں پکڑنا چاہا یہ بھاگے اور ایک بہت موٹے درخت میں پوشیدہ ہو گئے یہود نے اُس درخت کو کاٹ ڈالا حضرت زکریا بھی اُس میں کٹ گئے حضرت یحییٰ کے قتل کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ ہیرودس بادشاہ اپنی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا تھا حضرت یحییٰ نے منع فرمایا اس وجہ سے اُس لڑکی کی ماں دشمن ہو گئی اس لئے اُس نے اور اُس کی بیٹی نے بادشاہ سے بہت اصرار سے کہا کہ یحییٰ کو مار ڈال بادشاہ نے قتل کرنے کا حکم دیا اور وہ اُن کے رو برو قتل کرائے گئے۔

نمبر شمار: ۳۰/۷

نام کتاب: انجیل متی باب ۱۳ آیت ۲۱ تا ۲۰

مطلب: ہیرودس نے یوحنا (یحییٰ) کو ہیرودیس کے سبب جو اُس کے بھائی فیلیپس کی جوڑ تھی گرفتار کیا اور باندھ کے قید خانہ میں ڈال دیا تھا (اس لئے کہ یوحنا نے اُس سے کہا تھا کہ تجھے اُس کو رکھنا روا نہیں) اور ہیرودس نے چاہا کہ اُسے مار ڈالے پر عوام سے ڈرا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے پر جب ہیرودس کی سالگرہ لگی ہیرودیس کی بیٹی ان کے درمیان ناچتی اور ہیرودس کو خوش کیا چنانچہ اُس نے قسم کھا کے وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی میں تجھے دوں گا تب وہ جیسا اُس کی ماں نے اُسے سکھا رکھا تھا بولی کہ یوحنا (یحییٰ) بچسمہ دینے والے کا سر تھالی میں ہمیں مجھے منگوادے۔ تب اُس نے لوگوں کو بھیج کر قید خانہ میں یوحنا (یحییٰ) کا سر کٹوایا اور اُس کا سر تھالی میں لا کے اُس لڑکی کو دیا

نمبر شمار: ۳۱/۷

نام کتاب: انجیل مرقس باب ۶

مطلب: اس میں بھی وہی مضمون ہے جو ابھی انجیل متی سے نقل کیا گیا یہ دونوں حوالے تاریخی حیثیت سے نقل کئے گئے ہیں یعنی اگرچہ اُس کتاب سے نقل کئے ہیں جسے تمام نصاریٰ انیس سو برس سے آسمانی کتاب مقدس مانتے چلے آئے ہیں۔ اور مرزا قادیانی نے بھی انہیں کتاب مقدس مانا ہے اور اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔ (توضیح المرام ص ۳ خزائن ج ۳ ص ۵۲-۵۳ ملاحظہ کیا جائے) مگر میں اس وقت تاریخی حیثیت سے اس کا

حوالہ دے رہا ہوں، عیسائیوں کا متفق اور طے شدہ قول ہے کہ پہلی انجیل حضرت مسیح کے مقرب حواری کی لکھی ہے اور تمام عیسائی مانتے ہیں یہ حواری حضرت یحییٰ کے ہم عصر تھے اور دوسری انجیل حواری کے ایک شاگرد نے لکھی ہے غرضیکہ یہ دونوں تاریخیں حضرت یحییٰ کی شہادت کے قریب لکھی گئیں اور ایک عظیم الشان گروہ اُس کتاب کو مقدس اور آسمانی کتاب اعتقاد کر کے اُس کی حفاظت کرتا رہا ہے اور کرتا ہے اس لئے کم سے کم تاریخی حیثیت سے اُسے معتبر ماننے میں کلام نہیں ہو سکتا یہ ۳۱ شہادتیں تو معتبر مفسرین اور مؤرخین کی نظارین ملاحظہ کر چکے اب میں خاص ان کی شہادت پیش کرتا ہوں جن کے مرید حضرت یحییٰ کی شہادت کو جھوٹ بتاتے ہیں۔

## (۳۲) شہادت حضرت یحییٰ کے شہید ہونے کی

بقول خود مجدد دوران مسیح قادیان مرزا غلام احمد قادیانی اپنی مایہ ناز کتاب ازالۃ الاوهام کے حصہ اول میں فرماتے ہیں ”حضرت یحییٰ نے بھی یہودیوں کے فقہیوں اور بزرگوں کو سانپوں کے بچے کہہ کر ان کی شرارتوں اور کارسازوں سے اپنا سر کٹوایا۔“

(ازالہ اوہام ص ۱۶۹ خزائن ج ۳ ص ۱۱۰)

(حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کئے جانے کی وجہ ہم نے انجیل سے اور متعدد تاریخوں سے نقل کی ہے جو نہایت معقول وجہ ہے، مگر مرزا قادیانی ایسی معجزہ کہہ کر کہیں لکھتے ہیں چونکہ انبیاء کی عظمت مرزا قادیانی کے قلب میں نہیں ہے اور اپنی بد زبانی کے الزام کو اٹھانا چاہتے ہیں اس لئے حضرت یحییٰ کے شہید کئے جانے کی وجہ انجیل کے اور مؤرخین و مفسرین کے خلاف ایسی بیان کرتے ہیں جن سے ان کی تیز زبانی ثابت ہو۔)

اب مرزا قادیانی کے وہ مرید اور سلطان القلم کے شاگرد کہاں ہیں جو حضرت یحییٰ کے واقعہ شہادت کو جھوٹ بتاتے ہیں؟ اب انہیں چاہئے کہ اپنے مرشد کو جھوٹا کہیں، کیونکہ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ حضرت یحییٰ نے سخت کلامی کر کے یہود سے اپنا سر کٹوایا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہود نے آپ کو شہید کیا۔

اب جماعت احمدیہ مرزا سیہ کی بے خبری اور بے علمی لائق ملاحظہ ہے کہ جس واقعہ کو تیرہ سو برس سے تمام علماء حقانی تسلیم کرتے رہے صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کے اقوال سے اُس کی تصدیق ہو رہی ہے حدیث میں اُس کا ثبوت موجود ہے، بعض مفسرین نے قرآن مجید کے الفاظ سے اُسے



ثابت کیا ہے تمام علماء مفسرین اور محدثین اور مؤرخین ایک زبان ہو کر اس واقعہ کے مصدق ہیں کسی کا اختلاف اس میں نہیں پایا جاتا، بایں ہمہ جماعت مرزا سیہ انبیاء کرام کی شہادت سے انکار کرتی ہے اور بالخصوص اس واقعہ مذکورہ کو جھوٹا کہتی ہے حالانکہ یہ وہ واقعہ ہے کہ اس کے سچے ہونے میں کسی مسلمان کو تامل نہیں ہو سکتا، تیرہ سو برس سے تمام امت محمدیہ کا اس پر اتفاق چلا آتا ہے اور جب اس اتفاق کے ساتھ اس کی پوری تصدیق انجیل سے بھی ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ ایسا سچا واقعہ ہے کہ انیس سو برس سے کسی کا اختلاف اس میں نہیں ہے عیسائی اور مسلمان سب جانتے چلے آتے ہیں اور بلا اختلاف سب کی کتابوں میں اس کی تصدیق موجود ہے یہی وہ مضمون ہے جو فیصلہ آسمانی حصہ دوم کے ص ۶۷ میں لکھا گیا ہے اور مسیح کا ذب (مرزا) کے بعض ماننے والوں نے اس سے انکار کیا ہے اور جھوٹ بتایا ہے جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ سے لیکر اس وقت تک جس قدر کاطلین گذرے ہیں اور اس واقعہ کی شہادت دے رہے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں (نعوذ باللہ منہ) اور جتنی تفسیریں اور تاریخیں وغیرہ ہیں سب غیر معتبر ہیں سب نے یہ واقعہ جھوٹ لکھا ہے جس شخص یا جس گروہ کا یہ قول ہو اُس کے جھوٹے اور غیر معتبر ہونے میں کسی مسلمان کو تامل نہیں ہو سکتا۔

براہِ اراد ان اسلام! اس پر غور کریں کہ جو بات ایسی محکم طور سے ثابت ہو کہ حدیث و تفسیر سے اُس کا ثبوت ہو، تمام علماء محققین اور متاخرین کا اُس پر اتفاق ہو تیرہ سو برس کے عرصہ میں کسی کا اختلاف اُس میں ثابت نہ ہو اس کے ساتھ ایک دوسرے گروہ عظیم الشان کا اتفاق اس پر انیس سو برس سے پایا جائے اگر ایسی محکم اور متفق علیہ بات جھوٹ اور غیر معتبر ہو جائے تو دین کی کسی بات پر اعتبار نہیں ہو سکتا یہ شخص در پردہ دین کی بیخ کنی کے درپے ہے اور صرف عوام کے فریب دینے کو قرآن اور حدیث کا نام لیتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث کا ثبوت علماء کے روایت و اتفاق ہی سے ہے اور یہ شخص اُسی کو غیر معتبر کہہ رہا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانکی باتیں اسی طرز کی ہیں اسی لئے ان کے پیرو بھی اُسی قسم کی باتیں کرتے ہیں اب یہ انکی جہالت ہو یا قصد ایسا کرتے ہیں دیکھا جائے کہ یہ گروہ اپنے آپ کو اہل سنت اور حنفی کہتا ہے حالانکہ ان کے عقائد ان کے اعمال اہل سنت کے خصوصاً احناف کے بالکل خلاف ہیں اُس میں فریب یہ ہے کہ بظاہر عقیدوں کے بیان میں وہی الفاظ لاتے ہیں جو الفاظ اہل سنت نے لکھے ہیں مگر ان کے معنی ایسے بنا رکھے ہیں جو کسی اہل سنت کے خیال میں کبھی نہیں آئے اور نہ آ سکتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے مگر اہل سنت

کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے اور تمام محبوب سے پاک ہے مگر مرزا قادیانی کے نزدیک اُس کی ذات صادق الوعد اور متین نہیں ہے وعدہ کر کے محو کر دیتا ہے جو اس کے ثبوت میں ”يُمْخُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ“ الخ پیش کرتے ہیں۔

(دیکھو تہذیبۃ الوحی ص ۱۳۳ خزائن ج ۲۲ ص ۵۷۰-۵۷۱)

کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ اُس کے بعض وعدوں میں پوشیدہ شرطیں ہوتی ہیں کہ بندے کو اُس کا علم نہیں ہوتا اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کا کوئی وعدہ لائق اعتبار نہیں ہے۔

اہل سنت کے نزدیک خدا کے رسول معصوم ہیں گناہ نہیں کرتے وحی کے سمجھنے میں اُسے غلطی نہیں ہو سکتی، مرزا قادیانی کے نزدیک معصوم ہونا تو بہت بڑا مرتبہ ہے بعض انبیاء سے ایسے افعال بھی ہوتے ہیں جو کسی شریف دیندار سے بھی نہیں ہو سکتے، حضرت عیسیٰؑ کی طرف جو شرمناک باتیں مرزا قادیانی نے منسوب کی ہیں ان کا زبان قلم پر لانا دشوار ہے۔

(دافع البلاء صفحہ آخر (خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۰) اور ضمیر انجام آتھم (ص ۲۵۵ خزائن ج ۱۹ ص ۲۸۹-۲۹۱) دیکھا جائے)

جب انبیاء کی یہ حالت ہے تو کسی فہمیدہ کے نزدیک ان کا کلام لائق اعتبار نہیں ہو سکتا۔

وحی کے غلط معنی سمجھنے کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں۔ اس جماعت میں کسی کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ وحی کے معنی سمجھنے میں غلطی کرنا اور بات ہے اور خطائے اجتہادی اور شے ہے اگر وحی کے معنی سمجھنے میں رسول غلطی کرے اور اپنی غلطی کو کلام خدا کہہ دے تو اس کے کسی قول پر اعتبار نہ رہے، فرشتوں کی نسبت جو تیرہ سو برس سے مسلمانوں کا عقیدہ چلا آتا ہے مرزا قادیانی اس سے صاف انکار کرتے ہیں اور مشرکانہ اور ملحدانہ طریقہ ملا کر یہ کہتے ہیں کہ ستاروں کی روح کا نام فرشتہ اور جن ہے۔ (توضیح المرام ص ۳۰-۳۳ خزائن ج ۳ ص ۶۶-۶۸ ملاحظہ ہو)

غرضیکہ تمام اصول عقائد اسلامیہ مرزا قادیانی نے درہم و برہم کر دیئے ہیں مگر سخت دھوکا یہ دیا ہے کہ الفاظ وہی ہیں جو اہل سنت لکھتے ہیں، مگر جب حقیقت امر کو پردہ اٹھا کر دیکھا جائے اس وقت واقعی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔

برادران اسلام! میں نہایت خیر خواہانہ کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے کلام سے جو ان کے عقائد معلوم ہوتے ہیں اگر انھیں سچا مانا جائے تو مذہب اور دین الہی کوئی لائق اعتبار چیز نہیں رہتی جو ذی علم و وسیع النظر ان کے رسالوں کو دیکھے گا وہ اس کا یقین کرے گا کہ یہ ایک معنی بات تھی اب مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب کو دکھانا ہے تاکہ اہل اسلام عبرت پکڑیں اور مصیبت میں

پریشاں نہ ہوں خدا کے برگزیدہ اور اعلیٰ مرتبہ کے برگزیدہ کی حالت کو پیش نظر رکھیں۔

### حضرت ایوب علیہ السلام

حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحق کی اولاد میں سے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے داماد تھے اور بڑے مالدار صاحب جاہ اور صاحب اولاد تھے، مورخ ابو الفداء نے لکھا ہے کان صاحب اموال عظیم (یعنی حضرت ایوب بڑے مالدار تھے) اُن کی مختصر حالت میں پہلے تفسیر مراح البید سے لکھتا ہوں پھر کسی قدر تفصیل اور تفاسیر و کتب توارخ سے لکھی جائے گی۔

کان ایوب علیہ السلام رومیا من ولد عیص ابن اسحق وکان اللہ تعالیٰ قد جعلہ نبیاً وقد اعطاه من الدنیا حظاً والفرأ من النعم و الدواب والبساطین واعطاه ولدان رجال ونساء وکان رحیماً بالمساکین وکان یکفل الایتام والا رامل و بکرم الضیف فابتلاه اللہ تعالیٰ بهلاک اولاده بهدم بیت علیہم و ذهاب امواله والمرض فی بدنہ ثمانی عشرة سنة فانه خرج من فرقہ الی قدمہ ثلیل وقد وقعت فی جسده حکة لا یملکها وکان بحک باظفاره حتی سقطت اظفاره حکها بالمسوح الخشنہ ثم حکها بالفخار و الحجارة ولم یزل یحکها حتی تقطع لحمہ واتن فاخرجه اهل القرية وجعلوه علی کناسة و جعلوله عریشا وکان ملقی فی الكناسة لا یقرب منه احداً (ص ۳۳ مراح البیدج ۲ علامہ نووی)

حضرت ایوبؑ روم کے رہنے والے تھے..... حضرت اسحقؑ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عنایت کی اور اُس کے ساتھ دنیا کی نعمتیں بھی بہت کچھ دیں گئے، بیل، بکریاں، زمین، زراعت وغیرہ تھیں، باغات تھے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، بیٹے تھے بیٹیاں تھیں، حالت ان کی یہ تھی کہ مسکینوں پر بہت کچھ مہربانی کیا کرتے تھے یتیموں کی اور بیواؤں کی کفالت کرتے تھے مہمان نواز تھے، بایں ہمہ انھیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، مکان گرا، اُس کے نیچے آپ کی سب اولاد دب کر مر گئی جس قدر مال و متاع تھا سب تباہ ہو گیا پھر اٹھارہ برس برابر بیمار رہے سر سے پیر تک تمام بدن پر ذہل نکل آئے اور تمام بدن میں کھجلی اس قدر ہوتی تھی کہ بے اختیار ہو جاتے تھے اور کھجلاتے کھجلاتے ناخن گر گئے پھر ناٹ سے کھجلائے لگے پھر کنکر پتھر سے الغرض کھجلاتے

کھجلا تے تمام بدن کا گوشت پھٹ گیا اور نہایت بد بو آنے لگی اور گاؤں کے لوگوں نے گاؤں سے نکال کر ایک گھوڑے (تھڑا) پر ڈال دیا اور وہیں ایک جھونپڑا بنا دیا اُسی گھوڑے (تھڑے) پر پڑے رہتے تھے اور کوئی پاس نہ آتا تھا غالباً یہی الفاظ تفسیر کبیر میں ہیں اس کی تفصیل اور تفسیروں میں اور مؤرخین نے بہت کچھ لکھی ہے۔

الغرض حضرت ایوب صاحب مال تھے صاحب جائیداد تھے پانسواں اور ایک ہزار تیل تھے بل چلانے والے اور ہر ایک بل کے لئے ایک نوکر تھا اُسی قدر اونٹ اور بکریاں تھیں اور ان کے چرواہے۔ اب مشیت الہی کا تقاضا حضرت ممدوح کے امتحان کا ہوا اور صبر و تحمل کا سبق تمام عالم کے ایمانداروں کو دیا گیا تاکہ آئندہ کی نسلیں بھی عبرت پکڑیں اور اس دنیائے دنی کی حالت پر غور کریں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایسے مقرب بارگاہ الہی پر بعض وقت ایسی مصیبتیں آیا کرتی ہیں۔ وہ مصیبتیں حضرت ایوب پر آئی ہیں کہ اُن کے سننے سے بدن کا پٹنہ لگتا ہے اور عقل حیران ہو جاتی ہے، مسلمان خیال کریں کہ جس کے چاہ و ثروت کا یہ حال ہو اُس پر رفتہ رفتہ مشیت ایزدی سے ایسی بلائیں آئیں کہ تمام مال و متاع اور زینت دنیا کے متعدد اسباب یکے بعد دیگرے تباہ ہونے شروع ہوئے اور انجام کار نہ وہ مال و متاع رہا نہ وہ چاہ و ثروت رہی نہ اس جائیداد کا پتہ رہا جس کے لئے ہزار تیل اور ان کے لئے سینکڑوں نوکر تھے یہاں تک کہ رہنے کیلئے مکان تک بھی نہ رہا ساری اولاد مکان کے نیچے دب کر مر گئی پھر اس عظیم الشان مصائب کے بعد جسمانی مصیبت شروع ہوئی اور سخت جذام ہو گیا اور بجز بیوی کے ان کے پاس کوئی نہ آتا تھا اور مختلف طور سے لوگ طعنہ دینے لگے اور اس مصیبت میں اٹھارہ برس تک رہے سات برس خاص گھوڑے (تھڑے) پر بڑے رہے۔

فبقی مطر و حار علی الکناستہ سبع سنین مایسأل اللہ ان یکشف ما بہ و ما علی وجہ الارض اکرم علی اللہ منہ۔ (الکامل فی التاریخ ج ۱ ص ۹۹ قصہ ایوب علیہ السلام)

علامہ ابن اثیر کا مل میں لکھتے ہیں کہ سات برس گھوڑے (تھڑے) پر پڑے رہے اور اس مدت میں کبھی دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹا دے۔ حالانکہ روئے زمین پر اس وقت اللہ کے نزدیک کوئی معلم و کرم ان کے مثل نہ تھا۔

ابن اثیر کا یہ جملہ نہایت ہی عبرت انگیز ہے جن کے دل میں کچھ بھی خوف خدا ہے وہ یہاں دو باتوں پر غور کریں گے ایک یہ کہ حضرت ایوب اس وقت میں ایسے خدا کے پیارے اور

معظم تھے کہ اس وقت ان کی مثل کوئی دوسرا دنیا میں نہ تھا اور ایسا برگزیدہ ایسی سخت مصیبتوں میں اتنی دراز مدت تک جتلا رہا اور اس وقت کے مرزائی صفت لوگوں سے کیسے کیسے طعن و تشنیع سنتا رہا؟ وہ دوسری اس مقبول خدا کی ہمت اور تحمل و صبر کو دیکھنا چاہئے کہ اللہ کی رضا پر ایسے راضی رہے کہ اس کے خلاف دعا مانگنا بھی پسند نہیں (اللہ اکبر جل جلالہ) آپ پر تین شخص ایمان لائے تھے وہ بھی بدگمانی کرنے لگے تھے اور بعض وقت طعنہ دیتے تھے اگرچہ مرتد نہیں ہو گئے تھے مگر حضرت ایوب علیہ السلام ان کے لئے بھی کوئی سخت لفظ نہیں کہتے تھے اب خیال کیجئے کہ جب کچھ پاس نہیں ہے اور کوئی پاس بھی نہیں جاتا سب بدگمان بھی ہو گئے ہیں تو کھانے پینے کی کیا سبیل تھی اتنی مدت تک جیتے کیسے رہے؟ یہی لکھتے ہیں کہ وہی نیک بیوی جس کا نام رحمت تھا اس نازک وقت میں رحمت الہی تھی وہ کچھ مزدوری کر کے لاتی تھی اور کھلاتی تھی بالآخر اس دراز مدت کے بعد ایک امتی کے طعنے سے یا کسی دوسرے کے ناشائستہ کلمات سے ان کی زبان سے عاجز اندھکلا ”رَبِّ اَنْتَ مَسْنِي الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ“ (الانبیاء ۸۳) اس دعا کے کرتے ہی دریاے رحمت جوش زن ہوا اور اللہ نے صحت دی اور اولاد وغیرہ بھی عنایت کی اللہ کے رسولوں کی اور برگزیدہ بندوں کی یہ شان ہوتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح نہیں کہ سخت مخالف سے عاجز ہو کر اپنی صداقت ظاہر کرنے کے لیے نہایت ہی عاجز اندھکلا کی ہے (مولوی ثناء اللہ صاحب اور ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب میں کیسی عاجز اندھکلا کی ہے مگر دونوں جگہ معاملہ برعکس ہوا جس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کا ذب تھا۔ ان دعاؤں کو مرزا قادیانی نے خود چھپوا کر مستہر کیا ہے) مگر ایک شہنوائی نہیں ہوئی اور مخالف کے رد و برہنہایت ذلیل ہوئے۔ (دیکھو مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۷۸ نیز مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۹۱/۵۹۲)

الغرض ہمارے بھائی خوب معلوم کریں اور یقین کر لیں کہ دنیا کی مصیبت کسی پر آتا اُس کے کافر یا مرتد ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی البتہ احادیث صحیحہ اور دنیا کے واقعات ثابت کرتے ہیں کہ دنیا میں ایمانداروں کو زیادہ مصیبتیں آتی ہیں اب میں مسلمانوں کو اس امر پر خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت ایوب کے واقعات کو پیش نظر رکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہجرت خیز واقعہ کو ایک تیسری نظیر سمجھیں اور پھر مرزا غلام احمد کے بیباکانہ اور بے ادبانہ جملوں کو دیکھیں کہ قرۃ العین رسول الشقیلین کی نسبت کیا کہہ رہے ہیں اُن کے رسالہ اعجاز احمدی کے یہ اشعار ہیں۔

وقالوا على الحسين فضل نفسه اقول نعم والله اى ربى سيظهر .

(اعجاز احمدی ص ۵۲ خزائن ج ۱۹ ص ۱۶۳)

لوگوں نے کہا کہ اس شخص نے (مرزا غلام احمد) امام حسنؑ اور امام حسینؑ سے اپنے تئیں اچھا سمجھا میں کہتا ہوں کہ ہاں میرا خدا عنقریب ظاہر کر دیگا یعنی میری فضیلت ظاہر ہو جائیگی مگر مرزائی افسوس کریں کہ کچھ نہ ہوا اور مرزا قادیانی جھوٹے ٹھہرے۔

وشتان مابینی و بین حسینکم فانی اؤید کل ان وانصر و اما حسین فاذا کر وادشت کربلا الی هذه الایام تبکون فانظروا . (اعجاز احمدی ص ۶۹ - خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۱)

مرزا قادیانی کے اس شعر کو برادران اسلام عبرت کی نظر سے ملاحظہ کریں کہ حضرت حسینؑ جناب رسول اللہؐ کے قرۃ العینین نواسہ ہیں جس کی نسبت وہ اصدق الصادقین اپنی امت کی نجات کیلئے کشتی نوح سے تشبیہ دے چکے ہیں۔ ان کی مصیبت کو دکھا کر اپنی عیش و کامرانی پر مرزا قادیانی فخر کرتے ہیں کیا سچے مسلمان کا دل اس سے شق نہ ہوتا ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ عاشق رسولؐ الشعلینؑ کی زبان پر ایسے الفاظ آسکیں؟ کیا ایسے ہی مدعی کو خادم رسول اللہؐ اور فانی الرسول کوئی کہہ سکتا ہے دنیا میں اگر ایمان ہے تو کوئی ایماندار ایسے مدعی کو سچا مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا، چہ جائیکہ اسے عاشق رسولؐ اور فانی الرسول سمجھے

جس طرح کے کلمات مرزا قادیانی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت ہمارے مقابلہ میں کہے ہیں اسی طرح فرعونؑ حضرت ایوبؑ کے مصائب دکھا کر حضرت موسیٰؑ اور ان کی امت کے مقابلہ میں کہہ سکتا تھا، وشتان مابینی و بین نبیکم فانی اؤید کل ان وانصروا (یعنی جس طرح مرزا قادیانی نے مسلمانوں کے مقابلہ میں حضرت امام حسینؑ کی مصیبت کو دکھایا ہے اور پھر اپنی عیش و عشرت کو تائید الہی بتایا ہے اس طرح فرعونؑ حضرت موسیٰؑ کے مقابلہ میں حضرت ایوبؑ کے مصائب کو دکھا کر اپنی عیش و کامرانی پر فخر کر سکتا تھا اور وہی مرزا قادیانی والا شعر پڑھ سکتا تھا صرف ایک لفظ بدل کر یعنی حسین کی جگہ نبی کہہ دیتا) اور فرعونؑ پر کیا ہے جو منکرین انبیاء دنیا میں کامران رہتے ہیں وہ اکثر انبیاء کی نسبت ایسا ہی فخر کر سکتے ہیں اور مقبولان خدا کی مصیبتوں کو دکھا کر اور اپنی کامرانی پیش کر کے اپنا مؤید من اللہ ہوتا بیان کر سکتے ہیں

”فاعتبروا یا اولی الابصار“

شاید اس قسم کے حالات بعض مرزائیوں نے دیکھے اس لئے فائز المرآی اور کامیابی کی یہ صورت بتاتے ہیں کہ مخلوق اُسے زیادہ ماننے لگی مگر یہ جواب بھی ان کی بے خبری اور کم علمی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ حضرت ایوبؑ کی حالت تو ابھی ذکر کی گئی حضرت نوح علیہ السلام کا حال بھی اس کی غلطی کی شہادت کے لئے نہایت کافی ہے یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت نوحؑ نے ساڑھے نو سو برس دعوت دی مگر اب دیکھا جائے کہ اس دراز مدت میں کتنی مخلوق آپ پر ایمان لائی 'قرآن مجید میں مجمل طور پر ارشاد ہے "وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ" (ہود: ۴۰) یعنی حضرت نوحؑ پر بہت تھوڑے ایمان لائے تھے مفسرین نے اس تھوڑے کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے صاحب مدارک التزیل لکھتے ہیں کہ آٹھ شخص ایمان لائے اور زیادہ سے ۷۸ آدمیوں کا ایمان لانا لکھتے ہیں بعض محققین اسی کی تعداد بیان کرتے ہیں 'الغرض وہ سچے رسول ہیں جن کی اولاد میں عظیم الشان سلسلہ رسولوں کا ہے اُن کی دعوت سے نو سو پچاس برس کے عرصہ میں اس قدر قلیل مقدار مخلوق کی ان پر ایمان لائی جو کسی شار میں نہیں ہو سکتی اب اس کے مقابل صالح اور ابوعیسیٰ مدعیان کاذب کی جماعت کو خیال کیجئے کہ تمام قبائل مغرب ان پر ایمان لے آئے تھے تھوڑی مدت میں اس لئے جماعت احمدیہ کے قاعدے کے بموجب ان جھوٹے مدعیوں کو صادق ہونا چاہئے اور حضرت نوحؑ کو کاذب (نعوذ باللہ منہ) الغرض دنیا کی کسی قسم کی کامیابی یا ناکامی صداقت یا عدم صداقت کی دلیل نہیں ہو سکتی ہاں بعض وقت اس کامیابی کیساتھ ایسے قرآن اور وجوہ پیش آتے ہیں کہ عقلی طور سے ایسی کامیابی کو صداقت کی دلیل کہتے ہیں اور ناکامی کو کذب کی علامت اب میں اس دعوے کی تصدیق صحیح حدیثوں سے آپ کو دکھاتا ہوں۔

(۱) لَمْ يَصْدُقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صَدَقَتْ وَأَنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَصْدُقُهُ مِنْ أُمَّةٍ أَلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ" الخ (مسلم ج ۱ ص ۱۱۲ باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار)

جناب رسول اللہؐ فرماتے ہیں کہ جس قدر لوگوں نے مجھے مانا کسی نبی کو نہیں مانا بعض انبیاء ایسے گزرے جنہیں ایک ہی شخص نے مانا اور ان کی دعوت کا شرعہ اسی قدر ہوا۔

(۲) عَرَضْتُ عَلَى الْأَمَمِ لِرَأْيِ النَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ" الخ (مسلم ج ۱ ص ۱۱۷ باب الدلیل علی دخول طوائف المسلمین الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب منہ احمد بن حنبل ج ۱ ص ۲۷۱)

دوسری حدیث میں حضور انور کا یہ مقولہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی امتیں حالت کشفی میں میرے سامنے پیش کی گئیں میں نے دیکھا کہ بعض انبیاء کے ہمراہ چند آدمی ہیں یعنی تین چار آدمی بعض کے ہمراہ دو ایک شخص ہیں بعض ایسے ہیں کہ ان کے ہمراہ ایک امتی بھی نہیں ہے۔ ایک متفق علیہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔

(۳) خرج رسول اللہ يوماً فقال عرضت علی الامم فجعل یمر البنی و معہ الرجل والنبی و معہ الرجلان والنبی و معہ الرہط والنبی و لیس معہ احد الخ (بخاری و مسلم ص ۷۱ ج ۱ باب الدلیل علماء دخول طوائف کثر لعمال ج ۳ ص ۱۰۰ حدیث نمبر ۵۶۸۲ من المسلمین الجنت بغیر حساب ولا عذاب۔)

یعنی حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا کہ انبیاء کی امتوں کی حالت مجھے معلوم کرائی گئی میرے سامنے سے ایک نبی گذرے اُن کے ہمراہ ایک ہی امتی تھا دوسرے نبی گذرے اُن کے ہمراہ دو امتی تھے ایک اور گذرے اُن کے ہمراہ چند امتی تھے بعض نبی ایسے گذرے جن کے ہمراہ ایک امتی بھی نہیں تھا۔

حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ معلوم کر کے اور ان حدیثوں کے مضمون میں غور کر کے مسلمانوں کو عبرت پکڑنا چاہئے کہ بہت سے خدا کے پیارے اُس کے سچے رسول جو دنیا کی ہدایت کیلئے بھیجے گئے تھے اُن کی سینکڑوں برس کی محنت اور مشقت کا نتیجہ کیا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کچھ کم ایک ہزار برس تک خلق کو ہدایت کرتے رہے اور ان کے ہاتھوں سے ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائیں اور اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آٹھ دس یا ستر، اسی، شخص ایمان لائے اور بعض کی محنت کا نتیجہ یہ کہ دو ایک شخص مسلمان ہوئے اور بعض برگزیدہ ایسے ہوئے کہ ان کی برسوں کی محنت دنیا کی نظر میں بیکار ہی گئی۔

اس وقت کے مرزائیوں کی طرح اس وقت کے منکرین ان انبیاء سے کیسا معتمد کرتے ہوں گے؟ کہ یہ حضرات اس قدر غل چار ہے ہیں، مگر کوئی نہیں سنتا، پھر کیا احمدی حضرات ان انبیاء کے الہام کو غلط بتائیں گے ذرا ہوش کر کے جواب دیں

## حاصل کلام عبرت کا مقام

الغرض سچے مسلمانوں کو مجھے یہ دکھانا ہے کہ خدا کے برگزیدہ حضرات پر دنیا میں کیسے



کیسے معاملے گذرے ہیں اور ہر قسم کی دینیوں انھیں ناکامی ہوئی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تمام گذران کو دیکھو کہ کس جنگی سے اُن کی عمر بسر ہوئی اور انجام کار دشمن کے ہاتھ سے شہید کر دیئے گئے یہ اُن کے عشق الہی کو کمال مرتبہ تک پہنچا کر عاشقوں کو دکھانا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبتوں پر نظر کرو کہ خوشحالی کے بعد اٹھارہ برس تک کیسی مصیبتوں کو برداشت کیا اور دم نہیں مارا یہ ان کی محبت کا امتحان اور گزشتہ مدتوں راحت میں رہنے کا نفاذ تھا اور جن انبیاء کی ہدایت کا نتیجہ کچھ نہ ہوا یا بہت ہی کم ہوا یہاں یہ دکھانا تھا کہ دنیا دار الابطال ہے۔ یہاں بعض برگزیدہ حضرات اُس مقصود میں بھی کامیاب نہیں ہوئے جس کیلئے وہ بھیجے گئے تھے اور بعض جموں نے مفتری علی اللہ دنیا میں بہت کچھ کامیاب ہوئے اور ہوتے ہیں اس لئے نہایت عبرت کا مقام ہے یہاں بہت سے ذی علم بھی بہک جاتے ہیں ہمارے بھائی اس بیان سے یقینی طور سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ دنیا میں کسی قسم کی کامیابی صداقت اور برگزیدہ خدا ہونے کی معیار نہیں ہے اس سے آفتاب کی طرح روشن ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اور اُن کے مریدوں کا دنیاوی کامیابی کو اپنی صداقت میں پیش کرنا ان کی عظیم الشان غلطی ہے اول تو وہ یہی بتائیں کہ انہیں دنیاوی کامیابی کیا ہوئی جس قدر انہوں نے اپنی شہرت اور اپنی خود ستائی میں محنت کی ہے اور کاغذی گھوڑے دوڑائے ہیں اس کے مقابلہ میں انہیں کچھ بھی کامیابی نہیں ہوئی اس زمانے میں بعض بعض تاجر اپنے اشتہاروں کے ذریعہ سے لکھ پتی، کروڑ پتی ہو گئے، مرزا قادیانی کی خود ستائی اور مدح سرائی کا صرف اس قدر نتیجہ سنا جاتا ہے کہ عمدہ کھانے کو اور منگ و زعفران استعمال کرنے کو ملے اور کچھ زمین ہاتھ آگئی اور کچھ مکانات بھی بن گئے پھر یہ تو اُن تاجروں کے مثل بھی کامیابی نہ ہوئی جو جموں نے اشتہاروں سے کمالیتے ہیں باقی رہا مریدوں کا زیادہ ہونا محض زبانی دعویٰ ہے پہلے لوگوں کو جانے دیجئے اس وقت کے لحاظ سے کہتا ہوں کہ ایک حاجی وارث علی صاحب تھے باوجودیکہ انہوں نے اپنی مدح سرائی میں ایک اشتہار بھی نہیں دیا مگر لاکھوں مریدان کے ہو گئے اسی طرح اور بھی حضرات ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کارخانہ الہی اور دنیا کی حالت میں غور نہیں کیا اور اس کے واقعات پر نظر نہیں ڈالی کہ کیسے کیسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں یا جان کر مخلوق کو دھوکا دیا اور دے رہے ہیں کیونکہ ناواقف اور عوام کے خیال میں دنیا کی کامیابی صداقت کی دلیل ہو سکتی ہے اسی وجہ سے بہت سے مسلمان بہک گئے اب میں دنیا کا مقام ابتلاء اور محل امتحان ہونا کلام خدا اور اقوال و احوال حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مختصر بیان کرتا ہوں خوب متوجہ ہو کر ملاحظہ کرنا چاہئے۔

حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی گذران کا نمونہ دیکھا جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم (ج ۲ ص ۴۰۹) فصل فی صبر علی قلیۃ ما یجد ود خول الفقرا المهاجرون الجنۃ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے

ما شبع ال محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ ﷺ کہ رسول اللہ کے اہل و عیال نے آپ کی وفات تک دو دن برابر جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ نے تمام عمر کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی ایک اور حدیث متفق علیہ ہے۔

عن عمر رضی اللہ عنہ قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاذا هو مضطجع علی رومال حصیر الخ متفق علیہ (مشکوۃ المصابیح)

(ص ۳۷۷ باب فصل الفقراء و ماکان من عیش النبی) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اُس پر بچھوٹا نہ تھا اس وجہ سے آپ کے دونوں جانب چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے اور چڑے کے تکیہ پر یک لگائی تھی۔ اُس تکیہ میں میں کھجور کا چھلکا بھرا تھا (حضرت عمرؓ فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی امت سے تنگی دور ہو فراخی ہو فارسی اور روم کیسے خوش حال ہیں باوجودیکہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے جناب رسول اللہ نے فرمایا اے عمر! تم اس خیال میں ہو (یعنی جو اللہ کی عبادت کریں وہ دنیا میں خوش حال رہیں اور جو اُس کی عبادت نہ کریں وہ خوش حال نہ رہیں) ایسا خیال نہیں چاہئے کیونکہ اُن کی کمائی یا مقررہ عیش و آرام دنیا ہی میں دیدیا گیا آخرت میں سوائے تکلیف کے کچھ اُن کے لئے نہیں ہے۔

دوسری روایت میں آنحضرت ﷺ کا ارشاد اس طرح ہے کہ کیا تم اس میں خوش نہیں ہو کہ انہیں دنیا ملی اور ہمیں آخرت ان حدیثوں سے آپ کی تنگی گذران کا نمونہ معلوم ہوا مگر دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی گذران آپ نے بخوشی منظور کی تھی اور اللہ سے ایسی ہی گذران کی آپ خواہش کرتے تھے چنانچہ متفق علیہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔

”اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا“

(ابن ماجہ ص ۳۰۵ باب القناعة، مسلم ج ۲ ص ۴۰۸ فصل فی صبر قلۃ)

”یعنی اے اللہ محمد کے اہل و عیال کو بقدر قوت لایموت کے روزی عنایت فرما“۔

دنیا کی گذران میں اس قدر تنگی اختیار کرنا حکمت سے خالی نہیں ہے اگرچہ بے دین نا فہم اُسے نہ سمجھیں اور طعنہ کریں، تنگی اختیار کرنے کی مصلحتیں پوری طور پر تو خدا اور اُس کا رسول ہی جانتا ہے مگر یہ نہایت ظاہر ہے کہ اس حالت میں رہنا غربائے امت کی کمال دل دہی ہے، کیونکہ جب وہ سردارِ دو جہاں کی یہ حالت معلوم کریں گے تو اپنی غربت کو بھول جائیں گے اور خوشی کے مارے پھولے نہ سائیں گے اس کے علاوہ اللہ کے نزدیک دنیا نہایت بے حقیقت چیز ہے بلکہ ملعون اور مردود ہے اس لئے اللہ والے اُسے کبھی پسند نہیں کرتے مگر کسی وقت کسی مصلحت سے اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے ایک حدیث میں رسول اللہ کا ارشاد ہے:

لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسقى كافرا منها شربة

(ابن ماجہ ص ۳۰۲ باب مثل الدنيا ترمذی ج ۲ ص ۵۶ باب ما جاء فی هوان الدنيا علی اللہ)

کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اگر چھپر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی دنیا میں نہ ملتا۔

دوسری حدیث ملاحظہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

الا ان الدنيا ملعونة و ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاہ و عالم او معلم

(ترمذی ج ۲ ص ۵۸ باب ما جاء فی هوان الدنيا علی اللہ ابن ماجہ ص ۳۰۲-۳۰۳ باب مثل الدنيا)

کہ خبردار ہو جاؤ دنیا پر اللہ کی لعنت ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب پر خدا کی پھٹکار ہے البتہ دنیا میں اللہ کی یاد اور وہ اعمال صالحہ جنہیں اللہ پسند کرے اور علم دین کے جاننے والے ہوں، سیکھنے والے یہ اُس سے مستثنیٰ ہیں۔

ان دونوں حدیثوں پر غور کیا جائے پہلی حدیث سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا نہایت بے حقیقت ہونا اور دوسری حدیث سے اُس کا ملعون و مردود ہونا ظاہر ہو رہا ہے پھر برگزیدگانِ خدا جو اُس ذاتِ پاک کے عاشق ہیں اور نہایت عالی خیال بلند حوصلہ ہیں وہ ایسی بے حقیقت چیز کو کیونکر پسند کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہ وہ شے اُس ذاتِ مقدس کے ایسی نا پسند ہو کہ اُس نے اُس پر لعنت بھیجی ہو وہ کبھی اس کو پسند نہیں کر سکتے پسند کیا اُس طرف توجہ کرنا بھی انہیں ناگوار ہو گا قرآن مجید میں بھی دنیا کی حقارت بہت آئی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی مصلحت اور دینی فائدے کے لئے اپنے کسی برگزیدہ کو بھی دنیا کا مال و متاع دیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دنیا کی کامیابی صداقت کی دلیل ہے یا اس بے حقیقت کامیابی کو فلاح کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

اب ہم قرآن شریف کی آیت پیش کرتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ دنیا میں عزت و آبرو کا ہونا مال و دولت کا ملنا خدا کی خوشنودی اور صاحب مال کی صداقت فلاح کی دلیل نہیں ہے ارشاد خداوندی ہے

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ . (الفجر ۱۵-۱۶)

پروردگار جب انسان کی اس طرح آزمائش کرتا ہے کہ اُس کو عزت و نعمت دیتا ہے تو بندہ اپنے دل میں خوش ہو کر یا گھمنڈ کر کے کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی اور جب پروردگار اس طرح آزماتا ہے کہ اُس کی روزی اُس پر تنگ کرتا ہے تو بندہ متکدل ہو کر کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔

اس آیت سے ظاہر ہوا کہ فراخی اور تنگی دونوں صدق یا کذب کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ دونوں کسی وقت صرف امتحان کی غرض سے ہوتے ہیں اور امتحان مسلمان اور کافر دونوں کا ہوتا ہے کسی کا مال و دولت عزت و جاہ کیساتھ ”انما اموالکم واولادکم فتنۃ“ ارشاد خداوندی ہے کسی کا فقر و احتیاج کیساتھ کسی وقت مسلمان بھی مال و دولت سے بہک جاتا ہے اور کسی وقت فقر و احتیاج سے کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے ارشاد نبوی ہے ”کما داللفقران یكون کفرا“ اور کافر تو بہکتا ہی ہے البتہ دنیا کی کامیابی اکثر کفار ہی کے حصہ میں رہی ہے اس کی حکمت بالذات وہی حکیم مطلق جانتا ہے مگر ہماری عقل کی رسائی جہاں تک ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت مال و دولت کی ترقی اور اُس کی حفاظت میں وہ ایسا پریشان و سرگرداں رہتا ہے اور بہت لوگ اُس کے دشمن ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ مال اُس کے لئے وبال ہوتا ہے اور دنیا ہی میں ایک صورت عذاب کی اُس کے لئے ہوتی ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی صاف طور سے موجود ہے سورہ والفجر ملاحظہ ہو کسی وقت میں منکر کے اعمال حسنہ کا بدلہ اُسے دیا جاتا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ”اعطیت لہم طیباً تہم“ یہ ایک ضمنی بات تھی اصل مدعا یہ تھا کہ دنیا کی کامیابی کو فلاح نہیں کہہ سکتے اس کا ثبوت تین دلیلوں سے دیا گیا ان میں ہر ایک دلیل نہایت روشن اور ایسی قوی ہے کہ کسی فہمیدہ حق پسند کو اُس کے ماننے میں تاثر نہیں ہو سکتا

پہلی دلیل: بعض کفار اور مفتری علی اللہ جن کا ذکر شروع رسالہ میں کیا گیا ان کے حالات سے ظاہر ہے کہ باوجود مفتری علی اللہ ہونے کے ایسے کامیاب ہوئے کہ دنیا میں اُس سے زیادہ کامیابی

اور فلاح نہیں ہو سکتی اس سے بالکل ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس فلاح کو ایمانداروں سے مخصوص کیا ہے وہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے اب مرزا قادیانی کی کامیابی کو دکھا کر اُن کی صداقت ثابت کرنا ایسا ہی ہے جیسا فرعون اور صالح وغیرہ کا معتقدان کی کامیابی دکھا کر اُن کی صداقت ثابت کرے۔

دوسری دلیل: بعض انبیائے کرام کی دنیاوی حالت دکھائی گئی اُس سے بھی بخوبی واضح ہوا کہ جس فلاح کی بشارت ایمانداروں سے مخصوص ہے وہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو اُن انبیاء کی دنیا میں یہ حالت ہرگز نہ ہوتی جو اس رسالہ میں دکھائی گئی ہے۔

تیسری دلیل: تین حدیثیں پیش کی گئیں جن سے پوری تصدیق ہو گئی کہ دنیا ایسی چیز نہیں ہے کہ اُس کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ فلاح کہے اس سے اظہر من الشمس ہوا کہ جو فلاح ایمانداروں کے لئے مخصوص ہے اور منکرین اور مفتری اُس سے محروم ہیں وہ عالم آخرت کی فلاح ہے جہاں انسان کیلئے دائمی راحت یا ہمیشہ کی تکلیف ہے یہ بھی حدیث سے ثابت کر دیا گیا کہ بہت سے لوگوں کا مطیع ہو جانا بھی صداقت کی دلیل نہیں ہے کیونکہ بعض انبیاء ایسے گذرے ہیں کہ اُن کا ایک بھی امتی نہیں ہوا اور بعض کے دو ایک ہوئے جو مثل نہ ہونے کے ہے اب اگر مریدوں کی کثرت کو صداقت کا معیار قرار دیا جائیگا تو بہت سے انبیاء کی نبوت سے انکار کرنا ہوگا حضرت نوح کو ملاحظہ کیجئے کہ ابوالانبیاء ہیں مگر ساڑھے نو سو برس کی کوشش میں آٹھ دس یا ۸۰۷۰ اشخاص اُن پر ایمان لائے تھے۔

### قابل توجہ ہے دیکھا جائے

حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اُمت کا زیادہ ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا ”الی اباهی بمکم الامم“ ایک خاص فضیلت آنحضرت کی ہے اُسے صداقت کا معیار ٹھہرانا جاہلانہ خیال ہے البتہ وہ مدعی نبوت جسے بہت سے انبیاء پر فضیلت کا دعویٰ ہوا اُس کی وجہ سے کوئی جہنمی جنت کا مستحق نہ ہو اور کروڑوں جنتی جو جنت کے مستحق ہو چکے تھے وہ جہنم کے مستحق ہو جائیں اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی عقل سلیم تامل نہیں کر سکتی اب یہاں نہایت غور کے قابل یہ امر جو کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو حضور سرور انبیاء کا ظل کہتے ہیں اور جس طرح حضور کی بحث عام تھی اسی طرح مرزا قادیانی اپنی بحث کو عام کہتے ہیں یعنی اُن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں تمام خلق

کے لئے مبعوث ہوا ہوں میرے ماننے پر نجات موقوف ہے۔ (رسالہ دعویٰ نبوت مرزا ملاحظہ ہو)  
اور ”صلیب پرستی کے ستون کو توڑنے کیلئے آیا ہوں۔“

(اخبار ”بدر“ قادیان ج ۲ نمبر ۲۹ ص ۳-۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء)

مگر اب کامل غور اور انصاف پسندی سے اس دعویٰ کو ملحوظ خاطر رکھ کر دیکھا جائے کہ مرزا قادیانی نے کیا کہا اور ان کے بعثت کا نتیجہ کیا ہوا ساری دنیا دیکھ چکی کہ غالباً پچیس برس تک انہوں نے بہت کچھ غل مچایا اور اپنی شہرت اور خلق کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، اشتہاروں، اور رسالوں اور خطوط کی انتہا کر دی بایں ہمہ اُن کی ذات سے کوئی جہنم کا مستحق جنتی نہیں ہوا، یعنی کوئی ممتاز عیسائی کوئی آریہ، کوئی بت پرست، کوئی یہود، مسلمان نہ ہوا، اور تیس چالیس کروڑ مسلمان جو مردم شماری کے لحاظ سے دنیا میں کہے جاتے ہیں جنہیں مرزا قادیانی بھی اپنے اس دعویٰ کے قبل مسلمان اور جنت کا مستحق کہتے تھے اور متعدد رسالوں میں لکھ چکے تھے کہ کوئی اہل قبلہ کافر نہیں ہے، آخر میں انہیں کی نسبت کہا کہ جس نے مجھے نہیں مانا وہ ایسا ہی کافر ہے جیسا خدا اور رسول کو نہ ماننے والا، غرضیکہ اُن کا آخری قول یہی ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں مانا وہ سب کافر ہو کر جہنم کے مستحق ہو گئے۔

مرزا قادیانی کے اقوال دعویٰ نبوت مرزا میں نقل ہو چکے ہیں اُن کے بیٹے جواب اُن کے دوسرے خلیفہ ہوئے ہیں وہ اپنے رسالہ (تہذیب الاذہان، ج ۶ نمبر ۳ ص ۱۱۲۲ اپریل ۱۹۱۱ء) میں تحریر فرماتے ہیں ان کا قول یہ ہے ”جب تبت اور سوئٹزر لینڈ کے باشندے رسول اللہ کے نہ ماننے پر کافر ہیں تو ہندوستان کے باشندے مسیح موعود کو نہ ماننے سے کیونکر مومن ٹھہر سکتے ہیں..... (الی ان قال) جب حضرت (مرزا) کی مخالفت کے باوجود انسان مسلمان کا مسلمان رہتا ہے تو پھر آپ کی بعثت کا فائدہ ہی کیا ہوا (یعنی مرزا قادیانی)

برادران اسلام! ملاحظہ کریں کہ مرزا قادیانی کے خلیفہ اور فرزند ارجمند تمام ہندوستان بلکہ ساری دنیا کے غیر قادیانی مسلمانوں کو کس صراحت سے کافر بتاتے ہیں اور مرزا قادیانی کی بعثت کا بھی فائدہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے غیر قادیانی مسلمان مسلمان نہ رہے یعنی مرزا قادیانی اسی لئے بھیجے گئے تھے کہ مسلمانوں سے دنیا کو خالی کر دیں۔

حاصل یہ کہ جنہوں نے نہیں مانا انہیں تو مرزا قادیانی نے جہنم کا مستحق کر دیا اور جنہوں نے مانا وہ تو پہلے سے مسلمان اور جنت کے مستحق تھے خود مرزا قادیانی کے قول سے مرزا قادیانی کی

وجہ سے کوئی نئی بات نہیں ہوئی اس لئے ان کی بعثت کا نتیجہ یہی ہوا کہ بجز معدودے چند مسلمانوں کے ساری دنیا کے مسلمان کافر ہو گئے اور دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ اُن کی خاندانِ ثروت و عزت جو زمینداری کے جاتے رہنے کی وجہ سے چلی گئی تھی یا اُس میں بہت کچھ کی ہوئی تھی وہ دنیاوی عزت و ثروت انہیں اور اُن کی خاص اولاد کو مل گئی، بلکہ شہرت اور ثروت اُس سے بہت زیادہ ہو گئی

اب برادرانِ اسلام اس پر غور کریں کہ مرزا قادیانی کی وجہ سے مسلمانوں کو اور اسلام کو کس قدر مضرت ہوئی کہ اسلام دنیا سے گویا مفقود ہو گیا اور ۳۰، ۴۰ کروڑ مسلمان جو جنت کے مستحق تھے وہ جہنمی ہو گئے جناب رسول اللہ کے وقت میں آپ کی ذاتِ مبارک سے غالباً دو لاکھ یا کچھ کم و بیش مسلمان ہوئے تھے یعنی یہ تعداد جو قطعاً جہنم کی مستحق ہو چکی تھی وہ جنتی ہو گئی اور کوئی جنت کا مستحق جہنمی نہیں ہوا کیونکہ اُس وقت عرب میں تین گروہ تھے یہود، نصاریٰ، مشرکین ان میں سے کوئی مسلمان نہ تھا، کیونکہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار سے اور نصاریٰ تثلیث پرستی اور مشرکین بت پرستی سے کافر تھے، غرضیکہ آپ کے دعویٰ کے وقت میں کوئی جنت کا مستحق نہ تھا، اس لئے جس قدر مشرکیں یہود و نصاریٰ جناب رسول اللہ پر ایمان لائے وہ وہی تھے جو پہلے جہنم کے مستحق ہو چکے تھے اور ایمان لانے کی وجہ سے جہنم سے علیحدہ ہو کر جنت کے مستحق ہوئے یہ اسلامی جماعت ایسی عالی ہمت و جاں نثار اسلام ہوئی کہ بہت جلد دنیا میں اسلام کو پھیلادیا اور کروڑوں جہنم کے جانے والوں کو جنت کا مستحق بنا دیا مرزا قادیانی کی حالت اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی اُن اقرار کے بموجب تیس کروڑ اور واقعی مردم شماری کے لحاظ سے ۳۰، ۴۰ کروڑ مسلمان مستحق جنت تھے مرزا قادیانی نے انہیں میں سے بہت تھوڑی جماعت کو علیحدہ کر کے سب کو جہنم میں دھکیل دیا، کس قدر حیرت خیز معاملہ ہے کہ ایسے شخص کو خاتم النبیین رحمۃ اللعالمین کا ظل مانا جاتا ہے اور اس پر مزید یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے الہام کی رو سے اپنے آپ کو رحمۃ اللعالمین بھی کہتے ہیں یہ عجیبِ رحمت ہے جس کی وجہ سے کروڑوں مستحق جنت جہنمی ہو گئے اور جنتی ایک بھی نہ ہوا بایں ہمہ ماننے والے انہیں رحمت مان رہے ہیں اور باعثِ نجات جانتے ہیں، دوچار صلیب پرستوں کو بھی مسلمان نہیں بنایا، مگر اُن کے ماننے والوں نے مان لیا کہ مرزا قادیانی نے صلیب پرستی کا ستون توڑ دیا، مرزا پرستی کا جب یہ اثر ہے تو ان کے سمجھنے اور راہِ راست پر آنے کی کیا امید ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو سب قدرت ہے۔

عالم کے واقعات سے تو اظہر من الشمس ہو گیا اور ہو رہا ہے کہ تمام کفار اور خاص خدا پر

افتراء کرنے والے اور وحی والہام کے مدعی دنیا میں بہت کچھ کامیاب رہ چکے ہیں اور اُن کے فلاح نہ پانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہوں گے اب بعض آیات قرآنیہ سے بھی ثابت کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کے مفتری اور مکذب کی سزا کا وقت موت کے بعد ہے اور کامل سزا کا زمانہ عالم آخرت ہے دنیا اُس کا وقت نہیں ہے یہ کہنا کہ مفتری دنیا میں دست بدست سزا پالیتا ہے محض غلط ہے واقعات عالم اور نصوص قرآنیہ دونوں اسے غلط بتا رہے ہیں۔

پہلی آیت اس کو معہ تفسیر علامہ نووی اور ترجمہ کے نقل کیا جاتا ہے

لَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ (لِی الدُّنْيَا) نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ (ای مِمَّا كَتَبَ لَهُمْ مِنَ الْأَرْزَاقِ وَالْأَعْمَارِ) حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ تَهُمُ رُسُلُنَا (ای مَلِكِ الْمَوْتِ وَاعْوَانِهِ) يَتَوَفَّوْنَهُمْ (ای حَالِ كَوْنِهِمْ قَائِمِينَ أَوْ رَاحَةً) قَالُوا (لَهُمْ) أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا (ای غَا بُوا) عَنَّا وَهَدَّوْا عَلَیٰ أَنْفُسِهِمْ أَتُهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ كَلَّ (تَعَالَىٰ يَوْمَ الْقِيَمَةِ) أَدْخَلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ (ای ادخلوا فِي النَّارِ فِيمَا بَيْنَ الْأُمَمِ الْكَافِرِينَ الْخ)

اُس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر افتراء کرے یا اُس کی نشانیں کو چھٹا دے، ان دونوں گروہ کا حصہ جو روز ازل میں مقرر ہو چکا ہے یا لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے یعنی اُن کی روزی اُن کی مقرر کردہ عمروہ انھیں دنیا میں ملے گی اور اُس وقت تک ملے گی جس وقت ملک الموت اور اُس کے مددگار اُس کی جان قبض کرنے کو آئیں گے اور اُن سے کہیں گے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارا کرتے تھے وہ کہاں ہیں یہ جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے پوشیدہ ہو گئے اور اپنے کفر کا اقرار کریں گے پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو کفار جہنم میں جا چکے ہیں انہیں کے پاس تم بھی جہنم میں جاؤ۔ (سورہ اعراف ۳۷-۳۸ مراہ البیدج ص ۲۷۸)

تفسیر روح المعانی (جز ۸ ص ۱۰۰) میں جملہ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ:-

ای مما كتب لهم و قد من الارزاق والاجال مع ظلمهم و افتر انهم لا يجرمون ما قدر لهم من ذلك الى انقضاء اجلهم فالكتاب بمعنى المكتوب ان مفتریوں اور مکذبوں کے لئے جس قدر رزق ان کا مقدر ہو چکا ہے اور ان کی عمر کی



مدت مقرر ہو چکی ہے وہ انہیں ضرور ملے گی یہ دونوں گروہ اپنے ظلم اور افتراء کی وجہ سے اس سے محروم نہ رہیں گے۔

جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ عقل و فہم بھی عنایت کی ہے وہ اس آیت سے کئی باتوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں

اول یہ آیت کسی اصل مفتری یا مکذب کے لئے نہیں ہے بلکہ عام ہے اس آیت کے جملہ مَنْ الْفَرَى میں جو لفظ مَنْ ہے وہ عموم پر دلالت کرتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں ہر قسم کے مفتری کا حکم بیان کیا گیا ہے اور آیت کا ماسبق بھی اس عموم کا شاہد ہے۔

دوم ہر قسم کا افتراء کرنے والا اور اُس کی آنحوں سے انکار کر نوالا ایک ہی مرتبہ اور ایک ہی حکم میں ہے ان دونوں کے لئے نہ دنیا میں کوئی فرق ہے نہ آخرت میں 'سوم اُن کی افتراء پر دازی اور تکذیب کی وجہ سے دنیا میں ان دونوں گروہوں کی مقدار راحت و آرام اور معینہ رزق اور مقررہ عمر میں کچھ کمی نہیں ہوتی' اگر اُس کا رزق بہت وسعت اور آرام و راحت کیساتھ لکھا گیا ہے وہ اُسے ضرور پہنچے گا اور جس قدر ان کے عمر کے ایام زیادہ یا کم مقرر ہو چکے ہیں اُن ایام کو وہ ضرور پورا کرے گا اُن میں کمی نہیں ہو سکتی اس مدعا کا ثبوت قرآن مجید کے الفاظ سے ظاہر ہے مگر میں نے پانچ تفسیروں کے حوالے بھی دے دیئے ہیں جن سے ان کا ثبوت ظاہر ہو رہا ہے اب دیکھا جائے کہ اس آیت سے مرزا قادیانی کے کتنے اقوال غلط ہو گئے اُن کا یہ کہنا کہ مفتری دست بدست سزا پا لیتا ہے خدا کی آتش غضب اُسے جلد ہلاک کرتی ہے کیسا غلط اور خدا پر افتراء ثابت ہوا۔ چنانچہ خود مرزا نے لکھا ہے۔ "قرآن شریف کے نصوص قطعہ سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ ایسا مفتری اسی دنیا میں دست بدست سزا پا لیتا ہے اور خدائے قادر وغیرہ کبھی اس کو امن میں نہیں چھوڑتا اور اس کی غیرت اس کو کچل ڈالتی ہے۔" (انجام آتھم ص ۳۹ خزائن ص ۳۹ ج ۱۱)

دوسری آیت فیصلہ آسمانی حصہ ۲ ص ۵۹ میں بھی لکھی گئی ہے اُس میں اس کی تفصیل دیکھنا چاہئے یہاں اس آیت کے خاص مضمون کا ذکر کیا جائیگا۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا لَطَمُونَ بِأُغْمَارَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. (انعام ۹۳)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے خدا پر افتراء کیا یا یہ کہا کہ مجھ پر وحی کی گئی حالانکہ اُس پر کچھ وحی نہیں کی گئی (محض جھوٹا دعویٰ وحی کرتا ہے) یا کوئی اپنے کمال کے غرور پر یہ کہے کہ جیسی باتیں خدا کی طرف سے اس رسول پر اتری ہیں ایسی ہم بھی اپنی طرف سے اتار سکتے ہیں یعنی اپنے ذہن اور دماغی قوت سے بیان کر سکتے ہیں ان تینوں گروہوں کو بڑا ظالم فرما کر ظالموں کی حالت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اے مخاطب اگر تو ان ظالموں کی حالت کو دیکھے تو تیرا عجب حال ہو کہ موت کی بیہوشی میں پڑے ہیں (جاگتی ہو رہی ہے) اور فرشتے جان نکالنے کے لئے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو (اب تک تو تم نے جین کیا یا جس طرح رہے مگر) اب تمہارے کئے کا بدلہ تم پر عذاب کیا جائے گا جس کی وجہ سے تم ذلیل و رسوا ہو گئے یہ عذاب اس وجہ سے ہو گا کہ تم خدا پر افتراء کرتے تھے اور جھوٹی بات اُس کی طرف منسوب کرتے تھے۔ آیت کا پورا ترجمہ اور مطلب فیصلہ آسانی میں بیان کیا گیا ہے اُس کا ص ۵۹ وغیرہ دیکھنا چاہئے۔

یہاں آیت کا مطلب معلوم کرنے کے بعد اس پر نظر کرنا چاہئے کہ اس آیت کے نازل کرنے سے اصل مقصود کیا ہے اس کو فہمیدہ حضرات خوب سمجھ سکتے ہیں کہ اصل مقصود اس آیت میں مفتوی علی اللہ کی حالت بیان کرنا ہے کہ ایسا شخص بہت بڑا ظالم ہے اُس سے زیادہ کوئی ظالم نہیں ہو سکتا اور اس ظالم کی سزا کا وقت اس کے مرنے کے بعد ہے اس کی حالت سے ہر ایک مخاطب کو عبرت پکڑنا اور خوف کرنا چاہیے۔ غرضیکہ اس آیت میں چار باتوں کا بیان کرنا مقصود ہے ایک یہ کہ مفتوی علی اللہ بہت بڑا ظالم ہے دوسرے یہ کہ جاگتی کے وقت اُسے سخت تکلیف ہوتی ہے ظاہر میں کسی کو اُس کا نمونہ معلوم ہو پا نہ ہو۔ تیسری یہ کہ موت کے وقت اُسے ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر انسان اس کا معائنہ کرے تو بہت بری اس کی حالت ہو یعنی کچھ اُس کو عبرت ہو اور ممکن ہے کہ ظاہری حالت میں بھی اس کی تغیر ہو چوتھے یہ کہ اس کے افتراء کی سزا مرنے کے بعد ہے اب اگر کسی مفتوی کو دنیا میں بھی کسی قسم کی سزا ملی تو وہ کسی شمار میں نہیں ہے اصل سزا جو دنیاوی سزا سے بہت زیادہ اور نہایت سخت اور ہمیشہ کیلئے ہے وہ مرنے کے بعد ہے اُس کے مقابلہ میں دنیاوی سزا کوئی چیز نہیں ہے اب دیکھنا چاہئے کہ مفتوی علی اللہ کی کئی قسمیں ہیں ان سب کا بھی ایک حکم ہے یا کسی قسم کا مفتوی اُس سے متعلق ہے مثلاً کسی حکم کو یا کسی عقیدہ کو اپنے خیال سے تراش کر یا کسی کی تقلید کر کے یہ کہے کہ یہ حکم خدا ہے جیسا کہ مثلیث پرست اور مشرکین کہتے ہیں یا یہ کہ نزول وحی کا دعویٰ کرنے اب اُس وحی کے ذریعہ سے کسی کتاب یا رسالہ کے نازل ہونے کو بیان کرے یا متعدد

اور مختلف مضمون کی وحی پیش کرے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مفتری کہا ہے

ناظرین! آیت کے صریح الفاظ نہایت صفائی سے شہادت دے رہے ہیں کہ اس میں ہر قسم کے مفتری کی حالت کو بیان کیا ہے مفتری کی کوئی قسم اُس سے مستثنیٰ نہیں ہے اور بالخصوص وہ مفتری جو جھوٹی وحی کا دعویٰ کرے اُس کا ذکر مکرر اور نہایت وضاحت سے بیان ہوا ہے ملاحظہ کیا جائے پہلے ارشاد ہوا، ”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا“ جن کو عربی میں متوسط درجہ کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ لفظ مَنْ الفاظ عموم میں ہے جس جملہ پر یہ لفظ آئیگا، معنی کے اعتبار سے اُس صفت میں جتنے شریک ہوں گے سب کو شامل ہوگا اس لئے ”مَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا“ ہر اُس شخص کو کہیں گے جو اللہ پر افتراء کرے اب وہ افتراء کسی قسم کا ہو اس میں کسی قسم کی تخصیص نہیں ہو سکتی اس عام بیان میں وہ مفتری بھی شامل ہے جو وحی الہی کا مدعی ہو..... اور کسی رسالہ یا کتاب کے نزول کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَیْ إِلَيَّ شَيْءٌ“ پہلے ارشاد ہوا تھا کہ جس نے افتراء کیا اُس کے بعد ارشاد ہوا کہ جس نے یہ کہا کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اُس پر کوئی وحی نہیں کی یہ دونوں گروہ بڑے ظالم ہیں یہاں صاحب علم پر یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ جس طرح پہلے جملے میں عموم ہے اور ہر قسم کے مفتری اُس سے سمجھے جاتے ہیں اسی طرح اس جملے کا مضمون بھی عام ہے (اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مَنْ ”افترى“ آیا ہے اور اس وجہ سے اس جملہ کا مضمون عام ہو گیا، اسی طرح عطف کی وجہ سے قَالَ پر مَنْ آیا اور اُس نے اس جملہ کے مضمون کو عام کر دیا) اور ہر ایسے شخص کا ذکر ہے جو جھوٹی وحی کا دعویٰ کرے اب اس میں وہ کوئی رسالہ یا کتاب پیش کرے یا چند جملے پیش کر کے کہے کہ یہ مجھ پر وحی کئے گئے یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ ایسا جھوٹا دعویٰ کرنا بھی دو طرح سے ہو سکتا ہے ایک یہ کہ کسی وجہ سے کسی امر کی خواہش میں اُسے غلبہ ہوا اور پختہ خیال ہو گیا کہ ایسا ہوگا اور اس پختہ خیال کو یہ وحی الہی سمجھا دوسرے یہ کہ بغیر ایسے خیال کے یونہی اپنی بزرگی جتانے کو ایسا دعویٰ کر دیا مگر یہ دونوں اللہ کے نزدیک مفتری ہیں، بعض کم علم حضرات کو یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ گروہ بھی مفتری ہے تو پہلے جملہ میں اس کا بیان ہو لیا اُس کے بعد اسے علیحدہ بیان کرنا بیکار ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک اس گروہ کا بیان بھی پہلے جملہ میں ہو چکا ہے مگر اہل علم اس کو خوب سمجھتے ہیں کہ بعض وقت ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ پہلے ایک حکم کو بطور عموم بیان کیا جائے پھر اُسی بات کو کسی خاص گروہ یا خاص شخص کے لئے بیان کیا جائے اس کو تخصیص بعد تعمیم کہتے ہیں اس

طرز بیان سے اس کا اظہار منظور ہوتا ہے کہ اس وقت اس گروہ یا اس شخص کی طرف توجہ زیادہ ہے اور خصوصیت کیساتھ اس کی مذمت یا تعریف مد نظر ہے

الحاصل اس آیت میں ایسے جھوٹے کی حالت بیان کرنا زیادہ مد نظر ہے جو وحی کا جھوٹا دعویٰ کرے اور دعویٰ کرنے کا کوئی وقت بیان نہیں کیا اور نہ ہو سکتا ہے کیونکہ آیت میں جرم کا بیان ہے وہ جرم افتراء کرنا ہے اُس کے بعد اُس کی سزا کا بیان ہے پھر اُس کے لئے وقت کی تعیین نہیں ہو سکتی حاکم نے جب کسی جرم کی سزا مقرر کر دی وہ سزا جرم کے بعد ہر وقت ہوگی اُس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے اب اُس جرم کا وقوع جناب رسول اللہ کے وقت میں ہو یا آپ کے بعد بارہ تیرہ سو برس کے بعد ہو اس آیت میں سب کا بیان ہے جس طرح روزے اور نماز کا حکم ہے کہ اُس وقت کے اصحاب پر بھی تھا اور اس کے بعد قیامت تک ہے ایسا ہی جس نیک کام کیلئے وعدہ اور برے کام کے لئے وعید کی گئی ہے وہ اُس وقت کیلئے بھی تھی اور قیامت تک کے انسانوں کے لئے ہے اہل علم اس کا یقین کرتے ہیں جہلاء کا ذکر نہیں ہے۔

الفرض ان سب گروہوں کی نسبت وہ وعید بیان کی گئی ہے جس کا ذکر اس کے بعد کی آیت میں ہے اور جو وقت اُس وعید کا ہے اُسی وقت اُس کا ظہور ہوگا یعنی مرنے کے بعد دنیا میں اُس کا وقت بتانا محض غلط ہے اس آیت میں جس مغتری کو خاص طور سے بیان کیا ہے یہ وہی مغتری ہے جس کی نسبت مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں دست بدست سزا پاتا ہے اور یہ غلط اور جھوٹا دعویٰ بار بار انہوں نے کتب الہیہ کی طرف منسوب کیا ہے۔

اب یہاں یہ بھی معلوم کرنا ضرور ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں اکثر احکام یا وعدہ و وعید کا نزول ظاہر میں کسی خاص سبب سے ہوا ہے مگر اس سے یہ سمجھنا کہ یہ حکم یا یہ وعدہ یا وعید اسی سبب سے مخصوص ہے کسی فہیدہ ذی علم کا کام نہیں ہے بلکہ ہر ایک ذی علم یہی سمجھتا ہے کہ اس وعدہ یا وعدہ کے نزول کا سبب اگرچہ کوئی شخص ہوا ہے مگر یہ وعید یا وعدہ اُس سے مخصوص نہیں ہے بلکہ عام ہے جو شخص جس وقت اس جرم کو کرے گا وہ اس سزا کا مستحق ہوگا اسی طرح وعدہ میں جزا کا مستحق ہوگا اب میں اس کی تائید اور تشریح میں بعض تفسیروں کی عبارت نقل کرتا ہوں جس سے ناواقف حضرات اپنے جہل مرکب پر متنبہ ہوں تفسیر فتح البیان کی جلد سوم میں پہلی آیت کا اول جملہ لکھا ہے، جو یہ ہے۔

فمن التری علی اللہ کذباً او قال اوحی الیّ ولم یوح الیہ شیئ انما هذا شان

الکذابين رئيس الضلال المسيمة الكذاب (ثم قال) اهل العلم وقد دخل في حكم هذه الآية كل من الترى على الله كذباً في ذلك الزمان وبعده لانه لا يمنع خصوص السبب من عموم الحكم ص ۱۹۲

جس نے خدا پر جھوٹ باندھا یا نزول وحی کا جھوٹا دعویٰ کیا (پھر اُس کی تفسیر میں لکھتے ہیں) اس میں شبہ نہیں کہ یہ شان اُن جھوٹوں کی ہے جو گمراہوں کے سردار ہیں جیسے مسیلہ کذاب (اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں عام مفتریوں کا ذکر ہے اور مسیلہ کذاب کو اُن کی مثال میں پیش کیا ہے پھر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں) کہ اہل علم کہتے ہیں کہ آیت کے اس بیان میں ہر وہ شخص داخل ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے اس زمانہ میں (یعنی رسول اللہ کے وقت میں) یا اُس کے بعد کیونکہ سبب کا خاص ہونا حکم کے عام ہونے کو منع نہیں کرتا۔

قادیانی مؤلف القاء اس تفسیر کو ملاحظہ کریں اور اپنی غلطی پر متنبہ ہوں علامہ طبری اپنی تفسیر جامع البیان میں آیت مذکورہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں

لقد دخل في هذه الآية كل من كان مختلقاً على الله كذباً وفانلاً في ذلك الزمان وفي غيره اوحى الله اليه او هو في قلبه كاذب لم يوح الله اليه شيئاً فاما التنزيل فانه جائز ان يكون نزل بسبب بعضهم و جائز ان يكون نزل بسبب جميعهم (جلد ۷ ص ۲۷۴)

اس میں شبہ نہیں کہ اس آیت میں ہر وہ شخص داخل ہے جس نے خدا پر جھوٹ باندھا اور وحی الہی کے نزول کا جھوٹا دعویٰ کیا اب یہ دعویٰ جناب رسول اللہ کے زمانہ میں ہو یا دوسرے وقت میں (یعنی اس میں نہ وقت کی تخصیص ہے نہ کسی مدعی کی اس میں پہلی اور دوسری صدی اور چودھویں صدی سب برابر ہیں) اب رہا آیت کے نازل ہونیکا سبب اس میں ہو سکتا ہے کہ نزول کا سبب بعض جھوٹے ہوں مثلاً مسیلہ کذاب اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام جھوٹوں کے لئے آیت کا نزول ہوا اگرچہ اُس وقت مسیلہ کذاب وغیرہ جھوٹے بطور اتفاق موجود تھے۔

علامہ طبری نے نہایت عمدہ فیصلہ کر دیا، یعنی یہ فرمایا کہ آیت میں جو حکم جھوٹے مدعی کے لئے بیان ہوا ہے وہ تو ہر طرح عام ہے کسی خاص جھوٹے مدعی سے مخصوص نہیں ہے البتہ آیت کے نزول کا سبب خاص بھی ہو سکتا ہے اور عام بھی ہو سکتا ہے اور جنہوں نے اُس کے نزول کا خاص ہی سبب بیان کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اُس وقت مسیلہ وغیرہ جھوٹے

موجود تھے اس لئے اُس وقت بعض حضرات کے خیال میں یہ آیا کہ اسی کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، غرضیکہ یہ کوئی پختہ بات نہیں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب میلہ اور غنسی ہی ہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس قسم کے جھوٹے مدعی ہونے والے تھے اس لئے اُس نے یہ وعید نازل فرمائی، البتہ جس وقت یہ وعید نازل ہوئی اُس وقت بعض ایسے جھوٹے موجود تھے اور عقل سلیم جب اس پر غور کرے گی تو اسی کو ترجیح دے گی کیونکہ علم الہی میں میلہ کے سوا بہت سے جھوٹے مدعی تھے جن کا ظہور اس وقت تک ہوا، پھر اُن کی حالت کا بیان ہونا قرآن مجید میں ضرور تھا، اس لئے آیت مذکورہ میں اُن کا بیان ہوا، میلہ کی خصوصیت کی کوئی وجہ نہیں ہے بجز اس کے کہ نزول کے وقت یہ موجود تھا، اور اسی وجہ سے بعض نے اُسے نزول کا سبب خیال کیا، اور بالفرض اگر نزول کا سبب ہو تو بھی آیت کا حکم اور اُس کی وعید اُس سے مخصوص کسی طرح نہیں ہو سکتی، بعض مفسرین نے میلہ کو باعث نزول آیت قرار دیا ہے، اور بعض نے اُسے بطور مثال پیش کیا ہے، اس سے آیت کے حکم کو اُس سے مخصوص سمجھنا کمال درجہ کی نا فہمی ہے، مؤلف القاس تحقیق میں غور کریں اور اپنی نا فہمی اور غلطی پر حاسف ہوں، علم اصول فقہ میں یہ مسئلہ مصرح ہے توضیح کا یہ جملہ اہل علم کی زبان پر مشہور ہے۔

العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لان التمسك انما هو باللفظ وهو عام و خصوص السبب لا ينافي عموم اللفظ ولا يقتضي اقتضاءه عليه ولانه قد اشتهر من الصحابة ومن بعدهم التمسك بالعمومات الواردة في حوادث واسباب خاصة من غير قصر لها على تلك الاسباب فيكون اجماعاً على أنَّ العبرة لعموم اللفظ (توضیح، ص ۱۴۱)

یعنی قرآن وحدیث میں لفظ کے عموم کا اعتبار ہے اگرچہ اُس کے نزول کا سبب خاص ہو (علامہ تفتازانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ لفظ کے عموم کا اعتبار اس لئے ہے) تمسک اور دلیل تو (قرآن وحدیث کے) الفاظ سے ہوتی ہے اور سبب نزول کا خاص ہونا عموم لفظ کے منافی نہیں ہے (ممکن ہے کہ سبب نزول خاص ہو اور کلام الہی کے الفاظ عام ہوں، اور اس وجہ سے اُس کلام الہی کا حکم عام ہو) سبب کا خاص ہونا اُس کا مقتضی نہیں ہے کہ کلام الہی کا حکم اُس سے خاص کر دیا جائے (اور ایسے کلام کے عام رکھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ) صحابہ اور تابعین وغیرہم سے یہ بات درجہ شہرت کو پہنچ چکی ہے کہ جس کلام الہی کے لفظ عام ہیں اور اُس کے نزول کا سبب خاص ہے اُس

سے ان تمام بزرگوں نے عام حکم ثابت کیا ہے خاص اُس سبب پر منحصر نہیں رکھا، اس سے ثابت ہوا کہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہے (جیسا کہ مذکورہ آیت میں لفظ مَن ہے) سبب کے خاص ہونے کا لحاظ نہیں ہے۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کلام الہی میں کسی حکم کو ایسے لفظ سے بیان کیا ہے کہ اُس کے معنی عام ہیں تو بالاتفاق اُس سے عام حکم ثابت ہوگا، اگرچہ اُس کے نزول کا سبب خاص ہو یہ دونوں کتابیں کتب درسیہ میں متوسط درجہ کے طالب علم پڑھتے ہیں، پھر کیا مؤلف القا کے مطالعہ میں یہ کتابیں نہیں آئیں اگر ان کتابوں پر ان کی نظر نہ ہو تو نور الانوار ہی کو ملاحظہ کریں، اسے تو ادنیٰ مرتبہ کے طلباء پڑھتے ہیں اس میں اس مسئلہ کو متعدد جگہ مختلف طور سے بیان کیا ہے اُس کی عبارت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قادیانی مربی نے پڑھا ہے وہ نکال کر دیکھ سکتے ہیں، البتہ اگر مرزا قادیانی کی بیعت نے تمام علوم کو اور حقانی باتوں کو ان کے سینہ سے محو کر دیا ہے تو اُس کا علاج انسانی اختیار سے باہر ہے کیونکہ اُنک لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَتِ ارشاد خداوندی ہے۔

الغرض یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ ان دونوں آیتوں کی وعید تمام مفتریوں کے لئے ہے، مفتری کی کوئی قسم اس سے علیحدہ نہیں ہے دوسرے یہ کہ جو وعید ان آیتوں میں بیان ہوئی ہے وہ دنیا کی وعید نہیں ہے بلکہ دوسرے عالم کے لئے ہے جس میں انسان مرنے کے بعد جاتا ہے پہلی آیت سے تو اس کا ثبوت ہو لیا اب دوسری آیت کو ملاحظہ کیجئے۔

اللہ تعالیٰ نے پہلے تو افتراء پر دوزخ کو بہت بڑا عالم ٹھہرا کر اجمالی طور سے ہر قسم کے مفتریوں کو ڈرایا، اُس کے بعد کسی قدر اُس کی تفصیل کے لئے جناب رسول اللہ سے یا عام مخاطبین سے ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ الظَّالِمُونَ عَامِ انْدِرَاجٍ فِيهِ الْيَهُودُ وَ الْمُنْتَبِئَةُ وَ غَيْرُ هُمْ وَالْمَلَائِكَةُ نَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ الْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ  
يشتمل كل نوع من الكفر ويدخل فيه دخولاً أولياً من تقدم ذكره من المفترين على الله الكذب (آیت قرآن مع تفسیر بحر محیط جلد ۳ ص ۱۸۱ سورہ انعام)

اگر ان ظالموں کی حالت موت کے وقت تو دیکھے کہ کس سختی سے ان کی جان نکلتی ہے اور عذاب کے فرشتے اُن کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور اُن کے اظہارِ عجز کے لئے کہہ رہے ہیں کہ اپنی جانوں

کو اپنے جسم سے نکالو یا اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اب تمہاری افتراء پردازی اور ہر قسم کے کفریات کی تمہیں سزا دی جائے گی اب یہاں غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو مفتری کہہ کر انہیں بہت بڑا ظالم فرمایا اُس کے بعد اُس ظلم کی سزاؤں کا عذاب قرار دیا اور اُس عذاب کی ابتداء موت کے وقت سے بتائی چنانچہ ارشاد ہوا۔ ”الْيَوْمَ نُجْزِي“ یعنی جس وقت فرشتے جان نکال رہے ہیں اُس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب تمہارے افتراء پردازی کی سزا دی جائے گی یہ ارشاد ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی بد معاش مدت دراز تک پکڑا نہ جائے اور جہنم سے بد معاشی کرتا پھرے اور جب وہ پکڑا جائے اور حاکم کا پیادہ اُس کی مٹکین کسے اور لات جوتا بھی رسید کرے اور یہ کہے کہ بہت بد معاشی کرتے رہے اب تمہاری خبر لی جائے گی اور پوری سزا کی جائے گی یہ مٹکین کسی جانا اور کسی قدر جوتے اور لات سے اُس کی خبر لینا سزا میں داخل نہیں سمجھا جاتا سزا کا مقام تو جیل ہے اُس میں جانے کے وقت سے اُس کی سزا کی ابتداء ہے اس سے پیشتر جو کچھ اُس کی گت بنائی گئی وہ سزا کی تمہید تھی مجرم انسان کی جان نکالنے کے لئے فرشتوں کا آنا اور اُس کی روح کو نکالنا ایسا ہے جیسا کہ دنیوی مجرم کی مٹکین کسی گتیں قرآن مجید کے اس جملہ نے یقینی طور سے ثابت کر دیا کہ مفتری کی سزا کا وقت مرنے کے بعد ہے اور جانگی کے وقت جو کچھ تکلیف ہے وہ اُس کی تمہید ہے جس طرح بد معاشوں کو جیل میں جانے کے پہلے کچھ مار پیٹ ہو جاتی ہے اس آیت میں مفتری کے دنیاوی گذران کا کچھ ذکر نہیں ہے مگر اس وقت اس آیت کو پہلی آیت سے ملا کر دیکھا جائے تو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ اُس آیت میں انہیں مفتری علی اللہ نسبت ارشاد ہے۔

أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْهُمْ

ان مفتریوں کا مقدرہ رزق وغیرہ انہیں پہنچتا رہے گا یہاں تک کہ ان کی جان لینے کے لئے ہمارے رسول یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے پہنچیں۔ اور جب دنیا کے تاریخی واقعات پر نظر کی جاتی ہے تو مسلمان اور غیر مسلمان سب ہی کو اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ عالم دنیا مفتری کی سزا کا مقام نہیں ہے اور نہ ان کی گرفت کے لئے کوئی میعاد مقرر ہے۔

حاصل کلام! یہ ہے کہ مفتریوں اور صادقوں کے واقعات اور قرآن مجید کی متعدد آیات سے یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کے لئے جو کامیابی اور فلاح کی بشارت دی گئی ہے اور مفتریوں اور کافروں کے لئے ناکامی اور عدم فلاح کی وعید سنائی گئی ہے ان دونوں کا وقت مرنے کے بعد ہے آیت لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ الخ سے مرزا قادیانی کا یہ استدلال کرنا محض غلط ہے کہ



مفتی کو بیس برس یا تیس سے زیادہ مہلت نہیں دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ وہ صاعقہ ہے کہ ہمیشہ جھوٹے ملہموں کو جلد کھاتی رہی ہے اس لیے عرصے تک اس جھوٹے کو (یعنی مرزا قادیانی کو) چھوڑ دے۔“ کیونکہ آیت سورۃ الحاقہ جو بالاتفاق مکی ہے اور کوئی آیت اس کی مدنی نہیں ہے اُس میں ارشاد ہے۔ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَا أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ لَمَّا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔

(الحاقہ ۴۳ تا ۴۷)

یعنی پورا قرآن پروردگار کی طرف سے اتارا ہوا ہے (کسی دوسرے کا بتایا ہوا نہیں ہے) اگر (ہمارا رسول محمدؐ سچے الہاموں کیساتھ) بعض جھوٹی باتیں ملا دیتا تو ہم اُسے مضبوط پکڑتے یا اُس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے (اور وہ بری حالت کرتے کہ تم دیکھ لیتے) اس کے بعد اُسے ہلاک کر دیتے یا ایسی مصیبت میں مبتلا کرتے کہ زندہ درگور ہو جاتا، اس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ اس آیت میں جو بعض کا لفظ آیا ہے وہ جھوٹے ملہم کو سزا سے خارج کر دیتا ہے کیونکہ مطلب یہ ہے کہ سچا ملہم اگر اپنے سچے الہاموں کے ساتھ بعض جھوٹے الہام بیان کر دے تو اُس کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے غرض بعض الاقوال کی قید نے نہایت صفائی سے جھوٹے ملہم کو اس آیت سے نکال دیا چونکہ یہ آیت مکی ہے یعنی اس وقت نازل ہوئی ہے جس وقت تھوڑا سا قرآن شریف نازل ہوا تھا اس لئے بعض کے معنی کل کے کسی طرح نہیں ہو سکتے جیسا کہ بعض مرزائیوں نے اپنی نا فہمی سے لکھا ہے، پوری بحث فیصلہ آسانی حصہ ۲ میں دیکھو ص ۶۸-۷۸ تک ملاحظہ ہو۔

پس اگر کسی صادق کو دنیا میں کچھ کامیابی اور خوش حالی ہو اور کسی کافر کو کیسی ہی بد حالی ہو تو اُس جزا اور سزا کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ہے جو اپنے وقت اور موقع پر انھیں ملنے والی ہے اس لئے وہ کسی شمار میں نہیں ہو سکتی اب اس کے خلاف جو دعویٰ کرتا ہے اور قرآن مجید کی آیت سے اُس کا ثبوت بتاتا ہے وہ محض جاہل اور قرآن مجید سے بالکل بے بہرہ ہے یا کلام الہی میں وہ سخت عیب لگانا چاہتا ہے یعنی در پردہ دہریہ یا منکر اسلام ہے اور یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں ایسے مضامین بھی ہیں جو واقعات کے خلاف ہیں اور اُس کی باتوں میں تعارض اور تخالف ہے چنانچہ اس رسالے کے مضامین بالا سے کامل طور سے اس کا ثبوت ہو گیا۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط



## شینزان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے!

شینزان کی مشروبات ایک قادیانی طائفہ کی ملکیت ہیں۔ افسوس کہ ہزار ہا مسلمان اس کے خریدار ہیں۔ اسی طرح شینزان ریسٹوران جولاہور، راولپنڈی اور کراچی میں بڑے زور سے چلائے جا رہے ہیں۔ اسی طائفے کے سربراہ شاہ نواز قادیانی کی ملکیت ہیں۔ قادیانی شینزان کی سرپرستی کرنا اپنے عقیدہ کا جزو سمجھتا ہے۔ کیونکہ اس کی آمدنی کا سولہ فیصد حصہ چناب نگر (سابقہ ریوہ) میں جاتا ہے۔ جس سے مسلمانوں کو مرتد بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد ان ریسٹوران کی مستقل گاہک ہے۔ اسے یہ احساس ہی نہیں کہ وہ ایک مرتد ادارہ کی گاہک ہے اور جو چیز کسی مرتد کے ہاں پکتی ہے وہ حلال نہیں ہوتی۔ شینزان کے مسلمان گاہکوں سے التماس ہے کہ وہ اپنے بھول پن پر نظر ثانی کریں۔ جس ادارے کا مالک ختم نبوت سے متعلق قادیانی چوچلوں کا معتقد ہو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے اور سواد اعظم اس کے نزدیک کافر ہو اور جہاں ننانوے فیصد ملازم قادیانی ہوں ایک روایت کے مطابق شینزان کی مصنوعات میں چناب نگر کے بہشتی مقبرہ کی مٹی ملائی جاتی ہے۔

اے فرزندان اسلام!

آج فیصلہ کر لو کہ شینزان اور اسی طرح کی دوسری قادیانی مصنوعات کے مشروبات نہیں پیو گے اور شینزان کے کھانے نہیں کھاؤ گے۔ اگر تم نے اس سے اعراض کیا اور خورد و نوش کے ان اداروں سے باز نہ آئے تو قیامت کے دن حضور ﷺ کو کیا جواب دو گے؟ کیا تمہیں احساس نہیں کہ تم اس طرح مرتدوں کی پشت پائی کر رہے ہو۔ (آغا شورش کاشمیری)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم  
سورة الفاتحة

# صحیفہ رحمانیہ

(۱۰)

حضرت مولانا حکیم محمد یعسوب مونگیرویؒ



جس میں نہایت متانت اور کامل سنجیدگی سے مسج  
قادیان کی نسبت اپنے پاکیزہ خیالات بیان کئے ہیں

جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت و رسالت کے ذکر میں  
عبدالماجد قادیانی بھاگلپوری کے رسالہ القائے ربانی کی چند  
سطروں میں عظیم الشان دس غلطیاں دکھا کر انہیں متنبہ کیا ہے

## اطلاع خاص

عبدالماجد قادیانی بھاگلپوری نے اپنے رسالہ القائے ربانی کے آخر میں مرزا قادیانی  
کی نبوت و رسالت کو اپنے خیال فاسد میں اس طرح ثابت کرنا چاہا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ  
کے خاتم النبیین ہونے کے منافی اور معارض نہ ہو۔ مگر ”اس خیال است و محال است و  
جنوں“ حضرت سرور انبیاء علیہ السلام و انشاء کے بعد کوئی کسی قسم کا نمی نہیں ہو سکتا۔ چونکہ نہایت غلط  
دعویٰ کے اثبات میں بے سرو پا باتیں بنائی ہیں اور امر حق پر پردہ ڈالنا چاہا ہے اس لئے ان سے  
بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس نمبر میں صرف دس غلطیاں دکھائی گئی ہیں انشاء اللہ آئندہ کے نمبر  
میں المضائف بلکہ اس سے بھی زیادہ دکھائی جائیں گی تاکہ انہیں تنبیہ ہو۔

والسلام

خاکسار محمد یعسوب غفر اللہ لہ



## مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت

اور عبدالمہاجد قادیانی کی فاش غلطیاں

اس میں شبہ نہیں کہ رسالہ فیصلہ آسمانی مؤلفہ حضرت مولگیری مرزا قادیانی کے باب میں واقعی آسمانی فیصلہ ہے جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے وہ نہایت صحیح ہے اس کا کچھ جواب نہیں ہو سکتا۔ اس رسالہ نادرہ میں ضمناً مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کی یہ دلیل بھی لکھی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن مجید کے نصوص قطعیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت سرور انبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کے بعد کوئی جدید نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد کوئی امتی یا غیر امتی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بموجب صریح آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کذاب و دجال ہے۔ جن قادیانی مربی کا نام میں نے عنوان پر لکھا ہے یہ بھاگلپور کے مشہور قادیانی مربی ہیں، مگر یہ مذہبی حالت ہمیشہ بدلتے رہے۔ کچھ دنوں سے مرزائی احمدی ہو گئے ہیں اور قادیان کے خلیفہ اسحٰق کی فرمائش سے فیصلہ آسمانی حصہ دوم کا جواب لکھا ہے مگر اہل علم کو ان کا جواب دیکھ کر ان کی حالت پر افسوس ہوتا ہے کیونکہ ذی علم حضرات ان کے رسالہ میں صریح غلطیاں اور کھلی بددیانتیاں اور بے سرو پاتیاں دیکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا مشہور علم و فضل کیا ہو گیا۔ علم کے سوا ان میں تو دیانت و تہذیب کا بھی پتہ نہیں لگتا۔ اس کے اظہار کے لئے ایک رسالہ انوار ایمانی، مؤلفہ مولانا ابوالخیر محمد انور حسین صاحب مولگیری کا چھپ کر شائع ہو چکا ہے۔ دوسرا رسالہ ”محکمات ربانی“ جو ان کے نہایت اخص عزیز مولوی حکیم ولی الدین صاحب بھاگلپوری نے لکھا ہے وہ زیر طبع ہے۔ بنظر خیر خواہی مسلمانان، محرر سطور کا بھی خیال ہوا کہ قادیانی مربی کی بعض غلطیوں کو اظہار من اخصس کر کے مسلمانوں کو واقف کرے تاکہ ان کی باتوں سے ناواقف حضرات بچیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عنایت

کرے آمین۔ میں اس مضمون میں صرف انہیں غلطیوں کا نمونہ دکھاؤں گا جو انہوں نے دعویٰ نبوت مرزا کے بیان میں کی ہیں۔

معزز ناظرین! آپ کو خوب یاد ہوگا کہ ایک زمانہ میں مونگیر بھاگلپور میں قادیانی جماعت کا کس قدر زور تھا۔ علماء اسلام کی صلح کن حکمت عملی نے ان کو اس قدر جری کر دیا کہ ان کا جاہل، اجہل، بھی بازاروں میں سڑکوں پر چیلنج دیتا پھرتا تھا اور ذرا بھی ہوشیار ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ بلکہ خدائی ڈھیل پر ان کی جرأت زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ جب یہ بہت بڑھ چڑھ گئے تو موافق سنت الہی کے ایک بارگی خداوند ذوالجلال کی غیرت جوش میں آئی اور ایک باخدا مقدس انسان کے دل میں القافرمایا کہ اٹھو اور ان کی نخ و بنیا کو متزلزل کر دو۔ چنانچہ یہ باخدا شخص خدا کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مرزائی فتنہ کے فرو کرنے پر متوجہ ہو گئے۔ جن کے ادنیٰ فیوضات و برکات کا نتیجہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فوراً بساط مناظرہ قائم ہو گئی جس میں پچارے مرزائیوں کو اپنے ہی مقرر کردہ شرائط کو نامعقول کہہ کر سر پر الٹی کر سیاں لے کر بھاگنا پڑا، اور دوسری طرف اس مقدس انسان کا فیض داغی یہ ہوا کہ فیصلہ آسمانی حصہ اول و دوم و سوم و شہادت آسمانی، دھقیقہ آس، و دیگر بیش بہا سالجالت کی میگزین تیار فرمائی جس سے نہ صرف مرزا قادیانی کا مصنوعی قلعہ ”ہباء منشورا“ ہو گیا، بلکہ مونگیر بھاگلپور کے مقامی مرزائیوں پر بھی ایسا گولہ پڑا کہ بالکل بے پناہ ہو گئے۔ مثل فراری چوروں کے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ اس طرف مردان خدا اظہار حق کے لئے ہر طرح موجود ہیں ان کے صدر انجمن سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح چاہے مناظرہ کر لیجئے، مہبلہ کر لیجئے۔ عام جلسہ میں کیجئے، خاص میں کیجئے، سامنے آنے میں اگر آپ کو شرم آتی ہے تو اپنی طرف سے اپنے کسی شاگرد کو یا کسی دوسرے کو پیش کیجئے۔ مگر صدائے برنہ خاست کا مضمون ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کسی نفسانی غرض یا طعنہ دہی کی شرم نے ان کو پکڑ رکھا ہے نہیں تو کب کے مسلمان ہو جاتے۔

معزز ناظرین! مذکورہ رسالے ایسی تحقیق اور لا جواب طریقے سے لکھے گئے ہیں کہ کوئی حق پسندان کے مضامین سے انکار نہیں کر سکتا اور کوئی معاہدان کا صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ مگر عبدالماجد قادیانی بھاگلپوری نے اتنے عرصہ میں صرف فیصلہ آسمانی حصہ دوم کا جواب دینا چاہا ہے۔ بلکہ بزم خود دے بھی دیا ہے اور ایک کتاب بنام القاء ربانی پبلک میں پیش کر دی ہے۔ جسے القاء نفسانی کہنا نہایت صحیح ہے۔ اس سے اور کچھ تو نہیں ہو سکتا ہے صرف اس جنرل کے مشابہ ضرور

ہو گئے ہیں جو جنگ میں شکست فاش کھایا ہوا اور نوک دم بھاگ کر گرتے پڑتے اپنی جان بچائی ہو۔ اس کے بعد پھر اپنی شرم منانے کے لئے اپنے بھاگتے ہوئے سپاہیوں کو جمع کر کے انہیں ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہتھیاروں سے ایک مرتبہ مقابلہ کے لئے اور بھی ٹھان لی ہو، لیکن ہر شخص آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ بھگوڑے سپاہی نکلے ہتھیاروں سے ایک جرار حوصلہ مند یا حربہ و ہتھیار فوج کا کیونکر مقابلہ کر سکتے ہیں؟ غور سے، نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ قادیانی مربی نے جواب لکھ کر صرف مناظرہ ہونے کی شرم منائی چاہی ہے یا خلیفہ اسحٰق قادیانی کی شرم رکھنے کے لئے قلم فرسائی کی ہے کیونکہ فیصلہ آسانی کے جواب کے لئے اول انہیں سے درخواست کی گئی تھی اور ان سے کچھ نہ ہو سکا اور قادیانی مربی کو اپنے جواب کا ضعف اچھی طرح معلوم ہے۔ نہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ فیصلہ آسانی کے جواب کے لئے جو ایک ہزار نقد جتنا جمن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے حاصل کرنے کی ذرہ بھی کوشش نہیں فرماتے اور اشتہار دینے والے کو ایک پرزہ تک نہیں لکھا۔ ہم اس کو نہیں تسلیم کر سکتے کہ قادیانی مربی، روپیہ سے بے پرواہ ہیں کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک قلیل ماہانہ تنخواہ کے واسطے روزانہ سر مغزنی کرتے ہیں اور بیچ اور کرسیوں پر سر ہٹتے ہیں۔ ایک ہزار تو بہت بڑی رقم ہے اور اگر قادیانی مربی یہ عذر پیش کریں کہ ایسے ایسے اشتہارات ایفاء وعدہ کے خیال سے نہیں دیئے جاتے ہیں تو پھر ان سے یہ سوال ہوگا کہ مرزا بھی تو بہت اشتہار چار ہزاری و بیچ ہزاری دیا کرتے تھے، کیا ان کا خیال بھی آپ نے اسی ذیل میں شمار کیا ہے؟ مگر ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے اشتہاروں کو آپ جو کچھ خیال کریں یہ آپ کو اختیار ہے مگر یہاں اسلامی وعدہ ہے ایک سچے مسلمان نے کیا ہے اس میں خلاف نہیں ہو سکتا۔ بھاگلپوری، مونگیری، لکھنؤ قادیانی وغیرہ جہاں قادیانی جماعتیں ہیں جلسہ کر کے فیصلہ کر لیں اشتہاری شرائط میں حکیم نور الدین قادیانی کا بھی ذکر ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اگر کوئی قادیانی فیصلہ کے لئے تیار ہو تو مشتہر فشی ابراہیم حسین صاحب رتن پوری سے ملے کر سکتا ہے اور راقم سے بھی ملے کر سکتا ہے، مگر ہم یقینی طور سے کہتے ہیں کہ کوئی قادیانی یہ ہمت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ان کا دل رسائل مذکورہ کی قوت دلائل کو مان چکا ہے یہی وجہ ہے کہ مناظرہ مونگیر کے زمانہ یعنی ۱۹۱۱ء سے اس وقت تک (پچیس رسالے شائع ہو چکے ہیں اور پانچ رسالے زیر طبع ہیں۔ ان سب کے نام یہ ہیں (۱) فیصلہ آسانی حصہ اول، (۲) فیصلہ آسانی حصہ دوم، (۳) فیصلہ آسانی حصہ سوم، (۴) تتمہ فیصلہ آسانی، (۵) شہادت آسانی (۶) ہدیہ اسحٰق، (۷) معیار اسحٰق، (۸) تنزیہ ربانی، (۹) معیار صداقت، (۱۰) حق نما، (۱۱) آئینہ قادیانی، (۱۲) مکذیب قادیانی،

(۱۳) اہل حق کو بشارت، (۱۴) انوار ایمانی، (۱۵) ادعا مرزا (۱۶) مسیح کا ذب، (۱۷) تائید ربانی برہنیت قادیانی، (۱۸) مرزا غلام احمد قادیانی کا فیصلہ، (۱۹) مسیح قادیانی کا فیصلہ، (۲۰) صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱ (۲۱) صحیفہ نمبر ۲ (۲۲) صحیفہ نمبر ۳ (۲۳) صحیفہ نمبر ۴ (۲۴) صحیفہ نمبر ۵ (۲۵) صحیفہ نمبر ۶ (۲۶) صحیفہ نمبر ۷ (۲۷) رسالہ دعویٰ نبوت مرزا نمبر ۶، ۷ میں چھپا ہے، مگر ہر ایک نمبر مستقل رسالہ ہے۔ مندرجہ ذیل کتابیں زیر طبع ہیں۔

(۲۸) عبرت خیز (۲۹) انجم ثاقب، (۳۰) محکمات ربانی (۳۱) صواعق ربانی۔ بعض مرزائی حضرات ان رسائل کا بے سود اور فضول ہونا اس جملہ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ”موتگیر سے رسالہ پر رسالہ نکل رہا ہے۔ مگر قادیانی ہیں کہ کچھ خیال نہیں کرتے۔“ یعنی ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا، اس لئے یہ رسالے بے سود ہیں، اس کا تفصیلی جواب تو دوسرے مقام پر دیا جائے گا مگر قادیانی یہ بتائیں کہ مرزا قادیانی نے آریوں کے مقابلہ میں کتاب لکھی، پیشین گوئیاں کیں مگر کوئی آریہ ایمان لایا؟ پادریوں کے مقابلے میں کتاب لکھی، بہت غل مچایا مگر کسی پادری نے اس پر توجہ بھی کی؟ پھر آپ کے خیال کے بموجب مرزا قادیانی باوجود مامور من اللہ ہونے کے کیا حاصل کیا؟

اس وقت ہمارے بچپس رسالے چھپ کر شائع ہو چکے ہیں، اس میں مطول اور مختصر اور متوسط ہر قسم کے رسالے ہیں اور متعدد طریقہ سے سمجھایا گیا ہے اور مرزا قادیانی کا کاذب ہونا ثابت کیا ہے، مگر نہ راہ مستقیم کو قادیانی جماعت اختیار کرتی ہے اور نہ رسالوں کا جواب دے سکتی ہے اس چار برس کے عرصہ میں صرف فیصلہ آسمانی حصہ دوم کے مقابلے میں دو رسالے لکھے گئے ہیں۔ ایک برق آسمانی جس کا دندان شکن جواب صواعق ربانی زیر طبع ہے، دوسرا القاء ربانی ہے۔ جس پر دو ریمارک ہو چکے ہیں، ایک انوار ایمانی (یہ رسالہ چھپ کر شائع ہو چکا ہے اور مؤلف القاء کو کھینچ چکا ہے دوسرا زیر طبع ہے اور یہ تیسرا رسالہ ہے جن حضرات کو قادیانی مربی کے علم و دیانت پر بڑا اعتماد ہے وہ برائے خدا ان رسالوں کو ملاحظہ فرمائیں اور جب القاء کا پورا جواب لکھا جائے اس کو بنظر انصاف و تحقیق دیکھیں، اگر کچھ بھی انصاف اور حق طلبی ہو تو قادیانی مربی کے علم و دیانت دونوں کی قلعی کھل جائے گی۔) دوسرا رسالہ محکمات ربانی ہے۔ قادیانیوں کا رسالہ ماسٹر عبد المجید قادیانی کا ہے حق طلب کی فریاد، اس میں ماسٹر عبد المجید قادیانی نے کہیں کہیں اپنی نام نہی سے چوٹ کی ہے، فیصلہ آسمانی حصہ ۲ پر، اور اپنے خیال میں مرزا قادیانی کی صداقت ثابت کرنا چاہی ہے۔ مگر الحمد للہ اس مختصر رسالے کے جواب میں ان کے مسلمان دوست نے ایک بے نظیر اور



محققانہ مبسوط رسالہ لکھا ہے جس کا نام 'انجم ثاقب' ہے۔ اس کے دو یا تین حصے ہیں میں نے پہلا حصہ دیکھا ہے جو ایک سو چوہین صفحات پر چمپا ہے۔ ان رسالوں کے ذخیرہ میں سے عبدالماجد قادیانی نے ایک رسالہ کا جواب لکھا ہے۔ اس سے صاف روشن ہو رہا ہے کہ قادیانی مربی نے سکوت محض مناسب نہیں سمجھا، اپنے ساتھیوں کے رکھ رکھاؤ کے لئے ایک رسالہ پر کچھ لکھ کر اپنی قابلیت اور دیانت کا ثبوت دیا ہے، مگر افسوس ہے کہ جناب مؤلف کو اتنی خبر نہیں ہے کہ اس رسالہ نے تو ان کی فضیحت کن حالت کو طشت از بام کر دیا۔ مگر جہل مرکب کا علاج نہیں ہے۔ خیر ان سب باتوں میں بالتفصیل بحث کرنا اس شخص کا فرض ہے جو اول سے آخر تک کتاب پر ریویو کرے۔ میں ناظرین کی توجہ کتاب القاء ربانی کے صرف ایک باب کی طرف پھیرنا چاہتا ہوں جس میں قادیانی مربی نے اپنے امام کی پردہ داری کرتے ہوئے اپنی قابلیت اور دیانت کی پوری حالت دکھائی ہے۔ اس لئے جماعت قادیانی کی خیر خواہی نے مجھ کو مجبور کیا کہ یہ پردہ فاش کر کے ان کو دکھایا جائے کہ 'یکے دزد باشد یکے پردہ دار' عرصہ تک قائم نہیں رہ سکتا۔ قادیانی مربی اپنی کتاب کے صفحہ ۱۰۷ میں مسیح موعود (مرزا) کی رسالت و نبوت، کی سرخی قائم کر کے تحریر فرماتے ہیں "ابو احمد صاحب نے چونکہ اپنے اس فیصلہ نفسانی میں کئی ایک جگہ حضرت مسیح موعود (مرزا) کی نبوت کا ذکر کر کے مسلمانوں کو دھوکا دیا ہے اور حصہ اول کے ضمیمہ میں بھی خاتم النبیین کی تھوڑی بحث کرنے کے علاوہ اپنی علی پردہ داری کے اس بات کی کوشش کی ہے کہ حضور پر نور محمد رسول اللہ ﷺ نے مسیح موعود علیہ السلام کو نبی اللہ کا خطاب دیا ہے۔ اس پر پردہ ڈال کر مسلمانوں میں بدظنی پھیلائیں کہ حضرت مسیح موعود (مرزا) نے معاذ اللہ کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے جو منافی ختم رسالت اور ختم نبوت حضور پر نور ختمی مآب محمد رسول اللہ ﷺ ہے۔" اس عبارت کے چند سطروں کے بعد قادیانی مربی نے نبی و رسول کے چند معنی بیان فرمائے ہیں اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ معنی قرآن مجید سے ثابت ہیں۔

"(۱) صاحب شریعت (۲) غیر صاحب شریعت گوان کو بھی براہ راست وحی الہی ہوتی ہو جیسے حضرت ہارون علیہ علیہ السلام، (۳) نائب رسول۔"

اب اس معنی کے بیان کے بعد قادیانی مربی نتیجہ نکالتے ہیں۔ "اب قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ نائب رسول اکرم نبی معظم احمد مجتبیٰ ﷺ اور اس معنی کی رو سے بھی نبی و رسول ہیں، تو مضافتہ کی بات نہیں، چہ جائیکہ خاتم النبیین افضل مرسلین نے مسلم کی حدیث میں ایک بار نہیں تین تین بار ان کو نبی اللہ کا خطاب دیا ہے اور ۲۳

برس کی متواتر وحی نے بھی حضور ختمی مآب ﷺ کے اس نبی اللہ کے خطاب کی تصدیق کی ہے کہ آپ (مرزا) کو رسول دینی کے لفظ سے اس وحی میں مخاطب کیا گیا ہے اور اس میں کوئی معذور شرعی بھی نہیں ہے۔“

**معزز ناظرین!** قادیانی مربی کی یہ اردو عبارت کس صفائی سے شہادت دے رہی ہے کہ انہیں اردو لکھنا نہیں آتا وہ اپنے مطلب کو صاف طور سے خوبی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لفظ محض غلط لکھتے ہیں مگر میں اس وقت لفظی غلطی دکھانا نہیں چاہتا۔ جنہیں اردو نو کسی سے مذاق ہے وہ اس عبارت کو دیکھ کر میرے قول کی بلاتامل تصدیق کریں گے۔ میں ان کے مطالب کی غلطیاں ظاہر کر دینا ضروری خیال کرتا ہوں۔ معزز ناظرین! مرزا قادیانی نے نہایت زور کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بلکہ افضل الانبیاء ہونے کے مدعی ہیں جس سے بالیقین ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت سید المرسلین محمد مصطفیٰ ﷺ کی ختم نبوت کے منکر ہیں مگر اس انکار پر پردہ ڈالنے کے لئے عجیب عجیب طرح کی باتیں بتاتی ہیں۔ حضرت مولف فیصلہ آسانی نے آسانی فیصلہ میں مختصر اس کا ذکر کیا ہے۔ مولف القاء اپنے دجل کو چھپانے کے لئے اپنی قابلیت اور دیانت کا خون کر کے متعدد دعوے کرتے ہیں۔

پہلا دعویٰ، قرآن مجید سے انبیاء کی تین قسمیں ثابت ہوتی ہیں، ایک صاحب شریعت، دوسرا غیر صاحب کتاب و شریعت، تیسرا نائب رسول مگر یہ محض غلط ہے۔ ان تینوں قسموں کا ثبوت قرآن مجید سے ہرگز نہیں ہوتا آئندہ معلوم ہو جائے گا۔ اس لئے یہ دعویٰ غلط ہے۔

دوسرا دعویٰ مرزا قادیانی نے ایسے رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جو منافی ختم رسالت ہو بلکہ نائب رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ دعویٰ بھی غلط اور محض غلط ہے کیونکہ اس دعویٰ کا ثبوت اول تو اس پر موقوف ہے کہ قرآن مجید میں نبوت اور رسالت کی کوئی ایسی قسم بیان کی ہو جو رسول اللہ ﷺ کی ختم نبوت کے منافی نہ ہو۔ مگر اس قسم کے نبی کا ثبوت نہ قرآن مجید میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں، اس لئے یہ دعویٰ غلط ہے دوسرے یہ کہ مرزا قادیانی نے ہر طرح کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے ثبوت میں خاص رسالہ لکھا گیا ہے، جس کا نام ”دعویٰ نبوت مرزا“ ہے۔ میں مرزا قادیانی کا ایک قول نقل کرتا ہوں جسے اہل حق دیکھ کر قادیانی مربی کی حق پوشی اور غلط بیانی کی تصدیق کریں گے۔ مرزا قادیانی صاف کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد سے چودھویں صدی تک میرے سوا کوئی نبی کا خطاب پانے کا مستحق نہیں ہے، میں ہی مستحق ہوں۔ پھر کیا جناب رسول

اللہ ﷺ کے بعد سے کوئی نائب رسول نہیں ہوا؟ کیا حضرت ابو بکر صدیقؓ اور دیگر خلفائے راشدینؓ نائب رسول نہ تھے؟ گزشتہ تیرہ صدی میں جو مجددین گزرے یہ نائب رسول نہ تھے؟ نہیں ضرور تھے۔ مرزا قادیانی اور ان کے پیرواس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس سے بخوبی روشن ہو گیا کہ مرزا قادیانی ایسی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں جس کا مرتبہ نائب رسول سے بہت اعلیٰ ہے۔ یہی وہ دعویٰ ہے جو حضرت سرور انبیاءؑ کی ختم نبوت کے منافی ہے۔ اب مرزا قادیانی کا قول ملاحظہ ہو، ”اور یہ بات ایک ثابت شدہ امر ہے کہ جس قدر خدا تعالیٰ نے مجھ سے مکالمہ اور مخاطبہ کیا ہے اور جس قدر امور غیبیہ مجھ پر ظاہر فرمائے ہیں۔ (چونکہ مرزا قادیانی کو محض غلط اور جھوٹے دعوے کرنے کا شوق ہے اس لئے ہر جگہ ان کے غلط دعوے دیکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ دعویٰ ہے حضرت محی الدین ابن عربیؒ نے ایک خاص کتاب اپنے مکاشفات کی لکھی ہے اور قیامت تک کے مکاشفات لکھے ہیں۔ مثلاً سلطنت ترک کے متعلق مکاشفات لکھے ہیں۔ قسطنطنیہ کے تمام بادشاہوں کے نام اور ان کی حالت اور مدت سلطنت لکھی ہے مگر خاص اصطلاحات میں بیان ہے۔ اس لئے ہر ذی علم اسے نہیں سمجھ سکتا۔ علمائے مغرب اس سے واقف ہیں۔ مرزا قادیانی نے جو پیشین گوئیاں صاف و صریح کیں وہ تو بالکل غلط ثابت ہوئیں۔ پھر وہ کون سے مکاشفات ہیں جن کی نسبت یہ دعویٰ ہو رہا ہے اور تمام صحابہ کرام اور اولیاء عظام پر فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ کوئی مرزائی سامنے آئے اور ان مکاشفات کو دیکھائے۔) تیرہ سو برس ہجری میں کسی شخص کو آج تک بجز میرے یہ نعمت عطا نہیں کی گئی اگر کوئی منکر ہو تو بار نبوت اس کی گردن پر ہے۔ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقارب اس امت میں گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔“

(ہیئتہ الوحی ص ۳۹۱، خزائن، ج ۲۲ ص ۳۰۶-۳۰۷)

کہئے قادیانی مرہی اب تو آنکھیں کھلیں اب فرمائیے کہ آپ کے مرشد کس نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں جب تیرہ سو برس میں کوئی بزرگ اس مرتبہ کو نہیں پہنچا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت فاروقؓ بھی نہیں پہنچے تو اب نائب رسالت اور ولایت کا مرتبہ تو ختم ہو لیا۔ مرتبہ صدیقیت کے اوپر نبوت مسئلہ کا ہی مرتبہ ہے جو بلا شک و شبہ ختم نبوت کے منافی ہے کتب بات امام

ربانی دیکھئے جسے آپ نے سند میں پیش کیا ہے۔ غرضیکہ مذکورہ عبارت سے نہایت صفائی سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی مستقل نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہایت صاف طور سے صاحب شریعت نبی ہونے کے مدعی ہیں۔ الغرض قادیانی مربی کے دعوے کی غلطی دو شاہدوں سے تو ثابت ہوگئی۔ تیسرا شاہد جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے جسے امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے بھی نقل کیا ہے یعنی ”لو کان بعدی نبی لکان عمر“ (مکتوب بست وچہارم دفتر دوم حصہ ہفتم ص ۳۲۷) رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ ہوتا۔ اگر شریعت میں نبی کے معنی نائب رسول کے ہوتے تو آنحضرت ﷺ کبھی یہ نہ فرماتے جو میں نے ابھی نقل کیا۔ کیونکہ اس میں تو شک نہیں ہے کہ حضرت عمرؓ نائب رسول تھے اس حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ شریعت محمدیہ میں نائب رسول کو نبی نہیں کہتے۔

تیسرا دعویٰ! ”حضرت موسیٰ“ صاحب کتاب اور صاحب شریعت تھے اور حضرت ہارونؑ اور بہت سے انبیاء صاحب کتاب اور صاحب شریعت نہ تھے۔“ اس دعویٰ کے ثبوت میں مؤلف القا لکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیات۔ اِنَّ الْيَاسَ لَجِنَ الْمُؤَسِّلِينَ. (الغطف ۱۳۳) وَ اِنَّ يُونُسَ لَجِنَ الْمُؤَسِّلِينَ. (الغطف ۱۳۹) وَ اِنَّ لُوطًا لَجِنَ الْمُؤَسِّلِينَ (الغطف ۱۳۳) وَ وَهَبْنَا لَهُ، مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا (مریم ۵۳) وَ اَذْكُرْ لِي الْكِتَابَ اِذْ رُسِ اِنَّهٗ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا۔ (مریم ۵۶) اس پر شاہد ہیں مؤلف القا نے یہاں پانچ آیتیں نقل کی ہیں جن میں پانچ انبیاء کا ذکر ہے۔ (۱) حضرت الیاس (۲) حضرت یونس (۳) حضرت لوط (۴) حضرت ہارون (۵) حضرت ادریسؑ ان پانچوں آیتوں کی نسبت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمارے دعویٰ کی شاہد ہیں کہ یہ پانچوں انبیاء صاحب شریعت نہ تھے۔ اس سے غرض یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ انبیاء صاحب شریعت نہ تھے ویسا ہی مرزا قادیانی نبی تھے مگر صاحب شریعت نہ تھے اکثر صاف طور سے یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ مگر ناظرین ملاحظہ کریں کہ یہ ایسا صریح غلط دعویٰ ہے کہ کسی کم علم پر بھی اس کی غلطی پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ ان آیتوں کا صرف یہ مطلب ہے کہ یہ حضرات جن کا ذکر کیا گیا رسول اور نبی ہیں۔ ان آیتوں میں اس کا اشارہ بھی کسی طرح میں نہیں ہے کہ یہ انبیاء صاحب شریعت تھے یا صاحب شریعت نہ تھے۔ اب ان کو اپنے دعویٰ کا شاہد بتانا کیسا صریح غلط ہے؟ اس کے بعد مرزائی رسالہ القا نے ربانی ص ۱۵۸ میں دوسرا غلط دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ تمام اہل اسلام متفق ہیں کہ باوجود رسول اور نبی ہونے کے یہ لوگ صاحب شریعت

نہ تھے۔“ اب میں دریافت کرتا ہوں کہ مؤلف کا یہ قول دلیل سابق کا تہہ ہے یا مستقل ایک دلیل ہے یعنی ان کی یہ غرض ہے کہ آیتوں سے انبیائے مذکورہ کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے اور اس اتفاق و اجماع سے ان کا صاحب شریعت نہ ہوتا، اگر ان کا ایسا خیال ہے تو مذکورہ آیات کو اپنے دعوے کا شاہد کہنا محض غلط ہے۔ وہ آیتیں صرف اس کی شاہد ہیں کہ یہ پانچ حضرات خدا کے رسول تھے۔ اب یہ قول خواہ پہلی دلیل کا تہہ ہو یا علیحدہ دلیل ہو جو کچھ ہو مگر غلط ہے اور محض غلط ہے۔ قادیانی مربی کو کسی کتاب کا حوالہ دیتے شرم آئی۔ یہ اتفاقی مسئلہ کسی معتبر کتاب میں لکھا ہے؟ مگر خوب خیال رہے کہ ان انبیاء کا صاحب شریعت نہ ہونا دکھائیں۔ لفظ نبوت تشریحی اور غیر تشریحی صوفیائے کرام کی کتابوں میں تو مرزائیوں نے دیکھ لیا مگر اس کے معنی جو ان کی اصطلاح میں ہیں اس سے بے خبر ہیں۔ ہمیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے اس قدر کہنا کافی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ ﷺ تک جتنے انبیاء آئے سب صاحب شریعت تھے سب کی نبوت تشریحی تھی۔ شیخ اکبر فصوص الحکم میں لکھتے ہیں۔ ”امانۃ النشریعی والرسالة ممتنعة فی نبیاء ﷺ فلا نبی بعده مُشرِّعًا او مُشرِّعًا۔ مولانا حاجی صاحب اس کی شرح میں فرماتے ہیں۔ ”مُشرِّعًا ای آتیا بالاحکام الشریعة غیر متابعة لنبی اخر قبلہ کموسیٰ و عیسیٰ و محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام او مُشرِّعًا لہ ای فتبعًا لما شرعہ النبی المتقدم کا نبیاء نبی اسرائیل“ اس کے ترجمہ کی ضرورت نہیں مؤلف اس کا غالباً کر سکیں گے حاصل یہ ہے کہ جتنے انبیاء گذرے سب صاحب شریعت تھے اور نبوت و رسالت منقطع ہو گئی۔ ہمارے نبی ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب نہ کوئی ایسی نبی آ سکتا ہے کہ کوئی جدید شریعت لائے نہ ایسا نبی کہ آپ کی شریعت کا پابند ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے۔ الغرض اس مقام پر قادیانی مربی نے تین غلط دعوے کئے۔ (۱) قرآن کی اصطلاح میں دو قسم کے حضرات کو نبی کہا ہے ایک صاحب شریعت دوسرے غیر صاحب شریعت قرآن مجید میں یہ تقسیم ہرگز نہیں ہے۔ (۲) مذکورہ آیتوں کو اس دعوے کا شاہد بتایا حالانکہ وہ آیتیں اس کی شاہد ہرگز نہیں ہیں۔ (۳) مذکورہ انبیاء کا صاحب شریعت نہ ہونا اجماعی اور اتفاقی مسئلہ بتایا۔ اس دعویٰ کی غلطی کے ثبوت میں شیخ اکبر اور مولانا حاجی کا قول پیش کر دیا۔ اب میں ان دعوؤں کی غلطی آیات قرآنیہ اور دوسرے اقوال صحیحہ سے بیان کرتا ہوں ناظرین ملاحظہ کریں۔ تین غلط دعویٰ پہلے گزر چکے ہیں۔ تین یہ ہیں۔ تو یہ کل چھ غلط دعویٰ ہوئے۔

سورہ انعام کا دسواں رکوع ملاحظہ کیا جائے اس رکوع میں اٹھارہ انبیاء کا ذکر آیا ہے یعنی (۱) حضرت ابراہیم (۲) حضرت احق (۳) حضرت یعقوب (۴) حضرت لوط (۵) حضرت داؤد (۶) حضرت سلیمان (۷) حضرت ایوب (۸) حضرت یوسف (۹) حضرت موسیٰ (۱۰) حضرت ہارون (۱۱) حضرت زکریا (۱۲) حضرت یحییٰ (۱۳) حضرت عیسیٰ (۱۴) حضرت الیاس (۱۵) حضرت اسمعیل (۱۶) حضرت اسحاق (۱۷) حضرت یونس (۱۸) حضرت لوط علیہم السلام۔ ان انبیاء کا صریح نام بیان کر کے ارشاد ہوتا ہے۔

”أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ“ (الانعام ۸۹)

ترجمہ: یہ ہی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی اور شریعت دی اور نبوت دی

اس آیت میں ان چار انبیاء کا بھی ذکر ہے جنہیں قادیانی مؤلف القاغیر صاحب شریعت بتا چکے ہیں۔ یعنی (۱) حضرت الیاس (۲) حضرت یونس (۳) حضرت لوط (۴) حضرت ہارون، ان چاروں کو اسی طرح صاحب کتاب اور صاحب شریعت کہا ہے جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو، غرضیکہ اس آیت سے نہایت صفائی سے ان بہت سے انبیاء کا صاحب شریعت ہونا ثابت ہو گیا جنہیں قادیانی مربی اپنے معمولی علم کے مطابق سمجھے ہوئے تھے کہ یہ صاحب شریعت نہیں ہیں۔ البتہ اس آیت میں حضرت ادریس کا ذکر نہیں ہے ان کا ذکر سورہ مریم میں ہے۔ یہ صاحب حضرت لوط کے دادا ہیں ان کا صاحب شریعت ہونا اول تو اس طرح ثابت ہے کہ قرآن مجید میں جس قدر انبیاء کا ذکر ہے ان میں کوئی تفریق صاحب شریعت اور غیر صاحب شریعت کی کسی مقام پر نہیں کی گئی اس سے ظاہر ہے کہ جن انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ سب صاحب شریعت ہیں اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ادریس بھی صاحب شریعت ہیں۔ اب جو اس کے خلاف کا مدعی ہے وہ ثابت کرے قرآن شریف سے۔ اس کے علاوہ مفسرین محققین لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس پر تیس صحیفے نازل ہوئے، تفسیر مدارک التزیل اور تفسیر کبیر وغیرہ ملاحظہ ہو۔ پھر جس پر تیس صحیفے نازل ہوں انہیں یہ کہنا کہ صاحب شریعت نہ تھے کسی ذی علم کا کام نہیں ہے۔

اب چونکہ حضرت ہارون کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے اس لئے میں خاص ان کے باب میں دو آیتیں اور پیش کرتا ہوں تاکہ قادیانی مربی کی اور ان کی جماعت کی بے خبری قرآن مجید سے خوب روشن ہو جائے۔ سورہ الصافات کے چوتھے رکوع میں اول ارشاد خداوندی ہے۔

”وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ“ (الصافات ۱۱۴)

ترجمہ: ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، پھر ان احسانات کے بیان میں ارشاد ہے۔

”وَأَنبَتْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ“ (الصافات ۱۱۷)

ترجمہ: اور ہم نے دی ان دونوں کو واضح کتاب، دیکھا جائے کہ کس صفائی سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کا صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہوتا اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ اب تیسری آیت ملاحظہ ہو جس میں خاص حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہے۔

”وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاعَ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ“ (الانبیاء ۴۸)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دیا یعنی وہ چیز جس سے حق و باطل میں تمیز ہو سکے وہ کتاب اللہ توریت تھی اور قلب میں روشنی جس سے صراط مستقیم اور راہ نجات نہایت صفائی سے نظر آنے لگے اور نصیحت خدا سے ڈرنے والوں کو۔

غرضیکہ تینوں باتوں میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یکساں قرار دیئے گئے کوئی فرق اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔ اب اس کے مقابلہ میں فرق کرنا اور ایک کو تشریحی اور دوسرے کو غیر تشریحی کہنا ایجاد بندہ ہے اور صریح قرآن مجید کی مخالفت ہے۔

الغرض قادیانی جماعت نے جو انبیاء میں تشریحی اور غیر تشریحی کا فرق نکالا ہے یہ محض غلط ہے جن انبیاء کو اس جماعت نے غیر تشریحی سمجھا ہے۔ وہ بموجب نص قرآنی صاحب شریعت ہیں اس کے ثبوت میں تین آیتیں اور بعض کا طین صوفیائے کرام کے اقوال یہاں پیش کئے گئے۔ یہاں تک جو کچھ غلطیاں اور بے خبریاں دکھائی گئیں وہ صرف اس وجہ سے کہ انہیں اپنی واقعی حالت کی خبر نہیں ہے۔ بمقتضائے جہل مرکب اپنے آپ کو بڑا واقف خیال کرتے ہیں۔ اب میں ان کی خاص عظیم الشان غلطی اصل مطلب کے متعلق دکھاتا ہوں۔ اسے بغور و انصاف دیکھا جائے۔ قادیانی مؤلف القاکا اصل مدعا یہ ہے کہ جس قسم کی نبوت کا دعویٰ مرزا قادیانی نے کیا ہے وہ جناب رسول اللہ کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اب ہم دریافت کرتے ہیں کہ کیوں منافی نہیں ہے؟ آپ نے بڑی قابلیت صرف کر کے انبیاء کی دو قسمیں بیان کیں۔ تشریحی اور غیر تشریحی ہم محض آپ کی خاطر سے آیات قرآنیہ اور تحقیق مذکورہ سے آنکھ بند کئے لیتے ہیں اور آپ کے دعوے کو تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء کی دو قسمیں ہیں۔

اب قرآن شریف کے پہلے پارہ سے لے کر ۲۲ تک دیکھا جائے کہ ان دونوں قسم کے

انبیاء کا ذکر ہے جنہیں قادیانی تشریحی اور غیر تشریحی کہتے ہیں۔ ان سب کے بعد سورہ احزاب میں۔  
 جناب رسول اللہ کی نسبت ارشاد ہے۔ ”وَلَكِنْ رُسُلَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ“ (احزاب ۴۰) یعنی آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں یعنی سب نبیوں کے آخر میں آنے والے اب جنہیں اللہ نے عقل و فہم دیا ہے۔ وہ ملاحظہ کریں کہ طرز بیان بتا رہا ہے کہ آپ دونوں قسم کے انبیاء کے خاتم ہیں۔ یعنی دونوں قسم کے انبیاء کا ذکر کر کے حضور کا خاص نام لے کر آپ کی یہ صفت بیان کی کہ آپ آخر النبیین ہیں اس سے ہر ایک صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ اس بیان سے پہلے جو دو قسم کے انبیاء ذکر کئے گئے ہیں سب کے آپ خاتم ہیں اس کے بعد جب عربی الفاظ کے قاعدے پر نظر کی جائے کہ لفظ النبیین جمع ہے اور اس پر الف و لام آیا ہے جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور تمام انبیاء کے آخر میں آئے خواہ تشریحی ہوں یا غیر تشریحی۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ لفظ خاتم النبیین پر مضاف کیا گیا جس کے معنی محاورہ عرب کے لحاظ سے آخر النبیین کے ہیں کہ سب نبیوں کے آخر میں آنے والے۔ اب اس قرینہ سباق و سیاق اور محاورہ عرب سے جو معنی ثابت ہوتے ہیں وہی معنی جناب رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمادیئے اور اس طرح بیان فرمائے کہ قرآنی الفاظ کی کامل توضیح ہوگئی یعنی صحیح حدیثوں میں حضور کے یہ الفاظ ہیں۔  
 ”انا خاتم النبیین لا نبی بعدی“ یعنی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی اگرچہ خاتم النبیین سے سمجھا جاتا تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے مگر جب خاتم النبیین کے بعد لا نبی بعدی فرمادیا تو آفتاب کی طرح روشن ہو گیا کہ کوئی نبی کسی طرح کا آپ کے بعد نہیں ہے۔ یعنی کسی کونبوت کا مرتبہ نہیں ملے گا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہاں لفظ نبی نکرہ ہے اور اس پر لائے نفی لایا گیا اس لئے قاعدے کی رو سے ہر قسم کے نبی کی نفی ہوگئی یعنی کسی قسم کا کوئی نبی آپ کے بعد نہ ہوگا۔

الغرض قرآن مجید کا سیاق و سباق اور محاورہ عرب اور حدیث نبوی کی تفسیر سب متفق ہو کر شہادت دے رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت بلا شک و شبہ جناب رسول اللہ کی ختم رسالت کے منافی ہے۔ یہی علمی باتیں حضرت مولف فیصلہ آسانی کے پیش نظر ہیں اس لئے بہ نظر خیر خواہی مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ مگر قادیانی مولف القاکو ان علمی باتوں کی خبر نہیں۔ باطل کی پیروی نے دینی علوم کو ان کے قلب سے محو کر دیا۔ افسوس کہ باوجود ایسی بے خبری کے قادیانی مرتبی ایک علامہ حقانی کی لا جواب کتاب ہدایت معاتب کا جواب دینے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم خیال



کرتے ہیں ذرا ہوش کیجئے اور راہ حق چھوڑ کر اور ایک علامہ ہادی خلق پر بدزبانی کر کے اپنے آپ کو خسار الدنیا والآخرۃ کا مصداق نہ بنائیں۔

یہ تو آپ کی غلطیاں اور جہالتیں تھیں اب اپنی دیانت بھی ملاحظہ کیجئے کہ کیا صریح ناواقف مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نبوت تشریفی اور غیر تشریفی کا خواخوہ تفرقہ پیش کر کے مغالطہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ کے مرزا قادیانی تو اعلانیہ نہایت زور سے تشریفی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا رسالہ (اربعین نمبر ۳ ص ۶ خزائن ج ۱ ص ۳۳۵-۳۳۶) ملاحظہ ہو۔ ”اگر کہو کہ صاحب الشریعتہ افتراء کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری تو اوّل تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے خدا نے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی ماسوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ صاحب شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر و نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت ہو گیا پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وحی میں امر بھی اور نہی بھی مثلاً یہ الہام ”قل للمؤمنین بغضوا من ابصارہم و يحفظوا فروجہم ذالک از کمی لهم“ یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور اس پر تیس برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو یہ امر باطل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ان هذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ“ یعنی قرآنی تعلیم تو ریت میں بھی موجود ہے اور اگر یہ کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں باستیفاء امر اور نہی کا ذکر ہو تو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر تو ریت یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھر اجتہاد کی گنجائش نہ رہتی۔ ”اربعین کا یہ تو متن تھا اب اس کا حاشیہ ملاحظہ ہو۔“ چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کو اور اس وحی کو جو میرے پر ہوتی ہے۔ فلک یعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ جیسا کہ ایک الہام الہی کی یہ عبارت ہے ”واضع الفلک باعیننا ووحینا ان الدین یبایعونک انما یبایعون اللہ بدلہ اللہ فوق ابدہم“ یعنی اس تعلیم اور تجدید کی کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے بنا جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں۔ یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب دیکھو خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات ٹھہرایا

جس کی آنکھیں ہوں دیکھئے اور جس کے کان ہوں سنے“

(اربعین نمبر ۴ ص ۶ خزائن، ج ۷ ص ۳۳۵ حاشیہ)

کہتے مربی صاحب اب تو آپ کے تمام تار و پود کی بجیہ آپ کے مرشد نے ادھیڑ دیئے دیکھئے کس صفائی سے صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اپنی بیعت کو مدار نجات قرار دے رہے ہیں اب بتائیے کہ کس نائب رسول نے ایسا دعویٰ کیا ہے اور کس ظلی اور بروزی نے اپنی بیعت کو مدار نجات ٹھہرایا ہے اب کون سی نبوت رہ گئی جس کے خاتم جناب رسول اللہ ہیں۔ اب سوائے بغلیں جھانکنے کے آپ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ناظرین! یہ بھی معلوم کر لیں کہ مرزا قادیانی منقولہ عبارت میں نبوت تشریحی کا دعویٰ کر کے یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ بھائیو! یہ کیسا صریح دجل اور عوام کو دھوکہ دینا ہے جب نبوت مسئلہ تشریحی کا دعویٰ کر رہے ہیں، پھر رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مرزا قادیانی اپنے معتقدین کی بے وقوفی معلوم کر چکے ہیں اس لئے سب کچھ کہہ کر ختم نبوت پر اپنا ایمان ظاہر کر دیا تاکہ عوام کے سامنے کہنے کو ہو کہ مرزا قادیانی ختم نبوت کا انکار نہیں کرتے۔

ذرا آنکھیں کھول کر ہوش کو سنبھال کر ملاحظہ کیجئے۔ اب فرمائیے کہ کون سی نبوت باقی رہ گئی جس کے خاتم جناب سرور انبیاء ﷺ ہیں۔ آپ کے امام جس طرح پہلے مثل مسیح تھے اور مسیح موعود ہونے سے صاف انکار کرتے تھے۔ اسی طرح پہلے ظلی اور بروزی اور غیر تشریحی اور نائب رسول ہونے کا دعویٰ کیا جب انہوں نے دیکھا کہ اسے لوگ مان گئے تو اعلانیہ نبوت مسئلہ شریعہ کا دعویٰ کر دیا جس سے صاف ظاہر ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین نہیں ہیں مگر ابھی صاف طور سے اس کہنے کا وقت نہیں آیا تھا اس لئے صاف طور سے زبان قلم سے اسے نہیں نکالا اور جس طرح مسیح موعود ہونے سے انکار کر کے پھر اس کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح سے یہاں بھی کسی وقت ہوتا، مگر ان کے خیال میں اس کا وقت نہیں آیا تھا اگرچہ دعویٰ تو نہایت صراحت سے کیا، مگر باتیں بنانے کی گنجائش چھوڑ گئے اور اپنے مریدوں کو بھی دھوکہ دے گئے۔

اب فرمائیے کہ حضرت علامہ مؤلف فیصلہ آسمانی بد ظنی پھیلاتے ہیں یا آپ اور آپ کے مرشد مرزا قادیانی اعلانیہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے مسیح کی تصانیف اور ان کے سلسلہ کے رسائل سر اسر دجل و فریب سے بھرے ہیں اور متقاض اور جھوٹے دعوؤں کا انبار ہے۔ سامنے آئیے تو ہم آپ کو دکھائیں اور آپ کو شرمائیں قلم کی گھس گھس سے پورا

کام نہیں چلتا اور عوام نہیں سمجھتے۔ اب آپ اچھی طرح دیکھیں ایک دعویٰ آپ کا یہ تھا کہ مرزا قادیانی کو نائب رسول ہونے کا دعویٰ ہے اس کا غلط ہونا تو ہم آپ کے دوسرے دعوے کی غلطی میں بیان کر آئے ہیں۔ خود مرزا قادیانی کے قول سے اب غیر تشریحی نبوت آپ ثابت کرنا چاہتے تھے اس کا غلط ہونا بھی آپ کے امام ہی کے قول سے ثابت کر دیا گیا اور دکھا دیا گیا کہ مرزا قادیانی ضرور حضرت سرور عالم ﷺ کی ختم رسالت کے مکر ہیں۔ اگرچہ زبان سے نہ کہیں لوگوں کو دام میں لانے کے خیال سے۔ اب خوب آنکھیں کھول کر دیکھئے اس دعوے کے بیان میں پانچ غلطیاں آپ نے کیں تین غلطیاں تو میں نے شمار کر کے بتادی ہیں۔

چوتھے یہ ہے کہ آپ آیت ”ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین“ کے معنی نہیں سمجھے اور لفظ النبیین جو عام ہے اس کے خاص معنی لیتے ہیں۔ پانچویں، آپ کو یہ خبر نہیں کہ اس محل پر نبوت کی دو قسمیں تشریحی اور غیر تشریحی بتا کر مرزا قادیانی کی پردہ پوشی کرنا بیکار ہے۔ وہ تو اعلانیہ نبوت تشریحی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ الحاصل یہاں تک آپ کی سات غلطیاں عظیم الشان بیان ہوئی ہیں۔

آٹھواں! غلط دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید میں نائب رسول کو بھی رسول کہا ہے، یہ دعویٰ اسی وقت ثابت ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کسی کو صاف طور سے نائب رسول کہہ کر اسے رسول خدا کا خطاب دیا ہو۔ مگر جن کی نظر قرآن مجید پر ہے وہ یقین کر سکتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید میں کسی کو نائب رسول کہہ کر اسے رسول کا خطاب نہیں دیا اور جب تک یہ دونوں باتیں قرآن مجید سے ثابت نہ ہوں اس وقت تک کسی ذی علم کے نزدیک قرآن مجید کی یہ اصطلاح نہیں ہو سکتی اور اٹھا کیہ والے رسولوں کو نائب رسول کہنا قادیانی مربی کی ویسی ہی ناواہی ہے جیسی پہلے ان کے دعوؤں میں بیان کی گئی۔ اس پر مزید یہ ہے کہ جو صحیح حدیث دوسرے دعویٰ کی غلطی میں پیش کی ہے اس سے ظاہر ہے کہ شریعت محمدیہ میں نائب رسول کو نبی نہیں کہتے اور آئندہ ایک حدیث پانچویں دعویٰ کے بیان میں آئے گی جس سے ظاہر ہوگا کہ حدیث و قرآن میں نائب رسول کو رسول یا نبی نہیں کہا۔ اس سے بخوبی معلوم ہوا کہ صاحب اٹھا کیہ نائب رسول نہ تھے بلکہ رسول تھے۔

حیرت ہے اس پر نظر نہیں کرتے کہ جب خداوند تعالیٰ ہی نے انہیں نہایت صراحت سے مکرر فرمایا ہے تو دوسرے کو نائب رسول کہنے کا کیا حق ہے۔ ممکن ہے کہ پہلے وہ نائب رسول ہوں پھر اللہ کا فضل ان پر ہوا اور اس نے انہیں رسالت مستقلہ کا مرتبہ عنایت کیا جس

کسی نے انہیں نائب رسول کہا وہ پہلی حالت کے خیال سے کہا مگر جنہیں صاف طور سے خداوند تعالیٰ نے مکرر رسول فرمایا ہے اور ان کے بھیجے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور صاف فرمایا ہے۔ ”اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ الرُّسُلَ“۔ (یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا کیہ کے رسولوں کی نسبت فرماتا ہے کہ انہیں ہم نے بھیجا) اس لئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ انہیں رسول خدا نہ کہا جائے بالخصوص جبکہ احادیث صحیح سے ثابت ہے کہ نائب رسول کو نبی نہیں کہتے، اب اگرچہ اس کی تائید میں کوئی اور روایت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر قادیانی مربی کی بے خبری کے علاوہ ان کی ایک دوسری حالت پر بھی روشنی ڈالنا منظور ہے۔ اس لئے لکھتا ہوں کہ امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اٹھا کیہ والے رسولوں کو نائب رسول نہیں کہتے، بلکہ رسول اللہ کہتے ہیں۔ قادیانی مربی نے تفسیر فتح البیان کے اکثر حوالے دیئے ہیں یہ مقام بھی انہوں نے دیکھا ہوگا۔ مگر اس کا ذکر نہیں کرتے جو روایت حدیث و قرآن کے مطابق ہے اسے دبا کر اس کے خلاف پر زور دے رہے ہیں کیا دیانت ہے اور کیا علم ہے؟ اہل علم کو اگر میرے قول کی تصدیق منظور ہے تو تفسیر فتح البیان میں سورہ یٰسین، کی تفسیر ص ۹ ملاحظہ فرمائیں۔

نواں غلط دعویٰ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مسلم کی حدیث میں تین مرتبہ مرزا قادیانی کو نبی اللہ کا خطاب دیا ہے۔ ”مربی صاحب ناواقفوں کو کس قدر دھوکا دیتے ہیں۔ اس حدیث کا بیان آگے آئے گا یہاں اس قدر کہتا ہوں کہ اس حدیث میں مرزا قادیانی کو نبی اللہ ہرگز نہیں کہا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح موعود کا ذکر ہے اور مرزا قادیانی مسیح موعود ہرگز نہیں ہیں۔ جو علامتیں، اس حدیث میں مسیح موعود کی بیان ہوئی ہیں وہ مرزا قادیانی میں ہرگز پائی نہیں گئیں۔ اب کوئی قادیانی مربی سے دریافت کرے کہ آپ نے یا آپ کے پیرومرشد نے کسی سچی دلیل سے یہ ثابت کیا کہ مرزا قادیانی مسیح موعود ہیں اور ان کے مخالفین نے اسے مان لیا۔ یہ تو ہرگز نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ جب ان سے یہ نہیں ہو سکا تو کس منہ سے ہمارے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو حضرت سرور انبیاءؑ نے نبی کہا ہے پھر ان علماء کے مقابلہ میں جنہوں نے مرزا قادیانی کا کاذب ہونا دلائل پختہ سے ثابت کر دیا ہے اور انہیں من الغتس ہو گیا ہے کہ مرزا قادیانی مسیح موعود ہرگز نہ تھے بلکہ وہ اپنے اقرار سے کاذب تھے۔ البتہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے مرزا قادیانی کو دجال اور جھوٹا فرمایا ہے۔ صحیح مسلم ص ۳۹ ج ۲ وغیرہ میں حضور پر نور کا ارشاد ہے ”میکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین

لانی بعدی“ اس حدیث کو مسلم کے سوا ترمذی (ج ۲ ص ۲۵) ابوداؤد (ج ۲ ص ۱۲) کتاب الفتن (وغیرہ نے بھی بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ دیتے ہیں کہ میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہوں گے اور ان کے جھوٹے ہونے کی علامت اس حدیث میں یہ بیان ہوئی کہ امتی ہونے کا دعویٰ کر کے نبی ہونے کے مدعی ہوں گے اور ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لئے جو کوئی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ لانی بعدی میں پورے عموم کے ساتھ نفی کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی سچا نبی کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ اس حدیث نے پورا فیصلہ کر دیا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور خاص کر وہ جو امتی ہو کر دعویٰ کرے۔ اب نہ تشریحی اور غیر تشریحی کا فرق کام دیتا ہے اور نہ نبی کے معنی نائب رسول کے ہو سکتے ہیں کیونکہ اس حدیث سے جس طرح یہ ثابت ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ شریعت محمدیہ میں نائب رسول کو نبی نہیں کہتے ورنہ جناب رسول اللہ ﷺ اس مدعی کے جھوٹے ہونے کی دلیل میں عام طور سے یہ نہ فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد نائب رسول اور ورثہ الانبیاء کا ہونا تو ضرور تھا اور ہوئے۔ اگر انہیں نبی کہنا صحیح ہوتا تو اس طرح عام طور سے نبی ہونے کا انکار آنحضرتؐ نہ فرماتے۔ خوب خیال رہے کہ مربی صاحب کا دوسرا دعویٰ صحیح حدیثوں سے غلط ثابت ہوا، ایک یہ حدیث اور دوسری اسی دعویٰ کے بیان میں مذکور ہوئی۔ یعنی ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ شریعت محمدیہ میں نبی کے معنی نائب رسول کے نہیں ہیں۔

دسواں غلط دعویٰ یہ ہے کہ تیس برس کی متواتر وحی نے نبی اللہ کے خطاب کی تصدیق کی ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کی وحی نے۔ اس دعوے کے غلط ہونے کے متعدد وجوہ ہو سکتے ہیں۔ پہلی وجہ مرزا قادیانی کی وہ وحی ہے جس کو انہوں نے اپنی صداقت میں پیش کیا تھا جس کے سچے ہونے پر مرزا قادیانی کو آخر وقت تک وثوق رہا۔ یہاں تک کہ کچھری میں حاکم کے سامنے اپنا یقین ظاہر کیا اور ایسی پختہ وحی جس کا بار بار نزول برسوں ہوتا رہا جس میں کسی طرح کی غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا بالآخر وہ وحی غلط ثابت ہوئی (یعنی منکوحہ آسمانی والی وحی) اور غلطی کا ثبوت بھی اس طرح ہوا کہ مرزا قادیانی اپنے پختہ اقرار سے کاذب اور ہر بد سے بدتر ٹھہرے (اس کی تفصیل فیصلہ آسمانی حصہ اول و حصہ سوم میں ملاحظہ ہو) جب ایسی موثق وحی جس پر برسوں مرزا قادیانی کو

اصرار رہا وہ غلط فکری تو کوئی صاحب عقل مرزا قادیانی کی وحی کو وحی الہی نہیں سمجھ سکتا بلکہ شیطانی وحی کہے گا۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ (۱) اس کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے خدائے قدوس پر خلاف وعدگی کا الزام آیا (۲) اور اس دراز مدت تک مرزا قادیانی اس غلطی کی وجہ سے مخلوق میں مطعون ہوتے رہے۔ (۳) اور آخر کار جسے انہوں نے اپنی صداقت کا نہایت ہی عظیم الشان نشان قرار دیا تھا وہ غلط نکلا (۴) اور اللہ تعالیٰ نے اس غلطی پر کسی وقت متنبہ نہ کیا حالانکہ متنبہ کرنا ضرور تھا تا کہ مخلوق بدگمانی سے بچے اور سچے کو جھوٹا نہ سمجھ لے۔ جس کی وحی کا یہ حال ہو اس سے سند پکڑنا اور تصدیق میں پیش کرنا کسی فہیدہ دیندار کا کام نہیں ہو سکتا۔

دوسری! وجہ جب قرآن مجید کے نص قطعی سے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت سرور انبیاء ﷺ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اب جس کسی کو یہ وحی ہو کہ میں نبی اللہ ہوں وہ یقیناً جھوٹا ہے اس وحی کے جھوٹے ہونے پر قرآن و حدیث دونوں شاہد ہیں۔ ایسے شخص کی وحی کو کوئی مسلمان لائق توجہ نہیں خیال کر سکتا چہ جائیکہ اسے سند میں پیش کرے۔

تیسری! وجہ یہ کہ امت محمدیہ کا اس پر اجماع ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی پر وحی نہ آئے گی جو کوئی اس کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے شفاء قاضی عیاض ملاحظہ ہو۔

”ومن ادعی النبوة لنفسه اوجوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها وكذا الك من ادعی منه انه یوحى اليه وان لم يدع النبوة فهو لاء كلمهم كفار كمنكذبون للنبي ﷺ لانه اخبر انه خاتم النبيين وانہ ارسل كافة للناس واجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعاً واجماعاً وسمعاً“ (الشفاء في حقوق المصطفى ص ۲۴ ج ۲)

شفائے قاضی عیاض کی یہ عبارت ہے جس سے نہایت صفائی سے ثابت ہو رہا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا نزول وحی کا مدعی ہو یعنی کہے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے وہ کافر ہے اور اس کا کفر قطعی ہے۔ قرآن و حدیث سے اور اجماع امت سے اس کا کفر ثابت ہے۔ مربی صاحب کی عقل پر سخت افسوس ہے کہ علوم دینیہ کی کتابوں سے بے خبر ہیں اور مسلمانوں کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کی وحی کو سند میں پیش کرتے ہیں۔

”تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ“

یہ پوری دس غلطیاں ہیں جو مربی صاحب نے چند سطروں میں کی ہیں غرضیکہ مرزا قادیانی کی ۲۳ برس کی وحی کو ماننا اور اسے لائق تصدیق سمجھنا کسی ایماندار کا کام نہیں ہو سکتا۔ اب مربی صاحب کی علیت کو ملاحظہ کیا جائے کہ جو دعویٰ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہو جسے بالاتفاق امت محمدیہ نے کفر ٹھہرایا ہو اس کی نسبت مربی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی محدود شرعی نہیں ہے۔ (قادیانی مربی نے اپنے لئے قابلیت کی وجہ سے اس لفظ کو معذور شرعی لکھا تھا مگر پرانی تحقیق اور محاورہ سے غلط بتاتا ہے اس لئے میں نے صحیح لفظ لکھا جو موقع کے مناسب ہے۔) جناب مربی فرمائیں کیا مرزا قادیانی پر ایمان لانے سے آپ ایسے ہی عالم ہو گئے ہیں کہ چند سطروں میں دس جھوٹے دعوے کئے۔ کیا اسی قابلیت پر فیصلہ آسانی کے جواب لکھنے کا دعویٰ ہے اور اس میں غلطیاں دکھانے بیٹھے ہیں۔ میں نے نہایت اختصار کے ساتھ یہ غلطیاں دکھائی ہیں اگر اس کے جواب کی ہمت قادیانی مربی کو ہوگی اس وقت ان بیانون کی تشریح اچھی طرح کی جائے انشاء اللہ تعالیٰ مربی صاحب جو غلطیاں میں نے آپ کو دکھائیں ہیں یہ ایسی قطعی اور تحقیقی ہیں کہ آپ یا آپ کی جماعت کا کوئی ذی علم (اگر کوئی ہے) ان غلطیوں کا جواب نہیں دے سکتا۔

آپ کو یا آپ کی جماعت کو اگر طلب حق ہے تو چند اہل علم کے مجمع میں یا عام جلسہ میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیجئے میں ہر وقت حاضر ہوں۔ مگر آپ سے اور آپ کی جماعت سے ہرگز امید نہیں۔ نو مہینے کئی روز ہوتے ہیں کہ جناب استاذی مولانا مفتی محمد عبداللطیف صاحب نے بنظر خیر خواہی کے اعلان دیا تھا کہ مربی صاحب جس طرح چاہیں جلسہ خاص میں یا جلسہ عام میں امر حق کو سمجھ لیں یا ہمیں سمجھا دیں فیصلہ ہو جائے رسالے اور پلٹوں کی ضرورت نہ رہے، مگر مربی صاحب اور ان کی تمام جماعت ایسے خاموش ہوئے کہ گویا شہر خاموشاں میں چلے گئے پہلے اعلان کا نہایت مہمل جواب دیا تھا۔ پھر اس کے جواب میں اہل حق کی طرف سے صحیفہ رحمانیہ نکلا اور ان کی بات کو تسلیم کر کے مستعدی ظاہر کی گئی مگر پھر تو قادیانی مربی ایسے دم بخود ہوئے کہ اب تک سانس نہیں لیتے (باقی وارد) (خادم اطباء محمد یعسوب)

## سالانہ رد قادیانیت کورس

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہر سال ۵ شعبان سے ۲۸ شعبان تک مدرسہ ختم نبوت مسلم کالونی چناب نگر ضلع جھنگ میں ”رد قادیانیت و عیسائیت کورس“ ہوتا ہے۔ جس میں ملک بھر کے نامور علماء کرام و مناظرین لیکچرز دیتے ہیں۔ علماء، خطباء اور تمام طبقہ حیات سے تعلق رکھنے والے اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تعلیم کم از کم درجہ رابعہ یا میٹرک پاس ہونا ضروری ہے..... رہائش، خوراک، کتب و دیگر ضروریات کا اہتمام مجلس کرتی ہے۔

رابطہ کے لئے

(مولانا) عزیز الرحمن جالندھری

ناظم اعلیٰ: عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت

حضورِ باغ روڈ ملتان



نمونہ القارئے قادیانی  
صحیفہ رحمانیہ

(12/11)

حضرت مولانا حکیم محمد یعسوب مونگیریؒ

جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت کی تشریح اور قادیانی مرنبی عبدالماجد بھاگلپوری مرزائی کی چند غلطیوں کو خوب روشن کر کے دکھایا ہے جن سے حیرت ہوتی ہے کہ مرنبی صاحب کیا سے کیا ہو گئے ان کی مشہور قابلیت ان کی دیانت کہاں چلی گئی عبارتوں کے نقل کرنے میں کیسی کیسی بددیانتیاں کی ہیں اس کا مطلب سمجھنے میں کیسی ٹھوکریں کھائی ہیں کہ خدا کی پناہ۔

ہوا خواہ ان اسلام! اس وقت کے فتنوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ بھی بڑا فتنہ ہوا۔ مگر الحمد للہ کہ اس موقع پر کے ایک مقدس اہل فضل و کمال کو اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ کے فرو کرنے کی طرف متوجہ کر دیا۔ اور ان کے فیضان توجہ سے یہ فتنہ کم ہوا اور زوال پذیر ہو رہا ہے۔ درد مند ان اسلام اس پر غور فرمائیں کہ اس نازک وقت میں مرزا قادیانی نے کیسا تفرقہ مسلمانوں میں ڈالا اور مناظرہ اور مباہلہ کرنے کا کس قدر غل مچایا۔ اور تمام علماء اور مشائخ ہند کے نام لکھ کر اپنے رسالوں میں شائع کیے اور سب کو اپنے مقابلے کے لیے بلایا۔ مگر جب کوئی مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا تو حیلے حوالے کر کے بھاگتے نظر آئے۔ ان کے بعد بھی ان کے چیلے زبانی اور اشتہاروں میں مناظرے کے لیے بلاتے رہے۔ مگر جب سے حضرت ابوالاحمد رحمانی عم فیضہم نے اس طرف ہمت فرما کر پہلے مناظرے کا جلسہ کرایا جس میں مرزائیوں کو نہایت فاش شکست ہوئی۔ اس کے بعد بیش بہا فیصلہ کن تحریر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس وقت تک آپ کے اور آپ کے خدام کے تقریباً تیس بتیس رسالے شائع ہو چکے ہیں ان میں بڑا رسالہ فیصلہ آسمانی ہے یعنی اس رسالے میں مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کی وہ دلیلیں پیش کی گئی ہیں جن کا فیصلہ منجانب خدا ہوا ہے اس کے تین حصے ہیں ہر ایک حصہ ایک مستقل رسالہ ہے اور علیحدہ علیحدہ چھپا ہے۔

پہلا حصہ سوا پانچ جز میں دوسری مرتبہ امرتسر میں چھپا ہے۔ دوسرا حصہ پہلی مرتبہ چار جز دو ورق مطبع جمیدی کانپور میں چھپا ہے۔ تیسرا حصہ پونے نو جز میں امرتسر میں چھپا ہے۔ ان میں سب سے اول دوسرا حصہ چھپا۔ جس وقت یہ شائع ہوا تو مرزائیوں میں کھلبلی مچی اور خلیفہ اسحاق قادیانی سے جواب لکھنے کی درخواست کی گئی۔ قادیانی خلیفہ حضرت مولف فیصلہ آسمانی کے علم و

فضل سے کسی قدر واقف تھے اس لیے وہ تو دم بخود ہو گئے ان کی ہمت تو سامنے آنے کی نہ ہوئی مگر مریدوں کے پھنسا رہنے کے لیے قادیانی مربی عبدالماجد بھاگل پوری کو جواب کے لیے آمادہ کیا تاکہ جواب میں جو کچھ ذلت ہو وہ انہیں کی ہو، بدنام نہ ہوں۔ قادیانی مربی نے خلیفہ صاحب کے حکم کی تعمیل کسی خاص وجہ سے کی مگر اس جواب نے قادیانی مربی کا بھرم کھول دیا اور جس قدر ان کی تاواغلی اور کم علمی اور بددیانتی اس رسالے سے ظاہر ہوئی اس کا وہم و گمان بھی اس سے پہلے نہ تھا۔ اس رسالہ کی اصل باتوں کا جواب تو حضرت مؤلف فیصلہ آسانی (مولانا محمد علی مونگیری) کے رسالوں میں موجود ہے۔ جسے حق کی طلب ہو وہ رسالہ تنزیہ ربانی، معیار صداقت اور فیصلہ آسانی حصہ ۳ غور سے ملاحظہ کرے اس پر آفتاب نیروز کی طرح روشن ہو جائے گا کہ مرزا غلام احمد اپنے پختہ اقرار سے کاذب ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ مرزائیوں نے جو کچھ اس کے جواب میں ہرزہ سرائی کی تھی اس کا قلع و قمع پورے طور سے تین رسالوں میں ہے اور چوتھا رسالہ عبرت خیر ہے جس سے مرزا قادیانی کی کامیابی والی دلیل محض غلط ہو جاتی ہے جسے وہ عظیم الشان دلیل خیال کرتے ہیں اس محققانہ تحریر میں فیصلہ آسانی حصہ ۲ کے آخر مضمون کی شرح ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی صداقت کی دلیل نہیں ہے۔ ان چاروں رسالوں سے عبدالماجد قادیانی کے القاء کا کامل جواب ہو جاتا ہے۔ مگر حضرت مؤلف نے انہیں لائق خطاب نہیں سمجھا اس لیے انہیں مخاطب نہیں بنایا۔ اپنے رسالہ فیصلہ آسانی کے اصل مدعا کو نہایت خوبی سے ثابت کر دیا ہے۔ اب رہیں ان کی غلطیاں اور بددیانتیاں ان کے اظہار کرنے کے لیے بھی متعدد رسالے لکھے گئے ہیں۔ میرے علم میں رسائل ذیل میں ان کا اظہار کیا گیا ہے۔

۱..... انوار ایمانی عرصہ ہوا یہ رسالہ چھپ کر شائع ہو چکا ہے۔ ۲..... محکمات ربانیہ رسالہ سات جز کا مطبع الطبع بانکے پور میں چھپا ہے۔ اس کے شائع ہونے سے بھاگل پور کے مرزائیوں میں عجب بے چینی اور کھلبلی مچی ہے۔ ۳..... نمونہ القائے قادیانی جو محیفہ رحمانیہ کے تین نمبروں میں یعنی نمبر ۱۰، ۱۱ اور ۱۲ میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ۴..... القاء کی ایک غلطی میں تیس غلطیاں۔ یہ چار رسالے اس وقت تک ہوئے ہیں اور مستقل کامل رسالہ کے جواب کا جماعت مرزائیہ انتظار کرے۔ چونکہ اس جماعت کو خدا سے واسطہ نہیں ہے اس لیے جواب سے عاجز ہو کر قحش کلامی اور بیہودہ گوئی کر کے حضرت مخدوم بہاری (مولانا محمد علی مونگیری) اور حضرت مجدد الف ثانی علیہما الرحمۃ وغیرہ بزرگوں کو در پردہ اور حضرت مؤلف فیصلہ آسانی کو اعلانیہ گالیاں دینا اور عوام کو بہکانا

شروع کیا ہے اور ایک رسالہ چھاپ کر شائع کر چکے ہیں اور سنا جاتا ہے کہ کچھ اور لکھ رہے ہیں مگر وہ یاد رکھیں کہ اگر حضرت مؤلف فیصلہ آسمانی ناخوش نہ ہوئے تو ان کے خدام اس قسم کے رسالوں کا جواب بھی ترکی بہ ترکی ایسا دیں گے کہ مرزا قادیانی کی ہڈیاں بھی قبر میں سنگ اٹھیں گی اور بزبان حال اپنے چیلوں کو اندرون دل سے کوئیں گی۔ الحمد للہ اسی وقت اس کے نمونے کا ظہور ہو رہا ہے۔ اب جو قادیانی جماعت میں تہذیب و شائستگی کے مدعی ہیں وہ اپنے گردہ اہل علموں کی شائستگی کو دیکھیں اور فرمائیں کہ مرزا قادیانی کی حقانیت کا یہی نمونہ ہے کہ جو ایسے عاجز ہو کر ایسی بیہودہ گوئی کریں اور بزرگوں سے ایسی بے ادبی سے پیش آئیں۔ مرزائیوں میں یہ بھی نبوت کا معیار ہوگا جس طرح چیشین گوئیوں کا غلط ہونا ان کے خیال میں معیار نبوت ہے۔

اے عزیزو! ہوش کرو اپنی عاقبت برباد نہ کرو اپنی قبر میں آگ نہ سلگاؤ۔ میں نہایت خیر خواہی سے کہتا ہوں۔

خاکسار محمد یعسوب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

## بقیہ عبدالماجد قادیانی کی فاش غلطیاں

مؤلف القاء نے مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت میں عجب طرح سے دام تزویر پھیلا یا ہے اور اس پر زور لگایا ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت بھی قائم رہے اور عوام کی نظروں میں حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام خاتم النبیین بھی رہیں۔ مگر باوجود کئی ورق سیاہ کر دینے کے صاف طریقے سے یہ نہیں بیان کر سکے کہ مرزا قادیانی کو کس قسم کا دعویٰ نبوت تھا اور قرآن مجید میں جو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفت میں خاتم النبیین آیا ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ باوجودیکہ اس کے معنی کی تشریح حدیث کے صریح الفاظ سے کر دی گئی ہے (فیصلہ آسمانی کا حصہ ۳ و محیفہ رحمانیہ نمبر ۶ دیکھا جائے) مگر مؤلف القاء چونکہ صریح امر حق اور علمائے حقانی کے مخالف اور مقابل ہو گئے ہیں اس لیے کچھ بدحواس سے معلوم ہوتے ہیں کوئی بات ٹھکانے کی نہیں کہتے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک طولانی تقریر کر کے اور متعدد کتابوں کے حوالے دے کر عوام پر اپنی قابلیت ثابت کریں اور دکھائیں کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت حضرت سرور انبیاء کے خاتم النبیین ہونے کے منافی نہیں تھا۔ اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰؑ مؤلف فیصلہ آسمانی کی نسبت بیہودہ گوئی کر کے مسلمانوں کو بدگمان کرنا چاہا ہے مگر خوب یاد رکھیں کہ پہلے گمراہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے اور مقدس بزرگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں مگر بمقتضائے ارشاد خداوندی (واللہ مستم نورہ الخ) کہ ان بزرگوں کی شان میں کچھ کمی نہیں ہوئی اور ان کے تقدس کی روشنی کو چھپانے والے ہی خائب و خاسر ہوئے۔ چنانچہ ان لا جواب رسالوں کا لکھنا اور مؤلف القاء اور ان کی جماعت کا دم بخود رہنا ان کے خائب و

خاسر ہونے کی کسی بین دلیل ہے۔ میں نے اس مضمون کے پہلے حصہ میں مؤلف القاء کی قرآن دانی پر روشنی ڈالی ہے اور یہ دکھایا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت جناب رسول اللہ ﷺ کی قسم رسالت کے متانی ہے اور چند سطروں میں دس غلطیاں عبدالماجد قادیانی کی دکھائی ہیں۔ اس حصہ میں ان الزامات کا جواب دیا جائے گا جو مؤلف القاء حضرت مؤلف فیصلہ آسمانی پر لگانا چاہتے ہیں اور اس ضمن میں ان کی تصوف دانی کی حالت بھی دکھائی جائے گی۔ نیز ان کے ان دلائل کا قلع و قمع کیا جائے گا جو اقوال بزرگان کے پردے میں ظاہر کیے ہیں اور ان کے ساتھ جس حدیث شریف کو مرزا قادیانی کی نبوت میں پیش کیا ہے اسی حدیث سے ان کا کاذب ہونا ثابت کیا جائے گا۔

غرض کہ پہلے حصہ میں عبدالماجد قادیانی کی دس غلطیاں دکھائی گئی تھیں اور اس حصہ کے شروع میں اٹھارہ غلطیاں مختلف عنوان سے دکھائی ہیں اور ۲۸ غلطیاں اس حدیث کے سمجھنے میں کی ہیں جس سے وہ مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کرتے ہیں اس کے سوا بھی غلطیاں ہیں غرض کہ اس مختصر تحریر میں پچاس غلطیوں سے کم نہ ہوں گی جو میں نے دکھائی ہیں اس غرض سے کہ انہیں اپنی حالت پر تنبیہ ہو اور ناواقف حضرات بھی واقف ہوں۔

مؤلف القاء اپنے رسالہ کے صفحہ ۱۸ میں گستاخانہ طور سے حضرت مولانا ابوالاحمد رحمانی موکیرمی کو ناواقف اور غافل ٹھہرا کر اپنی قابلیت ظاہر کرنا چاہتے ہیں چنانچہ لکھتے ہیں۔

”ابوالاحمد صاحب کے مریدین ذرا سوچیں کہ مسیح موعود کی مخالفت میں ابوالاحمد صاحب کہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ باوجود شیخ بن بیٹھے اور تقویٰ کے دعویٰ کے اپنے بزرگان سلسلہ کی تحقیقات سے بھی کس قدر غافل ہیں یا عہد مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں۔“ حق پسند حضرات ملاحظہ کریں کہ یہاں مؤلف القاء چھ دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض اشارۃً اور بعض صراحتاً

اول: حضرت قبلہ کے مریدین کو یہ دکھاتے ہیں کہ حضرت مولانا ابوالاحمد صاحب عم فیضیہم مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہیں حالانکہ یہ محض غلط ہے صرف عوام کے دھوکا دینے کو ایسا لکھا گیا ہے۔ ہمارے حضرت مسیح علیہ وعلیٰ نبینا الصلوٰۃ والسلام کے ہرگز مخالف نہیں ہیں بلکہ جھوٹے مدعی مرزا قادیانی کے مخالف ہیں جس نے محض غلط اور جھوٹا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا کیا ہے اور اس کا جھوٹا ہونا نہایت قوی دلائل سے ثابت کر کے تمام مسلمانوں کو گمراہی سے بچایا۔ آپ کے رسائل محققانہ شہادت آسمانی اور حقیقہ آسح اور فیصلہ آسمانی وغیرہ ملاحظہ کئے جائیں ان

میں سے صرف ایک ہی رسالہ یعنی حصہ ۳ فیصلہ آسمانی ملاحظہ کیا جائے کس محققانہ طور سے مرزا قادیانی کا کاذب ہونا قرآن مجید کے نصوص قطعیہ سے اور صحیح حدیثوں سے اور خود مرزا قادیانی کے اقوال سے اس طرح ثابت کیا ہے کہ اب جائے دم زدن نہیں رہی۔ حضرات مرزائی جو جوابات دیا کرتے تھے ان کی دھجیاں اڑادی ہیں۔ وعدہ الہی اور وعید کی بحث ایسی نفیس اور محققانہ اس رسالہ میں کی گئی ہے کہ اس وقت تک اس روشن طریقے سے حقد میں اور متاخرین کی کسی کتاب میں نہیں دیکھی گئی اہل علم ضرور ملاحظہ کریں۔ ان کے جواب سے تمام قادیانی مشن عاجز ہے مگر آنکھ بند کیے مرزا قادیانی کو مسیح موعود مان رہے ہیں یہ بجز نفس پرستی یا مرزا پرستی کے سوا اور کیا ہے کہ بلا دلیل ایک جھوٹے مدعی کو مسیح موعود مان رکھا ہے اور علماء کاطلین کو عوام کے سامنے مسیح موعود کا مخالف بنا کر انہیں بدن کرنا چاہتے ہیں مگر ہم نہایت خیر خواہانہ اور کامل یقین سے کہتے ہیں کہ حضرت اقدس مولانا ابوالاحمد صاحب علم فیضیہم اسی کے مخالف ہیں جن کی مخالفت ہر مسلمان پر فرض ہے حضرت مولانا وہی کام کر رہے ہیں جو علمائے کاطلین اور ہادیان امت کو کرنا چاہیے۔ ہم مؤلف القاء کو ہدایت کرتے ہیں کہ پہلے مذکورہ رسالوں کا جواب دیں اور مرزا قادیانی کا مسیح موعود ہونا ثابت کریں (جو از قبیل محالات ہے) اس کے بعد مسلمانوں کے روبرو انہیں مسیح موعود کہیں۔

دوم و سوم: حضرت اقدس مولانا کی نسبت گستاخانہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ بن بیٹھے اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل تو نہ تھے مگر ایسا دعویٰ کیا اس میں دو دعویٰ ہیں۔ پہلے یہ کہ حضرت شیخ بننے کے لائق نہ تھے مگر بن بیٹھے۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے ایسا دعویٰ کیا۔ مگر یہ دونوں دعویٰ غلط ہیں۔ اگر حضرت کے خاندان کو دیکھا جائے تو آپ علاوہ سید آل رسول حنی حسینی ہونے کے حضرت پیران پیرؒ کی اولاد میں سے ہیں جن کے شیخ اور مقتدی ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے جن کے زیر قدم رہنا تمام اولیاء اللہ اپنا فخر سمجھتے ہیں پھر یہ کہ آپ کا سلسلہ آبائی صوری و معنوی دونوں حیثیت سے آپ سے لیکر حضرت غوث پاک بلکہ حضور پر نور سید کونین حضرت رسول اللہ ﷺ تک آفتاب کی طرح روشن و ہادی شریعت و طریقت رہا ہے آپ کے سلسلہ نسب کا ہر رکن تاج ہدایت کا درخشاں ہیرا رہا ہے آپ کے پیر و مرشد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراود آبادی قدس سرہ ہیں جن کی بزرگی کا شہرہ چار دہائیوں کا عالم میں ہے جس کے لیے نہ اشتہار بازی ہوئی نہ رسالے شائع ہوئے۔ صرف کمال روحانیت سے مقبول و مخدوم عالم ہو گئے اور ہزاروں کو ولی اللہ بنا دیا۔ انہیں برگزیدہ خدا و مقبول انام نے حضرت اقدس مولانا ابوالاحمد صاحب کو شیخ

طریقت بنا دیا ہے اور اپنی زبان مبارک سے آپ کے جدا امجد حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف فرمایا کرتے تھے جو کانپور و نواح کانپور میں ایک مشہور مقتدی و بزرگ تھے۔

غرض کہ آپ کا سلسلہ آبائی اور پیران طریقت دونوں اس بات کی پوری شہادت دیتے ہیں کہ آپ شیخ ہونے کا مرتبہ رکھتے ہیں۔ اس مرتبہ پر پہنچنے کی شہادت مولف القاء کے اول مرشد حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن علیہ الرحمۃ دے چکے ہیں ان خوبیوں کے ساتھ جب آپ کی ذات اطہر کی طرف نظر کی جائے تو آپ کے مقدس بزرگ ہونے پر اور بھی کامل شہادت ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک نے جیسا آپ کو اعلیٰ علمی فضل و کمال سے مالا مال بنایا ہے ویسا ہی تقویٰ شعار بھی بنایا ہے آپ کے تقویٰ کی یہ حالت ہے کہ باوجود اس ضعف و نقاہت کے ایک سنت و مستحب چھوٹے نہیں پاتا ہے چلنے کی طاقت نہیں ہے لیکن نماز تراویح عمدہ قاری کے پیچھے اور تہجد و تمام اور اومسنونہ ترک نہیں ہوتے آپ کی سخاوت بھی اللہ اللہ ہے مثل ہے میں نے خود بارہا دیکھا ہے کہ جو کچھ تحویل میں رہا کوڑی کوڑی غریب و مساکین و چندوں میں دے دیا ہے حالانکہ نہ کوئی ذاتی آمدنی ہے نہ مریدین سے آمدنی کا دسواں حصہ وصول کیا جاتا ہے نہ ہشتی مقبرہ کا چندہ ہے نہ منارے کے نام سے وصول کیا جاتا ہے اور باوجود اس علم و فضل و ادب و شرف ذاتی و صفاتی تقدس کے کسی قسم کا دعویٰ نہیں ہے اور نہ اشتہار ہے لیکن خلق اللہ ہر چہار طرف سے جوق در جوق چلی آتی ہے اور شرف بیعت حاصل کرتی ہے اس کو بن بیٹھنا نہیں کہتے ہیں۔ البتہ بن بیٹھنا یہ ہے کہ نہ سید آل رسول ہیں نہ شیخ صدیقی نہ فاروقی ہیں بلکہ مرزا کہلاتے ہیں اور محض اپنی زبان درازی سے اور قلم فرسائی کی بدولت سید آل رسول بنی فاطمہ امام مہدی کی گدی پر بیٹھنے کے مدعی ہو گئے اور اس کا غل دنیا میں مچا دیا۔ بن بیٹھنا اسے کہتے ہیں۔

پیشتر افغاں بودم بعد ازاں مرزا شدم

غلہ چوں ارزاں شود امسال سید می شوم

چہارم: اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت اقدس تقویٰ کے مدعی ہیں مگر تمام وہ حضرات جو برابر حضور کی شرف رکھتے ہیں یا کبھی کبھی حاضر خدمت ہوتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قول محض غلط ہے۔ اور حضرت اقدس نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ ہمیشہ انکاری ہی کے الفاظ فرمایا کرتے ہیں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہدایت کی غرض سے جھوٹوں اور مخالفین اسلام کے مقابل میں ان کے غلط دعویٰ کے اظہار میں بعض ایسے جملے لکھے گئے ہوں جنہیں



جھوٹوں کے پیر و ناجائز دعویٰ خیال کرتے ہوں مگر درحقیقت وہ ناجائز دعویٰ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ مناسب طریقے سے مخالفین اسلام کو عاجز کرتا ہے۔

پہلے و ششم: مؤلف القاء کا یہ دعویٰ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تحقیقات سے حضرت اقدس غافل ہیں اور ہم اس سے واقف ہیں یہاں درحقیقت دو دعوے ہیں ایک یہ کہ حضرات نقشبندیہ کی تحقیقات سے حضرت مولانا ناواقف ہیں دوسرا یہ کہ ہم واقف ہیں مگر یہ دونوں دعوے بھی سرتاپا غلط ہیں ان دونوں دعوؤں کے ثبوت میں مثنوی مولانا روم کے دو شعر اور مولانا اسماعیل دہلوی کا قول منصب امامت سے اور حضرت مجدد الف ثانی کے دو قول سند میں لائے ہیں۔ میں نہایت سچائی سے کہتا ہوں کہ عبدالمجد قادیانی کو ان بزرگوں کی اصطلاحات سمجھنے سے کیا واسطہ ہے جو بزرگوں کی صحبت میں نہ رہا ہو تقویٰ شعاری سے وہ بالکل علیحدہ ہوا اور کچھری کی مقدمہ بازی کا اسے شوق ہو جو منظر عام پر حاکم کے روبرو جاہلوں کی سی بے سرو پا بلکہ محض جھوٹ باتیں کہے وہ صوفیائے کرام کی عامض باتوں اور ان کی اصطلاحات کو کیا سمجھ سکتا ہے۔ اب اپنی ناواقفی مؤلف القاء ملاحظہ کریں میں بالا اختصار کہتا ہوں کہ صوفیائے کرام کی اصطلاح میں جو اولیاء کرام اپنے وقت میں عالی مرتبہ ہوتے ہیں انہیں یہ حضرات نبی وقت اور پیغمبر وقت کہتے ہیں۔ نبوت و رسالت شرعی اور چیز ہے شرعی نبی کا تمام خلق کو جس کے لیے وہ بھیجا گیا ہے اس کا ماننا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اور جو اس سے انکار کرے کافر ہے اور حضرات صوفیائے کرام کے اصطلاحی نبی (ولی) کا نہ یہ دعویٰ ہوتا ہے اور نہ ان کا ماننا ہر ایک پر فرض ہے نہ ان کے انکار سے کوئی کافر ہوتا ہے آج تک کسی بزرگ صاحب ولایت نے ہوش و حواس کی حالت میں ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ مولانا روم جنہیں نبی وقت کہہ رہے ہیں انہیں ایسا نبی نہیں کہتے ہیں جس پر ایمان لانا فرض ہو یا جس کا منکر کافر ہو بلکہ وہ اصطلاحی نبی (ولی) وقت ہیں اور مرزا قادیانی تو اعلانیہ اپنے آپ کو شرعی نبی کہتے ہیں۔ سارے خلق پر اپنا ماننا فرض بتاتے ہیں اور اپنے نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں۔ آنکھ کھول کر رسالہ دعویٰ نبوت مرزا دیکھو۔ اس لیے اصطلاحی نبی کے ہونے سے حضور پر نور خاتم النبیین ﷺ کی ختم رسالت سے انکار لازم نہیں آتا ہے تمام صوفیائے کرام کے نزدیک آنحضرت ﷺ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کو قرآن و حدیث نے نبی کہا ہو بلکہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا کذاب و دجال ہے۔ مثنوی کے حوالے کی حالت تو معلوم ہو گئی۔ اب

مکتوبات امام ربانی کا حال بھی معلوم کیجئے جس کو قادیانی مربی نے بڑی تلاش و محنت سے نکالا ہوگا الزام دینے کی غرض سے۔ چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ سیدنا ابوبکر صدیق و سیدنا عمر فاروق کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ایں ہر دو بزرگوار از بزرگی و کلانی در انبیاء محدود اند و بہ فضائل انبیاء مخوف تا آخر (مکتوبات امام ربانی، مکتوب نمبر ۲۵۱ ص ۶۳-۶۵ دفتر اول حصہ چہارم ترکی)

جو عبارت عبدالمجد قادیانی نے یہاں نقل کی ہے اس سے حضرت مولانا مؤلف فیصلہ کو تو غافل بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو واقف و ہوشیار جانتے ہیں اس لیے ہم ان کی واقعیت اور ہوشیاری کی قلعی کھولتے ہیں اور ان کی غفلت کو دکھاتے ہیں۔

**پہلی غفلت:** وہ یہ تو بتائیں کہ آپ نے حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ کو مجدد الف ثانی تحریر فرمایا ہے۔ آپ کا یہ لکھنا صداقت کے طور سے ہے؟ اور آپ کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے تو مرزا قادیانی کو چودھویں صدی کا مجدد ماننا غلط ہے کیونکہ جب حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو الف ثانی یعنی دوسرے ہزار کا مجدد مان چکے ہیں تو ضرور ہے کہ اس دوسرے ہزار میں دوسرا مجدد نہ ہوگا ورنہ انہیں مجدد الف ثانی کہنا غلط ہوگا۔ اور اگر ہر صدی میں مجدد ہونے اور چودھویں صدی میں مرزا قادیانی آئے تو حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ کو مجدد الف ثانی کہنا صحیح نہ ہوا بلکہ مجدد مائتہ احدی عشر کہنا چاہیے۔ اس قول میں مؤلف القاء کی یہ پہلی غلطی یا غفلت ہوئی۔

**دوسری غفلت:** حضرت مجدد علیہ الرحمہ کا یہ ارشاد ہے کہ ایں ہر دو بزرگوار در بزرگی و کلانی در انبیاء محدود اند۔ اس کے کیا معنی ہیں آیا جس طرح مرزا قادیانی نبی ہیں یہ دونوں بزرگوار بھی نبی تھے تو اس قول سے آپ کے مرشد ہی جھوٹے ٹھہرتے ہیں کیونکہ ہم اس رسالے کے پہلے حصہ میں مرزا قادیانی کا قول نقل کر آئے ہیں جس میں مرزا قادیانی نے نہایت صراحت سے دعویٰ کیا ہے کہ اس تیرہ سو برس کے عرصہ میں کوئی نبی کے نام پانے کا مستحق نہیں ہے میں ہی ہوں۔

اور قول مذکور سے اور اس کے بعد کے قول سے تین نبی اور بھی نکل آئے ہیں یعنی حضرات شیخین اور حضرت مجدد الف ثانی۔ اس لیے مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ اس تیرہ سو برس کے عرصہ میں میں وہی نبی کے نام کا مستحق ہوں محض غلط ثابت ہوا۔ مؤلف القاء قادیانی یہ کیسی غفلت آپ کے مرشد کے قول سے ثابت ہوئی۔

تیسری غفلت: حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے کلام کے یہ معنی سمجھنا کہ وہ حضرت صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو شرعی نبی کہتے ہیں جیسا مرزا قادیانی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو آپ کی صریح بددیانتی ہے جس صفحہ کی عبارت آپ نے نقل کی ہے اس صفحہ کی پانچویں سطر میں یہ عبارت ہے کمالات حضرات شیخینؑ شبیہ کمالات انبیاء است علیہم الصلوٰات والتسلیمات۔

اس عبارت میں صاف طور سے ان دونوں کے نبی ہونے سے انکار ہے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے کمالات انبیاء کے مشابہ ہیں مثلاً انبیاء میں صفت ہدایت اور مخلوق پر مہربانی کامل درجہ کی ہوتی ہے۔ اس کے مشابہ حضرات شیخینؑ میں یہ صفت اور یہ کمال ہے اس کو نبوت سے کیا واسطہ۔ مگر قادیانی عبدالماجد صاحب کی دیانت ہے کہ اس عبارت کو ظاہر نہیں کیا۔ عوام کے فریب دینے کو ایک جملہ لکھ دیا تاکہ ناواقف سمجھ لیں کہ جس طرح حضرات شیخینؑ کو حضرت مجدد صاحب نبی کہتے ہیں اسی طرح مرزا قادیانی کو نبوت کا دعویٰ ہے۔

دوسری بددیانتی اور ملاحظہ ہو۔ جو جملہ قادیانی عبدالماجد نے لکھا ہے اس کے بعد اسی سے ملا ہوا یہ جملہ ہے۔ ”قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر“ (مشکوٰۃ ص ۵۵ باب مناقب عمرؓ کتابت امام ربانی دفتر اول حصہ چہارم ص ۶۵)

یعنی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ ہوتے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت عمرؓ نبی نہیں تھے۔ حضرت مجدد رحمہ اللہ نے اس جملہ کو غالباً اس لیے زیادہ کیا کہ کم علم حضرات جملہ درانیا معدود اند۔ سے یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ حضرات مرتبہ نبوت کو پہنچ گئے اور نبی ہو گئے۔ مگر بددیانتی کا کیا علاج ہے حضرت مجدد رحمہ اللہ کے خیال میں یہ ہرگز نہ ہوگا کہ ذی علم بھی ایسے بددیانت ہوتے ہیں اب اس کی تشریح دوسرے مکتوب سے دیکھیے۔ مکتوبات کی جلد ۳ حصہ ہفتم مکتوب ۲۳ ص ۳۲۷ میں فرماتے ہیں۔

”درشان حضرت فاروق رضی اللہ عنہ فرمود ہاست علیہ و علی الہ الصلوٰۃ والسلام لو کان بعدی نبی لکان عمر“ یعنی لوازم و کمالاتیکہ در نبوت در کار است ہمہ را عمرؓ دارد اما چوں منصب نبوت انجام الرسل ختم شدہ است (علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام) بدولت منصب نبوت مشرف نگشت۔“

حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے اس قول سے کئی باتیں ثابت ہوئیں ایک یہ کہ حضرت عمرؓ کا

نبی نہ ہونا اور مقام نبوت پر نہ پہنچنا حدیث نبوی سے ثابت ہے دوسرے یہ کہ کمالات نبوت اور چیز ہیں اور منصب نبوت اور مقام نبوت اور چیز ہے۔ مؤلف القاء ان دونوں باتوں سے غافل ہیں۔ اس کلام سے یہ تو بخوبی ثابت ہو گیا کہ عبارت در انبیاء معدود اند کے یہ معنی نہیں ہیں کہ حضرات شیخینؑ نبی ہیں کیونکہ حضرت ممدوح صاف طور سے لکھتے ہیں کہ منصب نبوت نجاتم الرسل ختم شدہ است اور حدیث میں تو اس سے بھی زیادہ صراحت ہے۔ اس غفلت میں دو بددیانتیاں بھی مؤلف القاء کی ثابت ہوئیں۔ مذکورہ مکتوب میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

”مقرر است کہ پیچ ولی امتی بمرتبه صحابی آں است ز شدہ کیف بہ نبی ان امت“

(مکتوبات امام ربانی مکتوب بست و چہارم دفتر دوم حصہ ہفتم ص ۳۲۷)

اب اگر مؤلف القاء حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے کلام کو صحیح اعتقاد کرتے ہیں اور انہیں مجدد الف ثانی سمجھتے ہیں تو ضرور ہے کہ اپنے مرشد قادیانی کو اپنے دعویٰ میں کاذب سمجھیں کیونکہ مرزا قادیانی کو باوجود امتی ہونے کے یہ دعویٰ ہے کہ میں تمام صحابہ سے بلکہ بعض انبیاء سے بھی افضل ہوں اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی امتی کیسا ہی مرتبہ عالی رکھتا ہو مگر کسی نبی کے مرتبہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ کہ میں حضرت مسیح سے ہر شان میں بڑھ کر ہوں عقائد اہل سنت کے بالکل خلاف ہے کسی ظلی اور بروزی نبی کی یہ شان نہیں ہو سکتی۔ مرزا قادیانی کا بعض انبیاء سے افضلیت کا دعویٰ تو صاف لفظوں میں ہے اور اگر غور سے ان کے کلام کو دیکھا جائے تو انہیں افضل الانبیاء ہونے کا دعویٰ ہے اور حضرت سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بھی اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں ان کا الہام ”لولاک لما خلقت الا فلاک“ (تذکرہ ص ۶۱۲ طبع سوم) اس کا شاہد ہے اس کی تفصیل دعویٰ نبوت مرزا میں دیکھیے۔ مؤلف القاء کی یہ کیسی بھاری غفلت ہے کہ اپنے سلسلہ کے بزرگوں کی بلکہ اپنے مرشد کے کلام کی بھی خبر نہیں ہے مؤلف القاء کی یہ چوتھی غفلت ہے۔ حضرت مجددؑ مکتوبات کی پہلی جلد کے ۱۸ مکتوب ص ۴۱ میں لکھتے ہیں۔

”فوق مقام شہادت مقام صدیقیت است..... وفوق آں مقامے نیست الا النبوة

علی اہلہا الصلوٰۃ والتسلیمات۔“

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ مرتبہ نبوت اور مقام نبی صدیقیت کے مقام سے بلند ہے اور صدیق رضی اللہ عنہ مقام صدیقیت میں تھے اس سے بخوبی ثابت ہوا کہ حضرت صدیقؑ نبی نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ در انبیاء معدود اند کے یہ معنی نہیں ہیں کہ حضرات شیخینؑ نبی ہیں اور

مرزا قادیانی تو صاف طور سے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں انتہا یہ کہ بعض الوالہ عزم انبیاء سے اپنے آپ کو ہر شان میں افضل بتاتے ہیں اپنے تئیں تشریفی نبی کہتے ہیں۔ پھر وہ کونسا مرتبہ نبوت ہے جو حضرت سرور انبیاء ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔

یہ پانچویں غفلت ہے جس سے ظاہر ہے کہ مؤلف القاء حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے کلام کو نہیں سمجھتے اور اپنے جہل مرکب سے ایک علامہ نقشبندی مجددی کو غافل سمجھتے ہیں غرض کہ اس قسم کی غلطیاں اور غفلتیں مؤلف القاء کی بہت ہیں۔ اب ناظرین کو اس طرف متوجہ کرتا ہوں کہ مؤلف القاء نے صفحہ ۱۵۹ میں حضرت مجدد کے چند جملوں کا ترجمہ کیا ہے اس سے ان کی قابلیت اور اردو نویسی کی حالت کو ملاحظہ فرمائیں اسی اردو نویسی اور قابلیت پر فیصلہ آسانی کا جواب لکھنے بیٹھے ہیں۔ طوالت اور سبب خراشی کا خوف نہ ہوتا تو اس کی تفصیل کر دیتا۔ مگر واقف کار حضرات صفحہ مذکور کو دیکھ کر میرے بیان کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ مذکورہ اقوال کے سوا بھی مؤلف القاء نے اپنی کوشش کو دکھایا ہے اور چند علماء کے اقوال نقل کیے ہیں اور مامور من اللہ کی مخالفت میں بڑی سرگرمی ظاہر کی ہے سب کو نقل کر کے جواب دینے میں طوالت کا خوف ہے اس لیے سب کا اجمالی جواب دیتا ہوں اور وہ جواب بھی ایسا ہے کہ مؤلف القاء کا پسندیدہ ہے اس لیے میں انہیں کی کتاب سے نقل کرتا ہوں القاء کے صفحہ ۹ میں لکھتے ہیں۔

ابواحمد صاحب حضرت مجدد صاحب کی اس عبارت کو بھول گئے۔

”قائل آل خنسان شیخ کبیر یمنی باشد یا شیخ اکبر شای کلام محمد عربی در کار راست نہ کلام محی

الدین عربی و نہ صدر الدین قونوی۔“

اب میں کہتا ہوں کہ حضرت علامہ ابواحمد صاحب تو اس کلام کو نہیں بھولے اس مقام پر آپ کا یہ الزام آپ کی خوش فہمی پر پوری روشنی ڈالتا ہے جس مقام پر آپ نے یہ الزام نقل کیا ہے وہاں اس الزام کا موقع ہرگز نہیں ہے۔ البتہ اس الزام کا یہ موقع ہے کہ آپ نے متعدد علماء کے اقوال کو اپنے مطالب کے لیے سند پکڑ کے الزام دینا چاہا ہے اور کوئی حدیث نہیں پیش کی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ برائے سند کلام محمد عربی علیہ السلام درکار راست نہ کلام دہلوی و لکنوی و ناوٹوی وغیرہ۔ اس لیے بہت سی عبارتیں نقل کرنا فضول بلکہ نہایت نا سمجھی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ فیصلہ آسانی میں جو اعتراض کیا گیا ہے اس کا جواب کسی صحیح حدیث یا قرآن کی آیت سے دیں بہت سی عبارتیں نقل کر کے عوام کو دھوکا نہ دیں۔ الغرض اپنے مسلک اور منقولہ قاعدے کی پابندی سے غافل نہ

ہو جائے۔ مگر یہاں آپ غافل ہوئے اور بڑی غفلت کی۔ یہ آپ کی چھٹی غفلت ہے اور اگر آپ کو ان حضرات کے اقوال پر ایسا اعتماد ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف توجہ دشوار ہے تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں اور نہایت استحکام سے کہتے ہیں کہ آپ کے مرشد کی عیسویت اور مہدویت کی بنیاد انہیں کے اقوال سے اکھیڑ کر پھینک دیں گے۔ ان سب اقوال میں زیادہ مستند اور لائق اعتبار حضرت مجدد رحمہ اللہ کا قول ہونا چاہیے کیونکہ انہیں آپ پر مجدد الف ثانی لکھ چکے ہیں اور پچھری میں آپ نے انہیں نبی مانا ہے اور آپ اور آپ کے خلیفہ اسحٰب اپنے آپ کو اس خاندان میں منسلک بتاتے ہیں اس لیے میں ان کا قول پیش کرتا ہوں۔

### مؤلف القاء کی عظیم الشان غفلت

مکاتیب کی جلد ۲ مکتوب ۶ ص ۱۳۲ میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ”جماعت از قادیانی گمان کنند شخصے را کہ دعویٰ مہدویت نموده بود۔“

### عبارت مکتوب

از اہل ہند مہدی موعود بودہ است پس بزعم ایناں مہدی گذشتہ است وفوت شدہ و نشان مید ہند کہ قبرش در فرہ است۔ در احادیث صحاح کہ مجد شہرت بلکہ مجد تواتر معنی رسیدہ اند تکذیب ایں طائفہ است چہ آں سرور علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام مہدی را علامات فرمودہ است در احادیث کہ در حق آں شخص کہ معتقد ایشان است آں علامات مفقود اند۔ در احادیث نبوی آمدہ است۔ علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام۔

۱..... کہ مہدی موعود بیرون آید و بر سر وے پارہ ابر کہ بود و راں ابر فرشتہ باشد کہ ندا کند کہ ایں شخص مہدی است اور متابعت کنید۔

۲..... و فرمودہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ تمام زمین را مالک شدند چار کس دو کس از مؤمنان و دو کس از کافران ذوالقرنین و سلیمان از مؤمنان و نمرود و بخت نصر از کافران و مالک خواهد شد آں زمین را شخص پنجم از اہل بیت من یعنی مہدی۔

۳..... فرمود علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام دنیا زود تا آنکہ بعث کند خدا تعالیٰ مردے را از اہل بیت من کہ نام او موافق نام من بود و نام پدر او موافق پدر من باشد پس پر سازد زمین را بداد و عدل چنانچہ پر شدہ بود بجور و ظلم۔

۴.....دور حدیث آمدہ است کہ اصحاب کہف اعوان حضرت مہدی خواہند بود۔

۵.....حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام در زمان وے نزول خواہد کرد و موافقت خواہد کرد با حضرت عیسیٰ علیہ السلام در قتال دجال۔

۶.....دور زمان ظہور سلطنت او در چہار دہم شہر رمضان کسوف شمس خواہش شد و در اول آں ماہ خسوف قمر برخلاف عادت زمان و برخلاف حساب مہمان۔“

(مکتوبات امام ربانی مکتوب نمبر ۶ دفتر دوم ص ۱۹۰۔ ۱۹۱ طبع ترکی)

**مطلب**.....ہندوستان میں ایک شخص نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا بعض اہل ہند نے اس کے دعویٰ کو مانا تھا ان کے گمان میں مہدی موعود گزر گئے (جس طرح اب مرزائی کہتے ہیں) اور اس کی قبر مقام فرہ میں ہے (حضرت مجدد رحمہ اللہ فرماتے ہیں) کہ صحیح اور مشہور حدیثیں جو تو اتر معنوی کی حد کو پہنچ گئیں اس جماعت کو جھوٹا بتاتی ہیں۔ کیونکہ ان حدیثوں میں رسول اللہ ﷺ نے مہدی کی علامتیں بیان فرمائی ہیں اور وہ علامتیں اس شخص میں نہ تھیں جس کے یہ لوگ معتقد ہیں۔ (اب وہ علامتیں شمار کے ساتھ لکھی جاتی ہیں انہیں غور کے ساتھ ملحوظ رکھئے۔)

**پہلی علامت**.....مہدی موعود جب ظاہر ہوں گے تو ان کے سر پر ابر کا ٹکڑا ہوگا اور اس میں فرشتہ ہوگا وہ بآواز بلند کہتا ہوگا کہ یہ مہدی ہے اس کی پیروی کرو (اس سے معلوم ہوا کہ مہدی موعود کو اپنی زبان سے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہ ہوگی)

**دوسری علامت**.....جناب رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا کہ چار شخص تمام دنیا کے بادشاہ ہو چکے ہیں دو مسلمان اور دو کافر۔ مسلمانوں میں ذوالقرنین اور حضرت سلیمان اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر اور پانچواں شخص جو تمام روئے زمین کا مالک ہوگا وہ میرے اہل بیت سے ہوگا یعنی مہدی (مرزا غلام احمد قادیانی تو ایک شہر کے بھی مالک نہیں ہوئے)

**تیسری علامت**.....یہ فرمایا کہ دنیا کا خاتمہ نہ ہوگا جب تک کہ میرے خاندان سے ایک ایسا شخص پیدا نہ ہو کہ اس کا نام میرے نام پر ہو اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہو اس کے ظہور کے وقت دنیا جو رطلیم سے بھری ہوگی یہ شخص داد و ہش اور عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا۔

چوتھی علامت..... یہ فرمایا کہ حضرت مہدی کے مددگار اصحاب کہف ہوں گے۔  
 پانچویں علامت..... یہ کہ امام مہدی کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں  
 گے اور امام مہدی آپ کے ہمراہ ہو کر دجال سے لڑیں گے۔

چھٹی علامت..... یہ فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت میں رمضان کی چودہ تاریخ کو  
 سورج گہن اور پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا۔ یعنی زمانے کی عادت اور منجھوں کے حساب کے خلاف  
 یہ دونوں گہن ہوں گے۔

اب مؤلف القاء سنبھل کر بیٹھیں اور بتائیں کہ مکتوبات میں حضرت مجدد رحمہ اللہ نے  
 (جنہیں آپ بھی مجدد الف ثانی کہتے ہیں اور ان کے کلام کو سند میں پیش کر رہے ہیں) یہ چھ  
 علامتیں امام مہدی کی بیان فرمائیں ان میں سے ایک بھی مرزا قادیانی میں پائی گئی؟ یہ تو دنیا دیکھ  
 رہی ہے کہ ان میں سے ایک علامت بھی ان میں نہ پائی گئی پھر اب حضرت مجدد الف ثانی کے  
 خلاف انہیں مہدی مان کر اپنا ایمان کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی ساتویں غفلت ہے اور بہت  
 ہی بڑی غفلت ہے۔ اب تو آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ نے ان  
 کے جھوٹے ہونے کی چھ علامتیں یا چھ دلیلیں بیان فرمائیں اس پر بھی آپ نے غور نہیں کیا کہ  
 حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے وقت میں ایسا ہی مدعی مہدویت گذرا ہے جیسا آپ کے وقت میں مرزا  
 قادیانی۔ حضرت مجدد اسی کے رد میں یہ دلیلیں بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ماننے  
 والے سے کہتے ہیں کہ:

عبارت مکتوب..... بنظر انصاف باید دید کہ ایں علامات در اخص میت بودہ است یا نہ و  
 علامات دیگر بسیارست کہ مخبر صادق فرمودہ است علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام شیخ ابن حجر رسالہ نوشتہ  
 است در علامات مہدی منتظر کہ بدو است ۲۰۰ علامت کی کشد۔ نہایت جہل است کہ باوجود وضوح  
 امر مہدی موعود جمعی در ضلالت مانند ہذا ہم اللہ سبحانہ سوا الصراط (صفحہ ۱۳۲ جلد ۲)

(مکتوبات امام ربانی دفتر دوم نمبر ۶۷ ص ۱۹۱۔ طبع ترکی)

انصاف کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ علامتیں اس مردہ مہدی میں تھیں یا نہ تھیں۔ ان  
 علامتوں کے سوا اور بھی بہت سی علامتیں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہیں۔ شیخ ابن حجر نے مہدی  
 منتظر کی علامات میں ایک رسالہ لکھا ہے اور ان علامتوں کو دو سو تک پہنچایا ہے۔ نہایت جہالت ہے



کہ باوجود مہدی موعود کی حالت واضح ہونے کی ایک جماعت گمراہی میں پڑ گئی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔“

یہاں یہ بات بھی لائق دیکھنے کے ہے کہ حضرت مجدد رحمہ اللہ کے بیان سے ظاہر ہے کہ مہدی موعود کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اس سے معلوم ہوا کہ مہدی اور مسیح دو ہیں ایک نہیں ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس وقت میں معمول کے خلاف نہایت عجیب طور سے سورج گہن اور چاند گہن کا اجتماع رمضان شریف میں ہو گا۔ یعنی پہلی تاریخ میں چاند گہن اور چودھویں تاریخ میں سورج گہن ہوگا۔ یہ تین باتیں وہ ہیں جن کے انکار میں مرزا قادیانی نے رسالے لکھے ہیں اور اپنے نزدیک حضرت مجدد رحمہ اللہ کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے (استغفر اللہ) اب عبدالماجد قادیانی فرمائیں کہ وہ کیسے جھوٹا سمجھیں گے۔ ایک کو مجدد الف ثانی اور نبی مان چکے ہیں اور دوسرے کو مسیح موعود تسلیم کر چکے ہیں۔ ذرا ہوش سنبھال کر جواب دیں۔ مگر عبدالماجد قادیانی کیا جواب دیں گے کاذب کی پیروی اور اہل حق کے مقابلہ نے عقل و فہم اور علم سب سلب کر دیا ہے۔

افسوس یہ ہے کہ قادیانی مربی کے تو ظاہری علم کا بھی اس مقابلہ میں پتہ نہیں ہے۔ دعویٰ تصوف دانی کا بھی ہو رہا ہے اور حضرات صوفیہ کے کلام پیش ہو رہے ہیں۔

ع بایں خواری امید ملک داری

سچ ہے جہل مرکب بری بلا ہے اس کا علاج نہایت دشوار ہے خاتم النبیین کے معنی حدیث میں اور لغت عرب میں نہایت وضاحت سے مصرح ہیں مگر قادیانی مربی کو خبر نہیں اپنے جہل مرکب کی بنیاد پر لکھتے ہیں۔ ”مولانا و اوستا ذنا ابوالحسنات عبدالحی صاحب محدث لکھنوی کی کتاب دافع الوسواس یا تو دیکھی نہیں الخ صفحہ ۱۶۱۔“

قادیانی عبدالماجد کو اس کی خبر نہیں کہ حضرت اقدس مولانا ابوالاحمد ظہیم سے اور مولانا عبدالحی صاحب سے کیا تعلق تھا حضرت اقدس کو علمی مسائل کی تحقیق کا شوق تھا اور خاص اسی غرض سے لکھنوی میں تشریف لے جاتے تھے اور اپنے پیر بھائی مولوی یحییٰ صاحب کے پاس قیام فرماتے تھے اور فرنگی محل میں آ کر کتابیں ملاحظہ کیا کرتے تھے۔ مولانا عبدالحی صاحب مرحوم سے دوستی تھی۔ اکثر مسائل میں محسبانہ گفتگو ہوتی تھی۔ آپ مولانا مرحوم کی یاد اور کتب بنی کی بہت تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلہ میں گفتگو شروع ہوتی تو کتابوں کے حوالے

دینا شروع کرتے کہ فلاں نے یہ لکھا ہے اور اس نے یہ لکھا ہے مگر جب حضرت نے یہ کہا کہ ہاں لکھا تو ہے مگر اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے اس کا کیا جواب ہے اس کے بعد مولانا خاموش ہو جاتے تھے۔ اور عمر میں بھی برس دو برس چھوٹے تھے اسی لیے اپنی تصانیف و تالیفات برابر حضرت مولانا کی خدمت اقدس میں پیش کیا کرتے تھے اور عنوان تحریر ہمیشہ ویسا ہی ہوا کرتا تھا جیسا چھوٹا بڑے کے ساتھ یا کم سے کم برابر والوں کے ساتھ کرتا ہے۔ جیسے لفظ بخدمت کہ یہ اپنے سے چھوٹے کو ہرگز نہیں لکھ سکتے ہیں۔ مولانا عبدالحی صاحب مرحوم کے ہاتھ کا میں نے خود دو رسالوں (الکلام المبرور اور دافع الوسواس) پر لکھا ہوا دیکھا ہے جو حضرت مولانا کی خدمت میں مولانا عبدالحی صاحب مرحوم نے بھیجے تھے۔ پھر حضرت کے رد و دافع الوسواس کو پیش کرنا نادانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ عبدالماجد قادیانی نے مولانا عبدالحی صاحب مرحوم کے نہ کلام کو سمجھا اور نہ ان کی اور تصانیف کو دیکھا ہے نہیں تو اس قسم کی نادانی کی باتیں نہ بناتے۔ جب قرآن مجید اس پر ناطق ہے اور تمام امت کا اجماع ہے کہ حضور پر نور رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کسی کو کسی قسم کی نبوت نہیں مل سکتی ہے۔ اس اجماعی مسئلہ کی کسی فرد امت نے تاویل بھی نہیں کی تو مولانا عبدالحی صاحب مرحوم کیسے جرأت کر سکتے ہیں کہ اس کے خلاف کہیں۔ افسوس ہے کہ عبدالماجد قادیانی کو خلاف عقل و نقل عقیدہ کو اپنے استاد کی طرف منسوب کرتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ مولانا عبدالحی صاحب مرحوم تو صاف صاف زجر الناس میں لکھ رہے ہیں۔

عبارت..... لکن ختم نبینا ﷺ الی جمیع الانبیاء جمیع الطبقات بمعنی انہ لم یعط النبوة لاحد فی طبقة.

لا شبهة فی بطلان الاحتمال الثانی و هو ان یکون وجود الخواتم فی ملک الطبقات بعده بماوردانه لا نبی بعده و ثبت فی مقره انه خاتم الانبیاء علی الاطلاق والاستغراق.

یہاں مولانا کے لفظ علی الاطلاق والاستغراق پر اہل علم خوب غور کریں اس سے بخوبی ظاہر ہو جائے گا کہ عبدالماجد قادیانی اپنے استاد کے کلام کو نہیں سمجھے دو لفظوں کے بڑھانے کا یہی مقصد ہے جو میں نے بیان کیا ناظرین یہاں پر مولف قادیانی القاء کی دو بھاری غلطیاں ہیں اول تو دافع الوسواس کی سند کو پیش کرنا محض بے موقعہ ہے دوسرے یہ کہ اس کے مطلب کو نہیں سمجھے۔ مطلب: کل طبقات کے اعتبار سے آنحضرت ﷺ کا خاتم الانبیاء ہونا حقیقی ہے اس اعتبار سے

کہ آپ کے بعد کسی کو کسی طبقہ میں نبوت نہیں دی گئی۔

اس احتمال کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دیگر طبقات میں آنحضرت ﷺ کے بعد خواتم کا وجود ہوا اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا اور یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہو چکی ہے کہ آپ ختم الانبیاء ہیں مطلقاً یعنی جس کو نبی کہا جاسکے چاہے ظنی ہو یا بروزی یا کسی قسم کا نبی ہو سب کے آپ خاتم ہیں۔ مگر اس ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آپ کا فیض روحی بند ہو گیا آپ کے فیض ہی کی وجہ سے تو ابدال اقطاب اولیاء ہو اور قیامت تک ہوتے رہیں گے البتہ مرتبہ نبوت کسی کو نہیں مل سکتا ہے جس کی نہایت معقول وجہ فیصلہ آسمانی حصہ سوم میں لکھی گئی ہے۔

قادیانی عبدالماجد نے مولانا عبدالحی صاحب مرحوم کی جو آڑ پکڑی تھی ناظرین پر اس کا حال ظاہر ہو گیا۔ اب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مرحوم کے توسل سے اپنے مسیح کی نبوت کو جو ثابت کرنا چاہا ہے وہ بھی ملاحظہ ہو۔ قادیانی عبدالماجد نے تذکرہ کے حوالے سے اپنی کتاب القاء کے صفحہ ۶۱ اسطر ۹ سے سطر ۷ تک ایک عبارت نقل کی ہے جس سے آپ نے اپنی فہم کامل کے زور سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بعد حضور ﷺ کے نبی آ سکتا ہے خاتمیت آنحضرت کے منافی نہیں ہے۔

قادیانیو! تم ہمیشہ شور مچایا کرتے ہو کہ مرزا قادیانی کو کیوں لوگ دجال۔ مفتری۔ کذاب وغیرہ وغیرہ سخت الفاظ سے یاد کیا کرتے ہیں۔ تو گوش ہوش سے سن لو کہ ان سب الفاظ کے ذمہ دار تمہارے مرزا قادیانی اور خود تم ہو۔ خود اپنے قول و فعل سے اس کو ثابت کر رہے ہو تو دوسروں کو اس کے کہنے میں کیا تاثر ہو سکتا ہے۔ مرزا قادیانی کے اقوال و پیشین گوئیوں میں کچھ کذب بیانی و افتراء لوگوں نے ظاہر کیا اس کو تو تم کہہ دیا کرتے ہو کہ یہی منہاج نبوت ہے اور یہی سنت اللہ ہے لیکن عبدالماجد قادیانی کو نے منہاج نبوت پر ہیں۔ جو مولانا۔ مولوی۔ مقتدا وغیرہ وغیرہ ضخیم ضخیم القابوں کے باوجود مولانا محمد قاسم رحمہ اللہ علیہ کی عبارت میں دجل کرنے سے ذرا بھی نہیں شرمائے بلکہ ڈھٹائی سے اس کو پیش کر دیا۔

مولانا محمد قاسم صاحب مرحوم کے کلام میں عبدالماجد قادیانی کا فریب

مولانا محمد قاسم صاحب مرحوم نے اپنے رسالہ تجذیر الناس میں یہ ثابت کیا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ حضور پر نور (روحی فداہ) سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں یعنی صرف خاتم زمانی

ہی نہیں ہیں بلکہ آپؐ جیسے خاتم زمانی ہیں خاتم ذاتی بھی ہیں یعنی آپؐ پر تمام کمالات نبوت بالذات ختم ہیں۔ اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے مولانا مرحوم نے ایک طولانی علمی تحریر کی ہے جس میں عبدالمہاجد قادیانی نے جو مرزا قادیانی کے خاص پیروکاروں میں سے ہیں یہ دجل کیا ہے کہ چند جگہوں سے کلمات تراش تراش کر ایک عبارت بنائی ہے اور پبلک کے سامنے پیش کر کے حضرت رسول اللہ ﷺ کی خاتمیت سے مولانا مرحوم کا انکار ثابت کرنا چاہا ہے اور لطف یہ کہ مولانا مرحوم نے انہیں صفحات پر جس صراحت سے خاتمیت زمانی کا اقرار بلکہ اس کے منکر کو کافر کہا ہے اس کو ایک دم مضم کر گئے۔ قادیانیو! نوحہ کرو بلکہ دھاڑیں مار مار کر روؤ۔ چلاؤ کہ تمہارا مقتدا بھاگلپوری قادیانیوں کا امام اس قدر دجل صریح سے کام لیتا ہے جس کو لوگ ضرور مرزا قادیانی کے پیروکار ہونے کا اثر سمجھیں گے۔ جس کو سمجھتے تھے مسیحا وہ ہلا کو نکلا۔ اور صحبت اور پیروی کے اثر میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

ناظرین عبدالمہاجد قادیانی نے اپنی کتاب القاء ربانی میں جو عبارت پیش کی ہے۔ وہ تحذیر الناس کے صفحہ ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ سے تراش خراش کر کے پیش کی ہے میں یہاں نقل کرتا ہوں۔

عبدالمہاجد قادیانی نے جو عبارت بنائی ہے وہ یہ ہے (۱) عوام کے خیال میں تو رسول اللہ ﷺ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپؐ کا زمانہ انبیائے سابق کے زمانے کے بعد اور آپؐ سب میں آخری ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں ”ولکن رسول الله وخاتم النبیین“ فرمانا اس صورت میں کیونکر صحیح ہو سکتا ہے (۲) غرض اختتام اگر بایں معنی تجویز کیا جائے۔ جو میں نے عرض کیا تو آپؐ کا خاتم ہونا انبیائے گذشتہ کی نسبت خاص نہ ہوگا کہ بالفرض آپؐ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو۔ جب بھی آپؐ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے (۳) بلکہ اگر بالفرض آپؐ کے زمانے میں کہیں اور کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔

اس کے نمبر وار میں نے تین ٹکڑے کر دیئے ہیں جو مختلف تین صفحات صفحہ ۳ و صفحہ ۱۴ و صفحہ ۲۸ سے لیے گئے ہیں۔ آپ ان کی کتاب اٹھا کر دیکھیں کس چالاکی سے اس کو ایک مضمون بنا کر پیش کیا ہے اور کہیں پر اس کا نشان بھی نہیں ہے۔ کہ یہ تین جگہوں سے لیا گیا ہے تاکہ ناظرین کو اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو کہ یہ دراصل تین عبارتیں ہیں جن کو ایک بنا دیا گیا ہے یہ کیوں؟ صرف اس واسطے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مرحوم پر انکار خاتمیت کا الزام لگا کر مرزا قادیانی کا

بوجھ ہلکا کیا جائے۔ لیکن افسوس کہ عبدالماجد قادیانی کا یہ فریب تحذیر کے دیکھ لینے سے نہ چل سکا اور مرزا قادیانی کا بوجھ ہلکا ہونے کے بجائے ان کی قبر پر اور لاکھ من مٹی پڑ گئی فالحمد للہ۔

اس قدر بیان سے عبدالماجد قادیانی کا فریب تو ظاہر و روشن ہو گیا لیکن اب دیکھنا چاہیے کہ یہ فریب عبدالماجد قادیانی کے لیے مفید مطلب بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی بالفرض اگر یہ تین عبارتیں ایک ہی عبارت مان لی جائیں تو کیا اس سے مولانا محمد قاسم صاحب مرحوم کا یہ عقیدہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں نبی ہو سکتے ہیں؟ میں نہایت زور کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہرگز نہیں۔ ایک عامی شخص بھی عبدالماجد قادیانی کی پیش کردہ عبارت سے ایک منٹ کے لیے بھی مولانا محمد قاسم صاحب مرحوم کو آنحضرت ﷺ کے زمانے میں کسی دوسرے نبی کا قائل و مجوز نہیں مان سکتا۔ عبدالماجد قادیانی کو تو ذی علم ہونے کا دعویٰ ہے۔ معلوم نہیں یہ کیسے نتیجہ نکالا؟ عبدالماجد قادیانی نے مولانا محمد قاسم صاحب مرحوم کی جو عبارت پیش کی ہے اس میں تو صاف صاف اگر ”بالفرض“ کا لفظ لکھا ہوا ہے جس کے تو یہ معنی ہوتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہو سکتی مگر ہم فرضی مان رہے ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی چار سطر اوپر لکھا ہے کہ اگر بالفرض یہ عبارتیں ایک مان لی جائیں تو کیا اس سے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ہم نے واقعی مان بھی لیا۔ اس کے علاوہ عام طور سے لوگ۔ فرضی نام، فرضی بیج، فرضی ہیہ، فرضی قبالہ وغیرہ بولتے ہیں جس کے ہمیشہ معنی غیر واقع ہوتے ہیں۔

اول تو اس پھلانگ کو ملاحظہ فرمادیں کہ صفحہ ۳ کے بعد صفحہ ۱۴ پر جا بیٹھے اور وہاں سے کودے تو چودہ دینی ۲۸ پر۔

ماشاء اللہ واہ رے رست خیز۔ کیوں قادیانیو! کیا کسی عبارت کے پیش کرنے کا یہی طریقہ ہے؟ اگر یہی تحریف ہے تو تحذیر الناس کی کیا ضرورت تھی قرآن مجید سے جو مطلب چاہتے ثابت کر دیتے۔ قرآن مجید میں غلام اور احمد۔ اور رسول اللہ۔ و خاتم النبین سب کچھ الفاظ آئے ہیں ان سب کو ملا کر کہہ دیتے کہ قرآن میں غلام احمد رسول اللہ و خاتم النبین آیا ہے۔ بس پھر کیا تھا۔ مرزا قادیانی کی رسالت بلکہ خدائی بھی ثابت ہو جاتی۔

مرزا یو۔ تم سے سچ کہتا ہوں ماتم کرو ماتم، کیونکہ اس کے ساتھ دوسرا دجل بھی ہے۔ جس صفحہ ۳ کی عبارت عبدالماجد قادیانی نے اپنی موافقت میں نقل کی ہے اسی صفحہ پر یہ عبارت بھی ہے۔ بلکہ بناء خاتمیت اور بات ہے جس سے تاخر زمانی اور سد باب مذکور خود بخود لازم آ جاتا ہے اور فضیلت نبوی دوبالا ہو جاتی ہے۔ تحذیر صفحہ ۳۔

اس عبارت سے حضرت مولانا مرحوم اس بات کی صراحت کیسے روشن طریقے سے فرماتے ہیں کہ بناء خاتمیت ایسی بات پر ہے جس سے آپؐ کا نبی آخر الزمان ہونا خود بخود لازم آ جاتا ہے اور فضیلت نبویؐ دوبالا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد صفحہ ۱۰ میں تو آنحضرت ﷺ کو نبی آخر الزمان نہ ماننے والے اور آپؐ کے بعد دوسرے نبی پیدا ہونے کے قائل کو کافر قرار دیتے ہیں قادیانی جماعت آنکھوں سے پردہ اٹھا کر غور سے دیکھے لیکن حیا کا پردہ نہ اٹھ جائے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ ”سواگر اطلاق عموم ہے جب تو ثبوت خاتمیت ظاہر ہے ورنہ تسلیم لزوم خاتمیت زمانی بدالات التزانی ضرور ثابت ہے ادر تشریحات نبویؐ مثل ”انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی او کما قال“ جو بظاہر بطرز مذکور اسی لفظ خاتم النبیین سے ماخوذ ہے کافی، کیونکہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچ گیا ہے پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا گو الفاظ مذکور بسند متواتر منقول نہ ہوں سو یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا۔ جیسا تواتر اعداد رکعت فرائض وغیرہ و تر وغیرہ باوجود یکہ الفاظ احادیث مشعر تعدد رکعات متواتر نہیں جیسا اس کا منکر کافر ہے ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہے تحذیر الناس صفحہ ۱۱۰ دو اقتباسوں کے متعلق ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ عبدالماجد قادیانی نے ان عبارتوں کو دیکھا اور ضرور دیکھا لیکن اپنی کتاب کے ناظرین کو فریب دینا مقصود تھا اس لیے قصد اقلیم انداز کر دیا۔ یہ دو اقتباس تو خاص تحذیر کے تھے ان کے علاوہ مولانا مرحوم کے اور اقوال بھی نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ دروغ گو بخانہ باید رسانید صحیح ہو جائے۔ اور کسی قادیانی اور غیر قادیانی کو آئندہ لب کشائی کا موقع نہ ملے۔ (۱) مولانا! حضرت خاتم المرسلین ﷺ کی خاتمیت زمانی تو سب کے نزدیک مسلم ہے اور یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ آپؐ اول المخلوقات ہیں (مناظرہ عجیبہ صفحہ ۳) پھر ملاحظہ ہو صفحہ ۲۷ (۲) مولانا! خاتمیت زمانی کی میں نے توجیہ اور تائید کی ہے تعلیل نہیں کی مگر ہاں گوشہ عنایت و توجہ سے دیکھتے ہی نہیں تو میں کیا کروں۔ انہی ایضاً صفحہ ۳۹ (۳) مولانا! خاتمیت زمانی اپنا دین و ایمان ہے ناحق کی تہمت کا البتہ کچھ علاج نہیں سوا اگر ایسی باتیں جائز ہوں تو ہمارے منہ میں بھی زبان ہے۔ ایضاً صفحہ ۱۰۳ (۴) مولانا! امتناع بالغیر میں کسے کلام ہے اپنا دین و ایمان ہے بعد رسول اللہ ﷺ کے کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں جو اس میں تا مل کرے اس کو کافر سمجھتا ہوں۔

اس قدر حوالجات کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ عبدالماجد قادیانی موافق قول حضرت مولانا مرحوم کے وہ بھی بعد رسول اللہ ﷺ کے مجوز نبی کو کافر سمجھیں گے اور آئندہ سے ہمیشہ کے

لیے اپنے منہ پر مہر کر لیں گے۔ اتنے بیان کے بعد اب عبدالماجد قادیانی اپنے قول کو دیکھیں جو اسی صفحہ میں ہے اگر دیکھی ہے تو دیدہ و دانستہ مریدین کے خوش کرنے اور مسلمانوں کو دھوکا دینے کے خیال سے خاتم النبیین ﷺ کی بحث میں اس قدر غلط بیانات کرتے ہیں جس سے اہل علم کو تعجب ہوتا ہے۔ قادیانی مربی ایمان سے فرمائیے یہ آپ راسی اور سچے دل سے کہہ رہے ہیں یا خلیفہ اسحٰق اور چند نوگرفتاروں کے خوش کرنے کو کہہ رہے ہیں؛ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے معتقدین کی نظروں میں تو ذلیل و خوار ہو گئے اب قادیانی خلیفہ اور ان کی قلیل ہی جماعت میں کچھ اوراق سیاہ کر کے اپنی سرخ روئی دکھا کر کچھ فائدہ اٹھائیں یہ الزام آپ پر خوب چسپاں ہے اور حضرت اقدس مؤلف فیصلہ آسمانی تو پہلے سکوت ہی میں زیادہ آرام میں تھے سب آپ سے خوش تھے۔ یہاں تک کہ خلیفہ صاحب بھی راضی تھے اور آپ بھی۔ اب جس وقت سے مسلمانوں کی خیر خواہی اور ان کو فتنہ عظیم سے بچانے کے لیے دوسری مولیٰ ہے اس وقت سے گمراہ جماعت کو یا دشمن ہو گئی ہے۔

مؤلف القاء اپنی ہستی کو خیال کریں اور ان ناشائستہ کلمات کو دیکھیں جو انہوں نے اپنے مہمل رسالے القاء شیطانی میں لکھے ہیں جو جہالتوں اور جھوٹی باتوں کا انبار ہے جس کے چند صفحات کا نمونہ میں نے دکھایا ہے۔ یہ تو فرمائیے کہ وہ اہل علم کون ہیں جنہیں واقعی اور سچی بات پر تعجب ہوتا ہے خدا کے لیے کسی کا نام تو لیجئے جھوٹی ترنگ نہ ہائیے آپ کی جماعت میں کوئی اہل علم ہے؟ جسے تعجب ہے۔

خاتم النبیین کے معنی پہلے تو اجمالی طور سے بیان کئے گئے تھے اس کے بعد فیصلہ آسمانی کے حصہ ۳ میں اور رسالہ دعویٰ نبوت مرزا میں تو ایسے عمدہ مضامین لکھے ہیں کہ ہر ایک ذی علم اور ذی فہم دیکھ کر سبحان اللہ کہتا ہے عبدالماجد قادیانی تو کیا ان کے گرد و مرزا قادیانی کا ذہن بھی ایسے مضامین حقہ سے خالی ہوگا۔ قرآن و حدیث کے الفاظ سے عرب کے محاورہ سے نہایت خوبی سے ثابت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد امتی۔ غیر امتی۔ تشریفی۔ غیر تشریفی۔ کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا اور امت محمدیہ کی فضیلت اس میں دکھائی ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ نہ ملے۔ نہایت ہی عمدہ تقریر ہے۔ اور مرزا قادیانی کے اقوال سے یہ دکھایا ہے کہ انہوں نے ہر قسم کا نبوت کا دعویٰ کیا ہے بلکہ افضل الانبیاء ہونے کے مدعی ہیں، صحیفہ رحمانیہ نمبر ۶ و ۷ کو دیکھئے اور خوف خدا بھی دل میں رکھئے۔ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں تین قسم کے حضرات کو

رسول کہا ہے اس کا غلط ہونا اس مضمون کے پہلے حصہ میں ثابت کر چکا ہوں اور یہ جو آپ نے بزرگوں کے کلام سے رسول اللہ ﷺ کے بعد نبی کا ہونا ثابت کرنا چاہا ہے یہ آپ کی بے خبری ہے صوفیائے کرام کے کلام کا مطلب سمجھنا آپ حضرات کا کام نہیں ہے جنہوں نے برسوں بزرگوں کی خدمت کی ہے دنیا کے سب کام چھوڑ کر یاد الہی میں مشغول رہ کر ایک خاص حالت پیدا کی ہے وہی ان کی باتوں کا پورے طور سے مطلب سمجھ سکتا ہے اگر یہ بات اسے نصیب نہیں ہوئی تو ان بزرگوں کے رسائل دیکھنے کے بعد بھی ایران کی توران سمجھے گا اور بے تکی باتیں بولے گا جیسے آپ بول رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اگر آپ کو خوف خدا اور حق طلبی ہے تو رسالہ ختم نبوت دیکھئے اس میں مختصر طور سے بزرگوں کے کلام کے معنی بیان کر دیئے ہیں اور کچھ میں نے بھی پہلے حصہ میں لکھا ہے۔ میں مختصر بات کہتا ہوں کہ کوئی بزرگ اس کا قائل نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ ملے گا۔ اور کوئی ایسا نبی ہوگا جس پر تمام مخلوق کو ایمان لانا فرض ہو اور ان پر ایمان لانا نجات کا مدار ہو ایسا کوئی نبی کسی صوفی کے نزدیک بھی اس تیرہ سو تیس برس کے عرصہ میں نہیں ہوا اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ مرزا قادیانی ایسے ہی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے (اربعین نمبر خزائن ج ۷ ص ۴۳۵ مع حاشیہ ۴۳۶) کو آٹھ مہینے کھول کر دیکھا جائے جو بالیقین حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ختم رسالت کے منافی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ آپ نے یہاں کئی غلطیاں کیں۔

**پہلی غلطی:** نبوت شرعی اور اصطلاحی میں آپ نے فرق نہیں کیا یعنی صوفیائے کرام کے اصطلاح میں نبی کسے کہتے ہیں اور شریعت محمدیہ میں کسے کہتے ہیں۔ میں اس فرق کا حاصل بیان کرتا ہوں۔ صوفیاء کے اصطلاح میں ولایت کے ایک مرتبہ خاص کا نام ہے مگر اس کا ماننا اور اس پر ایمان لانا کسی پر ضروری نہیں اور نہ اس کے انکار سے کوئی کافر و جہنمی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے کسی عالی مرتبہ صاحب ولایت نے اپنے منکر کو کافر نہیں کہا باوجودیکہ مخلوق نے ان میں سے بعض کو کافر کہا۔

**دوسری غلطی:** نبی حکمی اور نبی حقیقی میں فرق نہیں کیا۔ جو صلاح و تقویٰ کے ساتھ ہدایت خلق اور رفاہ خلق کرے اس نے وہ کام کیا جو نبی کرتے ہیں۔ اس لیے انہیں حکمی نبی کہہ دیتے ہیں اس کو منصب نبوت سے کیا واسطہ؟ عبدالمجید قادیانی کو اتنا بھی نہیں معلوم اور ایک حقانی علامہ کا مقابلہ کرنے چلے ہیں۔

**تیسری غلطی:** کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر علماء کے اقوال پیش کئے مگر اتنا نہیں معلوم



کہ اس مقابلہ میں علماء کے اقوال لائق توجہ ہو سکتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام پر اپنی قابلیت اور وسعت نظر جتنا منظور ہے تا کہ عوام سمجھیں کہ عبدالماجد قادیانی نے اتنی کتابیں دیکھ لی ہیں اتنا انہیں علم کہاں کہ یہ کتاب کس کی تالیف ہے وہ کس پایہ کے عالم تھے۔

چوتھی غلطی: یہ نہیں سمجھے کہ کمالات نبوت پر پہنچنا اور بات ہے اور منصب نبوت پر فائز ہونا اور بات ہے کمالات نبوت میں ایک کمال یہ ہے کہ مثلاً مخلوق خدا پر شفقت اور ہدایت خلق کا شوق ہونا۔ اب اس شفقت اور شوق کے مراتب ہیں جو ان دونوں صفوں کے مرتبہ عالی کو پہنچا وہ بعض کمالات نبوت پر پہنچا اس پایہ کے علمائے امت ہوئے اور ورثہ الانبیاء کہلائے۔ نبی نہیں کہلائے منصب نبوت اس سے بہت عالی ہے۔ مرزا قادیانی کو تو یہاں تک پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ خلق کے لیے بددعا کرتے رہے اور ان کے لیے طاعون اور زلزلوں اور سخت آفتوں کو بلاتے رہے اور خلق کی مصیبتوں پر خوش ہوتے رہے اور علمائے امت کے ساتھ نہایت سختی اور بدزبانی سے پیش آتے رہے۔

شان شفقت اور شوق ہدایت اسے کہتے ہیں کہ مگر ین رسول اللہ ﷺ آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کے شہید کر دینے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ مگر اس خاص جنگ کی حالت میں اس رحمۃ للعالمین کی شان رحمت نے یہ جلوہ دکھایا کہ کوئی سخت لفظ زبان مبارک پر نہیں آیا بلکہ یہی ارشاد ہوا کہ ”اللهم اھد قومی فانھم لا یعلمون“ (در منثور ج ۲ ص ۲۹۸)

یعنی اے خدا میری قوم کو توجہ دے کہ یہ واقف نہیں ہیں نادان ہیں۔ شوق ہدایت اور شفقت خلق کی یہ شان ہے۔ پھر ایسے شفیق امت اور رحمت خلق کے ظل ہونے کا دعویٰ اور یہ سختیاں پھر یہ دعویٰ جھوٹا نہیں تو اور کیا ہے؟

پانچویں غلطی: مؤلف القاء اپنے مرزا کا وہ قول یاد کریں جو میں نے اس تحریر کے پہلے حصہ میں ان کے دعویٰ کی غلطی میں پیش کیا ہے وہ قول تو ان بزرگوں کے قول کو غلط بتا رہا ہے۔ وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس تیرہ سو برس کے عرصہ میں میرے سوا کوئی نبی نہیں ہوا۔ اور کسی کو مرتبہ نبوت نہیں ملا اور قادیانی مربی کے خیال کے بموجب مذکورہ عبارتیں یہ بتاتی ہیں کہ اور بھی انبیاء ہوئے اس لیے قادیانی مربی کو چاہیے کہ پہلے مرزا قادیانی کے دعویٰ کو غلط مان لیں اس کے بعد صوفیائے کرام کی وہ عبارتیں پیش کریں ورنہ ان کا پیش کرنا محض بیکار ہے۔ میں ایک اور سچی بات کہنا چاہتا

ہوں۔ قادیانی مربی معاف فرمائیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ بزرگوں کے اقوال کو سند میں پیش کریں۔ کیونکہ ان حضرات کی اصطلاحات اور اقوال سمجھنے کے لیے وسعت نظر کے علاوہ نہایت قابلیت اور روحانیت کی ضرورت ہے۔ جس سے قادیانی جماعت محروم ہے کیونکہ روحانیت بغیر تقویٰ اور یاد خدا کے اور کسی بزرگ کی صحبت کے نہیں ہو سکتی اور اظہر من الشمس ہو رہا ہے کہ قادیانی جماعت اس سے کوسوں دور ہے۔ انہیں تو سوائے وظیفہ مرزا کے اور کچھ نہیں ہے جس طرح پادری کفارہ پر ایمان لانا نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں اسی طرح قادیانی جماعت مرزا قادیانی پر ایمان لانے کو کافی خیال کرتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ صوفیائے کرام جناب رسول اللہ ﷺ کو خاتم المرسلین اور آخر النبیین سمجھتے ہیں اور صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی تشریحی غیر تشریحی کسی قسم کا نہیں ہوگا۔

اس کے علاوہ قادیانی مربی دو دیگر قادیانی حضرات صرف اسی بات پر غور کر لیں کہ مذکورہ بالا عبارتوں سے جن بزرگوں کی نبوت کو قادیانی مربی سمجھتے ہیں (جیسے حضرت مجدد صاحب وغیرہ) ان میں سے کسی کے نبی ہونے کا کوئی فرقہ اہل اسلام کا قائل نہیں ہے اور نہ ان کے منکر کو کافر جہنمی یہودی کا خطاب دیتے ہیں بخلاف مرزا قادیانی کے کہ وہ اپنے منکر کو جہنمی یہودی قابل مواخذہ سب کچھ خطابات دیتے ہیں۔

(دیکھو ھیتۃ الوحی وغیرہ) میں مرزا قادیانی کیا فرماتے ہیں۔

معزز ناظرین! ہماری اس قدر تحریر نے ضرور ثابت کر دیا کہ قادیانی مربی نے قرآن مجید و قول بزرگان کی جو آڑ پکڑی تھی وہ محض دھوکہ تھا قادیانی مربی کی نظر نہ قرآن مجید پر ہے اور نہ بزرگوں کے کلام کو وہ سمجھ سکتے ہیں میں نے دلائل سے پہلے حصہ میں اور اس حصہ میں دکھا دیا کہ قرآن مجید میں نبوت کی تین قسمیں ہرگز نہیں ہیں اس کو قادیانی مربی کبھی نہیں ثابت کر سکتے ہیں اور نہ اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں نائب رسول کو رسول کہا ہے اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ مرزا قادیانی فقط نائب رسول ہونے کی وجہ سے اپنے کو رسول نہیں کہتے ہیں بلکہ ان کا دعویٰ نبوت مستقلہ کا ہے جو آیت ختم رسالت کے صریح خلاف ہے قادیانی مربی باتیں بتا کر اس کو چھپانا چاہتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے اگرچہ اپنے آپ کو خادم آنحضرت اور آپ ہی کی نبوت کا فیض یافتہ لکھا ہے۔ لیکن اگر ان کے تمام اقوال پر نظر کی جائے تو ان کی تصنیفیں با واز دہل پکار رہی ہیں کہ

صرف یہی نہیں کہ مرزا قادیانی مستقلہ نبوت کے دعویدار ہیں بلکہ ہر قسم کے کمال نبوت کے مرجع ہیں افضل الانبیاء ہیں تمام کمالات نبوت انہیں کی وجہ سے انبیاء کو پہنچے ہیں۔ (معاذ اللہ)

رسالہ دعویٰ نبوت مرزا ملاحظہ کیا جائے۔ باایں ہمہ کہیں پر اپنے کو ظلی و بروزی نبی کہتے ہیں۔ یہ متعارض اقوال ان کی طرف سے بدگمان کرتے ہیں اور اس بھاری اختلاف کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جزا اس کے کہ مسلمانوں کے متوجہ کرنے کو خادم اور فیض یافتہ ہونے کا دعویٰ ہے اور ان کا ظل اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ لیکن جب موقعہ ہاتھ آتا ہے تو اپنا مقصود اصلی بھی صاف صاف آواز کے ساتھ ظاہر کر دیتے ہیں دیکھیے آپ حضرات تو جانتے ہی ہیں کہ مرزا قادیانی اپنے کو ظلی نبی، تتبع نبی، غیر صاحب شریعت نبی کہا کرتے ہیں اور عبدالمجید قادیانی نے بھی ابھی اسی کا اقرار کیا ہے لیکن خود مرزا قادیانی (اربعین نمبر ۴ ص ۶ خزائن ج ۷ ص ۴۳۵) میں لکھتے ہیں۔

”اور اگر کہو کہ صاحب شریعت افتراء کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری تو اذل تو دعویٰ بلا دلیل ہے خدا نے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی اس کے ماسوا یہ بھی تو سمجھو کہ صاحب شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر دینی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف طرم ہیں کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں۔ اور نہی بھی۔ مثلاً یہ الہام ”قل للمؤمنین بغضون من ابصارهم وبحفظوا فروجهم ذلک از کمی لهم“

یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی اس پر تیس برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔ یہ تو متن ہے۔ اب اس کا حاشیہ ملاحظہ ہو۔

”چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید بھی اس لیے خدا نے میری وحی، تعلیم کو اور اس وحی کو جو میرے پر ہوتی ہے فلک یعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا ہے جیسا کہ ایک الہام کی یہ عبارت ہے۔ ”واصنع الفلک باعینا ووحینا ان الذین یسایعونک انما یسایعون اللہ یداللہ فوق ایدیہم“ یعنی اس تعلیم و تجدید کی کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے بنا جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب دیکھو خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لیے مدار نجات ٹھہرایا جس کی

آنکھیں ہوں دیکھے اور جس کے کان ہوں سنے۔“ (حاشیہ اربعین نمبر ۲ ص ۶ خزائن ج ۷ ص ۴۳۵)

اب یہاں عبدالماجد قادیانی کیا تاویل کریں گے؟ مرزا قادیانی کی اس تحریر نے تو قادیانی مربی کا صاحب شریعت وغیرہ کی قسمیں نکالنے کی مٹی پلید کر دی جب خود بدولت ہی اپنی شریعت منوار ہے ہیں تو حاشیہ نشین کا راز پنہاں بتانا فریب نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی نائب رسول اور ظلی نبی نے کہا ہے کہ میری بیعت کو خدا نے مدار نجات ٹھہرایا ہے؟ یعنی جس نے مجھ سے بیعت نہ کی اس نے نجات نہیں پائی وہ کافر، جہنمی ہے۔ اس قول کے بعد بھی قادیانی مربی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو نبوت مستقلہ کا دعویٰ نہیں ہے؟ وہ اپنے منکر کو کافر نہیں سمجھتے ذرا خوف خدا دل میں کر کے اس کا جواب دیں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اس قدر بیان سے قادیانی مربی کا نبوت کی تین قسمیں نکال کر مرزا قادیانی کو نائب رسول کے زمرہ میں شامل کر کے نبی کا خطاب دیتا باطل ہو گیا اور مرزا قادیانی کا نبی صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ آفتاب کی طرح ظاہر ہو گیا۔ اور یہی میرا مقصود تھا جو حاصل ہو گیا لیکن تابخانہ باید رسانید کے مصداق سے میں صرف یہی نہیں دکھلاؤں گا کہ مرزا قادیانی مستقلہ نبوت کے دعویدار ہیں بلکہ ان کی تصنیفیں اس سے بھی بھری پڑی ہیں کہ وہ اپنے کو تمام انبیاء سے افضل اور حضور انورؐ سے برتر سمجھتے ہیں۔ وحوہذا۔

### انبیاء پر فضیلت

”صرف میں یہ ہی جواب نہیں دوں گا کہ معجزات دکھلا سکتا ہوں بلکہ خدا کے فضل سے اور کرم سے میرا جواب یہ ہے کہ اس نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے اس قدر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھلائے ہوں۔“

(ہجۃ الوحی ص ۱۳۶ خزائن ج ۲۲ ص ۵۷۴)

”ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ اس سے بہتر غلام احمد ہے۔“

(دافع البلاء ص ۲۰ خزائن ج ۱۸ ص ۲۴۰)

”پھر جبکہ خدا نے اور اس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخر زمانہ کے مسیح کو اس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے تو پھر شیطانی دوسرے کہ یہ کہا جائے کہ کیوں تم مسیح ابن مریم سے اپنے تئیں افضل قرار دیتے ہو۔“ (ہجۃ الوحی صفحہ ۵۳ خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۹)

ناظرین! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک بہت کم ایسے نبی ہیں جن

سے مرزا قادیانی کے معجزات زیادہ نہ ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ معجزہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے سچے نبی کی صداقت کے اظہار میں اور جس قدر اس نبی کا مرتبہ زیادہ ہے اسی قدر اس کی صداقت کے اظہار میں معجزات کا ظہور زیادہ ہوگا۔ غرض کہ اس قول کا حاصل یہ ہوا کہ میں اکثر انبیاء سے افضل ہوں۔ قادیانی مربی یہ تو میں نے پوشیدہ راز آپ کے روبرو پیش کیا مگر مرزا قادیانی نے تو صاف طور سے ایک نبی اولوالعزم حضرت عیسیٰ پر اپنی فضیلت کا دعویٰ کیا اور جوش میں آ کے اس کی تصدیق خدا اور رسول اور تمام انبیاء کے ذمہ لگا دی اب ان کے مستقل نبی ہونے میں قادیانی مربی کو کیا عذر ہو سکتا ہے؟ کوئی نائب رسول کسی ادنیٰ نبی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا چہ جائیکہ اس کے ایک اولوالعزم رسول سے افضل ہو جائے اب تو مرزا قادیانی کی نبوت مستقلہ اور بعض انبیاء بلکہ اکثر انبیاء سے ان کا افضل ہونا ان کے کلام سے ایسا ظاہر ہو گیا کہ قادیانی مربی کو کہنا چاہیے کہ اگر کسے شک آرد کافر گرد مگر قادیانی مربی کا صاف طور سے یہ نہ کہنا اور نائب رسول کی رٹ لگانا صرف عوام کو دھوکا دینے کی غرض سے ہے۔ قادیانی مربی دیا بتا فرمادیں کہ کیا کوئی نائب رسول انبیاء سے افضل ہو سکتا ہے؟ قادیانی مربی یہ فرمائیں کہ آخر زمانے کے مسیح کو خدا اور رسول نے اور تمام انبیاء نے افضل کہاں فرمایا ہے کیا روئے زمین پر کوئی کتاب ہے جس میں خدا اور رسول کا یہ قول لکھا ہے؟ قرآن وحدیث میں تو یہ مقولہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ مرزا قادیانی آنحضرت ﷺ کی غلامی کا بظاہر دم بھرتے ہیں اگر انکے مریدوں کی عقل صحیح وسالم ہے تو وہ دیکھیں کہ مرزا قادیانی نے حضور پر نور سے بھی مساوات کا دعویٰ کیا ہے اور خوب زوروں سے کیا ہے لیکن ان کے دام افتادوں کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی گئی ہے جو اس قسم کی باتوں پر ان کی نظر نہیں پڑتی۔ قادیانی مربی نے قصداً اگر دھوکا نہیں دیا ہے تو مرزا قادیانی کی محبت میں ایسے کوتاہ نظر ہو گئے ہیں کہ اس قسم کی باتیں ان کی آنکھوں سے نہیں معلوم ہوتی ہیں لیجئے میں بتاتا ہوں آنحضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی خاص فضیلت ہے کہ آپ رحمۃ للعالمین ہو کر تشریف لائے ہیں یہ کسی نبی کو نہیں فرمایا گیا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کو بھی بحینہ بلفظ یہی الہام ہوا کہ ”وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین“ (تذکرہ ص ۸۱ طبع سوم)

نمبر ۲۔ مقام محمود صرف آنحضور کے لیے خاص ہے لیکن مرزا قادیانی کو بھی الہام ہوا۔  
 ”اراد اللہ ان یبعثک مقاماً محموداً“ (تذکرہ ص ۹۰۹ طبع سوم)  
 اور حضرت حضور مآب کی فضیلت میں نازل ہوا۔ ”ہو الذی ارسل رسولہ

بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ“

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ کی وہ ذات ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ تمام دینوں پر اسے غالب کرے۔ جب کہ اس آیت کا نزول مرزا قادیانی اپنے لیے بیان کرتے ہیں (تذکرہ ص ۳۵ طبع سوم) تو اب اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ انہیں صاحب شریعت بننے کا دعویٰ ہے؟

مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ خاص میری شان میں ہے ان کے اس الہام سے صاف ظاہر ہو۔ ہا ہے کہ وہ صاحب شریعت ہونے کے مدعی تھے جیسے آنحضور صاحب شریعت تھے۔ معزز ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ ایک غلام نے اپنے آقا سے مساوات کا کس الفاظ میں ادعاء کیا ہے؟ لیکن غلامان باوفا کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت تعجب و تکلیف میں ڈالنے والی یہ بات ہے کہ اس غلام نے آقا کی صرف مساوات ہی کا دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ جا بجا افضلیت کا دعویٰ کر کے بھی اپنی تہذیب و وفاداری کا ثبوت دیا ہے؟

### افضلیت آنحضرت ﷺ

..... قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں کہیں اشارت و کنایہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ حضور سرور کونینؐ کو خدائی صفت یا اس کا ایک حصہ بھی ملا ہو۔ بلکہ قرآن مجید میں صاف صاف ارشاد ہے کہ ”إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ“ (القصص ۵۶) ”ہر اس شخص کو جس سے تم کو محبت ہو تم ہدایت نہیں دے سکتے ہو۔“

پھر دوسری جگہ ہے کہ مشرکین کے لیے تم اگر ستر مرتبہ بھی استغفار کرو تو خدا نہیں بخشنے گا۔ اللہ حضورؐ تو اپنی تمام خواہشوں میں روکے جاتے ہیں لیکن ایک غلام دعویٰ کرے کہ ..... انما امرک اذا اردت شیئاً ان تقول له کن فیکون۔ (تذکرہ ص ۵۱) جس کے معنی یہ ہوئے بس تیرا (مرزا) مرتبہ یہ ہے کہ جب تو ارادہ کرے کسی چیز کا اور فرما دے کہ ہو جا پس ہو جائیں گے۔ یہ خاص خداوندی صفت ہے جو رسول اللہ کو نہ ملے اور مرزا قادیانی پیٹ بھر حصہ پائیں۔ اس کے جواب میں مرزائیوں نے لکھا ہے کہ حضرت غوث پاک کو بھی یہ الہام ہوا تھا اور فتوح الغیب کا حوالہ بھی دے دیا ہے افسوس ہے کہ جو پہلے نیک تھے مگر مرزا قادیانی نے انہیں بھی ایسا کر دیا کہ صاف طور سے جھوٹ بولنے لگے اور پھر یہ بھی شرم نہیں کہ یہ ایسا جھوٹ ہے کہ

پوشیدہ نہیں رہ سکتا یعنی یہ کہنا کہ یہ الہام حضرت شیخ عبدالقادرؒ پر ہوا تھا محض غلط ہے فتوح الغیب موجود ہے اس میں ہرگز یہ نہیں ہے جس کو دعویٰ ہو وہ دکھائے کہاں ہے؟

۲..... رسول اللہ ﷺ کو تو ”لولاک لما خلقت الافلاک“ نہیں ارشاد ہوا لیکن مرزا قادیانی اپنے خود ساختہ قرآن میں اپنے بارہ میں فرما رہے ہیں جس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔

۳..... رسول اکرم کو خداوند تعالیٰ نے سوائے رسول وغیرہ الفاظ کے بیٹا نہیں کہا لیکن مرزا قادیانی کو ”انت منی بمنزلہ توحیدی و تفویدی انت منی بمنزلہ ولدی“ کا الہام ہوا۔ (تذکرہ ص ۵۲۶ طبع سوم)

جس کے معنی یہ ہوئے کہ ”اے مرزا تو ہمارے نزدیک بمنزلہ ہماری توحید کے ہے اور تو بجائے بیٹا کے ہے۔“ اب مرزا قادیانی کو یہ مرتبہ ہو گیا کہ خدا کا بیٹا کہے جانے لگے۔ اور جن کی غلامی کا ہمیشہ بظاہر دم بھرتے ہیں یعنی آقائے دو جہان آنحضرت ﷺ ہمیشہ اپنے کو خدا کا غلام ہی ظاہر کرتے رہے ایک مرتبہ بھی بیٹا کے لفظ سے نہ پکارے گئے۔ مرزا قادیانی جا بجا اپنے کو حضورؐ کا غلام کہہ دیا کرتے ہیں اور قادیانی مست ہیں کہ دیکھو وہ تو غلام کہتے ہیں دعویٰ ہمسری نہیں کرتے ہیں لیکن یہ چال نہیں تو اور کیا ہے؟ کیونکہ مرزا قادیانی باوجود غلام اسی وقت تصور کیے جاسکتے جب آقاؐ کے اعزازی و تمیزی خطابات میں اپنے کو برابر کا شریک نہ ثابت کرتے اور ان سے فوقیت کا خیال نہ کرتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اپنے خطابات و دعویٰ نبوت و رسالت کا انہیں زور دار الفاظ میں اظہار کیا ہے جو آنحضرتؐ کو دربار احدیت سے پروانہ تقرری میں ملے ہیں یعنی ”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ“ اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی بادشاہ اپنے دو معتدوں کو ایک ہی قسم کے الفاظ میں پروانہ تقرری دے کر اپنے ممالک محروسہ کا یکے बाद دیگرے والی بنا کر بھیجے تو ان دونوں کا مرتبہ ایک ہی خیال کیا جائے گا ایک دوسرے کا نائب و غلام نہیں ہو سکتا جیسے ہندوستان کے جتنے گورنر جنرل آئے یا آتے رہیں گے سب کا مرتبہ باعتبار عہدے کے ایک ہی ہے ان میں سے اگر کوئی اپنے کو میسر و کا غلام کہے تو کسی پالیسی یا انکسار پر محمول ہوگا۔ اسی طور سے مرزا قادیانی کا باوجود حضورؐ کے پروانہ تقرری میں برابر کا شریک ہونے کے امتی امتی کی رٹ لگانا کسی مذموم پالیسی پر محمول ہوگا۔ جو ان کو ایک مرد با خدا بھی ثابت نہیں ہونے دیتی ہے نبوت تو ایک بڑی چیز ہے۔

ناظرین! قادیانی مربی کی تمام دلیلوں کی بفضلہ قلعی کھل گئی اور ان کا بطلان اظہر من الشمس ہو گیا۔ البتہ ایک بات رہ گئی جس کے متعلق میں نے ابھی تک کچھ نہیں لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ قادیانی مربی نے تحریر فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے بھی مسلم شریف کی حدیث میں مسیح موعود کو نبی اللہ کا خطاب دیا ہے ملاحظہ۔ اب قطع نظر اس کے کہ انہیں یہ دعویٰ کرنا اس وقت زیبا ہو سکتا تھا کہ پہلے کسی ایسی دلیل سے مرزا قادیانی کو مسیح موعود ثابت کرتے کہ مخالفین بھی مان لیتے۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور نہ کر سکتے ہیں مگر اس سے ہم قطع نظر کر کے اسی حدیث سے ان کے دعویٰ کی غلطی ثابت کرتے ہیں۔

اب حضرات اس دلیل کا بھی رنگ ملاحظہ کر لیں۔ یہ بحول اللہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ قادیانی مربی نے بھی سخت دھوکا دیا ہے۔

..... میں قادیانی مربی سے دریافت کرتا ہوں کہ کیوں مربی صاحب آنحضرتؐ نے حضرت عیسیٰؑ کو نبی اللہ کا خطاب دیا ہے وہ حقیقی نبی کا یا مجازی کا؟ اگر حقیقی نبوت مراد ہے تو ہیر پھیر کرو ہی بات آگئی کہ مرزا قادیانی نے حقیقی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور امتی امتی کی رٹ دھوکہ کی چال ہے دوسرے خود مرزا قادیانی نے جہاں پر حضرت عیسیٰؑ ناصر علیہ السلام کے دوبارہ دنیا پر تشریف لانے کو رد کیا ہے بڑے زروں میں حقیقی نبوت کو بعد خاتم النبیین کے ناجائز قرار دیا ہے بلکہ کتاب البریہ (ص ۱۹۹-۲۰۰ خزائن ج ۱۳ ص ۲۱۷-۲۱۸) میں مرزا قادیانی آیت خاتم النبیین کے معنی اس قدر سخت مانتے ہیں کہ آنحضرتؐ کے قبل کے انبیاء علیہم السلام کا بھی بعد آپؐ کے دوبارہ آنا سخت ناجائز ہے بلکہ مرزا قادیانی کی عبارت محولہ بالا نے آسانی سے اس کا بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ بعد حضورؐ کے امتی وظلی نبی کا آنا بھی ویسا ہی حرام ہے جیسا کہ صاحب شریعت نبیؐ کا، کیونکہ حضرت عیسیٰؑ علیہ علی نبینا السلام کو مرزا قادیانی اور ان کی جماعت امتی نبی ہی کہتے ہیں اور باوجود امتی نبی کے ان کا آنا آیت خاتم النبیین کے خلاف و سخت خلاف کہتے ہیں تو اب دوسرے امتی نبی کا آنا کیونکر جائز ہو گیا؟ یہ مرزا قادیانی کی عین ہوشیاری ہے کہ ایک جگہ یعنی حضرت عیسیٰؑ کے دوبارہ آنے کو اس وجہ سے ناجائز قرار دیا کہ بعد آنحضرتؐ کے نبی اللہ کا آنا آیت قرآنی کے خلاف ہے اور جہاں پر اپنی نبوت دکھائی ہے وہاں پر یہ کہہ دیا کہ بعد آپؐ کے نبی اللہ کے آنے میں کوئی معذور شرعی نہیں ہے (یہ لفظ اس مقام پر غلط ہے مگر عبدالمجید قادیانی کے باوجود دعویٰ قابلیت کے اپنے رسالہ میں اسی طرح لکھا ہے اس لیے میں نے ان کی قابلیت کے اظہار کے لیے اسی طرح



رہنے دیا تاکہ اہل علم دیکھیں کہ اس قابلیت پر فیصلہ آسانی کا جواب دینے بیٹھے ہیں کسی نے خوب کہا ہے بایں خواری امید ملک داری۔) اور نہ کسی آیت کے خلاف ہے۔ یہ تو مرزا قادیانی کا فعل ہے اس کے جواب دہ قادیانی مولوی نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ان کی چالاکی یہاں پر یہ ہوئی ہے کہ دلیل پیش کی حقیقی نبوت کی اور تمغہ دیا مستقلہ رسالت کا، لیکن جب آیت ختم رسالت کا تذکرہ کیا گیا تو فوراً فرمانے لگے کہ تابع رسول ہونے کے سبب سے مرزا قادیانی کو رسول کہتے ہیں اور اس کو ایک قلم بھلا دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے حقیقی نبوت سے کہیں بڑھ چڑھ کر دعویٰ کیا ہے اور اپنے کو صاحب شریعت انبیاء سے بھی بلند تر کہا ہے۔

کیا اب بھی کسی قادیانی کا منہ ہو سکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے حقیقی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے؟ اور ان کی نبوت مجازی ہے کیا مجازی نبوت کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ وہ تمام حقیقی انبیاء سے بھی بالاتر ہو۔ غرض کہ اس حدیث میں اگر نبی اللہ کا خطاب مرزا قادیانی کو مل رہا ہے تو دونوں صورت میں مرزا قادیانی ملزم ہوتے ہیں اگر حقیقی نبوت مراد ہے تو خود بدولت ہی اس کو بعد آنحضرتؐ کے ہونے کو روک چکے ہیں اور مجازی نبوت نہیں گے تو وہی اعتراض ہوگا کہ اس سے بڑھ چڑھ کر دعویٰ مرزا قادیانی نے کیا ہے۔

۲..... اوپر کی چالاکی تو خیر ایک معمولی چالاکی تھی ہاں اصل یہ دوسری چالاکی ہے۔ جس کو ہم فریب و خت فریب کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا۔

قادیانی مربی نے جب مسلم کی حدیث سے استدلال کیا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ حدیث معترکہ نقل کر دیتے تاکہ ہر شخص کو غور کرنے کا موقع ملتا لیکن افسوس قادیانی مربی نے ایسا نہیں کیا بلکہ صرف اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کا راز یہ ہے کہ حدیث شریف اول سے آخر تک مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت ”مہدویت“ مسیحیت کی سخت مخالف ہے اور صرف لفظ نبی اللہ کا ان کے حسب خواہ ہے اب حدیث نقل کرنے میں تو یہ خوف ہوا کہ چلے ہیں مرزا قادیانی کی رسالت ثابت کرنے کہیں ان کی مہدویت و رسالت ہی کے نہ لالے پڑ جائیں اور واقعہ بھی یہی ہے لیکن صرف اشارہ کرنے میں پوری حدیث پر پردہ پڑا رہا اور لوگ سمجھے کہ ماشاء اللہ مرزا قادیانی کی نبوت کا استدلال حدیث شریف سے کیا گیا ہے بس پھر کیا چوڑی اور دود۔

افسوس ہے قادیانی مربی یہ عذر بھی نہیں پیش کر سکتے ہیں کہ طوالت کے خوف سے نقل نہیں کیا۔ کیونکہ اس سے بڑی بڑی عبارت اپنی کتاب میں نقل کی ہے اس کے علاوہ زیادہ نہیں تو

صرف ترجمہ ہی نقل کر دیتے۔

۳..... قادیانی مربی نے حدیث کو نقل نہ کرنے کے علاوہ ایک چالاکی یہ بھی کی ہے کہ اس کا پتہ مطلق نہیں دیا ہے کہ کس جلد اور کس صفحہ میں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ کس کو غرض پڑی ہے جو اتنی بڑی کتاب کی دو جلدوں میں تلاش کرنے کی تکلیف اٹھائے گا۔ اور ہمارے استدلال کے جانچنے کی فکر کرے گا لیکن اسے کو کیا معلوم تھا کہ تاڑنے والے غضب کے ہوتے ہیں وہ گہری پردہ داری تک کو جان جائیں گے۔ بفضلہ تعالیٰ میں نے حدیث کو تلاش ہی کر لیا ہے اور بآواز بلند کہتا ہوں کہ

ہمارا اور قادیانی مربی عبدالماجد کا فیصلہ

صرف اسی حدیث پر ہو جائے۔ جتنی باتوں کو یہ حدیث بتاتی ہے ہم اور قادیانی مربی بلا چون و چرا تسلیم کر لیں۔ اب زیادہ قصہ و قصایا کی ضرورت نہیں ہے اور نہ زیادہ کاغذ سیاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک روز ہم اور وہ مع دس بیس آدمیوں کے مونگیر میں یا بھاگلپور میں بیٹھ جائیں اور سامنے حدیث رکھ دی جائے اور میں یا خود قادیانی مربی ترجمہ کر کے سنائیں میرا ان کا فیصلہ ہے۔ ترجمہ لغت اور محاورہ عرب کے مطابق ہوگا اور مطلب وہی جو حدیث کے الفاظ سے سمجھا جاتا ہے اس بات کو قادیانی مربی سرسری نہ خیال فرمائیں بلکہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں مربی قادیانی عبدالماجد کو چیلنج ہے۔

قادیانی مربی نے ثنائی چکر وغیرہ میں علماء اسلام کو جو غیرت و حیا وغیرہ کے الفاظ لکھے تھے یا لکھوائے تھے انہیں سامنے رکھ کر ہمت کریں۔ اب میں قادیانی عبدالماجد کی غیرت کو جنبش دیتا ہوں اگر وہ مرزا قادیانی کو واقعی نبی اللہ مانتے ہیں تو ضرور سامنے آ کر اس حدیث سے ثابت کر کے فیصلہ کر لیں گے۔

عبدالماجد قادیانی سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ ڈر کر سامنے نہ آنا چاہیں اور علمی تکبر کا حیلہ کر لیں تو ہمارے دوست فضیلت مآب قادیانی حکیم ظلیل احمد سی کو ہمارے سامنے کر دیں ہم دونوں سے فیصلہ کرنے کو تیار ہیں لیکن غیرت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ خود عبدالماجد قادیانی سامنے آجائیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قادیانی حکیم کو اس قدر قابلیت نہیں ہے کہ حدیث میں گفتگو کر سکیں۔

میں عبدالماجد قادیانی کی خاطر اتنی آسانی اور دیتا ہوں کہ اگر حدیث شریف کو اپنے

خلاف سمجھ کر فیصلہ کے لیے نہ آنا چاہیں اور کوئی بہانہ کرنا چاہیں تو مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی سے بھی قادیانی مربی اپنے موافق دلیل لائے ہیں بس مکتوبات حضرت مجددی پر فیصلہ ہو جائے۔

معزز ناظرین! اس قدر خطاب تو میاں عبدالماجد قادیانی سے تھا اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ عبدالماجد قادیانی کا حکیم ظلیل احمد قادیانی کا صحیح مسلم کی حدیث سے فیصلہ کرنے کے لیے آنا معلوم۔ ان کا اگر حدیث کے مطابق ایمان ہوتا تو جیسے دوسری کتابوں سے لمبی لمبی عبارتیں نقل کی ہیں ضرور اس کو بھی نقل کرتے یا کم سے کم نشان وحوالہ ہی بتاتے پورے طور سے۔ غرض کہ حدیث شریف کا مضمون وترجمہ آپ کے کانوں تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ اس واسطے میں آپ کے دیکھنے کے خیال سے اور ان بھولے بھالے قادیانیوں کی خیر خواہی کے واسطے جو قادیانی عبدالماجد کو علم کا آفتاب خیال کر کے ان کی پیروی میں دل و جان سے لگے ہوئے ہیں۔ نیز قادیانی عبدالماجد کے واسطے اگر آخرت کا خیال فرمائیں اس حدیث شریف سے جتنی باتیں نکلتی ہیں نقل کرتا ہوں جس میں ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر فیصلہ کر لے حدیث شریف یا اس کے لفظی ترجمہ کو اس وقت میں اس وجہ سے نہیں نقل کرتا ہوں کہ قادیانی عبدالماجد کی ہمت و مردانگی کو آزمائیں اگر انہوں نے مردانگی کے ساتھ اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور ان کو اس حدیث سے کچھ خوف نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس قدر غیرت دلانے والے الفاظ کو دیکھ کر ضرور اپنے کسی آئندہ رسالہ میں حدیث شریف مع ترجمہ کے نقل کر کے داؤ مردانگی لیں گے۔ اس وقت میں قادیانی حضرات و دیگر ناظرین کے لیے صرف اس حدیث شریف کے مضامین کو نمبر وار بیان کرتا ہوں اور اس کے مقابل میں نفس مضمون حدیث کے متعلق مرزا قادیانی و عبدالماجد قادیانی کا خیال اعتقاد لکھتا ہوں۔

آپ حضرات خود دیکھ لیں کہ قادیانی مربی اس حدیث کے مضامین کو کہاں تک اور کس حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں اور کس منہ سے اس حدیث کو مرزا قادیانی کی نبوت کی دلیل میں لائے ہیں۔

نمبر شمار	مضمون حدیث	مرزا قادیانی کا خیال
۱۔	دجال ایک شخص واحد ہوگا	دجال پادریوں کی ایک جماعت ہے
۲۔	دجال جوان ہوگا	دجال زیادہ تر بوڑھے ہوں گے (کیونکہ پادری کا خطاب زیادہ تر بڑھاپے میں ملتا ہے)

۳۔	اس کے بال بہت گھونگروالے ہوں گے۔ (پادریوں کو ملاحظہ کر لیں۔)	مطلق گھونگروالے نہیں ہوں گے
۴۔	اس کی ایک آنکھ مثل انکور کے ابھری ہوگی	ایسا نہیں ہوگا (پادریوں کو ملاحظہ کر لیجئے)
۵۔	وہ شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا۔	وہ یورپ سے نکلیں گے (کیونکہ پادری زیادہ وہیں سے آتے ہیں)
۶۔	وہ بہت فساد برپا کرے گا۔	وہ بہت امن کے ساتھ سلطنت کریں گے (کیونکہ انگریز بہت امن پسند ہوتے ہیں) خود مرزا قادیانی نے بھی انگریزوں کی سلطنت کی بڑی تعریف کی ہے۔
۷۔	وہ زمین پر چالیس دن رہے گا۔	وہ زمین پر سینکڑوں برس رہیں گے۔
۸۔	دجال کے وقت ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر اور باقی ایام مثل معمولی دنوں کے ہوں گے۔	یہ کیونکر ممکن ہے نظام قانون کے خلاف ہے۔
۹۔	وہ زمین پر بادل کی طرح تیز چلے گا۔	ان کی چال معمولی ہوگی (اور ریل گاڑی کے ذریعہ سے تیز چلیں گے تو دجال۔ عیسیٰ۔ کافر۔ مسلمان۔ سب کے سب چلتے ہیں دجال کی خصوصیت نہیں ہے)۔
۱۰۔	وہ ایک جوان شخص کو تلوار سے دو ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ کرے گا۔	یہ غلط ہے مگر کسی کا زندہ ہونا قانون قدرت کے خلاف ہے۔ (دہریہ بھی ایسا ہی کہتے ہیں)۔
۱۱۔	ایسے ہی زمانہ میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔	نزدول عیسیٰ کے وقت میں ایسی ایسی درواز عقل باتیں نہ ہوں گی۔

۱۲۔	حضرت عیسیٰ دمشق کے منارہ شرقی سے نزول فرمائیں گے۔ اور منارہ ادھورا بنوا کر چھوڑ جائیں گے۔	قادیان میں نازل ہوں گے۔ اور منارہ
۱۳۔	دو زرد چادر اوڑھے ہوں گے۔	جسم کا اعلیٰ واسفل حصہ بیماری کی وجہ سے زرد ہوگا۔ زرد چادر نہیں ہوگی۔
۱۴۔	دو فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔	دو آدمیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھنا کافی ہے۔
۱۵۔	سرے صاف قطرے پانی کے نکلیں گے۔	اس کی ضرورت نہیں۔
۱۶۔	ان کی سانس سے کافر مریں گے۔	نہیں بددعا سے۔
۱۷۔	ان کی سانس ان کے منجھائے نظر تک جائے گی۔	قانون قدرت کے خلاف ہے۔
۱۸۔	حضرت عیسیٰ دجال کو تلاش کرتے ہوئے باب لد پر پکڑیں گے اور وہیں قتل کر ڈالیں گے (باب لد بیت المقدس کے قریب شہر ہے)	قتل کا مضمون غلط ہے بلکہ دجال کے سامنے حضرت عیسیٰ ہی تشریف لے جائیں گے ہاں لدھیانہ میں مناظرہ ہوگا۔ اور متعدد مناظروں سے مرزا قادیانی فرار کریں گے۔
۱۹۔	اللہ پاک حضرت عیسیٰ کے پاس وحی بھیجے گا کہ ہم نے تمہارے واسطے ایک ایسی جماعت تیار کر رکھی ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت فتنہ نہیں کر سکتی۔	مرزائی جماعت کو تو ہندوستان کا ایک رئیس چاہے تو تباہ کر دے چنانچہ امیر کابل نے ایک مرزائی کو تربیت کی غرض سے ذلت سے مارا اور کسی مرزائی سے کچھ نہ ہو سکا۔
۲۰۔	حضرت عیسیٰ کے وقت یاجوج ماجوج نکلیں گے اور بحیرہ طبریہ کا پانی ان کا ایک گردہ پی جائے گا۔	یاجوج ماجوج بھی یورپ کے معمولی انسان ہوں گے۔

۲۱۔	حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی محصور ہو مرزا قادیانی کبھی محصور نہیں ہوئے جائیں گے۔
۲۲۔	اس وقت میں گائے کا سرا اشرافیوں سے براہین احمدیہ کی قیمت ہی پیاری ہوگی۔ زیادہ پیارا ہوگا۔
۲۳۔	یاجوج ماجوج پر خدا کیڑا برسائے گا اور یاجوج ماجوج پر کم اور حضرت عیسیٰ کے ایک ہی رات میں سب کے سب مر ساقیوں پر اور ہندوؤں اور منکر مکتب مسلمانوں پر (طاعونی) کیڑے زیادہ گریں گے اور ایک رات میں مرنے کی ضرورت نہیں۔
۲۴۔	ایک بالشت زمین بھی لاشوں کی بدبو سے یہ کہاں؟ مبالغہ بلکہ غلط ہے۔ خالی نہ ہوگی۔
۲۵۔	اس کے بعد ایک ایسی عام بارش ہوگی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ زمین کو دھو کر صاف کر ڈالے گی۔
۲۶۔	حضرت عیسیٰ کے وقت ہر چیز بڑھ جائے گی۔ ایک انار کے چھلکے سے چھتری تیار ہو سکے گی اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کو کافی ہوگا۔
۲۷۔	اس کے بعد ایک ایسی خوشبودار ہوا چلے گی کہ سب مسلمان ایک ہی مرتبہ مرجائیں گے۔ (یہ ستائیس غلط خیالات مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کے ہیں جن کو عبدالماجد قادیانی بھی مان رہے ہیں اور پھر جہل مرکب یہ ہے کہ اس حدیث سے مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کرنا چاہتے ہیں جو ۲۷ باتوں میں مرزا قادیانی کے دعویٰ کو غلط بتا رہی ہے)

۲۸۔ حضرت عیسیٰ نبی اللہ ہوں گے۔ (مگر وہ ہاں ہاں ضرور ہوں گے) (مگر یہ بھی ضرور عیسیٰ جن کے نزول کی ۲۷ علامتیں اسی کہنا ہوگا کہ مرزا قادیانی وہ نہیں ہیں) حدیث میں بیان کی گئیں	
---	--

حدیث میں یہ ستائیس علامتیں مسیح موعود کی بیان ہوئیں۔ اٹھائیسویں بات یہ ہے کہ وہ عیسیٰ جو نزول کریں گے وہ نبی ہوں گے۔ افسوس ان کی عقل پر ہے کہ اس سے مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کرتے ہیں یہ کیسی عظیم الشان غلطی ہے کہ جس حدیث کی ۲۷ باتیں صاف صاف بتا رہی ہیں کہ مرزا قادیانی مسیح موعود نہیں ہیں۔ اس حدیث سے مرزا قادیانی کا نبی اللہ ہونا ثابت کیا جاتا ہے۔ الحاصل اس حدیث کے بیان سے ۲۸ غلطیاں قادیانی عبدالمہادی کی معلوم ہوئیں۔

اس موقع پر قادیانی مربی کی ایک ہوشیاری مجھ کو یاد آئی کہ شروع باب میں تو نائب رسول مرزا قادیانی کو کہا اور نبوت سے انکار تھا لیکن حدیث سے دلیل دی تو نبوت کی دی، جس میں لوگ ان کی شروع تحریر دیکھ کر خیال کریں کہ نبوت، نبوت، لوگ غلط الزام دیتے ہیں لیکن حدیث کے مضمون پر پہنچ کر ان کی نبوت سے کچھ مانوس ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ قائل بھی ہو جائیں گے لیکن افسوس ہے کہ ہماری اس تحریر سے مرزا قادیانی نہ نائب رسول رہے اور نہ رسول بلکہ حدیث شریف کے مندرجہ بالا مضامین کو اور مرزا قادیانی کے خیال کو دیکھ کر ہر شخص آسانی سے سمجھ لے گا کہ حدیث میں جو لفظ نبی اللہ ہے وہ مرزا قادیانی کی شان میں ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا ہے بلکہ ان کے سخت مخالف ہے قادیانی مربی کی یا نانہبی یا حدیث سے بے علمی ہے جو اس کو اپنے موافق خیال کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں نبی اللہ کا لفظ ہے اور قادیانی مربی نے مرزا قادیانی کے نائب رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میں اوپر حدیث سے ثابت کر چکا ہوں کہ شریعت غراء میں نائب رسول کو نبی اللہ کہنا کسی صورت سے جائز نہیں ہو سکتا۔ پس صاف ظاہر ہو گیا کہ حدیث کا خطاب مرزا قادیانی کو (جو بزم خود نائب نبی اللہ ہیں) نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اس حدیث کے لفظ نبی اللہ کا خطاب اسی شخص کو مل سکتا ہے جس کے وقت میں حدیث کی باقی ۲۷ علامتیں پائی جائیں اور ظاہر ہے کہ یہی شخص مسیح موعود بھی ہوگا۔ اب دیکھ لو کہ مرزا قادیانی میں ۲۷ میں سے ایک علامت بھی نہیں پائی جاتی ہے تو صرف نبی اللہ کے خوبصورت لفظ کو اختیار کر لینا کیا قرین دلیلت ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ کہو کہ نبی اللہ کے علاوہ جو ۲۷ علامتیں ہیں ان کی تاویل کی گئی ہے جیسا کہ قادیانی کہہ دیا کرتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر مسیح موعود کا کیا ثبوت ہے؟ اگر اس قسم کی نصوص قطعہ کی تاویل ہو جایا

کرے تو نہ خدا باقی رہتا ہے نہ رسول نہ کتاب اللہ اور جس بے ٹکا پن سے ان ۲۷ علامتوں کی تاویل کی گئی ہے دوسرا شخص بھی نبی اللہ کے معنی عدو اللہ بیان کر دے گا اور ثابت کر دے گا۔ پھر نہ صبح موعود کا ثبوت ہے اور نہ مہدی کا۔

دیکھو حقیقت اس صبح میں صبح کے آنے کی کیا اچھی تاویل کی گئی ہے جو نہ لغت کے خلاف ہے اور نہ عقل کے مرزا قادیانی کے لفظ نبی اللہ کو چن لینے سے اس واقعہ کے مشابہ ہو جاتا ہے کہ ایک آریہ کے گھر گرو مہاراج آئے اور عورتوں سے کہا کہ آج کوئی لیلیا (ڈرامہ) ہونا چاہیے عورتوں نے کہا بہت اچھا مہاراج آپ ہی مقرر بھی کر دیجئے کہ کون سا ڈرامہ ہو۔ پنڈت جی نے وہ ڈرامہ کی شکل اختیار کی جس میں مہاراجہ کرشن عورتوں کے نہاتے وقت ساڑھیاں اٹھا کر درخت پر لے بھاگا اور اس شرط پر واپس کیس کہ سب پانی سے نکل کر تنگی میرے پاس ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوں۔ غرض کہ مردوں کو باہر نکال دیا گیا کہ عورتیں پوجا کریں گی اور رات یہ ڈرامہ ہوا۔ آریہ کے دل میں کھٹکا ہوا تو اس نے چھپ کر سب ماجرا دیکھا بہت غصہ ہوا اور صبح کو اپنے کو بنا کر کہا کہ مہاراج آج رات کو وہ ڈرامہ کیجئے جس میں مہاراج کرشن جی نے ایک انگلی پر پہاڑ کو اٹھالیا تھا۔ گرو جی بولے تم عجیب بیوقوف آدمی معلوم ہوتے ہو۔ سوائے مہاراج کے کس میں یہ طاقت ہے؟ اتنا کہنے پر آریہ لاشمی لیکر اٹھا کہ تم کو کرنا ہوگا۔ مزے والا ڈرامہ تو تم کرو پھر زور و طاقت والا ڈرامہ کون کرے؟ لوگ کہتے ہیں بعینہ یہی حالت مرزا قادیانی کی ہے جن باتوں میں کام کرنا پڑتا تھا مثلاً قتل دجال وغیرہ اس کو تو قبول کیا نہیں تاویل کر دی اور خطاب کے لیے دعویٰ ہے ضد ہے شور ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کی نبوت کے خواہشمند حضرات یاد رکھیں کہ اس حدیث سے مرزا قادیانی کی نبوت کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتی ہے بلکہ انہیں اچھے لوگوں کے شمول میں بھی نہیں رہنے دیتی ہے۔ نبی اللہ کا خطاب ملنا تو بڑی بات ہے جس کو یہ خطاب ملنا تھا مل چکا۔ یعنی کلمۃ اللہ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ علیٰ نبینا السلام کی شان میں یہ لفظ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبی اللہ ہونا آیت ختم رسالت کے منافی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے نبی اللہ ہیں بخلاف اس کے مرزا قادیانی جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا یہ دعویٰ ضرور ختم رسالت کے منافی ہو گا۔ اور وہی دوبارہ دنیا پر مشرقی بیت المقدس سے نزول فرمائیں گے۔ اور وہی دجال کو حقیقت میں قتل فرمائیں گے۔ اور مرزا قادیانی کی طرح صرف مناظرہ و گالی گلوچ کا نام قتل نہ رکھیں گے۔ انہیں کے وقت میں مفسد اور کانا دجال پیدا ہوگا اس لیے یہ حدیث بھی کافی طریقے سے ثابت کر



رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں اور ہرگز ہرگز نہیں مرے۔

## حضرت مسیحؑ کی حیات و ممات کا تذکرہ

قادیانی مربی کا یہ کہنا محض غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرنا قادیانیوں نے قرآن مجید سے ثابت کیا ہے اور علمائے اسلام نے اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ مربی کہلا کر ایسی غلط بات کہتے ہیں جس کے صریح جھوٹ ہونے میں کسی منصف کو تا مل نہیں ہو سکتا اس مسئلہ کے متعلق جو ہمارے علماء کے رسالے ہیں اور میں نے دیکھے ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔

۱.....شمس الہدایہ ۱۳۲۲ھ میں مطبع مصطفائی لاہور میں چھپا ہے اس کے مؤلف مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں۔

۲.....سیف چشتیائی۔ اس کا جواب مرزا قادیانی سے نہیں ہو سکا اس رسالہ کے مؤلف بھی پیر صاحب ہیں۔

۳.....الفتح الربانی : یہ رسالہ اصل عربی زبان میں ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں ۱۳۱۱ھ میں مطبع انصاری دہلی میں چھپا ہے۔

۴.....الحق الصریح فی حیات المسیح ۱۳۰۹ھ میں مطبع انصاری دہلی میں چھپا ہے یہ وہ رسالہ ہے جس کے دلائل کے جواب بالقابل مرزا قادیانی نہ دے سکے اور دہلی چھوڑ کر قادیان بھاگ گئے تھے اس کے مؤلف مولانا محمد بشیر صاحب سہوانی ہیں۔

۵.....البيان الصحيح فی حياة المسيح یہ رسالہ عمدة المطابع لکھنؤ میں چھپا ہے۔

۶.....حصر الشار دہلی ردہ فوات المولوی عبدالواحد الملقب تشنید المبنی لرد القادیانی : اس کے مؤلف جناب مولانا حافظ ابو محمد عبد اللہ صاحب چھپرادی مقيم کلکتہ ہیں آپ سے اور عبدالواحد مرزائی سے تحریری مناظرہ ہوا ہے اور مرزائی بالکل ساکت ہو گئے اور مولانا نے خوب تفصیل سے جناب مسیحؑ کی حیات کو ثابت کیا ہے بسیط رسالہ ہے مگر اس وقت تک طبع نہیں ہوا۔

۷.....شہادۃ القرآن اس کے دو باب ہیں اور علیحدہ علیحدہ چھپے ہیں۔

پہلے باب میں آیات قرآنیہ سے حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت کی ہیں۔ اور دوسرے باب میں مرزا قادیانی کی دلیلوں کا جواب دیا ہے۔ یہ رسالہ دوبارہ لاہور میں ۱۳۳۰ھ میں چھپا

ہے۔ اس کے مؤلف مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی ہیں۔ مولوی صاحب نے قادیانیوں کے تمام دلائل کو رد کر کے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ کا خزانہ اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ اب تک نہ مرزا قادیانی سے اور نہ کسی قادیانی سے اس کا جواب ہو سکا۔ اس کے علاوہ مولوی ابراہیم صاحب مناظرہ مونگیر میں آئے تو حیات عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل کو شیروں کی طرح للکار للکار کر بیان فرمایا۔ قادیانیوں کو اصرار کر کے نکتہ چینی کے لیے بلایا اور تو اور خود عبدالمجد قادیانی باوجود شہرت قابلیت کے سامنے نہ آ سکے۔ اسی طور سے تھوڑا عرصہ ہوتا ہے کہ بھاگل پور میں جناب مولوی مرتضیٰ حسن صاحب نے حیات مسیح پر خوب خوب بیان فرمایا اور عبدالمجد قادیانی کو ان کی جماعت نے خاص طور سے اس موقع کی مدد کے لیے بلایا اور بہت کچھ ہمت بندھانا چاہا۔ مگر سامنے نہ آئے۔

۸..... رسالہ مذہب الاسلام مطبوعہ ۱۹۰۴ء آخر میں حیات مسیح پر عمدہ تقریر کی ہے اس کا جواب بھی نہیں دیا گیا۔

۹..... صحیفہ رحمانیہ نمبر ۵ میں جناب مولوی انور حسین صاحب نے لفظ تونی پر خوب اچھی بحث لکھی ہے جس سے ممت عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرنے والوں کی کمرٹ گئی۔

۱۰..... کچھ عرصہ ہوتا ہے کہ غلام سرور شاہ قادیانی مفتی صادق قادیانی لکھنؤ آئے تھے۔ علمائے اسلام نے مرزا قادیانی کی مہدویت و مسیحیت کے دلائل طلب کیے ان دونوں نے انکار کیا اور حیات و ممات کے مسئلہ پر بحث کرنے پر راضی ہوئے اور مدعی بھی علماء اسلام ہی کو بنایا علمائے کرام نے دلائل لکھ کر قادیان بھیجے لیکن جواب نہ ارد۔ اس پر تقاضے کئے گئے لیکن صدائے بر نہ خاست۔ مولوی عبدالشکور صاحب نے اس تحریر کو شائع بھی کر دیا۔

(دیکھو انجم لکھنؤ جلد ۱۰ نمبر ۱۳)

یہ نور سارے اور تحریریں اثبات حیات عیسیٰ علیہ السلام پر میں نے دیکھی ہیں جو مونگیر میں موجود ہیں۔ اب کوئی قادیانی بتائے کہ ان کے جواب میں کسی قادیانی نے لب کشائی یا قلم فرسائی کی ہے؟ پھر کس منہ سے ممت مسیح کا دعویٰ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے حضرت مولانا ابوالاحد صاحب مدظلہم نے اس طرف توجہ نہیں فرمائی اور فضول سمجھا۔

اس کے علاوہ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ حضرت مسیح مر گئے اور دوسرے مسیح آئیں گے مگر اب اس کا ثبوت کہ وہ دوسرے مسیح مرزا قادیانی ہیں نہ خود مرزا قادیانی دے سکے اور نہ ان کا

کوئی جیلہ اس پر قلم اٹھاسکا اور نہ کوئی اسے ثابت کر سکتا ہے۔ پھر مسیح کی حیات و ممات پر گفتگو فضول ہے اس لیے حضرت مولانا بلکہ اکثر دوسرے اہل کمال اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ الحمد للہ کو ہماری مختصر تقریر سے ثابت و واضح ہو گیا کہ مرزا قادیانی نہ سچے رسول ہیں اور نہ نائب رسول ہیں مگر انہیں رسالت و نبوت کا دعویٰ ہے جو بالیقین ختم رسالت کے منافی ہے اس لیے وہ ضرور یقینی طور سے حدیث ”سیکون فی امتی دجالون کذابون“ کے مصداق ہیں جس کو ابوداؤد و مسلم وغیرہ کی روایت سے نقل کر چکا ہوں۔ قادیانی عبدالمہجد اس پر غور کریں اور راہ باطل کو چھوڑیں۔ واللہ الموفق والمعين۔

مسلمانوں کا خیر خواہ

محمد یسوب

## حکیم العصر مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ کے ارشادات

☆.....☆..... الحمد للہ ہم نے جھوٹے کو اس کی ماں کے گھر تک پہنچا دیا ہے۔ برطانیہ قادیانیوں کی ماں ہے جس نے ان کو جنم دیا۔  
☆.....☆..... تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے کمالات کا خلاصہ اور عطر حضرت محمد ﷺ ہیں۔

☆.....☆..... امام الانبیاء کا کیا مطلب ہے۔ سمجھے نہیں ہو اس رمز اور اشارہ کو؟ امام جب تک امام ہے مقتدی اس کے اشارے پر چلے گا۔

☆.....☆.....☆



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم  
سورة التين

# صحیفہ رحمانیہ

(۱۳)

خواجہ غلام الثقلین<sup>ؒ</sup>  
ایڈیٹر عصر جدید



(اخبار عصر جدید ۱۹۰۳ء)

جس میں قابل مضمون نویس نے نہایت عمدگی سے یہ دکھایا ہے کہ نبوت و تقدس کی جو شان ہے، اس کے مطابق مرزا قادیانی کی باتیں ہرگز نہیں تھیں اور مسلمانوں کو ان کی ذات سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اس لئے وہ مسیح موعود ہرگز نہیں ہو سکتے۔

موتیر اور بھاگلپور کے مرزائی، علمائے حقانی کے تو دشمن ہو گئے ہیں اور جواب سے عاجز آ کر گالیاں دینی شروع کر دی ہیں مگر چونکہ ہمارے مذہب مقدس اسلام میں دوسروں کی خیر خواہی ایک بہت بڑا اسلامی فرض ہے۔ اس لئے ہمیں کسی وقت اس کو چھوڑنا نہ چاہئے اور جس وقت جو طریقہ مناسب ہو اسی طریقہ سے خیر خواہی کرنی چاہئے۔ اس وقت ایک نہایت عمدہ مضمون جو نہایت تہذیب سے لکھا گیا ہے اور مسیح قادیانی کی حالت کو عمدگی سے ظاہر کیا ہے اور اس کے لکھنے والے مشہور علماء سے نہیں ہیں بلکہ ایک اخبار کے ایڈیٹر اور قوم کے سچے خیر خواہ ہیں اور چونکہ مرزا قادیانی کو نبوت کا دعویٰ ہے اس لئے وہ دردمندی سے سمجھانے کے لئے لکھتے ہیں۔

ہم کو نئے انبیاء سے کوئی بغض نہیں

مرزا قادیانی اور ان کے حواری اور واعظ اور اخبار نویس اس بات کو دھراتے نہیں جھکتے کہ مسلمانوں کی حالت نہایت سقیم ہے اس لئے ایک جدید رسول اور مجدد اور ہادی اور مرسل یزدانی کی ضرورت ہے۔ اس دعویٰ کے پہلے حصہ سے ہم کو پورا اتفاق ہے اور جس شخص نے ہمارے گروہ کے رسالے اور نیچر اور کتابیں ملاحظہ کی ہوں گی اس کو قبول کرنا ہوگا کہ اس قومی اصلاح کی ضرورت کو محسوس کرنے میں ہم ایک قدم پیچھے نہیں رہنا چاہتے اور اگر صاف صاف دلائل اور مفید

اور برحق تعلیم ہم کو ملے تو ہم بے تامل ایک ہادی اور ایک رسول کو لینے کے لئے آمادہ ہیں۔ خواہ وہ ہادی مستقل رسول ہو یا کسی رسول کا اوتار یا بروز خواہ اپنے الہامات سے اصلاح عالم کرے یا بایہوں اور دوسرے فرقوں کے انتخابات کو اپنی طرف سے شائع کرے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی حقیقی رسول مل جائے تو ہم اس کے سامنے اپنی پرانی احادیث اور روایات کو بھول جانے پر آمادہ ہیں ہم پیغمبر اسلام ﷺ کی اس متواتر اور صحیح اور متفق علیہ حدیث سے انکار کرنے یا اس کی تاویل پر آمادہ ہو جائیں گے جہاں آپؐ نے غزوہ تبوک میں جاتے وقت علیؑ ابن ابی طالب سے فرمایا تھا ”قال عليه السلام لعلی انت منی بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي“

(مشکوٰۃ ص ۵۶۳ باب مناقب علی بن ابی طالب)

اے علیؑ! تو میرے ساتھ میں ایسا ہے جیسا ہارونؑ نبی موسیٰ کے ساتھ تھا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس سے بھی زیادہ ہم قرآن شریف کی اس آیت کے معنی وہی لے لیں گے جو مرزا قادیانی لیتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ پہلے انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں۔ نبیوں کے مہر کے بھی معنی سہی اور یہ بھی سہی کہ مہر آخر میں نہیں ہوتی بلکہ مہر کے بعد عمارت ہوتی ہے مگر قرآن و حدیث کے ان معنوں سے جو تیرہ سو برس سے مسلم ہیں اور اجماع امت محمدی کے چھوڑتے وقت کم از کم ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہم کو دین و دنیا کے فائدہ کی کوئی ایسی چیز ضرور دو، جس کی وجہ سے ہم اپنا یقین و اعتقاد قربان کر ڈالیں۔

**ہدایت ہر جگہ سے لینے پر آمادہ ہیں**

ہاں ہم بیمار ہیں، کمزور ہیں، ہم کو شفاء چاہئے اور ہم کو طاقت کی حاجت ہے۔ ہم نے کوئی عہد نہیں کیا کہ انگریزی طب یا یونانی طب یا ویدک ہی ہم کو چھوڑ کرے تو اچھے ہوں گے۔ اگر بیجم صاحب یہ ثابت کر دیں کہ ان کی گولیاں طاعون اور زلزلہ اور قحط کو دفع کر دیں گی تو ہم آج طب اور ڈاکٹری اور طبقات الارض اور پولیٹیکل اکانومی کی تمام کتابوں کو دریا میں ڈبو کر بیجم صاحب کی اور علماء اور اطباء پر خدا کی مار پکارنے پر آمادہ ہیں کیونکہ ہم نے اول ہی یہ بیان کیا ہے کہ ہم تعصب کے راستہ سے حق تک پہنچنے کو محال سمجھتے ہیں۔

**دلائل نبوت**

**وفات مسیح.....** اول ہم مرزا قادیانی کی نبوت کے دلائل پر غور کرتے ہیں پہلی دلیل اور نہایت

زبردست شہادت ان کی یہ ہے کہ مسیح ابن مریم وفات پا گئے اس لئے میں غلام احمد مسیح موعود ہو سکتا ہوں۔ ہم ان دونوں دعوؤں کو بہت آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ آپ بیشک مسیح موعود ہو سکتے ہیں جیسے آپ کروڑ پتی یا ممبر پارلیمنٹ یا شہنشاہ جرمن ہو سکتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آپ ایسے ہیں بھی؟ جو چیز محال نہیں وہ ممکن ہے فرض کیجئے کہ ایک امتی مسلم کا مسیح ہونا ممکن ہے مگر اس کی صفات اور آیات دیکھنی چاہئیں۔ سرسید احمد خان بیشک نپولین بونا پارٹ ہو سکتے تھے۔ کیونکہ نپولین مرچکا تھا اور مسلمانوں کو ایک زبردست جرنیل کی ضرورت تھی مگر کیا سید احمد خان نپولین تھے؟ ہرگز نہیں پس جب تک اپنی کوئی خصوصیت ظاہر نہ ہو مرزا قادیانی کا مسیح ہونا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کسی اور مؤلف یا مصنف کا۔

معجزات..... ہر مذہب کے پیرو عام طور پر حقانیت ہادی کی دلیل معجزات اور آیات کو سمجھتے ہیں۔ معجزات کی نسبت مرزا قادیانی کا عقیدہ سرسید کے عقیدے کے موافق ہے اور ناجیز ایڈیٹر عمر جدید کے نزدیک محض غلط ہے۔ ہر معجزے یا خرق عادت کو محال سمجھنا، اول درجہ کی ناواقفیت حقائق الہیات سے ثابت کرتا ہے۔ میں اگر چاہوں تو ایک کام ایسا کر سکتا ہوں جو میں نے برس دن سے نہیں کیا تھا۔ میرا قلم اگر چاہے تو وہ مجھ سے ایسا کام نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ اگر چاہے تو وہ بموجب اپنی مصلحت یا بموجب قوانین کے جو خاص اس کے علم میں ہیں ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے، جو ظاہر میں لوگوں کو حیرت میں ڈال دیں مگر انسان خدا کو مجبور کر کے اس سے معجزہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہی معنی اس آیت کے ہیں ”قُلْ إِنَّمَا آلَايَاتُ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ“ (انعام ۱۰۹) کہہ دے کہ نشانیاں خدا کے پاس ہیں یعنی ان کا اظہار خدا کی رائے کے مطابق ہوتا ہے نہ کہ بندہ کی خواہش کے موافق، نبی کا کام دنیا کو نیک راہ بتانا ہے اور بس۔ البتہ خدا تعالیٰ خود اس کی تائید مناسب مواقع پر معجزات سے کرتا ہے دوسرے ہمارا علم قوانین قدرت کا اس قدر محدود ہے جیسے ایک چمچر کا علم بمقابلہ افلاطون کے قلیل ہے۔ جس طرح چمچر کو حق نہیں کہ افلاطون کی باتوں کا انکار اپنے علم کے گھمنڈ پر کرے اس طرح ہم کو انکار معجزات کا حق نہیں ”وَلَا يُخِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ“ (البقرہ ۲۵۵) ”بندے اس کے علم میں سے ذرا سی چیز کا احاطہ بھی نہیں کئے ہوئے ہیں مگر جتنا اس نے بتا دیا ہے۔“

یہ بات نہایت کھلی ہوئی ہے اور اس لئے سرسید اور مرزا قادیانی سے تعجب معلوم ہوتا



ہے پھر بھی سید تو کل انبیاء کے معجزات کی تادیل کرتے تھے مرزا قادیانی، مسیح علیہ السلام کے احیاء موتی کو تو شعبہ اور پیاروں کے اچھا کرنے کو سسر یزم کہتے ہیں۔

(ازالہ اوہام ص ۱۲۸ تا ۱۳۰ حاشیہ، خزائن ج ۳ ص ۲۵۶ تا ۲۵۸)

حضرت ابراہیم کے اس قصہ کو جس کا ذکر پرندوں کے زندہ کرنے کا قرآن میں ہے کہتے ہیں کہ وہ پرندے زندہ نہیں ہوئے تھے صرف پرندوں کو پرچایا گیا تھا۔

(ازالہ اوہام ص ۵۲۔ خزائن ج ۳ ص ۵۰۶)

مگر اپنے لئے بڑے بڑے معجزات کے قائل ہیں۔ چنانچہ اپنے ایک پسر مردہ کو زندہ کرنے کا دعویٰ بھی ان کے اخبار نے بشہادت ان کی زوجہ کے شائع کیا ہے اگر مرزا قادیانی ایسے معجزات دکھا سکتے تو دوسرے انبیاء کے لئے کیوں مکر ہوتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں قوت معجزہ نہیں ہے اور انہوں نے یا ان کے تنخواہ یاب قصیدہ خوانوں نے۔ لومردہ زندہ ہو گیا کا دعویٰ غلط طور پر گھڑا ہے۔

پیشین گوئیاں..... پیشین گوئیاں بھی جب کہ صاف اور بلا شرائط کے ہوں اور ان مہمل اور مجمل الفاظ سے بری ہوں جن سے کہانت کا شبہ ہو ایک قسم کا معجزہ ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میری کئی ہزار پیشین گوئیاں سچی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جو شخص صبح سے شام تک دس حکم سوچ کر بلا علم غیب کے لگا دے گا۔ ان میں سے چار ضرور صحیح ہو جائیں گے مگر یہ امر حیرت انگیز ہے کہ جس قدر معرکہ کی پیشینگوئیاں بطور تحدی کے مرزا قادیانی نے کی ہیں سب کی سب (سوائے ایک پیشین گوئی کے جس کے حالات شک سے خالی نہیں اور جو انسان کے ہاتھ سے پوری ہوئی) اس قدر صریح غلط نکلیں کہ تادیل ان کو معنی پہناتے پہناتے شرماتے لگی، یہاں تک کہ مرزا قادیانی کو وہ تیرہ اختیار کرنا پڑا جو حد درجہ خطرناک ہے اور جس کی وجہ سے ہم کو خاص طور پر ان کے اوپر شبہ کرنا پڑا۔ اس شبہ کا اظہار اس قدر وضاحت کے ساتھ ہم نے اس غرض سے نہیں کیا کہ مرزا قادیانی یا ان کے حواریوں اور داعیوں کی وہ جماعت جو مشاہرہ یاب ہے متنبہ ہوں گے ان لوگوں سے ہم کو نہ کچھ امید ہے اور نہ ہمدردی ہے۔ البتہ مسلمانوں کا وہ خاصا بڑا گروہ جو جال میں پھنس گیا ہے اور جس کو یہ تنخواہ یاب یا جاہ طلب گروہ یہ کہہ کر لوٹتا ہے کہ زندہ اسلام کا نمونہ دیکھنا ہو تو قادیان میں چلو، ان سے ہم کو ہمدردی ہے اس وجہ سے ہم یہ مضمون لکھتے ہیں۔ اگر ہم ایک منٹ کے لئے بھی سمجھتے کہ مرزا قادیانی کی تحریک مذہبی ہے تو کبھی اس بحث میں نہ پڑتے۔ مگر ہمارے نزدیک یہ

کارخانہ محض دنیا داری کا ہے اس لئے بغرض اصلاح معاش مسلمان متنبہ کرنا ضرور ہوا مذہبی معاملہ میں ہم کو دخل دینے کی کوئی وجہ نہیں معتقدات کا فیصلہ قادر مطلق اپنی بارگاہ میں کرے گا۔

منہاج نبوت ..... مرزا قادیانی نے جب دیکھا کہ وہ اپنی صداقت اور معجزات اور پیشین گوئیوں کی صحت کی وجہ سے نبوت کے معارج تک نہیں چڑھ سکتے تو انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے درجہ پر نیچے گھسیٹنے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ گستاخیاں کیں اور ان کی اور ان کے رشید شاگردوں کو لکھنؤ کی بے ادبیاں اس نبی معصوم کی نسبت اب تک جاری ہیں۔ شاد ولایت علیٰ ابن ابی طالب کی بجو، ان کے ایک منہ پھٹ اور بے تمیز حواری نے شائع کی، حسین ابن علیؑ کی شہادت اور منزلت کو اپنے سے بہت کمتر بتایا سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک کرھان (عبداللہ آتھم) کی بابت حتمی اور مؤقت موت کی پیشین گوئی کے غلط ہو جانے پر سید انبیاء محمد المصطفیٰ ﷺ کو بھی مثل اپنے غلطی، اور غلط فہم ظاہر کیا، جس سے خود آنحضرتؐ کی نبوت پر شک واقع ہوتا ہے۔ (معاذ اللہ)

سب مسلمان قرآن مجید کو کلام الہی کہتے ہیں۔ قرآن میں جس خواب کو عنبر علیہ السلام نے دیکھا اس کی صریح تصدیق آئی ہے۔ ”لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيًا“ (الفتح ۲۷) مرزا قادیانی اور ان کے حواری حکیم نور الدین قادیانی نے اپنی تاویل سے تصدیق الہی کو غلط قرار دیا، یا قرآن شریف کو انسانی گھڑت قرار دیا یا انہوں نے نبیؐ کو جس کی اطاعت مثل اطاعت خدا ہے۔ کج فہم قرار دیا کہ وہ وحی کے معنی سمجھنے میں غلطی کرتے تھے۔ غرض انہوں نے آنحضرتؐ کی خبر فتح مکہ کو جو بالکل راست تھی مرزا قادیانی کی موت آتھم کے برابر کر دیا جو صراحتاً غلط تھی۔ (معاذ اللہ)

پس اپنی بچت کے لئے مرزا قادیانی نے عظمت انبیاء اور بنیاد دین میں ایسی سرنگ لگائی ہے اور بعض انبیاء و اولیاء کی نسبت ایسی بدزبانی کی ہے جس کی وجہ سے وہ جرأت کے ساتھ اعمال ناشائستہ کرنے لگے اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کو اس طرح پر جانے لگے کہ یہ سب منہاج نبوت ہے۔ جیسے وہ تھے ویسے ہی ہم ہیں یا ہم کو بھی مانویا ان کو بھی مکار کہو!!!! (معاذ اللہ)

ایک بڑا مذہبی خطرہ

مرزا قادیانی نے جو دعویٰ اکثر انبیاء کے ادنا ہونے کا کیا ہے یا مستعار طور پر ابن اللہ وغیرہ کا بلکہ ابواللہ کا بھی کیا ہے اس کو میں مذہبی خطرہ نہیں سمجھتا۔ کیونکہ دس پندرہ برس میں بعد ان کی وفات کے یہ باتیں سب مفقود ہو جائیں گی، سب سے بڑا صدمہ مرزا قادیانی کے مشن اور

زیادہ تر ان کے مریدوں سے یہ پہنچا ہے کہ موجودہ نسل کے لائڈ ہب اور لچر گروہ کی انہوں نے نامعلوم طور پر سرپرستی کی ہے۔ جب یہ لوگ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ افعال۔ (۱) خلاف عدالت (۲) خلاف اجتماع قومی (۳) خلاف کفایت شعاری (۴) خلاف سعی و محنت یعنی برخلاف ہر چہار اصول اصلاح اور اصول دین کے کرتا ہے۔ مگر اپنے افعال کو نمونہ دوسرے انبیاء کا قرار دیتا ہے اور سوائے ایک کے کل انسانوں سے اپنے آپ کو افضل بتاتا ہے مگر جب اس پر اعتراض ہوتا ہے تو اس ایک ہادی کو بھی مثل اپنے خاٹمی و غلط فہم ظاہر کرتا ہے۔ جب یہ لوگ ایسا دیکھتے ہیں اور پھر ہزاروں آدمیوں کا اعتقاد اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اخبارات و کتب و رسائل اس کی مدح سے مملو پاتے ہیں۔ تب یہ لوگ بغیر جانچ کے یہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اہی پہلے زمانہ میں بھی ایسے ہی ڈھکونسلے اور کراہیہ کے حواری اور تعریف کرنے والے ہوں گے۔ جب اس تعلیم و تہذیب کے زمانہ میں ایک معمولی شخص نبی بن گیا تو اس وقت نبی بن جانا کیا مشکل تھا؟ (نعوذ باللہ) میں جو سچے دل سے سلسلہ انبیاء علیہم السلام کو جس کا ذکر قرآن میں سچا اور منزل من اللہ مانتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ غلط نمونہ نبی اور مرسل کا یہ تعلیم جس کی غرض ذاتی تعلیٰ اور جلب منفعت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک درد انگیز صدمہ دینداروں کے لئے ہے۔ یہ شکر ہے کہ متواتر پیشین گوئیوں کے غلط ہو جانے سے اس دعوت جدید کی وقعت نہیں ہونے پائی۔ ورنہ جہلاء جو یہ نہیں جانتے کہ کامل انسان میں اور افضل ترین نمونہ انسانی میں کیا صفات ہونی چاہئیں۔ دین کو بھی اشتہاروں کے ذریعہ سے خرید لیتے۔ جس طرح وہ مہلک امراض کی دواؤں کو اشتہاری طبیبوں سے لیتے ہیں۔ دراصل ان اتاری طبیبوں اور اشتہاری نبیوں میں امور مشابہ فیہ بہت ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ صحت و زور کو لیتے ہیں اور یہ ایمان و زور کو۔

### صیغہ اصلاح کے اصول کے لحاظ سے مرزا قادیانی پر نظر

میں نے لیکچر اصول اصلاح میں قومی ترقی کے لئے چار اصول قرآن شریف سے اخذ کئے تھے۔ اگر مرزا قادیانی کی زندگی میں ان کا نظہور دیکھا جاتا تو ہم نہایت خوشی کے ساتھ جہاں ہم نے ان پر اعتراض کئے ہیں وہاں عملی اخلاق کے لحاظ سے ان کی تعریف بھی کرتے، مگر نہایت افسوس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ تقدس کے لمبے چوڑے وعظوں اور دعاوی کے ساتھ قومی ترقی کے اصل معاملات سے مرزا قادیانی اور ان کے حواری بالکل بے پرواہ ہیں۔

..... عدالت یا انصاف ایک لازمی شرط انسانی ترقی کی ہے اس کا یہ حال ہے کہ مرزا قادیانی نے

ایک بالغہ عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے (جس میں ان کو ناکامیابی ہوئی) اول تو خود اس لڑکی کی رضامندی حاصل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی جو لازمی چیز ہر معاہدہ میں ہے۔ دوسرے جس لڑکے سے اس کا عقد ہوا اس کو موت کی دھمکی دی جو باوجود گزرنے مقررہ معیار پوری نہیں ہوئی۔ تیسرے اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دی اور اپنے ایک بیٹے کی زوجہ پر تشدد کیا کہ اس نکاح میں کوشش کرے اور اگر بیٹا زوجہ خود کو طلاق نہ دے تو بیٹے کو عاق کرنے کی دھمکی دی۔ ان کے ان پرائیویٹ خطوط کی نقول بلا تردید کے مولوی ثناء اللہ صاحب ”رسالہ الہامات مرزا“ میں چھاپ چکے ہیں۔

۲..... اتفاق قومی میں نبوت کے دعویٰ سے جو اختلاف پڑا اس سے میں قطع نظر کرتا ہوں مگر مرزا قادیانی نے علاوہ اس کے قوم کی بدخواہی میں کوئی کمی نہیں کی۔ اول انہوں نے خود جہاد بالسیف سے انکار کیا اپنی اور مولویوں کی مخالفت کی یہ وجہ بتائی کہ علما جہاد کے اور خونی مہدی کے قائل ہیں۔ گویا ایک غیر مہذب اور غیر قوم گورنمنٹ کی نگاہ میں اپنے تئیں خیر خواہ اور عام مسلمانوں کو ایک خونی مذہب کا قائل اور بدخواہ سرکار کا ظاہر کیا۔ صرف یہ کوشش ظاہر کرتی ہے کہ مرزا قادیانی کوئی نیک نیت خیر خواہ مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ دوسرے امام مہدی علیہ الرضوان کو خونی قرار دینا در پردہ جہاد نبوی کی ہتک اور تذلیل ہے۔ ان کا مقابلہ سرسید کی خیر خواہی سے کیا جائے جس نے وہابیوں کو بچانے کے لئے اعلان کیا کہ میں خود وہابی ہوں تب فرق معلوم ہوگا۔ دوسری دلیل اس بات کی کہ مرزا قادیانی اپنے ذرا سے آرام کو قوم اور انسانوں کی بہبود و اتفاق پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ وہ خاص مسلمانوں کی موت اور ہلاکت کی برابر پیشین گوئیاں کرتے رہے اور اس میں کسی قلبی تکلیف کی پرواہ نہ کی کیونکہ بقول خود خدا کی طرف سے مامور ہو چکے تھے۔ مگر ایک مجسٹریٹ درجہ ازل کے دھمکانے اور چمکھلنے لینے پر صاف وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہ کروں گا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی نبی الہامات کی اشاعت ایک ادنیٰ مجسٹریٹ کے دھمکانے سے کیسے بند کر سکتا ہے؟ عوام الناس دھمکانہ کھائیں کہ نبی یا ولی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مسیح نے تنہا مصلوب ہونا اور حسینؑ نے تین دن کی بھوک و پیاس میں ہزاروں زخموں سے شہید ہونا قبول کیا اور کلمہ حق کو نہ چھوڑا۔ اگر ایسی مثالیں نہ ہوں تو لوگ مذہب اور خدا سے منحرف ہو جائیں اور اگر ایسے لوگ نہ ہوں جو مرزا قادیانی کو مسیح اور حسینؑ سے افضل سمجھتے ہیں، تو دنیا میں دین اور عقل کو کارگر زاری اور ہدایت کی گنجائش نہ ملے۔ نبی اور مصلح کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ اکثر لوگ کم عقل ہوتے ہیں اور مکاروں کے

جال میں پڑ جاتے ہیں۔

۳..... کفایت شعاری، ہمارا مذہب یہ ہے کہ جو کچھ دولت یا قوت بندوں کو ملی ہے وہ خدا کی طرف سے امانت ہے۔ اس کو نہایت احتیاط سے صرف کرنا چاہئے۔ برخلاف اس کے اپنی دولت نہیں بلکہ چندہ کے روپیہ سے جو مسلمانوں کی گاڑی کمائی سے آتا ہے مرزا قادیانی اعلانیہ اسراف کرتے ہیں۔

ایک ظاہر ثبوت وہ عرضی ہے جو بعض نیک نفس غریب مریدوں نے مرزا قادیانی کے نام بھیج کر لکھا تھا کہ چندہ بے دردی سے خرچ ہوتا ہے۔ لنگر خانہ جو مسافروں کے لئے ہے اس میں آپ کے ذاتی ملازم (خانگی باغ کے) کھانا کھاتے ہیں۔ اس کا جواب الحکم میں مرزا قادیانی نے شائع کیا ہے کہ میں کوئی بنیا نہیں کہ حساب رکھوں، جس طرح میں چاہوں گا خرچ کروں گا۔ العجب! ہر شخص امانت کے روپے کیلئے بنیا ہوتا ہے منہاج نبوت پر مرزا قادیانی اس قدر زور دیا کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے وہ قصہ نہیں پڑھا کہ عقیل نے حضرت علیؑ کی دعوت کی تھی۔ تین دن کی خوراک میں سے بچا کر چند روٹیاں تیار کیں تاکہ اپنی مفلسی کو ظاہر کریں۔ حضرت علیؑ نے اسی نسبت سے ان کے روزینہ میں کمی کر دی۔ کیا ان کو خلیفہ دوم کی چادر کا قصہ نہیں معلوم؟ پھر ایک شخص کس جرأت سے کہتا ہے کہ میں بنیا نہیں۔ یہی فقرہ سمجھ داروں کے لئے کافی ہے۔ ہم کو سخت افسوس اور حیرت ہے حکیم نور الدین قادیانی پر جو اپنے زعم میں یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے ایک ایسا رسول اور ایک ایسا منہاج بنا کر اسلام پر یا مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن اسلام کو اس سے زیادہ سبک کیا کر سکتا ہے کہ ایسے شخص کو امین خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ کا روز بتائے؟

۴..... سنی و محنت، ہمارا صیغہ گداگری اور سستی کا سخت مخالف ہے اور یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ محنت اور سعی سے گزر کر رہیں۔ یہی تعلیم اسلامی ہے۔ گداگری اس لئے منع ہے کہ وہ انسان کو دوسرے پر بار کرتی ہے، کہنے کو گداگر کہتا ہے کہ مجھ کو دو تو دنیا اور دین میں آرام پاؤ گے مگر چونکہ وہ اپنے نفس کے لئے مانگتا ہے اس لئے برا کرتا ہے۔ دیو کی حرمت کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اس سے توکل جاتا رہتا ہے کیونکہ توکل تو جائیداد سنی و زرعی کافی ہو اس وقت بھی نہیں رہے گا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہر وقت محنت اور سعی جو انسانی ترقی کا لازمہ ہے اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ جائیداد و تجارت کے باقی رکھنے کے لئے بہت توجہ درکار ہے اس لئے سعی فرض ہے۔

مرزا قادیانی نے سب مولویوں اور پیروں اور فقیروں سے زیادہ دوسرے کی محنت سے

گزر کرنے اور اپنی جائیداد بڑھانے کی مثال قائم کی ہے۔ ہم نے قرآن وحدیث وتوراۃ وانجیل میں تلاش کیا۔ مگر کہیں پتہ نہ ملا کہ کسی نبی یا امام برحق نے اپنی تعلیم کی وجہ سے اپنی مالی حالت درست کی ہو۔ برخلاف اس کے ہم مرزا قادیانی کا اشتہار کشتی نوح میں صفحہ ۶ پر دیکھتے ہیں۔ جس کے پڑھنے سے ہم پر اس قدر حقائق ان کی تعلیم کے ظاہر ہوتے ہیں جن کے بیان کرنے کے لئے ایک بڑا مضمون درکار ہے۔ وہ اشتہار یہاں پر نقل کیا جاتا ہے۔

”چونکہ آئندہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ طاعون ملک میں پھیل جائے اور ہمارے گھر میں جس کے بعض حصوں میں مرد و مہمان رہتے ہیں اور بعض حصوں میں عورتیں، سخت تنگی واقع ہے اور آپ لوگ سن چکے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے لئے جو اس گھر کی چار دیواری کے اندر ہوں گے حفاظت خاص کا وعدہ فرمایا ہے اور اب وہ گھر جو غلام حیدر متونی کا تھا۔ جس میں ہمارا حصہ ہے اس کی نسبت ہمارے شریک راضی ہو گئے ہیں کہ ہمارا حصہ دیں۔ میری دانست میں یہ حویلی جو ہمارے مکان کا جزو ہو سکتی ہے۔ دو ہزار تک تیار ہو سکتی ہے چونکہ خطرہ ہے کہ طاعون کا زمانہ قریب ہے اور یہ گھر وحی الہی کی خوشخبری کی رو سے اس طوفان طاعون میں بطور کشتی کے ہوگا۔ نہ معلوم کس کس کو اس بشارت کے وعدہ سے حصہ ملے گا اس لئے یہ کام بہت جلدی کا ہے۔ خدا پر بھروسہ کر کے جو خالق و رازق ہے اور اعمال صالحہ کو دیکھتا ہے کوشش کرنی چاہئے۔ میں نے بھی دیکھا کہ ہمارا گھر بطور کشتی کے تو ہے مگر آئندہ اس کشتی میں نہ کسی مرد کی منجائش ہے نہ عورت کی اس لئے توسیع کی ضرورت پڑی، ”والسلام علی من اتبع الهدی“ ”الشتہ مرزا غلام احمد قادیانی۔“

اس کے مفصلہ ذیل امور معلوم ہوئے۔

- ۱..... مرزا قادیانی کا گھر کشتی نوح ہے اور طاعون سے محفوظ رہے گا۔
- ۲..... مرزا قادیانی کے جس قدر گھر قریب ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں تو کشتی نوح بن جائیں گے۔
- ۳..... مرزا قادیانی کو مریدوں کی طرف سے کثیر ہائے زلزل جائیں تو وہ اس قاعدہ کے رو سے اپنے مکان کو وسیع کرتے کرتے ایک دنیا کو طاعون سے بچا سکتے۔ گویا طاعون اس لئے بھیجا گیا ہے کہ لوگ مرزا قادیانی کا مکان وسیع کر کے اس طاعون سے بچ جائیں اور چونکہ طاعون بقول ان کے ایک عذاب الہی ہے جو اس وجہ سے آیا ہے کہ لوگ ان کی نبوت اور مسیحیت سے انکار کرتے ہیں۔ اس لئے ان کی نبوت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ان کے مکان اور جائیداد میں وسعت ہو کیونکہ

(۱) مسیحیت علت طاعون (۲) طاعون علت توسیع مکان (۳) توسیع مکان علت چندہ۔ پس مسیحیت کا مقصد تحصیل زور ہوا، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے زیادہ صریح گداگری کیا ہوگی؟ شاید یہ شبہ غلط ہو اس لئے میں صاف صاف طور پر بذریعہ اس مضمون کے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یوم دعویٰ الہام سے اب تک مرزا قادیانی نے اپنی یا لواحقین کی جائداد بڑھائی یا نہیں اور جو جائیداد خریدی ہے وہ وقف ہے یا ذاتی۔ وقف نامہ رجسٹری شدہ ہے یا نہیں۔ اس کی نقل شائع کی جائے اس معیار پر اگر مرزا قادیانی صحیح اترے (بشرطیکہ بے لاگ فحش تحقیق کریں) تو ہم بہ معذرت اس چوتھے اعتراض کو واپس لیں گے ورنہ سب مسلمانوں سے کہیں گے کہ اصلاح تمدن چاہتے ہو تو ایسے مدعیوں سے بھاگو۔

خلاصہ..... الغرض اس تمام غل و شور سے جو جدید مسیحیت کا پھیلا ہے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بغیر کسی تمدنی فائدے کے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ انبیاء کی ہتک ہوئی۔ مذہب الہامی پر اعتراض کرنے کا ملحدین کو بہت اچھا بہانہ ہاتھ آیا۔ بہت سے لوگوں نے دین کے نام سے اچھی اچھی تنخواہیں وصول کرنا اور روپیہ پیدا کرنے کا شیوہ کر لیا۔ ایک شخص کی تعریف میں خدا اور رسول کی تعریف کو گرد کر دیا۔ کیونکہ خدا اور انبیاء اولوالعزم کی تعریف بھی ایسی نہ ہوئی ہوگی۔ بدناما تاویلات اور بدنام کن مقدمہ بازیاں ہوئیں۔ اگر یہ سب باتیں کسی تمدنی مفید نتیجے تک پہنچنے کے واسطے ہوتیں تب بھی ایک تسلی تھی۔ مگر یہ سب اس لئے ہوا کہ چند آدمیوں کو ایک مشغلہ ناموری اور حیلہ، رزق درکار تھا، مگر کیا یہ تحریک محض بیکار ہے ہرگز نہیں؟ اس سے کم از کم لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں میں زود اعتقادی بہت ہے اور اس کی اصلاح جب ہی ہو سکتی ہے جب دین کے پختہ اصول پر وہ قائم ہوں۔ اس سے سمجھداروں کو اطمینان ہو گیا کہ استقلال کے ساتھ ہر کام میں خاص کامیابی ہو سکتی ہے کیونکہ ذاتی اور شخصی تحریک میں جب یہ رونق ہے تو قوی تحریک میں کیوں نہ ہوگی؟ بعض لوگ جو اس مذہبی تحریک کو (اپنی بدگمانی یا گہری فراست سے) زرخشی اور مذہب کی ہنسی اڑانے کا ایک ایسا جال سمجھتے ہیں جو چند شخصوں نے جن کے دل میں نہ خوف خدا ہے نہ یقین قیامت کھڑا کیا ہے۔ ان کو بھی اطمینان ہے کہ الہی قوت ضرور موجود ہے جس نے اس تحریک میں کوئی بڑی کامیابی نہ ہونے دی۔ ہر سمجھ دار آدمی کے تین چار انگل کی باتوں میں ایک آدھ صحیح ہو جاتی ہے۔ اس تحریک کے بانی یہ بھی نہ کر سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی لامٹی بغیر آواز اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ آخر میں اس بات کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے مرزائی دوست اور

معتقد اس مضمون کو پڑھ کر برا فروختہ نہ ہوں کیونکہ یہ ان کی خیر خواہی کے لئے لکھا گیا ہے۔ اگر ان کو تکلیف پہنچے تو معاف کریں جس طرح وہ جراح کو معاف کرتے ہیں۔ جو زخم آ لائش دور کرتا ہے، وہ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ آیا ایسا انسان افضل ترین عباد خدا، بعد رسول عرب کے ہو سکتا ہے؟ وہ غور کریں کہ ہم نے کوئی غلط بات اس مضمون میں لکھی ہے اور پھر بھی اگر ان کو کوئی فائدہ اس مضمون سے نہ ہو تب بھی وہ اس کو نیک نیتی پر محمول کریں۔

نقطہ

غلام العظیم

## مضمون دیگر عصر جدید

سال گذشتہ میں قادیانی تحریک کے عنوان سے ہم نے ایک مضمون ہند کے ایک جدید مسیح کے متعلق لکھا تھا۔ جس کا اثر جماعت کے بعض ارکان پر اچھا پڑا۔ چند مضامین جواب کے نام سے مسیح قادیانی کے بعض پیروؤں نے اس زمانہ میں شائع کئے تھے۔ جن میں سے دو مضامین کا ذکر اکتوبر ۱۹۰۵ء کے عصر جدید میں کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے ایک تو قابل جواب ہی نہ تھا اور دوسرا یعنی خواجہ کمال الدین مرزائی کا مضمون تمہید ہی میں رہا اور باوجود وعدہ آگے نہ بڑھا سکے۔ اس جماعت کے ”لیڈر قوم“ اور ”مخدوم الملت“ یعنی عبدالکریم سیالکوٹی آنجنابی جیسا کہ ان کے زمانہ بیماری کے ملفوظات سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے مضمون کا جواب نہ دے سکے کا داغ حسرت اپنے ساتھ لے گئے۔

”اے بسا خانہ دشمن کہ تو ویران کردی“

مگر اسی زمانہ میں ریویو آف ریلیجنز کے قابل ایڈیٹر مسٹر محمد علی لاہوری ایم۔ اے نے ایک مضمون اپنے رسالہ میں بعنوان ایک نیا معترض، شائع کیا تھا، مگر یہ رسالہ ہمارے پاس نہیں بھیجا گیا۔ چند ماہ ہوئے ہم نے اس ریویو کے پرانے پرچے منگوائے تو یہ مضمون نظر پڑا اور اب اس کے متعلق مختصر رائے دینا اسلئے ضروری ہے کہ صاحب مضمون نے کئی جگہ ہم سے یہ سوال کیا



ہے کہ ہم سچے اور جموٹے مدعی کا نشان بتائیں۔ اس کے متعلق ایڈیٹر موصوف نے خود ایک نشان پیش کیا ہے۔ جو ٹیٹ ہندی میں اس طرح بیان ہو سکتا ہے کہ ”چلتی کا نام گاڑی“ اور اس کا ثبوت صاحب موصوف نے اس آیت مبارکہ سے اخذ کیا ہے ”إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا“ (المومن ۵۱) یعنی ”ہم بے شک مدد کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں اپنے رسولوں کی اور ان آدمیوں کی جو ایمان لاتے ہیں“ اور اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ چونکہ مرزا قادیانی کا کام رو بہ ترقی ہے اور مزید بڑھتے جاتے ہیں اس لئے وہ یقیناً سچے مسیح ہیں۔

آیت مذکورہ بالا کے علاوہ اسی مضمون کی اور بھی آیات قرآن شریف میں موجود ہیں اور اگر ان آیتوں کا وہی مطلب ہے جو مسٹر محمد علی لاہوری اور دیگر مرزائیوں نے سمجھا ہے اور امداد الہی کے یہی معنی ہیں کہ کسی مدعی کی دولت یا مریدوں کی تعداد میں زیادتی ہو تو ہم ایک لحد کے لئے مرزا قادیانی کے ابتدائی دعویٰ سے لے کر انتہائی الہام تک بلا دلیل و حجت ماننے پر آمادہ ہیں۔ بشرطیکہ وہ ان دو باتوں کو جو بطور امور متفق طلب کے ہم نے اوپر لکھے ہیں۔ قرآن یا عقل یا ہر دو سے ثابت کر دیں۔

ہم کو یہ معلوم ہے کہ عبدالکریم سیالکوٹی مرزائی نے سرطان کا پھوڑا نکلنے سے قبل جو آخری مضمون ”الحکم“ میں شائع کیا تھا وہ زیادہ تر اسی آیت مذکورہ کے غلط معنی پر مبنی تھا اور اسی غلط تفسیر کی وجہ سے متوفی نے آئمہ اہل بیت علیہم السلام کی نسبت نہایت گستاخانہ الفاظ لکھے تھے۔ یہاں تک کہ ان کو ”بت ناہجار“ کہنے میں اس شخص کی دریدہ دہنی نے تا مل نہیں کیا تھا اور وجہ اس کی یہی ظاہر کی تھی کہ خدا نے ان کو ہمیشہ ”نا کامیاب“ اور ”خاسر“ اور ”مغضوب علیہم“ رکھا اور ان کے مخالفوں کی مدد کی۔ اس زمانہ میں میرے ایک لائق دوست نے بذریعہ تحریر نہایت ہمدردی کے ساتھ فرقہ قادیانی کے اس رکن رکن کو ایک طویل تحریر لکھی تھی جس میں ظاہر کیا تھا کہ اگر اس شخص کا یہی عقیدہ رہا تو بموجب کلام مجید اس کا انجام انتہا درجہ کا کفر و گمراہی میں ہوگا۔ جو بے شمار آیات اس تحریر میں درج کی گئی تھیں۔ ان کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے۔ مگر چند متواتر اور نہایت کثرت سے بیان کئے ہوئے قرآنی یا متواتر قصص کی طرف ہم ایڈیٹر ”ریویو آف ریلیجن“ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اصرار کے ساتھ ان مطالب کا جواب چاہتے ہیں۔

خدا نے بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو صرف عبادت و اطاعت کے لئے پیدا کیا ہے اور شیطان نے خدا کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ وہ سب کو گمراہ کر دے گا ”إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ

الْمُخْلِصِينَ“ (المج ۳۰) مگر صرف تیرے خاص بندوں کو، خدا نے دوسری جگہ کہا ہے ”وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ“ (سبا ۲۰) شیطان نے اپنے اس خیال کو سچا کر دکھایا۔ اب قادیانی فرقہ بتائیں کہ کون قائل اطاعت اور لائق پرستش ہے؟ خدا، یا ابلیس؟ اور اس دنیا میں کس کی اطاعت کرنے والے زیادہ ہیں؟

۲..... بنی اسرائیل کی عورتوں کو چھوڑ کر فرعون اور قوم فرعون ان کے بچوں کو قتل کر دیتی تھی اور اس نسبت قرآن مجید میں کہا گیا ہے ”وَلَقَدْ ذَلِكْ لَكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكَ عَظِيمٌ“ (الاعراف ۱۳۱) پس حکماء سلسلہ قادیانیہ جواب دیں کہ طریقہ فرعون حق پر تھا یا ملت ابراہیمی، اور قتل ہونے والوں کی اس زندگی میں خدا نے کیا مدد کی؟

۳..... بقول مرزا قادیانی، مسیح مصلوب ہوئے اور یہود نے فتح حاصل کی ان دونوں میں کون حق پر تھا اور کس کی اطاعت کا خدا نے حکم دیا ہے؟

۴..... خلفاء اربعہ اور سبطین میں سے منجملہ چھ کے پانچ نفس دشمنوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوئے۔ اس صورت میں حیات دنیا میں ان کی کیا مدد خدا نے کی؟ جبکہ اس نے وعدہ کیا ہے ”مَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ“ (الروم ۴۷) ان چند مثالوں سے ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر مرزائیوں کی تفسیر صحیح ہے تو دنیا میں اکثر ظالم، فاجر، بدکار، فاسق، جھوٹے، قائل اطاعت اور خدا کے سچے رسول مامور اور مومن ہیں اور سب کو انہیں کی پیروی کرنی چاہئے۔ اگر یہ معنی صحیح ہیں (اور جابلوں کو بہکانے کے واسطے کوئی اخبار یا رسالہ یا کتاب قادیانی جماعت کی ایسی نہیں نکلتی جس میں نشان کامیابی پر زور نہیں دیا جاتا) تو قرآن شریف کی باقی تعلیم اخلاق و صبر و تحمل و تقویٰ وغیرہ کی فضول اور بیکار ہے۔

اگر دنیاوی کامیابی معیار حق و باطل کا ہے تو یہ نشان جس پر اس قدر زور دیا جاتا ہے ایک خوفناک گمراہی اور ایک ہولناک غار ہے۔ پس آیت قرآنی کے ہرگز وہ معنی نہیں ہیں جو جناب مرزا قادیانی یا حکیم نور الدین قادیانی لیتے ہیں۔

شاید یہ کہا جائے کہ نشان بالا صرف مامور من اللہ کے ساتھ خاص یعنی جو شخص خدا کی طرف سے مرسل ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کو کامیابی ہو تو وہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا اور ہم بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ آیت ”لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ“ (الحاقہ ۴۳) سے مدد لے کر یہی معنی پہنائے جائیں گے۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اے محمد! اگر تو ہماری طرف غلط باتیں

منسوب کرے تو ہم تیری گرفت کر لیں گے اور رگ گردن تیری منقطع کر دیں گے۔ اس آیت کے معنی بیان کرنے میں بھی یا تو حد درجہ کا دھوکا دیا جاتا ہے یا انتہا درجہ کی سادہ لوحی برتی جاتی ہے۔ دعویٰ صرف اس قدر ہے کہ اگر سچا پیغمبر (بفرض محال) جھوٹے الہام بنانے لگے تو اس کو سخت سزا ملے گی۔ اس سے اگر یہ لازم بھی آئے کہ اس دنیا میں سزا ملے گی تو یہ کہاں سے لازم آیا کہ جھوٹے پیغمبر کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا۔ یا جس کے ساتھ ایسا سلوک ہو وہ جھوٹا پیغمبر ہے؟ ”يَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ“ (البقرہ ۶۱) (نبیوں کو بلاوجہ قتل کرتے ہیں) اس آیت کی تاویل سادہ لوحوں کے سمجھانے کے لئے ممکن ہے۔ مگر تاریخی توازن و مذہبی شہادت اور تمام دنیا کے اجماع کو باطل کرنا کہ حضرت زکریا، یا حضرت یحییٰ شہید نہیں ہوئے۔ ایک ایسا جرات کا کام ہے۔ جس کے سامنے دہلی کے ایک مرزا کا دعویٰ بھی کہ حضرت امام حسینؑ شہید نہیں ہوئے۔ پھیکا اور ہلکا معلوم ہوتا ہے۔

پس آیت مذکورہ سے یہ نتیجہ نکالنا کہ جو شخص جھوٹا دعویٰ کرے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے کسی صحیح عقل اور متعارف منطق کے رو سے نہیں چل سکتا اور اس سے یہ بھی نتیجہ نکلے گا کہ دنیا میں نہ کوئی جھوٹا مذہب چلا ہے اور نہ چل سکتا ہے۔

حالانکہ جھوٹے سلسلے ہمیشہ موجود رہے ہیں اور اب بھی ہر مذہب میں موجود ہیں اور مدت تک ان کے بانی رونق کے ساتھ رہے اور عزت کے ساتھ مرے۔

ہم نے اس مختصر مضمون میں ابھی تک مسٹر محمد علی لاہوری بلکہ کل فرقہ مرزاویہ کی عمدہ ترین دلیل کو جس پر انہیں بہت ناز ہے مخزن اور منبع تمام خرابیوں اور فسادات کا ثابت کیا ہے لیکن دو باتیں بتانی اور باقی ہیں۔

۱..... اول یہ کہ آیت مذکورہ کے اصل معنی کیا ہیں۔

۲..... یہ کہ سچے اور جھوٹے میں امتیازی نشان کیا ہے۔

مگر ان ہر دو مباحث کو ہم اس وقت اس لئے ملتوی کرتے ہیں کہ اول ایڈیٹر ”ریو یو آف دیلیجن“ اپنے اس امتیازی نشان کو واپس لیں اور آیت مذکورہ کے معنی سمجھنے میں استفادہ کے خواہش مند ہوں۔ اگر وہ کسی تعلیم یافتہ اور بے لاگ حیوری کو جسے وہ خود غیر مرزائیوں میں سے منتخب کریں یہ یقین دلا سکیں کہ جو امتیازی نشان انہوں نے مقرر کیا ہے وہ قابل قبول ہے یا ان کے بتائے ہوئے معنی قرآن کی آیات کو ملانے سے نکلتے ہیں کہ جو مذہب چل جائے وہ ضرور سچا ہے۔

تب ہم کو دوسرے تحقیقات پر بحث کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ اپنے دعویٰ سے عاجز ہوں تو ہم کسی آئندہ تحریر میں اس بحث کے باقی حصے کو ہدیہ ناظرین کریں گے۔ اگرچہ اس نمبر میں ہم اس مضمون پر مفصل بحث نہیں کریں گے مگر بطور مشورہ حکیم نور الدین قادیانی اور محمد علی قادیانی سے عرض کریں گے کہ حیات دنیا کی امداد کے وعدے کی تفسیر اور توضیح کرنے سے پہلے وہ اس آیت کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔

كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَلَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِقْنَا كَذِبْتُمْ وَفَرِقْنَا تَفْتُلُونَ“ (البقرہ ۸۷) جس وقت کوئی رسول ان کی نفسانی خواہش کے خلاف آیا تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کیا۔

دوسرے ان آیات پر غور کریں جہاں کافروں اور بدکاروں کو اس دنیا میں مہلت دینے کا ذکر ہے اور یہاں تک لکھا ہے کہ لوگ دھوکے میں نہ پڑ جاتے تو کفار کے مکانوں کی چھتیں ہم سونے چاندی کی کر دیتے۔

اور وہ اس پر بھی غور کریں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بے ادبی بمقابلہ مرزا قادیانی کے اس وجہ سے الحکم اور متونی سیالکوٹی نے بار بار کیا ہے کہ ان کے مددگار کم تھے۔ اس سے قادیانی جماعت کی قوت ایمانی اور خوف خدا کا پتہ کہاں تک چلتا ہے اور کیوں ہم ان کے سلسلہ کو محض اس وجہ سے مسیحی سلسلہ سے بہتر سمجھ لیں؟ کہ گورنمنٹ انگریزی بہ نسبت رومیوں کے زیادہ فیاض طبع اور عادل ہے اور مدعیان مذہب کو سخت سزائیں نہیں دیتی۔ (غلام الثقلین)

ضمیمہ..... خواجہ غلام ثقلین صاحب کا یہ مضمون چونکہ نہایت متانت اور تہذیب اور انصاف سے لکھا گیا ہے اس لئے عصر جدید سے اس مضمون کو علیحدہ کر کے طبع کرایا گیا۔ خواجہ صاحب کے اس مضمون کی زیادہ تحقیق اور تفصیل رسالہ عبرت خیز اور فیصلہ آسمانی حصہ ۲ میں صفحہ ۳۱ سے ۸۰ تک ہے۔ ناظرین اسے دیکھیں۔ ان دونوں رسالوں میں تاریخی تواتر اور آیات قرآنی سے ثابت کیا ہے کہ دنیا میں نبی ایسے بھی ہوئے ہیں جو قتل کئے گئے۔ سخت سے سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائیں۔ اس کے خلاف بہت جھوٹے مدعیان نبوت اور کافر۔ فاسق، عمر بھر راحت اور چین کی زندگی بسر کرتے رہے اور کرتے ہیں اور ایمانداروں سے زیادہ عیش و آرام میں ہیں۔ بلکہ ان میں سے ایسے بھی ہوئے جنہیں تمام عمر کبھی سر میں درد بھی نہ ہوا۔ ان دونوں باتوں سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ دنیا کی راحت اور عیش و آرام بچوں کی فلاح اور کامیابی کا معیار ہرگز نہیں

ہوسکتا۔ ”وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا غُرُورًا“ اس پر وہی فخر کر سکتا ہے جس کا مقصد اعلیٰ صرف دنیا ہو۔ ان دونوں رسالوں کو دیکھنے کے بعد قادیانی جماعت کی ایک اعلیٰ قابل ناز و فخر دلیل بیکار ہو جاتی ہے اور رسالہ معیار المسح دیکھنے سے مرزا غلام احمد قادیانی کی کامیابی کی حقیقت بھی کھلتی ہے۔ فقط



## حکیم العصر مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ کے ارشادات

☆.....☆..... قادیانیوں کا حکم مرتد کا ہے۔ مرتد مرد یا عورت سے نکاح نہیں ہوتا۔ اس لئے قادیانی لڑکی سے جو اولاد ہوگی وہ ولد الحرام ہوگی۔

☆.....☆..... مرزا قادیانی کے بلند بانگ مگر بے لغو دعویٰ ”مراق“ کا کرشمہ ہے۔

☆.....☆..... وہ وکلاء جنہوں نے دین محمدی ﷺ کے خلاف

قادیانیوں کی وکالت کی قیامت کے دن مرزا غلام احمد قادیانی کے کیمپ میں ہوں گے۔

## حکیم العصر مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ کے ارشادات

☆☆..... مرزا قادیانی سب دہریوں سے بڑھ کر اپنے دہریہ ہونے کا اعلان کرتا ہے۔

☆☆..... قادیانی کا ذبیحہ کسی حال میں بھی حلال نہیں بلکہ مردار ہے۔

☆☆..... مرزا نیو میرے اس سوال کا جواب دو کہ 52 سال جھوٹ بننے والا مسیح موعود کیسے بن گیا؟۔

☆☆.....☆☆

## حکیم العصر مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ کے ارشادات

☆☆..... کسی مرزائی کو داماد بنانا ایسا ہے جیسے کسی ہندو، سکھ، چوہڑے کو داماد بنالیا جائے۔

☆☆..... جس شخص نے کہا کہ قادیانی مسلمانوں سے اچھے ہیں وہ خود قادیانیوں سے بدتر کا فر ہو گیا۔

☆☆..... مرزائیوں کی حیثیت ذمیوں کی نہیں بلکہ محارب کافروں کی ہے اور محاربین سے کسی قسم کا تعلق رکھنا شرعاً جائز نہیں۔

☆☆.....☆☆

الحمد لله الذي جعل  
الدين الاسلامي حيا  
ومعنا في كل حين

# صحيفہ رحمانیہ

(۱۴)

حضرت مولانا عبد الغفار خانؒ

حضرت مولانا عبد الشکور لکھنویؒ

## اسلامی چیلنج

یہ چیلنج اس بات پر دیا گیا ہے کہ ہمارے علمائے کالمین نے کامل طور سے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ نبویہ کی رو سے مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے تھے۔ اب حضرت مسیح کی حیات و ممات کے ذکر کو خواہ مخواہ چھیڑنا صرف مرزا قادیانی کے کذب پر پردہ ڈالنے کی غرض سے ہے اور اصل مدعا سے گریز کا ایک طریقہ نکالا ہے۔ اب مرزائیوں کا فرض ہے کہ اس بحث کے پیش کرنے کی وجہ بیان کریں۔ مگر اس چیلنج کو اچھی طرح دیکھ کر۔ اسے خوب سمجھ لیں کہ جس کا جھوٹا ہونا ہر طرح ثابت ہو گیا ہو۔ اس کے ماننے والے اس کی صداقت ثابت کرنے سے عاجز ہوں، وہ مسیح موعود کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسے جھوٹے کی صداقت قرآن شریف سے ثابت سمجھنا، اللہ و رسول کو سخت الزام دینا ہے۔ اگر کچھ عقل ہے تو اسے سمجھو؟



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُ اللّٰهَ الْعَظِیْمَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

مرزائی حضرات مرزا غلام احمد قادیانی کو خدا کا رسول اور اس کا برگزیدہ سمجھتے ہیں اور صرف مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ دوسروں سے منوانے کے لئے بڑے کوشاں ہیں۔ اعلانیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی خدا کے برگزیدہ تھے۔ انہیں مانو، اہل حق نے ان کے سمجھانے کے لئے بہت کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ وہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے رسالوں کو تحقیق اور انصاف کی نظر سے دیکھتے ہی نہیں۔ جو ان کے مرشد نے کہہ دیا ہے اسی پر ان کا عمل ہے۔ اگرچہ وہ عقلاً اور نقلاً کیسا ہی غلط ہو۔ میں نے اسلامی اعلان میں چالیس سے زیادہ ان رسالوں کے نام بتائے ہیں جن میں مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا قرآن سے، صحیح حدیثوں سے، عقل سے، مرزا قادیانی کے پختہ اقراؤں سے، ان کے جھوٹے دعویٰ سے، یقینی طور سے ثابت کر دیا ہے۔ میں نے اسلامی اعلان میں بہ نظر خیر خواہی اس کا نمونہ دیکھا ہے اور اسے کثرت سے شائع کیا ہے۔ اب مرزائیوں کا فرض تھا کہ ان رسالوں کو منگوا کر دیکھتے اور ہمارے الزامات کا جواب دیتے اور اپنے جھوٹے نبی کی صداقت ثابت کرتے، یہ تو کسی سے نہ ہو سکا، مگر ایک سیالکوٹی مرزائی نے ہمارے اعلان کے جواب میں اپنا چیلنج ہمارے پاس بھیجا۔ جس میں انہوں نے اپنے جاہلانہ خیال کے موافق حضرت مسیحؑ کی موت ثابت کی ہے اور مسلمانوں کے اس خیال کو غلط بتایا ہے کہ حضرت مسیحؑ زندہ ہیں اور ہم سے اس کا جواب طلب کیا ہے۔ اس سے ان کی کمال نادارگی اور تیرہ دوئی ثابت ہوتی ہے دو وجہ سے۔

ایک یہ کہ ہر فہمیدہ اس کو سمجھتا ہے کہ جو اعلان میں نے بھیجا تھا اگر وہ ان کے خیال کے بموجب غلط تھا تو اس کا جواب دیتے اور اس جواب کے ساتھ اپنا چیلنج بھیجتے مگر یہ نہیں کیا۔

دوسرے یہ کہ حیات مسیحؑ کے ثبوت میں بہت رسالے لکھے گئے ہیں۔ رسالہ ”حفاظت ایمان“ میں پندرہ رسالوں کے نام بتائے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے رسالے ہیں۔ عبدالکریم سیالکوٹی مرزائی کے رسالے کی تو کیا حقیقت ہے۔ ان کے مرشد نے جواز الہ اوہام میں حضرت مسیحؑ

کی ممت ثابت کرنے پر زور لگایا ہے اس کی ایسی دھجیاں اڑائی ہیں کہ باید و شاید اور کسی نے ان کا جواب نہیں دیا۔ پھر کس منہ سے اس بحث کا چیلنج دیا جاتا ہے۔ سیالکوٹی صاحب! میرے اسلامی اعلان کے جواب میں اپنا چیلنج بھیجنا ایسا ہی بے جوڑ ہے جیسے مشہور مثال میں کہا جاتا ہے کہ ”مارے گھنٹا سر لنگڑائے۔“

میاں! جب ہم نے نہایت پختہ اور یقینی دلیلوں سے آپ کے مرشد کا جھوٹا ہونا ثابت کر کے انظر من الخس کر دیا تو حضرت مسیح کا مردہ ہونا ایسے جھوٹے کو سچا کیسے کر سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی صاحب عقل اس کو باور نہیں کر سکتا کہ اگر مسیح مر گئے تو ان کی جگہ ایسا جھوٹا شخص جسے قرآن و حدیث نے جھوٹا ثابت کر دیا ہو وہ مسیح موعود ہو جائے؟ سیالکوٹی صاحب! ذرا ہوش کر کے اس کا جواب دو؟ مگر ہم کہتے ہیں نہیں دے سکتے۔ اگر دعویٰ ہے تو ہمارے الزاموں کا شافی جواب دیجئے۔ اس کے طے ہونے کے بعد دوسری بات پیش کیجئے گا۔ اگر ہوش باقی رہے۔ بھلا اور رسالوں کا جواب تو کیا دیں گے میں نے اعلان کے ابتداء میں ان کے عقیدے لکھے ہیں جن سے ان کا جھوٹا ہونا ہر طرح ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً پہلے یہ عقیدہ مرزا کا دکھایا ہے کہ ”خدا جھوٹ بولتا ہے (نعوذ باللہ) دوسرے یہ کہ وعدہ خلائی کرتا ہے۔“ اب میں ان سے دریافت کرتا ہوں کہ میرا کہنا صحیح ہے یا نہیں۔ اگر ان کے خیال میں صحیح نہیں تھا تو مجھے لکھتے کہ تمہارا یہ الزام غلط ہے، اس کا ثبوت دو۔ مگر یہ نہیں کیا اس سے کامل طور سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی میرا لکھا صحیح ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کے نزدیک خدا جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلائی کرتا ہے۔ جب میرا قول صحیح ہے تو اب فرمائیے کہ کون عقلمند۔ ایسے خدا کو اور اس کے رسول کو مان سکتا ہے؟ اور جو کوئی مانے تو اس وقت کے دہریہ کس قدر اس کا مضحکہ کریں گے اور اگر میں نے غلط لکھا ہے تو آپ کو چاہئے تھا کہ مجھے اس غلطی کا الزام دیتے اور مجھ سے دریافت کرتے۔ مگر ایسا نہیں کیا، بلکہ بے جوڑ ایک چیلنج بھیج دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس الزام کے جواب سے عاجز ہیں۔ مگر بات کو ٹالنا چاہتے ہیں اور دوسری بحث چھیڑ کر اپنے مرشد کے کذب پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔

مرزائی صاحب یہ چیلنج آپ کا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہمارے اسلامی اعلان کے مقابلہ میں یہ چیلنج دے کہ تم جو آسمان کی گردش مانتے ہو یہ غلط ہے۔ بلکہ زمین چکر کھاتی ہے۔ تم آسمان کی گردش کو ثابت کرو، اس کا جواب ہم ہی دیں گے کہ ہم نے تو بے نظریہ خواہی آپ کو اس امر پر متنبہ کیا کہ آپ بہک گئے ہیں۔ آپ کی عاقبت خراب ہوگی۔ ہمارے اعلان کو دیکھ کر اپنے ایمان کو

درست کیجئے۔ آسمان کی گردش کے غلط ہونے سے آپ کا ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ اور زمین کی گردش صحیح ہونے سے آپ کے مرشد سچے نہیں ہو سکتے۔ اس طرح حضرت مسیح کے مرجانے سے مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ قطعاً جھوٹے کذاب ہیں۔ اس لئے آپ کو ان سے علیحدہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

”مَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ“ (البقرہ ۲۵۶) ترجمہ (یعنی جس نے طاغوت سے انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے مضبوط رسی کو پکڑا) یہاں اللہ تعالیٰ نے طاغوت سے انکار کرنے کو ایمان باللہ سے پہلے بیان فرمایا۔ جس سے ثابت ہوا کہ جھوٹے سے علیحدہ ہونا اور اسے برا سمجھنا ایمان کا پہلا جز ہے اور اللہ پر ایمان لانا اس کا دوسرا جز ہے۔ اس لئے آپ اپنے طاغوت یعنی مرزا قادیانی سے پہلے انکار کیجئے پھر آپ کا ایمان درست ہوگا۔ ورنہ آپ کا ایمان باللہ بے کار ہے۔

اب اگر کسی کو میرے قول میں تردد ہو اور کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسالت و نبوت کا دعویٰ کر کے خدا پر ایسا الزام لگائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی یہی حالت ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا اور رسول کو درحقیقت نہیں مانتے۔ مسلمانوں کو فریب دینے کو کل اور بروز اور محبت رسول کا دعویٰ تھا۔

اب اس کا ثبوت ملاحظہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح کی نسبت فرماتا ہے۔

”وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ“ (البقرہ ۸۷) ہم نے اسے معجزات دیئے۔ دوسری جگہ ان معجزات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ ”اتَّبَعْنِي فَدَنِّبْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ“ (آل عمران ۴۹) یہاں نہایت صاف طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ مرزا قادیانی (ضمیمہ انجام آتھم ص ۶ حاشیہ خزائن ص ۲۹۰ ج ۱۱) میں اس سے صاف انکار کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ”حق یہ ہے کہ آپ (یعنی حضرت عیسیٰ) سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔“ کہیے یہ صریح قول خداوند کی تکذیب ہوئی یا نہیں۔ اور اس قدوس لم یزل کو حضرت مسیح کے معجزات کے بیان میں مرزا قادیانی نے جھوٹا ٹھہرایا یا نہیں؟ یہ نہ کہہ دینا کہ الزام لکھا ہے۔ کیونکہ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ ان سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک جو امر واقعہ اور حق ہے اسے بیان کرتے ہیں۔ صرف الزام نہیں دیتے۔

دوسرا شاہد ملاحظہ کیجئے۔ وہی منکوحہ آسمانی والی پیشین گوئی دیکھئے۔ (جس نے مرزا

قادیانی کو بہت بدنام و رسوا کیا) اس کے نکاح میں آنے کی نسبت کیسے پختہ وعدے خداوندی مرزا قادیانی نے بیان کئے ہیں۔ چنانچہ (ازالہ اوہام ص ۲۹۶ خزائن ج ۳ ص ۳۰۵) میں الہام الہی کے الفاظ انہوں نے اس طرح لکھے ہیں ”انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی۔۔۔۔۔ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھاوے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔“ اس بیان پر غور کیا جائے کہ کیسا حقیقی وعدہ ہے اور کس قدر تاکیدوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اور یوں وعدہ ہوتا رہا مگر آخر کار پورا نہ ہوا۔

اب یہاں مرزا قادیانی کے قول کے بموجب خدا تعالیٰ کی کیسی کذب بیانی اور وعدہ خلافی ثابت ہوئی۔ بلکہ فریب ثابت ہوا۔ یا یہ کہئے کہ وہ عالم الغیب نہ تھا۔ قادر مطلق نہ تھا۔ ورنہ یہ وعدہ ضرور پورا ہوتا۔ جب یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو بالضرور خدا کا جھوٹا ہونا اور اس کے رسول یعنی مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا لازم آیا۔ کیونکہ انہوں نے بڑے زور سے اس پیشین گوئی کو اپنے لئے صداقت کا نہایت عظیم الشان معجزہ کہا تھا۔ جب اس معجزہ کا ظہور نہ ہوا، تو اس دعویٰ میں وہ جھوٹے ٹھہرے اور قرآن مجید کے نص قطعی اور تورات کے صریح بیان سے جھوٹے قرار پائے۔

اب سیالکوٹی عبدالکریم مرزائی فرمائیں کہ حضرت مسیح کی موت کا ثبوت مرزا قادیانی کے اس جھوٹ کا جواب ہو سکتا ہے؟ کیا ان کا مہمل چیلنج اس اعلانیہ کذب کے دھبہ کو دھو سکتا ہے؟ کیا اس وعدہ کے پورا نہ ہونے سے مرزا قادیانی قرآن مجید کے نصوص قطعیہ کے بموجب کذاب و مفتری نہیں ہوئے؟ ضرور ہوئے۔ حضرت مسیح کی ممات کا ثبوت ان نصوص قطعیہ کو مٹا کر مرزا قادیانی کا سچا ہونا ثابت نہیں کر سکتا؟ یہ آپ کا چیلنج محض بے کار ہے۔ ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے مرشد کا جھوٹا ہونا ثابت نہ کیا ہوتا تو ہم اس طرف توجہ کرتے۔ کچھ عرصہ ہوتا ہے کہ مونگیر سے ایک مضمون قادیان بھیجا گیا تھا۔ جس میں مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا قرآن و حدیث سے ثابت کیا گیا ہے، وہ بھی ایک چیلنج تھا۔ مگر اس وقت تک تو آپ کے خلیفہ کی جرأت نہ ہوئی کہ کچھ جواب دیتے۔ پھر آپ کس منہ سے چیلنج دیتے ہیں، اب میں اسے نقل کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں، آپ قادیان سے اس کا جواب منگوا کر ہمیں بھیجئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی ایک پختہ دلیل یہ بھی ہے کہ انہیں نبوت کا دعویٰ ہے اور وہ اپنے آپ کو مستقل نبی صاحب شریعت سمجھتے ہیں اور نہایت صفائی سے بعض عظیم المرتبت انبیاء سے اپنے آپ کو بہت افضل کہتے ہیں۔ اور اپنے نہ ماننے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس وقت یہ بیان کیا جاتا

ہے کہ قرآن مجید سے اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ اس کے جھوٹا ہونے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا۔ ان کے اس دعویٰ سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو آیت قرآنی ”وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ“ (احزاب ۴۰) سے دلی انکار ہے۔ مگر چونکہ جانتے ہیں کہ ہمارے دعویٰ کو صرف مسلمانوں ہی نے مانا ہے۔ کوئی ہندو، کوئی آریہ، کوئی عیسائی، ان پر ایمان نہیں لایا اس لئے صاف انکار تو نہیں کرتے۔ بلکہ صاف طور سے نبوت تشریحی کا دعویٰ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ مگر اس میں شبہ نہیں کہ عوام کے دھوکا دینے کی غرض سے ایسی باتیں بناتے ہیں جن کا ثبوت نہ قرآن مجید سے ہے نہ حدیث سے۔ آیت مذکورہ سے قطعی طور سے ثابت ہے کہ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ کی رو سے جسے نبی کہا جائے اور قرآن و حدیث میں جس کو رسول یا نبی کہا ہے ان سب کے آپ خاتم النبیین ہیں۔ یعنی سب کے آخر میں آنے والے کیونکہ خاتم النبیین کے معنی لغت میں اور محاورہ عرب میں آخر النبیین کے ہیں۔ یعنی تمام انبیاء اور ہر قسم کے نبیوں کے بعد آنے والے۔ پھر آپ کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا آنے والا نہیں۔ اور قرآن مجید کے بیان کا قرینہ بھی اسی کا شاہد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروع قرآن مجید سے اکیس پارہ تک بہت سے انبیاء تشریحی و غیر تشریحی امتی و غیر امتی کا ذکر کر کے بانیسویں پارہ میں یہ آیت نازل کی اور جناب رسول اللہ ﷺ کی ایک خاص صفت خاتم النبیین ہونے کی بیان فرمائی۔ اس میں النبیین جمع ہے اور اس پر الف اور لام استغراق کا ہے، جس سے اشارہ ان تمام انبیاء کی طرف ہے جن کا ذکر اس سے پہلے ہو لیا ہے اور خاتم کا لفظ جب النبیین کی طرف مضاف کیا گیا تو محاورہ عرب کے لحاظ سے اس کے معنی آخر النبیین کے ہوئے۔ اب خاتم کے معنی مہر کے لینا یا یہ کہنا کہ آپ تشریحی انبیاء کے خاتم ہیں صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ لغت سے اور بیان مذکورہ سے نہایت ظاہر ہے کہ جتنے انبیاء تشریحی اور غیر تشریحی کا ذکر اس آیت سے پہلے ہو لیا ہے۔ مثلاً حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کے بعد والے سب کے آخر میں آپ آنے والے ہیں۔ جس طرح سورج تمام تاروں کے بعد سب کے آخر میں صبح کو نکلتا ہے اور بے شمار تاروں کی روشنی چھپ جاتی ہے اور ایک سورج کی روشنی ان بے شمار تاروں کی روشنی سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت سرور عالم کا آفتاب نبوت اس لئے آخر میں چمکا، تا کہ معلوم کرنے والے خوب جان لیں کہ آپ کا وہ مرتبہ عالی ہے کہ آپ کے فیوضات اور انوار نبوت کے بعد کسی کا چراغ نہیں جل سکتا۔ تمام انبیاء مثل تاروں کے ہیں اور آپ



بیان کرتے ہیں چنانچہ قاموس اور اس کی شرح تاج العروس میں ہے۔

”الْخَاتَمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَاقِبَتُهُ وَآخِرَتُهُ وَالْخَاتَمُ آخِرُ الْقَوْمِ كَالْخَاتَمِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى  
وَالْخَاتَمُ النَّبِيُّنَ اٰیْ آخِرُ“

ترجمہ (یعنی ہر شے کے انجام کو خاتم کہتے ہیں۔ اسی طرح خاتم القوم آخر قوم کو کہتے ہیں اور قرآن مجید میں جو خاتم النبیین ہے اس کے معنی آخر النبیین کے ہیں اور یہی بات مختار الصحاح سے ظاہر ہے۔) اب قادیانی مربی ان کتابوں کی صراحت کو دیکھیں کہ کس صفائی سے خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے بیان کئے ہیں اور خاص قرآن مجید کے الفاظ نقل کر کے وہی معنی بیان کر دیئے جو ہم بیان کرتے ہیں۔

جب قطعی طور سے معلوم ہوا کہ خاتم النبیین کے معنی محاورہ عرب میں آخر النبیین کے ہیں تو بالیقین ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جناب رسول اللہ ﷺ کو آخر النبیین فرمایا ہے یعنی حضور انور تمام انبیاء کے آخر میں آئے ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جس کے انکار سے کوئی مسلمان کافر ہو جائے کیونکہ قرآن مجید لغت عرب میں نازل ہوا ہے۔ اس لئے اس کے وہی معنی لئے جائیں گے جو محاورہ عرب میں آئے ہیں اور بیان مذکور سے ثابت ہوا کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے ہیں۔ اب میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن مجید کے نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ حضور انور جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ حضور انور ﷺ کے بعد کوئی سچا نبی نہیں آئے گا۔ جھوٹے مدعی نبوت ہوں گے۔

آپ کے آخر الانبیاء ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جس قدر انبیاء بھیجے گئے وہ سب بمنزلہ مقدمۃ الجحش کے تھے اور آنحضرت ﷺ سلطان الانبیاء سرور عالم ہیں۔ آپ کے بعد کسی جدید نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ بلکہ یہ آپ کی شان رحمت کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ تجربہ اس کا شاہد ہے کہ جب نبی آئے تو بعض پہلے نبی کے ماننے والوں نے بھی انکار کیا اور وہ مسلمان نہ رہے۔ جہنم کے مستحق ہوئے۔ اب اگر حضور انور کے بعد بھی نبی مبعوث ہوتے تو حسب عادت بعض آپ کے امتی بھی ان سے انکار کرتے اور جہنم کے مستحق ہوتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جناب رسول اللہ کے بعض ماننے والے بھی جہنم میں جائیں۔ مگر کسی سچے مسلمان کے دماغ میں یہ خیال کسی طرح نہیں آ سکتا کہ جس نبی کریم کی صفت رحمت ہو۔ جس کی شان کو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ جس سے

خاص خطاب کر کے فرمائے ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ (الانبیاء ۱۰۷) یعنی ہم نے تجھے سارے جہان کی رحمت کے لئے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی شان کسی وقت ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کا ماننے والا جہنمی ہو جائے اور وہ ایسی عام رحمت سے محروم ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ مرزا غلام احمد ہی کی دریدہ دہنی ہے کہ دنیا کے کچھ کم چالیں کروڑ اس حبیب کبریا رحمۃ للعالمین کے ماننے والوں کو جہنمی کہتا ہے اور حضور انور کی شان میں سخت وہد لگاتا ہے۔ حضورؐ کے بعد نبی کی اس لئے بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی امت کے علماء کو وہ شرف دیا ہے کہ انبیائے بنی اسرائیل جو کام کرتے تھے وہی علمائے امت کریں گے۔ اب وہ حدیثیں بھی ملاحظہ کیجئے جن سے آیت مذکور کی تفسیر اور مرزا قادیانی کا کاذب ہونا یقینی طور سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ ہیں

۱۔ حدیث..... ”ابن ماجہ (ص ۲۹۷ باب فتنۃ الدجال و خروج عیسیٰ بن مریم) میں ابوالامۃ الباہلیؒ سے دجال کے بیان میں ایک طویل حدیث مروی ہے اس میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہے۔ انا اخبرُا لا نبیاء وانتم اخبروا لامم اس پر خوب غور کیا جائے کہ اس حدیث میں صاف لفظ آخر الانبیاء ہے خاتم الانبیاء نہیں ہے جس سے ثابت ہوا کہ خاتم الانبیاء کے معنی آخر الانبیاء کے ہیں۔

مطلب..... یعنی رسول اللہ ﷺ اپنی امت سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم سب امتوں کے آخر میں ہو۔ میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی دوسری امت ہے۔ اے عزیز دیکھو جس طرح لغت اور محاورہ عرب سے ثابت ہوا کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے ہیں اسی طرح حدیث رسول اللہ ﷺ سے بھی نہایت صراحت سے ثابت ہو گیا کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہیں اور حضور آخر النبیین ہیں۔

۲۔ حدیث..... ”سبکون فی امتی کذا یون ثلاثون کلہم یزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی“

ترجمہ..... یعنی میری امت میں تیس جھوٹے ہوں گے ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا نبی سمجھے گا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یعنی میرے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ نہ ملے گا اور جن نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔

اس مضمون کو امام بخاری (ج ۱ ص ۵۰۹) باب علامات النبوة فی الاسلام اور مسلم ج ۲ ص ۳۹۷ فصل فی قوله ان بین یدی الساعة کذا یون اور ابوداؤد



ج ۲ ص ۱۲۷ باب ذکر القتن و دلائلہا اور ترمذی ج ۲ ص ۴۵ باب ماجاء لا تقوم الساعة حتی یخرج کذابون وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں تامل کرنے سے کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

اول! یہ کہ حضور انور ﷺ پیشین گوئی فرماتے ہیں کہ میرے بعد میری امت میں جموٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے۔

دوم! یہ کہ ان کے جموٹے ہونے کی یہ علامت بیان فرمائی کہ امت محمدی ہونے کا دعویٰ کریں گے اور اپنے آپ کو امتی کہہ کر نبوت کے مدعی ہوں گے۔ یہ علامت مرزا قادیانی میں پورے طور سے پائی گئی اس لئے وہ جموٹے مدعیوں میں ہوئے۔

سوم! ان کے جموٹے ہونے کی یہ دلیل فرمائی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یعنی وہ جموٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرا خاتم النبیین ہونا ان کے جموٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اس سے خاص طور سے اس مدعی کا جھوٹا ہونا ثابت ہوا جو اپنے آپ کو امتی کہہ کر نبوت کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو امتی نبی کہے۔ اور مرزا قادیانی نے ایسا ہی کیا۔ اس لئے بموجب ارشاد جناب رسول اللہ ﷺ کے مرزا قادیانی جموٹے ٹھہرے اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔

چہارم! نہایت صراحت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ لفظ خاتم النبیین کے معنی فقط آخر النبیین کے ہیں۔ جس طرح محاورہ عرب اور لغت سے پہلے ثابت کیا گیا کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے بھی نہایت صفائی سے یہ ثابت ہوا، اور یہ معنی نہیں ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ انبیاء کی مہر ہیں۔ یا زینت ہیں اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جملہ ان مدعیوں کے جموٹے ہونے کی دلیل میں بیان ہوا ہے۔ اگر مہر کے معنی لئے جائیں تو ان مدعیوں کے جموٹے ہونے کی یہ دلیل نہیں ہو سکتی۔ یعنی پہلے یہ ارشاد ہوا کہ میری امت میں جموٹے مدعی پیدا ہوں گے۔ پھر ان کی یہ حالت بیان فرمائی کہ ان میں ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس ارشاد کے بعد آپ فرماتے ہیں۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کا نہایت صاف مطلب یہی ہے کہ خدا نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لئے ان کا دعویٰ نبوت کرنا ان کے جموٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اب اگر خاتم النبیین کے معنی مہر کے لئے جائیں تو کوئی مرزائی بتائے کہ حدیث کے کیا معنی ہوں گے؟ مگر

یہ یقینی بات ہے کہ اگر یہاں خاتم کے معنی مہر کے لئے جائیں تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا بلکہ حدیث کے مطلب کو بگاڑ دے گا۔ دوسرے یہ کہ خاتم النبیین کے بعد جملہ لا نبی بعدی کا اضافہ کیا گیا۔ جس سے نہایت واضح ہو گیا کہ انا خاتم النبیین کے یہی معنی ہیں کہ میں آخر النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یہ بیان دو طریقوں سے ثابت کرتا ہے کہ یہاں خاتم کے معنی مہر کے نہیں ہیں بلکہ آخر کے ہیں۔

پہلا طریقہ! یہ کہ جملہ اَنَا خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ مدعیان نبوت کے جمونے ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی وہ مدعی اس لئے جمونے ہوں گے کہ میں آخر النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لئے اس کا یہ دعویٰ اس کے جمونے ہونے کی دلیل ہے۔

دوسرا طریقہ! یہ ہے کہ اس کے بعد لا نبی بعدی کہہ کر اس کی شرح کر دی اور فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی کی طرح کا نہیں ہے۔ کیونکہ عربی دان واقف ہیں کہ یہاں لافنی جنس کا ہے اور لفظ نبی نکرہ ہے۔ اس لئے ہر قسم کے نبی کی نفی ہو گئی۔

تجہم! اس حدیث کے الفاظ اور معنی پر نظر کرنے کے بعد جب واقعات پر نظر کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ آنحضرتؐ کے بعد بعض نبوت تشریحی کے مدعی ہوئے۔ جیسے صالح بن طریف متقدمین میں اور بہاء اللہ بابی متاخرین میں اور بعض غیر تشریحی نبوت کے جیسے ابویسنی وغیرہ ان سب کے جمونے ہونے کی آپؐ نے یہی دلیل بیان فرمائی کہ میں آخر النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اس لئے وہ جمونے ہیں۔ اس سے قطعی اور یقینی طور سے ثابت ہو گیا کہ آپؐ کے بعد تشریحی غیر تشریحی۔ امتی، غیر امتی، ظلی، بروزی، کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا۔ کیونکہ خاتم کی اضافت نے اور لا نبی بعدی کے لائے نفی جنس نے ہر قسم کے نبی کی نفی کر دی۔ اس کو اہل علم خوب جان سکتے ہیں۔ اس لئے ثابت ہوا کہ جو رسول خداؐ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ خصوصاً جو امتی نبی ہونے کا مدعی ہو اس کا جھوٹا ہونا تو آفتاب نمروز کی طرح اس حدیث سے روشن ہو گیا۔

ششم! اس حدیث سے آیت قرآنیہ وَلَیْکِنْ رُّسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ کی تفسیر بھی پورے طور سے ہو گئی اور وحی خداوندی کی تفسیر صاحب وحی نے کر دی اور وہ تفسیر بھی الہام خداوندی سے کی جس کا ذکر اوپر کیا گیا اور یہ تفسیر بالکل محاورہ عرب کے مطابق ہے۔ آخر میں مجھے یہ کہنا ہے کہ مذکورہ حدیث میں جو تیس جمونے مدعیوں کے آنے کی خبر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں

ہے کہ قیامت تک تمیں ہی جھوٹے آئیں گے اور ان کے سوا اگر اور مدعی ہوں گے تو بچے ہوں گے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ غرض یہی ہے کہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ اس کا اثبات بالمشافہ کیا جائے گا اور آپ اور حاضرین جلسہ دیکھ لیں گے کہ الفاظ حدیث سے کس خوبی سے ثابت کر دیا گیا کہ جناب رسول اللہ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اگرچہ تمیں ہزار مدعی ہوں۔

الغرض اس حدیث میں جو علامت جھوٹے مدعیان نبوت کی بیان ہوئی وہ مرزا قادیانی میں یقینی طور سے پائی جاتی ہے اور حدیث کا آخری جملہ بھی انہیں کاذب ثابت کرتا ہے۔ اس حدیث کے سوا اور بھی حدیثیں اس مضمون کی اس قدر ہیں کہ اس کے متواتر ہونے میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا۔ بعض روایتیں اور بیان کی جاتی ہیں۔

۳۔ حدیث..... ”انا العاقب والعاقب الذی لیس بعده لی“

صحیح بخاری (ج ۵ ص ۵۰۰ باب ماجاء فی اسناد رسول) اور مسلم (ج ۳ ص ۲۶۱ باب فی السلام علیہ) مطلب! رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جس طرح پہلی حدیث سے ثابت ہوا تھا کہ حضور انور ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اسی طرح اس حدیث سے بھی ثابت ہوا۔

ابوموسیٰ اشعری کہتے ہیں

۴۔ حدیث..... ”کان رسول اللہ ﷺ یسمی لنا نفسه اسماء فقال انا محمد واحمد والمقفی“

مطلب! رسول اللہ ﷺ نے اپنے متعدد نام بیان فرمائے ہیں اور فرمایا ہے کہ میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور مقفی ہوں اور مقفی کے معنی محدثین نے وہی بیان کئے ہیں جو عاقب کے ہیں۔ یعنی آخر الانبیاء اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے (نودی شرح مسلم وغیرہ دیکھو)

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جناب رسول اللہ کا نام احمد بھی ہے۔ یہ وہ نام مبارک ہے جو قرآن شریف میں نہایت صریحت سے آیا ہے اور کلام الہی بتا رہا ہے کہ یہ نام مبارک جناب رسول اللہ کا ہے۔ اس حدیث میں اس اجمال کی جو قرآن شریف میں تھا اور زیادہ تفصیل کر دی۔ اب کسی کاذب کو جائے دم زدن نہیں ہے۔ اب بعض قادیانیوں کا یہ کہنا کہ یہ نام حضور انور کا نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد کا ہے۔ محض غلط ہے، غلام ہو کر مولیٰ بننا چاہتے ہیں۔

۵۔ حدیث..... ”کانت بنو اسرائیل تسو سہم الا انبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء لیکثرون قالوا ماتا مرنا قال فوا بیعة الاول فالاول اعطوہم حقہم وان اللہ سألہم عما استرعائہم۔“

صحیح بخاری (ج ۱ ص ۳۹۱ باب ما ذکر من بنی اسرائیل)

مطلب! ”بنی اسرائیل پر انبیاء حکومت کرتے تھے جب کوئی نبی انتقال کرتا تو ان کی جگہ دوسرا نبی قائم ہوتا تھا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے البتہ خلفاء ہوں گے (جو مسلمانوں کے تمام امور کا نظم کریں گے) اور ان کی کثرت ہوگی۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ آپؐ ہم کو کیا ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جب بہت سے ہوں گے تو اگر ایک وقت میں کئی ہوئے تو ہم کو کیا کرنا چاہئے۔“

”حکم ہوا جس سے پہلے بیعت کر لو اس کو پورا کرو اور ان کے حقوق کو پورا کرتے رہو۔“

اللہ تعالیٰ خلفاء سے ماتحت کی نسبت سوال کرے گا کہ کس طرح انہوں نے رعیت سے برتاؤ کیا۔“

اس حدیث سے نہایت صفائی سے ظاہر ہو گیا کہ آپؐ کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ اس میں لفظ ختم یا خاتم نہیں ہے۔ جس کے معنی میں گفتگو کی گنجائش ہو سکے بلکہ صاف طور سے یہ ارشاد فرمایا ”لا نبی بعدی“ جس کے معنی قطعی طور سے یہی ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی کسی طرح کا نہیں ہے۔

اس کے معنی سوا اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث اس کتاب کی ہے کہ جس کی صحت کا مرتبہ بعد قرآن مجید کے مسلمات سے ہے اور اس کا مضمون وہ ہے جس کی تائید قرآن مجید سے صاف

طور سے ہوتی ہے۔“ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

”وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ“ (النور: ۵۵)

مطلب! (جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ بلا شک و شبہ تم تمہیں ملک میں خلیفہ اور حاکم بنائیں گے جیسا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں بتائے تھے۔)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہؐ پر اپنا انعام ظاہر فرماتا ہے اور نہایت صاف طور سے صرف خلافت کا وعدہ دیتا ہے۔ چنانچہ اول ظہور اس کا خلفاء راشدین سے ہوا۔ سب سے اول حضرت ابو بکر صدیقؓ خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عمرؓ، ان کے بعد حضرت عثمانؓ غنیؓ، ان کے بعد حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ ہوئے۔ یہ زمانہ خلافت راشدہ کا ہوا۔ اس کے بعد اور خلفاء ہوتے رہے

اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ مگر اس آیت میں یا کسی اور آیت میں یہ وعدہ ہرگز نہیں ہے کہ تم میں ہم نبی پیدا کریں گے۔ حالانکہ اس آیت میں اس کے ذکر کا موقع تھا۔ کیونکہ اللہ پاک اپنا احسان ان پر جتا رہا ہے۔ اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا تو آیت میں ضرور اس کا بھی وعدہ ہوتا۔ حدیث مذکورہ نے اس آیت کی کامل تفسیر کر دی کہ امت محمدیہ میں خلافت ہوگی نبوت نہ ہوگی۔ آیت سے ضمناً اور طبعاً سمجھا جاتا تھا۔ حدیث نے اس کی تفسیر کر دی اور اس آیت و حدیث سے خاتم النبیین کے معنی کی شرح بھی ہو گئی۔ یعنی رسول اللہ ﷺ خرا لانیاء ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

”رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔“

۶۔ حدیث..... ”لم یبق من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرویا الصالحة“ (بخاری ج ۲ ص ۱۰۳۵ باب مبشرات)

مطلب! اب نبوت باقی نہیں رہی البتہ اچھے خواب باقی ہیں۔ مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا یہ ارشاد مرض موت میں تھا۔

اس وقت میں یہ ارشاد فرمانا نہایت صاف دلیل ہے اس بات کہ کہ آپ اپنی امت کو متنبہ کرتے ہیں کہ دیکھو نبوت ختم ہو گئی ہے۔ میری نبوت کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اسے سچا نہ سمجھنا۔ یہ معمولی حدیث نہیں ہے۔ یہ صحیحین کی حدیث ہے اس کی صحت پر امت محمدیہ کا اتفاق ہے۔ اس کی تائید میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مضمون متواتر ہے بطور نمونہ یہاں چند حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔

۷۔ حدیث..... ”قال یا ایہا الناس انه لم یبق من مبشرات النبوة الا الرویا الصالحة“

(ابوداؤد ج ۱ ص ۸۹ باب الدعاء فی الركوع والسجود اور نسائی ج ۱ ص ۱۱۱ باب الامر بالاجتهاد فی الدعاء فی السجود)

مطلب! (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے لوگو! نبوت کی بشارتوں سے کچھ باقی نہیں رہا۔ مگر اچھے خواب، یہ حدیث بھی مرض موت میں حضور انور ﷺ نے بیان فرمائی ہے)

امام احمد کنز العمال ج ۱۵ ص ۳۷۷ حدیث نمبر ۶۴۶۰ ج ۶ نمبر ۳۳۸۱ اور ابن ماجہ مسلم ج ۱ ص ۱۹۱ باب النبی عن قراۃ القرآن فی الركوع وسجود اور طبرانی ج ۳ ص ۱۷۹ حدیث نمبر ۳۰۵۱ روایت کرتے ہیں۔

۸۔ حدیث..... ”ذهبت النبوة وبقيت المبشرات“

(ابن ماجہ ص ۲۷۸ باب الرؤیا الصالحہ) الخ

مطلب! نبوت ختم ہو چکی اور مبشرات باقی ہیں یعنی رسول اللہ ﷺ کے بعد نبوت باقی نہیں رہی آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا البتہ خواب باقی ہیں۔

جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد نائب رسول اللہ ﷺ اور کالمین امت کو سچے خواب ہوتے رہیں گے۔ جس سے امت کو آئندہ کی خبریں معلوم ہوتی رہیں گی۔ جن سے انہیں بشارت ہوتی رہے گی۔ اس حدیث کو طبرانی اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے یہ دونوں بڑے محدثوں میں ہیں۔ محدث ابی یعلیٰ روایت کرتے ہیں

۹۔ حدیث..... ”ان الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا نبی ولا رسول بعدی“

(واللفظ لفار رسول بعدی ولا نبی، مستدرک حاکم ج ۵ ص ۵۵۷ حدیث نمبر ۸۲۳۹)

مطلب! (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی۔ میرے بعد اب نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ رسول ہوگا۔)

یہاں تک قرآن مجید کی دو آیتوں اور نو حدیثوں سے ثابت کر دیا گیا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور پہلی حدیث میں تو نہایت صاف طور سے رسول اللہ ﷺ اپنے آپ کو آخر النبیین فرما رہے ہیں اور چھ حدیثوں میں لفظ ختم یا خاتم نہیں ہے۔ جس کے معنی میں جائے دم زدن ہو۔ دوسری حدیث میں لفظ خاتم النبیین کا آیا مگر اس کے بعد ”لا نبی بعدی“ نے اس کی پوری شرح کر دی کہ خاتم کے معنی آخر کے ہیں مہر کے نہیں ہیں۔ اب ان نصوص صریحہ کے بعد امت محمدیہ میں نبوت کو باقی رکھنا صریح خدا اور رسول کے فیصلہ سے انکار کرنا ہے مگر صریحہ نہیں۔ باتیں بنا کر، اس میں شبہ نہیں کہ مرزا غلام احمد کو سچا مان کر یہ کہنا کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں ایسا ہی ہے جیسا یہود کو سالہ پرستی کرنے کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم توریت کو مانتے ہیں۔

غرضیکہ اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد منصب نبوت باقی نہیں رہا۔ اس لئے اب جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ اس کے جھوٹا ہونے میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے نص قطعی سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ آخر النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کسی کو مرتبہ نبوت نہ ملے گا۔ اسی طرح احادیث صحیحہ

متواتر سے بھی نہایت صراحت سے بالیقین ثابت ہو گیا کہ آپ کے بعد مرتبہ نبوت کسی کو نہ ملے گا۔ اس کی وجہ بھی نہایت معقول بیان کر دی گئی۔ اب بعض جاہل قادیانیوں کا بعض آیت قرآنیہ کو پیش کر کے امت محمدیہ ﷺ میں نبوت کو ثابت کرنا محض ان کی جہالت اور بے خبری کی دلیل ہے۔ میاں قاسم علی نے اس بات میں رسالہ لکھا تھا۔ اس کے دو جواب لکھے گئے ہیں۔ ایک فشی پیر بخش لاہوری نے لکھا، دوسرا صوبہ بہار کے ایک عالم نے لکھا ہے اور وہ مشتہر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد قاسم علی مرزائی اور ان کے معین و مددگار سب دم بخود ہیں۔

اب سیالکوٹی ظرک آنکھیں کھول کر اپنے مرشد کے کذب کے دلائل کو دیکھیں کہ کس صفائی سے قرآن مجید سے صحیح حدیثوں سے مرزا قادیانی جھوٹے ثابت ہوئے۔ اب وہ یہ بتائیں کہ ان کا چیلنج انہیں سچا ثابت کر سکتا ہے؟ انہوں نے میرے اعلان کے جواب میں بھیجا ہے۔ کیا حضرت مسیح کی موت کے ثبوت سے یہ آیات واحادیث دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں گی اور مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت لائق توجہ ہو سکے گا؟ کیا ان کی پیشین گوئیوں کے جھوٹا ہونے اور ان نصوص قطعہ اور احادیث صحیحہ سے قطعاً اور یقیناً کاذب نہیں ہوئے؟ ضرور ہوئے۔ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔

مولانا عبداللطیف صاحب کے چیلنج کو ایک سال سے زیادہ ہوا مگر کسی قادیانی مربی کی جرأت نہ ہوئی کہ جواب دے۔ یہی مضمون فیصلہ آسمانی حصہ سوم میں لکھا گیا ہے اور مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کیا گیا ہے۔ اس کو چھپے ہوئے چوتھا برس ہے۔ اب عبدالکریم مرزائی سیالکوٹی دکھائیں کہ کس نے اس کا جواب دیا۔ پھر کس منہ سے وہ ایک بیکار چیلنج ہمارے پاس بھیجتے ہیں اور اپنے مربیوں کو اور خلیفہ کو شرم نہیں دلاتے کہ جب تک ان رسالوں کا جواب نہ دیا جائے تو کس منہ سے مرزا کے دعویٰ نبوت کا اعلان و پایا جاتا ہے اور اس جھوٹے دعوے پر پردہ ڈالنے کے لئے خواہ مخواہ حضرت مسیح کی حیات و ممات کی فضول بحث کو چھڑا جاتا ہے۔ اگر حضرت مسیح مر گئے اور دوسرا کوئی شخص مسیح موعود ہے تو وہ ایک مقدس پاکباز شخص ہوگا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والا مرزا قادیانی کی طرح جھوٹا ہو؟ جس کا جھوٹا ہونا قرآن وحدیث سے، اس کے اقوال سے، عقل سلیم سے، ہر طرح ثابت ہو گیا ہو، اور آنے والے مسیح کی جو علامتیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ بھی نہیں پائی گئیں۔ چھپے اس اور یہ عثمانیہ کے دوسرے حصہ میں ان کا ذکر ہوا ہے۔

غرضیکہ جب ہم نے مرزا قادیانی کا کاذب ہونا کامل طور سے ثابت کر دیا ہے تو اب

ہمیں حضرت مسیحؑ کی حیات و ممات پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر سیا لکھوئی مرزائی یا کوئی مرزائی ضرورت ثابت کرے تو سامنے آئے اور ثابت کر کے دکھائے، مگر ہرگز ثابت نہیں کر سکتا۔ آخر میں راقم یہ بھی کہتا ہے کہ حیات مسیحؑ کے ثبوت میں متعدد رسالے لکھے گئے ہیں اور مرزا قادیانی نے جو کچھ حضرت مسیحؑ کی ممات کے ثبوت میں اپنی جدت دیکھائی ہے اس کی ایسی دوجیاں اڑائی گئی ہیں کہ باید و شاید اور بڑے بڑے رسالے لکھے گئے ہیں۔ میں چند نام مع مختصر کیفیت کے لکھتا ہوں۔

## حیات المسیح علیہ السلام کے ثبوت میں رسائل

۱۔ الحق الصریح فی حیات المسیح..... مولانا محمد بشیر مرحوم سے مرزا قادیانی کا دہلی میں اسی مسئلہ پر مناظرہ ہوا مگر مرزا قادیانی اسے ناتمام چھوڑ کر قادیان بھاگے اور مولانا نے یہ رسالہ پورا کر کے ۱۳۰۹ھ میں مطبع انصاری دہلی میں چھپوایا۔

۲۔ الالہام الصحیح فی حیات المسیح..... یہ رسالہ ۱۳۱۱ھ میں مولانا غلام رسول صاحب نے عربی زبان میں نہایت قابلیت سے لکھ کر چھپوایا ہے اور تازہ نگہی کہتے رہے کہ اگر مرزا قادیانی نے یا حکیم نور الدین قادیانی نے اس کے جواب میں قلم اٹھایا تو پھر ایسا جواب دیا جائے گا کہ ہوش جاتی رہے گی مگر دونوں صاحبوں نے دم نہیں مارا اور دنیا سے تعزیر لے گئے۔

۳۔ شہادۃ القرآن..... اس میں دو باب ہیں، پہلے باب میں آیات قرآنیہ سے حضرت مسیحؑ کی حیات ثابت کی ہے اور دوسرے باب میں مرزا قادیانی کے دلائل ممات کو غلط ثابت کیا ہے یہ باب دوم ۱۳۲۳ھ میں اور پہلا باب اس سے دو برس پہلے چھپا ہے۔ یہ دونوں باب ۳۰۶ صفحوں پر چھپے ہیں۔

۴۔ السیف الاعظم..... مقام لنگ میں بعض مرزائیوں نے مناظرہ کا غل کیا تھا۔ وہاں کے ایک بھدر داسلام سید مکرم علی صاحب رئیس اعظم نے مولوی غلام مصطفیٰ صاحب سہوانی کو مناظرہ کے لئے بلایا۔ مگر قادیانی صاحب کسی طرح سامنے نہ آئے۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا۔ ممات



مسح پر مولانا نے اسی کے جواب میں ۱۳۲۸ھ میں یہ رسالہ لکھا اور ۱۹۱۰ھ میں مطبع فخر المطالع لکھنؤ میں چھپوایا ہے۔ مگر اس کے جواب سے بھی قادیانی عاجز رہے۔

یہ چار رسالے تو مدت سے چھپے ہوئے مشہور ہیں۔ پہلا رسالہ ۲۶ برس سے اور دوسرا ۲۴ برس سے مشہور ہے۔ پھر کیا ہیڈ کلرک سیالکوٹی نے ان رسالوں کو نہیں دیکھا اور اگر دیکھا ہے تو ان باتوں کا جواب نہیں پایا ہے جو انہوں نے اپنے جینچ میں لکھی ہیں۔ ان رسالوں کو مکرر دیکھیں اور پھر ہمیں لکھیں کہ ہماری فلاں بات کا جواب نہیں دیا گیا حالانکہ اس کا جواب دینا ضرور تھا۔ پھر ہم انہیں سمجھا دیں گے اور ان کی نادانی اور ناواقفگی کو دکھا دیں گے۔ ایک جدید رسالہ جو خانقاہ رحمانیہ منگلیر میں حیات مسیح پر لکھا گیا ہے وہ عجیب رسالہ ہے۔ اس میں قرآن مجید سے اور احادیث سے اور اجماع امت سے اور مرزا قادیانی کے مسلمات سے حضرت مسیح کی حیات کو ثابت کیا ہے اور مرزا کے دعوے قرآن دانی کی وہ دھجیاں اڑائی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ مگر یہ رسالہ اب تک چھپا نہیں ہے۔ حیات مسیح اس کا نام ہے۔

آخر میں پھر کہوں گا کہ ہم نے مرزا قادیانی کو نہایت قطعی دلیلوں سے جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ اب ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات و ممات پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرزائی پہلے ہمارے الزامات کو اٹھائیں اور ان کا راستباز اور نیک ہونا ثابت کریں پھر اس کے بعد حیات و ممات پر بحث کریں۔

سرکاری محکمہ میں جگہ خالی ہونے سے اسی کو جگہ مل سکتی ہے جو پاس حاصل کر چکا ہو اور جس نے کوئی پاس نہیں کیا اور اس کا چال و چلن بھی اچھا نہیں ہے وہ اس جگہ کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ مرزا قادیانی نے تو اسلای سرکار میں راستبازی کا پاس بھی حاصل نہیں کیا، پھر وہ حضرت مسیح کے عہدہ جلیلہ پر کیونکر فائز ہو سکتے ہیں؟ حضرت مسیح کے انتقال کر جانے سے مرزا قادیانی سے وہ الزامات نہیں اٹھ سکتے جن سے وہ قطعی کاذب ثابت ہو چکے ہیں۔ خیال کیجئے کہ جو آیت و احادیث میں اوپر نقل کر آئی ہوں۔ جن سے مرزا قادیانی یقینی طور سے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ انہیں قرآن و حدیث سے مرزائی نکال کر صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے؟ کیا ہمارے علماء کے سامنے ان کے معنی میں تحریف کر کے اپنے مدعا کے موافق کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کے خلاف دعویٰ ہو تو اپنے کسی بڑے مربی کو سیالکوٹی سامنے لائیں۔ مگر ہم یہ بھی پیشین گوئی کرتے ہیں کہ کوئی مرزائی سامنے نہ آئے گا۔ ”وَاللّٰهُ مَعِمْ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ“۔

اس میں شبہ نہیں کہ حضرت مسیحؑ کی حیات و ممات کے مسئلہ کو سب سے اوّل پیش کرنا خاص اس غرض سے ہے کہ مرزا قادیانی کے کذب پر پردہ ڈالا جائے۔ چونکہ ان کے بڑے خوب جان چکے ہیں کہ ہم مرزا کی صداقت ثابت نہیں کر سکتے اس لئے اس بحث کو اپنی سپر بنا رکھا ہے۔ جاننے ہیں کہ اس میں علمی بحث پیش آئے گی اور عوام اسے نہیں سمجھیں گے اور بحث بھی طویل ہے اس لئے اس میں اس قدر دیر ہوگی کہ مرزا کی پردہ دردی کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ یہ طریقہ مرزا قادیانی نے ہی تعلیم کیا ہے کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حضرت مسیحؑ کی ذات میں جو خوبیاں ہیں وہ مجھ میں نہیں ہیں۔ ان کے آنے کی جو علامتیں صحیح حدیثوں میں آئی ہیں وہ اس وقت ہرگز نہیں پائی گئیں۔ مگر چونکہ انہیں مذہب سے کچھ واسطہ نہیں ہے اس لئے جھوٹی باتیں بنا کر بہت مسلمانوں کو گمراہ کیا اور مخالفین اسلام کو اعتراض کا موقع دیا۔ انہیں کے پیروسیا لکھنی ہیں۔ چند ورق کا قتلچ لکھ کر اپنی جہالت سے یہ خیال کر لیا کہ ہماری تحریر لا جواب ہے۔ انہیں چاہئے کہ ذرا ہمت کر کے ہماری تحریر کا جواب دیں اس کے بعد دوسری بات کریں۔

### مرزا بنیوں کا فریب

جن کو خوف خدا اور حق طلبی ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ قادیانی مرزا کا جھوٹا ہونا قرآن شریف اور احادیث اور خود ان کے اقراروں سے ثابت کر دیا گیا اور اس باب میں تیس چالیس رسالوں سے زیادہ لکھ کر شائع کر دیئے گئے اور تمام مرزائی ان کے جواب سے عاجز ہیں۔ مگر جس طرح قدیم عیسائی پادری باوجود لا جواب ہو جائیں گے اپنے مذہب کی اشاعت میں کوشاں ہیں۔ اسی طرح مرزائی بھی کوشاں ہیں اور اب دو طرح سے انہوں نے فریب دینا اختیار کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جہلاء کو قرآن شریف میں تحریف کر کے جا بجا غلط معنی سکھادیئے ہیں وہ اپنی جماعت میں بیٹھ کر قرآن شریف کا درس دیتے ہیں اور مرزا قادیانی کی تعریف قرآن شریف سے ثابت کرتے ہیں اور عوام کو فریب دیتے ہیں۔ بھائی مسلمان اس اندھیر کو ملاحظہ کریں کہ جس کا جھوٹا ہونا یقینی طور سے دکھایا گیا ہو اس کی تعریف قرآن شریف میں ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہو تو قرآن مجید منجانب اللہ نہ رہے (نعوذ باللہ) دوسرا فریب یہ ہے۔ جب کوئی ان سے مناظرے کی درخواست کرتا ہے تو حضرت مسیحؑ کی حیات و ممات کی بحث کو پیش کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اگر حضرت مسیحؑ مر بھی گئے تو ایسا جھوٹا شخص کیونکر مسیح ہو سکتا ہے؟ جس کا جھوٹا ہونا قرآن و حدیث کے علاوہ اسی کے پختہ اقراروں سے ثابت ہو گیا ہو۔ اس لئے مرزا بنیوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ ان کی صداقت ثابت کریں اور ہمارے رسالوں کا جواب دیں۔ فقط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم  
سورة الفاتحة

# صحیفہ رحمانیہ

(۱۵)

حضرت مولانا حکیم محمد یعسوب مونگیری

جس میں ختم نبوت پر دلائل اور امت محمدیہ کے فضائل بیان کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹا ہونا قرآن و احادیث سے ثابت کیا ہے۔ اور جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد نبی نہ آنے کا ایک عجیب سیر عظیم دکھایا ہے۔ جس سے حضور سرور انبیاء کی شان رفعت اور امت محمدیہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔

## اظہار واقعہ

موتگیر خانقاہ رحمانی سے مولانا مفتی عبداللطیف صاحب و مولانا محمد عبدالشکور صاحب لکھنؤی تبلیغ و اشاعت کی غرض سے بھاگلپور و پوربئی تشریف لے گئے تھے دونوں صاحبوں کی وہاں تقریریں ہوئیں اور عبدالماجد قادیانی سے جو قادیانیوں کے سرکردہ شمار کیے جاتے ہیں مناظرہ کی بار بار درخواست کی گئی۔ مگر عبدالماجد قادیانی گریز کرتے رہے۔ ایک دن عبدالماجد قادیانی کچھ بیکے ہوئے اشخاص کو پختہ کرنے کے لیے اپنے دولت کدہ پر وعظ کا سامان کر رہے تھے کہ اچانک حضرات علمائے کرام ایک جماعت کے ساتھ عبدالماجد قادیانی کے مکان پر پہنچ گئے اور مولانا عبدالشکور صاحب نے مرزا قادیانی کے صدق و کذب پر گفتگو کرنی شروع کر دی چنانچہ جب مرزا قادیانی کا کذب ثابت کر دکھایا گیا تو عبدالماجد قادیانی نے اپنے نبی کی صداقت میں ایسی باتیں پیش کیں جس کا غلط ہونا قرآن مجید سے اس وقت ثابت کیا گیا اور اس کے بعد عبدالماجد قادیانی پر ایسی بدحواسی طاری ہوئی کہ قرآن مجید ہاتھ میں لیکر بسم اللہ تک صحیح نہ پڑھ سکے۔ اور ان کی اس حالت نے مرزا قادیانی کے کذب و دجل کا گویا معائنہ کرادیا۔ اگر مرزائی حضرات کے قلب میں

حق طلبی اور خوف خدا ہوتا تو اسی وقت مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے پر ایمان لے آتے۔ مگر اس کے خلاف محض حقانیت کے چھپانے کے لیے مرزائی حضرات نے دوا اشتہار شائع کر دیئے جس میں دروغ بے فروغ کا انبار۔ اور علمائے کرام پر سب و شتم کی بوچھاڑ کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ جس کا صریح مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو غصہ دلا کر اصل مقصد سے علیحدہ کر کے دوسری باتوں کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔

اسی طرح ظریف مرزائی نے اپنے اشتہار میں صرف یہ کہہ کر اپنے مذہب کے پیروؤں کو خوش کر دیا کہ کتاب فیصلہ آسمانی پاگل کی بڑے جس کا آج تک بڑے سے بڑے مرزائی سے جواب نہ ہو سکا۔ اور نہ مشتہر انعام لینے کی اہمت کر سکے۔

اس کے علاوہ مسیح قادیان کے جھوٹے ہونے کی دلیلوں میں بہت رسالے لکھ کر شائع کیے گئے جس کے جواب سے مرزائی امت اب تک عاجز ہے جن میں (۱) قرآن مجید کے نصوص قطعیہ سے (۲) صحیح حدیثوں سے (۳) خود ان کی پیشینگوئیوں کے جھوٹے ہو جانے سے (۴) جھوٹے حوالوں اور اعلانیہ دروغ گوئیوں سے (۵) اپنے پختہ اقراروں سے جھوٹے اور کاذب تمام دنیائے اسلام کے نزدیک ثابت ہوئے اور ان کا کذب و دجل آفتاب کی طرح روشن اور ظاہر کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے اصحاب اور خواص کی روش ان کی تہذیب و شائستگی ان کی بدزبانی مرزا قادیانی کے حالات اور اثرات کا آئینہ بن کر مسلمانوں کے سامنے موجود ہے جس سے مرزا قادیانی کا نیک انسان ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا بزرگی اور نبوت تو بڑی بات ہے۔

محمد یعسوب موکیری



## بسم اللہ الرحمن الرحیم ۵

اس خدائے برتر و توانا کا صد ہزار احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنے ایسے نبی مرسل کی امت میں پیدا کیا جس کی شان رفعت کا اندازہ ہماری محدود عقل صحیح طریقہ پر کرنے سے معذور ہے اور جو دنیا میں رحمتہ للعالمین اور خاتم النبیین بن کر اسلام جیسا محکم اور سچا دین لایا۔ اور جس نے نور کو ظلمت سے جدا کر کے اللہ کے بتلائے ہوئے راہ کی رہنمائی فرمائی۔ جو عقل و فہم کے عین مطابق ہے۔

صوب پنجاب کے ایک قصبہ میں جو قادیان کے نام سے موسوم ہے وہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جو کبھی بروزی ظلی کے رنگ میں کبھی تشریفی اور کبھی غیر تشریفی کے رنگ میں اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا۔ اور شیطانی الہاموں، پیشینگوئیوں و جی کی بارشوں میں اس قدر بدحواس ہو گیا کہ کبھی ابن اللہ اور کبھی خود خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر بیٹھا۔ اور اس غلط روی کے باوجود ایک جماعت نے اسے اپنا امام۔ مجدد۔ مرسل۔ نبی مان لیا جسے عام مسلمان اپنی نادانیت اور جہالت سے اسلام کا سچا خیر خواہ تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جماعت اپنے اصول کے لحاظ سے اسلام سے کوسوں دور ہے اور ایک عظیم گمراہی میں مبتلا ہے۔ چنانچہ حضور سرور عالم ﷺ پر نبوت کا ختم ہونا قرآن مجید و احادیث صحیحہ سے مسلم ہے مگر یہ جماعت اس امر کے ثبوت کے باوجود مدعی نبوت قادیانی کو اپنا پیشوا اور نبی مانتی ہے اور اس کو اس پر اصرار ہے۔ ہر وہ انسان جسے امت محمدیہ میں ہونے کا فخر حاصل ہے اور اس امر کا وہ کامل یقین رکھتا ہے کہ انسان کو حیات ابدی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ وہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کا پورا پیرو اور تمام باتوں کو ماننے والا ہو۔ بتقاضائے نفس ”نُوْ مِنْ بَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ“ اس کی حالت نہ ہو تو اپنے رسول برحق جناب نبی کریم ﷺ کی پیشینگوئیوں پر پورا اعتقاد رکھے گا۔ اور اس کا ایک ایک حرف پر کامل ایمان ہوگا۔

رسول برحق ﷺ کی پیشینگوئی ملاحظہ ہو۔ (۱) ”سَبِّحُوْهُ فِیْ اٰمِنِیْ كَذٰلَکَ اَبُوْنِیْ فَلَا تُؤْنِ کُلُّهُم یَزعم انه نبیُّ وَاَنَا خاتم النبیین لانیسی بعدی ولا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم حتی یتاتی امر اللہ“

(ابوداؤد ج ۳ ص ۱۲۷ باب ذکر الفتن و دلائلہا)

میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہونے والے ہیں ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے (اس لیے ان کا یہ دعویٰ کرنا ہی ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے) میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر رہے گا اور غالب رہے گا اس کے مخالف اسے ضرر نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ خدا کا حکم و قیامت آجائے اس حدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے کہ میرے بعد میری امت میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے اور ان کے جھوٹے ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی میرے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ نہیں مل سکتا ہے اس سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے خصوصاً وہ جو اپنے آپ کو امت محمدی میں قرار دے کر نبوت کا مدعی ہو اس کا جھوٹا ہونا نہایت ظاہر ہے۔

اس حدیث سے اس کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے ہیں یعنی کلام خدا اور رسول میں جن کو نبی کہا گیا ہے ان سب کے بعد آنے والے جناب رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین مان کر یہ کہنا کہ آپؐ تشریف انبیاء کے خاتم ہیں یا تمام انبیاء کے لیے زینت یا مہر ہیں محض غلط اور قرآن شریف میں تحریف کرنا ہے۔ ان دونوں تراشیدہ معنوں کی غلطی اس حدیث نے ظاہر کر دی۔ اگر خاتم النبیین کے معنی میں کوئی شخص کی جائے یا اس کے دوسرے معنی لیے جائیں تو جملہ ”وَ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي“ ان کا ذبوں کے جھوٹے ہونے کی وجہ نہیں ہو سکتی واقعات اور تاریخ سے ظاہر ہے کہ جن جھوٹے مدعیان نبوت نے جناب رسول اللہ ﷺ کو مان کر دعویٰ کیا ہے ان میں سے کل یا اکثر ایسے ہی ہیں جنہوں نے نبوت غیر تشریفی کا دعویٰ کیا ہے اس لیے ان کے کذب کے لیے حضورؐ کا یہ ارشاد صحیح نہ ہوگا۔ (نحوذ باللہ)

الحاصل یہ حدیث قرآن مجید کے مطابق اور آیت ”وَلَكِنْ رُسُلُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ“ احزاب ۴۰ کے بعض مضمون کی تفسیر ہے اس حدیث نے اول تو خاتم النبیین کے معنی بیان کر دیئے یعنی تمام انبیاء کرام بمنزلہ مقدمۃ الجیش کے تھے، حضرت محمد رسول اللہ ﷺ سلطان الانبیاء ہیں آپؐ آخر میں آئے اب آپؐ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ آپؐ ہی کی ہدایت کا آفتاب قیامت تک چمکتا رہے گا اور آپؐ کی شریعت حقہ کاملہ کی روشنی عمل کرنے والوں کے دلوں کو منور کرتی رہے گی اور کسی جدید شریعت کی انہیں حاجت نہ ہوگی ہاں علمائے امت اور مجددین ہوں گے جو آپؐ کے دین مستقیم کی حقانیت کو ظاہر کرتے رہیں گے اور مسلمانوں کی خراب

حالت کی درنگی ان کا کام ہوگا۔ اور یہ بھی بشارت حضور انورؐ نے دیدی کہ یہ گروہ حقانی، جھوٹوں اور گمراہوں پر غالب رہے گا۔ اس لیے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہ رہی۔ اس مضمون کی شہادت میں بہت حدیثیں پیش کی جاسکتی ہیں، نمونہ کے طور پر چند حدیثوں کے بعض الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ میرے دعویٰ کی صحت میں آپ کو تاثر نہ رہے

۱..... ”لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب“ (ترمذی ج ۲ ص ۲۰۹ باب مناقب عمرؓ)  
 ”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتا اس سے نہایت صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد آپؐ کی امت میں کوئی نبی نہ ہوگا اب جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ حضور انورؐ کو جھوٹا ٹھہراتا ہے“

۲..... ”لانیوۃ بعدی الا المبشرات“

(مسند احمد ج ۵ ص ۴۵۴ کنز العمال ج ۱۵ ص ۳۷۰ حدیث نمبر ۴۱۴۴۲)

”میرے بعد نبوت نہیں ہے مگر بشارات ہیں“

۳..... ”ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی“

(ترمذی ج ۲ ص ۵۱۵ باب ذهب النبوة وبقيت المبشرات)

”بلاشبہ رسالت اور نبوت منقطع ہوگئی میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی ہے“

۴..... عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ مکان سے تشریف لائے اور تین

مرتبہ فرمایا۔ ”انا محمد النبی الامی ولا نبی بعدی“ (مسند احمد ج ۲ ص ۱۷۲)

”میں نبی امی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ حدیثیں امام احمد نے اپنی مسند

میں روایت کی ہیں۔“

۵..... ”ختم ہی الانبیاء و ختم ہی النبیون“

(صحیح بخاری و مسلم ج ۱ ص ۱۹۹ باب المساجد ومواضع الصلوة)

”یعنی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں انبیاء کا خاتمہ مجھ پر کیا گیا“

اس مضمون کی روایتوں سے حدیث کی کتابیں بھری ہیں میں صحابی اس مضمون کی

روایت کرنے والے اس وقت میرے پیش نظر ہیں اور کامل تلاش سے کس قدر ہوں اسے میں نہیں

کہہ سکتا؟ الغرض عام طور سے ختم نبوت کا ثبوت قرآن و حدیث سے کامل طور سے ہے، مگر نبوت

تشریحی اور غیر تشریحی کا فرق کر کے کسی ضعیف روایت میں بھی پتہ نہیں چلتا کہ نبوت غیر تشریحی ختم



نہیں ہوئی، جن صحابہ نے ختم نبوت کی حدیثیں روایت کی ہیں ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: جابر بن عبد اللہ، ابوسعید خدری، ابوالطفیل، ابو ہریرہ، انس بن مالک، عفان بن مسلم، ابی معاویہ، جبیر بن مطعم، عبد اللہ بن عمر، ابی بن کعب، حذیفہ، ثوبان، قتادہ، عبادہ بن الصامت، عبد اللہ ابن مسعود، جابر، عبد اللہ ابن عمر، عائشہ، عبد اللہ ابن عباس، عطار ابن یسار رضی اللہ عنہم۔

مگر یہاں حدیث مذکور کے علاوہ صرف تین حدیثیں نقل کی جاتی ہیں (۲) ”ابن ماجہ ص ۲۹۷ باب قتلة الدجال و خروج عیسیٰ بن مریم“ میں دجال کے بیان میں ایک بڑی حدیث روایت کی گئی ہے اس میں یہ ارشاد ہے۔ ”اَنَا اخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ اخِرُ الْأُمَمِ“ یعنی جناب رسول اللہ ﷺ اپنی امت سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم سب امتوں کے آخر میں ہو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی دوسری امت نہیں، امت محمدیؐ پر دنیا کا خاتمہ ہے اب جن گمراہوں کا یہ خیال ہے کہ آخری امت احمدی ہے محمدی ﷺ نہیں ہے محض غلط ہے جس کی غلطی رسول اللہ ﷺ نے نہایت صاف طور سے بیان فرمادی اور یہ بھی ظاہر کر دیا کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے ہیں (امام بخاری ج ۱ ص ۵۰۱ باب ماجاء فی اسلامہ) رسول اللہ اور مسلم ج ۲ ص ۲۶۱ باب فی اسماء دونوں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد اس طرح روایت کرتے ہیں (۳) اَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ میں عاقب ہوں (پیچھے آنے والا) اور عاقب وہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔

جناب رسول اللہ ﷺ کے نام بہت ہیں، ان میں ایک نام عاقب بھی ہے اس کے معنی پیچھے آنے والا اس حدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ نے اس نام کی شرح فرمادی، جس کا حاصل یہ ہے کہ تمام انبیاء کے پیچھے آنے والا اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ناظرین ان دونوں حدیثوں کو ذرا غور سے ملاحظہ کریں کہ کس صفائی سے جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں آخر النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ان تینوں حدیثوں نے خاتم النبیین کے معنی کی نہایت واضح شرح کر دی، یعنی پہلی حدیث میں تھا ”اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي“ یعنی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہاں تو جملہ ”لَا نَبِيَّ بَعْدِي“ نے خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین متعین کیے تھے دوسری حدیث میں صاف طور سے حضورؐ نے اپنے آپ کو ”اَنَا اخِرُ الْأَنْبِيَاءِ“ فرمایا۔ یعنی میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں تیسری حدیث میں اس کی جگہ ارشاد ہوا۔ ”اَنَا الْعَاقِبُ الْخ“ یعنی میں سب نبیوں کے بعد آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کے

معنی بعینہ وہی ہیں جو دوسری حدیث کے ہیں ان تینوں حدیثوں سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے ہیں۔ غرض کہ اس الہامی لفظ کے معنی صاحب الہام نے بیان فرما دیئے اور حضور انور ﷺ کی زبان مبارک سے مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی غلطی ظاہر ہو گئی اب اس کی تائید کے لیے چوتھی حدیث ملاحظہ ہو۔

(۴) (صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۹۱ باب ما ذکر عن بنی اسرائیل) میں ہے۔ ”کانت بنوا

اسرائیل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدى و سيكون خلفاء فيكثرون قالوا فماتنا مرنا يا رسول الله فال فوابيعة الاول فالاول اعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم“ یعنی بنی اسرائیل پر انبیاء حکومت کرتے تھے جب کوئی نبی انتقال کرتا تو ان کی جگہ دوسرا نبی قائم ہوتا تھا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے البتہ خلفاء ہوں گے (جو مسلمانوں کے تمام امور کا نظم کریں گے اور ان کی کثرت ہوگی) صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ہم کو کیا ارشاد فرماتے ہیں (یعنی جب بہت سے ہوں گے تو اگر ایک وقت میں کئی ہوں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے) حکم ہوا کہ جس سے پہلے بیعت کر لو اس کو پورا کر دو اور ان کے حقوق کو ادا کرتے رہو اللہ تعالیٰ خلفاء سے ماتحت کی نسبت سوال کرے گا کہ کس طرح انہوں نے رعیت سے برتاؤ کیا تم بری الذمہ ہو اس حدیث سے نہایت صفائی سے ظاہر ہو گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا نہیں ہوگا یہ مدعا ان چاروں حدیثوں سے عبارتہ النص ثابت ہے اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔

الحاصل ان حدیثوں سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ حضور انور ﷺ کے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ نہیں دیا جائے گا البتہ جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے جن کا ظہور ہو رہا ہے۔

اب میں مختصر طور سے یہ بیان کرتا ہوں کہ خاتم النبیین کے جو معنی احادیث مذکورہ سے معلوم ہوئے وہی معنی محاورہ عرب سے ثابت ہیں کیونکہ خاتم النبیین میں لفظ خاتم ہے اس میں حرف تا کو زیر بھی ہے اور زبر بھی ہے اگرچہ روایت کے لحاظ سے زیر پر زیادہ مستند اور معتبر ہے کیونکہ زیر کی روایت کرنے والے صرف دو آدمی ہیں باقی جتنے ماہرین قرآن اور قراء ہیں وہ سب زیر کے ساتھ روایت کرتے ہیں البتہ ہندوستان میں زیر کے ساتھ مستعمل اور مشہور ہو گیا ہے اس لیے عوام اسی کو اپنی نادانیت سے ہی صحیح سمجھتے ہیں۔

کلام عرب میں خاتم کے کئی معنی ہیں انگوٹھی، مہر، آخر القوم یعنی جو سب سے آخر میں ہو مگر یہ لفظ جب مضاف ہو جاتا ہے اس وقت کوئی معنی نہیں رہتے بلکہ مضاف الیہ کے اعتبار سے اس

کے معنی خاص ہو جاتے ہیں مثلاً خاتم فہمۃ یعنی انگوٹھی چاندی کی یہاں خاتم خاص انگوٹھی کے معنی میں ہے دوسرے معنی نہیں ہیں اسی طرح جس وقت خاتم کو قوم وغیرہ کی طرف مضاف کریں گے مثلاً خاتم القوم کہیں گے تو اس کے معنی صرف آخروم کے ہوں گے دوسرے معنی نہیں ہوں گے لسان العرب جو اہل زبان کے نزدیک نہایت مستند لغت ہے اس میں لکھا ہے ”عَتَامُ الْقَوْمِ وَخَاتَمُهُمْ وَخَاتَمُهُمْ. آخِرُهُمْ وَهُوَ التَّنْزِيلُ الْعَزِيزُ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِهِمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اِیْ اٰخِرُهُمْ“ (لسان العرب ج ۳ ص ۲۵)

یعنی لفظ خاتم اور خاتم اور خاتم۔ تینوں کو جب مضاف کرتے ہیں اور مثلاً خاتم القوم کہتے ہیں تو اس کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں یعنی ساری قوم کے آخر میں آنے والا اور قرآن مجید میں جو مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اِلَّا فِيهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اس کے معنی یہ ہیں کہ محمد (ﷺ) تمام انبیاء کے آخر میں ہیں اسی طرح جب خاتم لفظ نبیین کی طرف مضاف ہوگا اور خاتم النبیین کہیں گے تو اس کے معنی یہی ہوں گے کہ سب انبیاء کے آخر میں آنے والا اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر اس کے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ دیا جائے تو وہ آخرا انبیاء نہ ہو، یہی معنی اور ماہرین لغت نے لکھے ہیں چنانچہ قاموس اور اس کی شرح تاج العروس میں ہے۔

”الخاتم من كل شيء عاقبته و آخره والخاتم آخر القوم كالخاتم ومنه قوله تعالى وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اِیْ اٰخِرُهُمْ“.

یعنی ہر شے کے انجام اور اس کے آخر کو خاتم کہتے ہیں اسی طرح خاتم القوم آخروم کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو جناب رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین فرمایا ہے اس کے معنی آخرا نبیین کے ہیں یعنی سب انبیاء کے آخر میں آنے والا۔

لغت کی ان تین کتابوں میں پہلے خاتم کے معنی محاورہ عرب سے ثابت کر کے خاص قرآن مجید کی وہ آیات والفاظ جن میں لفظ خاتم آیا ہے اور انھیں کی طرف مضاف ہے اس کے معنی بیان کر دیے اور نہایت وضاحت سے بتا دیا کہ اس کے معنی آخرا نبیین کے ہیں اگرچہ ان تینوں کتابوں کے بیان سابق سے آیت کے معنی معلوم ہو گئے تھے کہ آخرا نبیین کے معنی ہیں مگر آخر میں آیت کے الفاظ کو نقل کر کے یہ کہنا کہ یہاں بھی خاتم کے وہی معنی ہیں جو اوپر بیان کئے گئے۔ غالباً اسی دورانہ شی کی غرض سے ہے کہ کسی وقت کوئی جاہل یا گمراہ آیت میں دوسرے معنی بتا کر مسلمانوں کو گمراہ نہ کرے۔

اب نہایت ظاہر ہے کہ قرآن مجید عرب کی زبان میں اتارا گیا ہے تاکہ وہ اسے سمجھ کر

اس کی ہدایتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو سمجھائیں اس لیے تمام دنیا کے لیے ضرور ہے کہ اس کے وہی معنی کرے جو عرب کے محاورہ میں آئے ہیں اس کے خلاف معنی کرنا یقینی تحریف ہے اور بیان سابق سے قطعی طور پر آفتاب کی طرح روشن ہو گیا کہ عرب کے محاورہ میں خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے ہیں یعنی سب کے آخر میں آنے والا اس کے سوا دوسرے معنی نہیں ہو سکتے اس لیے بخوبی ثابت ہو گیا کہ آیت ”وَلَكِنْ رُسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ“ (احزاب ۴۰)

اس باب میں نص قطعی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ آخر الانبیاء ہیں آپ کے بعد کسی کو مرتبہ نبوت نہیں ملے گا آپ کے وجود باوجود سے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی آپ کی نبوت اور آپ کی شریعت کا آفتاب قیامت تک چمکتا رہے گا اس آیت سے یہ بھی قطعی طور سے ثابت ہو گیا کہ آپ کے بعد امتی غیر امتی جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔

اہل علم اس کو سمجھتے ہوں گے کہ قرآن مجید میں اور حدیثوں میں اس مقام پر لفظ النبیین جمع سالم معروف بالام آیا ہے ایسے لفظ کو اصول فقہ وغیرہ میں الفاظ عام میں شمار کیا ہے اس لیے خاتم النبیین کے یہ معنی ہیں کہ جس کو نبوت کا مرتبہ دیا گیا اور جس پر نبی کا اطلاق کیا جائے خواہ وہ ظلی اور بروزی نبی ہوں یا تشریعی اور غیر تشریعی جس قسم کے بھی ہوں سب کے آپ خاتم ہیں یہی بات بعض کاٹلیس امت محمدیہ کے کلام سے بھی ظاہر ہوتی ہے اور وہ کلام بھی روحانیت افزا ہے حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ وصیت نامہ میں تحریر فرماتے ہیں

ایں فقیر از روح پر فتوح آنحضرت سوال کرد کہ حضرت چہی فرمایند در باب شیعہ کہ مدعی محبت اہلبیت اند و صحابہ را بدی گویند آنحضرت بنوعی از کلام روحانی القافر مودند کہ مذہب ایشان باطل است و بطلان مذہب ایشان از لفظ امام معلوم می یثود چون ازاں حالت افاقست دست داؤد در لفظ امام تامل کردم معلوم شد کہ امام باصطلاح ایشان معصوم مفترض اطاعت منصوب الخلق است و وحی باطنی ”در حق امام تجویزی نمایند و پس در حقیقت ختم نبوت را منکر اند گو زبان آنحضرت را خاتم الانبیاء می گفتہ باشند۔ اس کے بعد جناب شاہ صاحب کے قول کی شرح میں قاضی صاحب فرماتے ہیں۔ ”فقیر محمد ثناء اللہ گوید کہ آنچہ حضرت شیخ را در بطلان مذہب امامیہ از جناب رسالت پناہ علیہ السلام القا شدہ و واضح گشتہ کہ عقیدہ ایشان مستلزم انکار ختم نبوت است بطریق توارد بریں فقیر ہم واضح شدہ کہ فقیر آخرد شمشیر برہنہ باستیعاب نوشتہ۔“

یہ دو بزرگ ان کا ملین علما اور واصلین بخدا میں سے ہیں جن کے علم و فضل پر امت

محمد یہ ناز و فخر کرتی ہے یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ شیعہ کا مذہب اس وجہ سے باطل ہے کہ آل اطہار اور ائمہ کبار کے ساتھ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جس سے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے۔ اس عقیدے میں شاہ صاحبؒ چار باتیں لکھتے ہیں۔ ۱۔..... امام کو معصوم جانتے ہیں۔ ۲۔..... اس کی طاعت کو فرض سمجھتے ہیں۔ ۳۔..... یہ بھی اعتقاد کرتے ہیں کہ مخلوق کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ ۴۔..... وحی باطنی ان پر اترتی ہے ان چار باتوں میں آخر کی دو باتیں انبیاء سے مخصوص ہیں اور پہلی دو باتیں ان کو لازم ہیں البتہ چوتھی بات میں اس قدر کمی ہے کہ انبیاء کو ظاہری و باطنی ہر قسم کی وحی ہوتی ہے۔ اور امام کو صرف باطنی ہوتی ہے مگر باوجود اس کمی کے ان کے عقیدہ کو انکار ختم نبوت لازم ہے اور یہ دونوں حضرات کا طین شیعہ کو منکر ختم نبوت فرماتے ہیں۔ ان کے کلام سے یہ بھی ظاہر ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے ہیں اور وہ نبی تشریفی یا غیر تشریفی جس طرح کا ہو جناب رسول اللہ ﷺ سب کے خاتم ہیں کیونکہ شیعہ اماموں کو تشریفی نبی نہیں جانتے۔

مرزائی حضرات تو مرزا قادیانی کو رسول بلکہ انبیاء اولوالعزم سے افضل اعتقاد کرتے ہیں۔ اور کامل وحی الہی کا ان پر اترنا ان کے عقیدہ میں ہے۔ مرزا قادیانی تو نزول وحی کا اس طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی نبی نے نہیں کیا چنانچہ (ہدیۃ الوحی ص ۱۵۰ اخراکن ج ۲۲ ص ۱۵۳) میں لکھتے ہیں۔ ”بعد میں جو خدا کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔“ ملاحظہ کیا جائے کہ بارش کی طرح نزول وحی کا دعویٰ کسی نبی نے نہیں کیا مگر مرزا قادیانی کرتے ہیں اس کے ساتھ صاف طور سے یہ بھی کہتے ہیں کہ صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا اس لیے بموجب ارشاد حضرت شاہ ولی اللہ وقاضی ثناء اللہ علیہ الرحمۃ بھی مرزائی حضرات منکر ختم نبوت ہیں اور رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین نہیں مانتے گو زبان سے اس کا اظہار کریں اور اپنے اشتہاروں اور رسالوں میں چھاپیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین مانتے ہیں جب کوئی دریافت کرتا ہے کہ جب تم مرزا کو نبی مانتے ہو تو پھر جناب رسول اللہ ﷺ کیسے ختم الانبیاء ہوئے تو عجیب طرح کی باتیں بناتے ہیں اور تقضی بخش جواب دینے سے جان چراتے ہیں۔ حاصل یہ کہ خلاف قرآن و احادیث صحیحہ اور محاورہ عرب کے خاتم النبیین کے معنی قرار دے کر خوش ہیں اور کسی وقت ظلی یا بروزی غیر اصلی نبی بھی کہتے ہیں ایسے لوگ یہ بتائیں کہ جب مرزا قادیانی خود اپنے اوپر نزول وحی کا ایسا پر زور بیان کرتے ہیں کہ کسی اولوالعزم نبی نے بھی بیان نہیں کیا اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ صریح طور سے مجھے نبی کا خطاب دیا گیا پھر اصلی نبی میں

اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جو اس سے انکار کیا جاتا ہے الغرض اس میں شبہ نہیں کہ مرزا قادیانی اعلانیہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور صاف طور سے ختم نبوت کے منکر ہیں مگر ان کے مریدین عوام کے دھوکہ دینے کو باتیں بناتے ہیں۔

الغرض جس طرح صحیح حدیثوں سے ثابت ہوا تھا کہ حضرت رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کو کسی قسم کی نبوت نہیں ملے گی اسی طرح قرآن مجید کی اس آیت نے اس مطلب کی کامل صراحت کر دی۔ اب طالب حق کے لیے قرآن مجید کے نص قطعی اور مستند اور متعدد احادیث کے صریح الفاظ سے یقینی طور سے ثابت ہو گیا کہ حضور انور جناب رسول اللہ کے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ نہیں مل سکتا اس لیے آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ یقیناً جھوٹا ہے البتہ علمائے کاطین آپ کے نائب ہوتے رہیں گے اور وہ وہی کام کریں گے جو انبیائے بنی اسرائیل کرتے تھے یہ ایک عمدہ وجہ ہے اس امت کو خیر الامم ہونے کی کہ باوجود امت ہونے کے وہ کام کریں گے جو گذشتہ انبیاء نے کیا ہے۔ اس مختصر بیان سے اظہر من الشمس ہو گیا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت کرنا اور ان کی جماعت کا انہیں کسی قسم کا نبی سمجھنا قرآن مجید کے نص قطعی اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ اب اس کے خلاف ختم نبوت کی حقیقت کرنا محض عوام کو فریب دینا ہے اگر کسی مرزائی نے کچھ اس کے خلاف لکھا ہے تو ہمارے سامنے پیش کرے اور پھر اپنی جہالت و فریب کو دیکھے کہ ہم کس طرح اسے آفتاب کی طرح روشن کر کے دکھاتے ہیں اور کوئی رسالہ لکھ کر اپنے جاہل مگراہوں میں شائع کرنا اور ہم سے پوشیدہ رکھنا کسی اہل حق کا کام نہیں ہے پوشیدہ رکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ انہیں اپنے بیان پر وثوق نہیں ہے مگر اپنے پیروؤں کو اپنے فریب میں رکھنا ضروری سمجھتے ہیں اس لیے ان جاہلوں کو تھامنے کے لیے کچھ لکھ دیتے ہیں۔

دعویٰ کیا گیا ہے کہ قادیانی جماعت کے سرگروہ قرآن مجید کا مشغلہ زیادہ رکھتے ہیں مگر حیرت ہے کہ ایسی صریح باتوں سے بے خبر ہیں اور سورہ اعراف کی اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کے بعد بھی رسول آئیں گے وہ آیت یہ ہے ”يَا بَنِي آدَمُ اِمَّا يَنْتَهِبُ رُسُلُكُمْ يَفْقَهُونَ عَلَيْكُمْ اِنْتِى فَمَنْ اتَّقِىْ وَاَصْلَحْ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ“ (اعراف ۳۵) اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کے بعد انبیاء آئیں گے بہت بڑی غلطی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جماعت علوم قرآنیہ سے بالکل ناواقف ہے قرآن مجید میں انبیاء سابقین کے حالات اور واقعات بہت بیان

ہوئے ہیں انہیں واقعات کے بیان میں یہ آیت بھی ہے اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کا قصہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد سے یہ خطاب کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اے بنی آدم میرے رسول تمہارے پاس آئیں گے اور میری باتیں تم سے کہیں گے پھر جس نے انہیں مانا اور میری باتوں پر عمل کیا اسے کچھ خوف و خطر نہیں ہے اور جس نے نہ مانا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

۱..... اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض ان انبیاء کا ذکر کیا جو اس عام حکم سنانے کے بعد آئے یعنی حضرت نوحؑ - حضرت ہودؑ - حضرت صالحؑ - حضرت لوطؑ - حضرت شعیتؑ - حضرت موسیٰ علیہم السلام اس سے ظاہر ہے کہ آیت میں اسی وقت کا ذکر ہے ایسے اعلانیہ قرینہ ہونے کے بعد بھی مرزا کی قرآن مجید کو نہیں سمجھتے۔

۲..... اس کے علاوہ اگر قرآن مجید پر نظر ہے تو سورہ بقرہ کے ذیل کی آیت ملاحظہ کیجئے جس میں یہی مضمون اس طرح ہے کہ میرے بیان کی اس سے پوری تصدیق ہو جاتی ہے۔

”فَلْتَلْقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ فَلَمَّا اهْبَطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَلَمَّا يَا بَنِيَّ كُنتُمْ مِنِّي هَٰذِهِ لَمَن بَعِيَ هَٰذِي فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝“ (سورہ بقرہ پارہ ۳۵ تا ۳۹)

”یعنی آدمؑ نے اپنے پروردگار سے (معافی مانگنے کے لیے) چند کلمات کیے لیے (جن کی برکت سے) خدا نے ان کی توبہ قبول کی بیشک وہ بڑا ہی معاف کرنے والا مہربان ہے ہم نے حکم دیا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ (اور یہ بھی کہہ دیا کہ) جب میری طرف سے تمہیں ہدایت پہنچے (تو اس پر عمل کرنا) کیونکہ جو ہمارے حکم کی پیروی کریں گے اور ہماری ہدایت پر چلیں گے انہیں (آخرت میں) نہ کسی بات کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو ہماری ہدایت سے انکار کریں گے اور ہماری نشانیوں کی تکذیب کریں گے وہ جہنمی ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“

یہ آیت اور سورہ اعراف کی آیت دونوں مضمون کے اعتبار سے ایک ہیں حاصل معنی میں کچھ فرق نہیں ہے البتہ کچھ لفظوں کا اختلاف ہے اور جب اس آیت میں صاف ہے کہ یہ خطاب حضرت آدمؑ کو جنت سے جدا ہونے کے وقت کیا گیا تھا اس لیے سورہ اعراف کی اس آیت کے خطاب کا بھی یہی وقت ہے کیونکہ یہ دونوں آیتیں ایک مطلب کو بیان کر رہی ہیں۔ غرضیکہ یہ دو روشن قرینے جو قرآن مجید سے ظاہر ہو رہے ہیں اس بات کی کامل شہادت دیتے ہیں کہ سورہ

اعراف کی آیت مذکورہ میں امت محمدیہ سے خطاب نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں ان کی اولاد سے خطاب ہے۔

۳..... اب اس کی کمال تائید حدیث سے بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ ”اخرج ابن جریر عن ابی یسار السلمي قال ان الله تبارك و تعالى جعل ادم و ذريته في كفه لقال يا بني ادم اماياتينكم رسل منكم يقصون عليكم ايتي فمن اتقى الخ“

(تفسیر درمنثور ج ۳ ص ۸۲)

اس روایت میں خاص اسی آیت کی تفسیر ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے اور نہایت صفائی سے وہی تفسیر کی ہے جو ہم نے بیان کی ہے یعنی اس آیت میں امت محمدیہ سے خاص خطاب نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں یہ خطاب کیا گیا ہے اور اس کی صورت حال اس روایت میں بیان کی گئی ہے چونکہ مرزا قادیانی نے ۴..... اس تفسیر سے بہت حوالے دیئے ہیں اس لیے اس تفسیر سے لکھتا میں نے مناسب سمجھا اس تفسیر کے علاوہ جب خاتم النبیین کے معنی محاورہ عرب اور احادیث صحیحہ سے معلوم ہوئے کہ آخر النبیین کے ہیں تو آیت ”وَلَكِنْ رُسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ“ (احزاب ۴۰) نے قطعی فیصلہ کر دیا کہ سورہ اعراف کی آیت میں قیامت تک کے نبی آدم مراد نہیں ہیں بلکہ خاص حضرت آدم علیہ السلام کے وقت کا ذکر ہے کیونکہ جناب رسول اللہ ﷺ آخر النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ چار دلیلیں قرآن مجید اور حدیث سے بیان کی گئی جن میں نہایت روشن طریقے سے ثابت ہو گیا کہ سورہ اعراف کی آیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو مرزائی بیان کرتے ہیں بلکہ وہ مطلب ہے جو ہم نے بیان کیا۔

اب اہل علم انصاف پسند قادیانی جماعت کے سرگروہوں کی قرآن دانی معلوم کر لیں کہ قرآن مجید کے معنی سے کس قدر نا آشنا ہیں اور نص قطعی کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں اور عوام کے دھوکا دینے کو حضرت غوث اعظمؒ اور شیخ محی الدین عربیؒ کا قول پیش کرتے ہیں مگر نص قطعی اور احادیث صحیحہ کے خلاف ان حضرات کا قول پیش کرنا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ ان مقدس حضرات نے صریح قرآن و حدیث کے خلاف ایک بات کہی مگر یہ بڑی غلطی ہے ان بزرگوں کی شان نہایت اعلیٰ و ارفع ہے ان کا کوئی کلام خلاف قرآن و حدیث کے نہیں ہو سکتا جو حضرات صوفیہ کی اصطلاحات نہیں جانتے اور ان کے حالات سے واقف نہیں ہیں ان کا یہ منصب نہیں ہے کہ اپنے دعویٰ کی دلیل میں ان کے کلام کو پیش کریں۔



## حضور سرور انبیاء کے آخر میں آنے کا راز

### اور امت محمدیہ کی فضیلت

یہاں اس کا مجید معلوم کرنا چاہیے کہ جب خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے ہیں، یعنی سب انبیاء کے بعد آنے والا تو اس میں کیا خوبی اور فضیلت ہوئی؟ بظاہر خوبی تو اسی میں معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی شریعت کے پیرو بہت سے انبیاء آتے، جس طرح حضرت موسیٰ کے بعد شریعت موسوی کے پیرو بہت انبیاء آئے، یہ خیال ظاہر میں کم علم کو ہو سکتا ہے، مگر جن کو خداوند تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسرار شریعت پر آگاہی بخشی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا وجود باوجود سب کے بعد اس لیے ہوا کہ آپ کی ذات مقدس سے اللہ تعالیٰ کو دین کا کمال منظور تھا۔ آپ کو شریعت کاملہ دی گئی۔ اور ارشاد ہوا۔ ”الْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ“ الخ (مائدہ: ۳۰) حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے وقت سے لیکر حضرت عیسیٰ کے زمانہ تک دنیا کے لوگ اس لائق نہ تھے کہ انہیں کامل شریعت دی جاتی، پہلے انبیاء جس قدر آئے وہ سب بمنزلہ مقدمہ الجیش کے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سلطان الانبیاء ہیں تمام انبیاء سابقین نے آہستہ آہستہ بنی آدم کو آراستہ اور اس لائق کیا کہ شریعت کاملہ دی جائے اس لیے سب کے بعد آنے والے کی زیادہ عظمت ہونی چاہیے کیونکہ اس کے ذریعہ سے شریعت کاملہ مخلوق کو ملی جو اصل مقصود انبیاء کے بھیجنے کا ہے، چونکہ آپ صفت رحمت کے مظہر کامل ہیں اور رحمۃ اللعالمین آپ کا خطاب ہے اس کا مقتضی یہ ہوا کہ آپ کے بعد نبوت کا مرتبہ کسی کو نہ دیا جائے۔ کیونکہ شرعی نبی وہی ہے جس کا منکر کافر ہو، یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اب اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حسب عادت قدیمہ ضرور بہت لوگ ایسے ہوتے کہ حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لائے ہوتے اور اس نبی پر ایمان نہ لاتے جو آپ کے بعد ہوا اور اس وجہ سے وہ دائمی عذاب کے مستحق ہوتے، یہ آپ کی شان رحمت کے بالکل خلاف تھا اور ہے کہ آپ کو مان کر کسی وجہ سے دائمی عذاب میں مبتلا رہے اس لیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس سے حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کمال فضیلت حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور تمام انبیاء پر ظاہر ہوتی ہے کہ یہ شان رحمت کسی کو عنایت نہیں ہوئی اور کسی کی امت کو یہ شرف نصیب نہ ہوا اور اس کی وجہ سے دوسرا شرف آپ کی امت کو یہ ملا کہ اس امت کے علمائے کاطیین کی عظمت و شان وہی ہے جو انبیاء کی ہونی چاہیے، یعنی یہ وہی

کام کریں گے جو انبیائے بنی اسرائیل نے کئے ہیں علامہ سیوطی (خصائص کبریٰ ج ۳ ص ۲۱۹ باب اختصاصہ بان امتہ و تیت العلم الاول والعلم الآخر) میں امت محمدیہ کی خصوصیات میں یہ بھی لکھتے ہیں۔ ”علمانہم کانبیاء بنی اسرائیل“ یعنی امت محمدیہ کے علماء انبیائے بنی اسرائیل کے مانند ہیں جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنے علماء کی شان میں فرمایا۔ ”العلماء ورثة الانبیاء“ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور یہ بھی فرمایا۔ ”فضل العالم علی العابد کفضل علی ادنکم“ (ترمذی ج ۲ ص ۹۳ باب فی فضل الفقہ علی العبادۃ)

یعنی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد یعنی عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت میرے ادنیٰ امتی پر۔ یہ ظاہر ہے کہ انبیاء کا ترکہ مال و دولت نہیں ہوتا بلکہ عظمت و بزرگی اور کلام الہی کا علم ان کا ترکہ ہے اس لیے حدیث کے یہ معنی ہونے کہ انبیاء کی شان اور عظمت اور ہدایت و علم شریعت علماء کو ملتا ہے جب علماء امت کی شان انبیاء کی شان نہ ہوئی تو جس طرح حضرت موسیٰ کے بعد انبیاء کے ہونے سے حضرت موسیٰ کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں علمائے کاطین سے آپ کی عظمت کا اظہار نہایت کامل طور سے ہوتا ہے البتہ یہ فرق ہے کہ حضرت رحمۃ اللعالمین ﷺ کو مان کر پھر کسی بزرگ اور عالم کے نہ ماننے سے دائمی عذاب کا مستحق نہیں ہو سکتا اور حضرت موسیٰ کو مان کر ان کے بعد کے نبی کو نہ ماننے سے عذاب دائمی کا مستحق ہے مثلاً یہود حضرت موسیٰ کو ماننے ہیں مگر حضرت عیسیٰ کے نہ ماننے سے کافر ہیں اور عیسائی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر ہیں اس فرق سے حضرت رحمۃ اللعالمین ﷺ کی شان بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ دوسری حدیث سے تو علماء کاطین کی بہت ہی بڑی عظمت ثابت ہوتی ہے کیونکہ ان کی فضیلت کو حضور انور ﷺ اپنی فضیلت کے مشابہ فرماتے ہیں اور مسند امام احمدی کی روایت بھی دیکھی جائے۔

امام محمد نے (مسند احمد ج ۵ ص ۳۲۲) میں جناب رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد لکھا ہے ”الابدال فی هذه الامۃ ثلاثون مثلاً ابراهیم خلیل الرحمن عزوجل کلمات رجل ابدل الله مکانہ رجلاً“ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اس امت میں تیس ابدال ابراہیم خلیل اللہ کے مثل ہوتے رہیں گے ان میں سے جب ایک کا انتقال ہوا کرے گا اس کی جگہ دوسرا قائم مقام ہوگا یعنی ایسے بزرگ ذی مرتبہ سے امت محمدیہ خالی نہیں رہے گی یہاں ان بزرگوں کو حضرت ابراہیم کے مثل کہا ہے اس سے کوئی صاحب یہ خیال نہ کریں کہ ان کا مرتبہ عینہ

حضرت ابراہیمؑ کا سا ہوگا اور وہ ظلی اور بروزی نبی حضرت ابراہیمؑ کے مثل ہوں گے اور ان کا منکر کافر ہے (استغفر اللہ) یہ ہرگز نہیں ہے بلکہ جس طرح مثال دی جاتی ہے زید کا لاسد یعنی زید شیر کے مانند ہے اس مثال سے یہ غرض ہرگز نہیں ہوتی کہ جو حائیں اور خواص شیر کی ہیں وہ سب یا اکثر زید میں پائی جاتی ہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ شیر کی ایک خاص صفت جو انسان کے مناسب اور اس کے لیے خوبی ہو سکتی ہے وہ ایک حد تک زید میں پائی جاتی ہے اسی طرح ان ابدال میں قرب خداوندی اور دوسری حالت حضرت ابراہیمؑ کے مشابہ ہوگی مگر جس قسم کے دعویٰ مرزا قادیانی نے کئے یہ ہرگز نہ کریں گے الغرض امت محمدیہ میں ولایت اور نبوت کے مشابہ کمالات ہوں گے جس کی وجہ سے العلماء ورفۃ الانبیاء اور علمائہم کانبیاء بنی اسرائیل کہا جاسکے مگر نبوت کا وہ خاص درجہ جس کی وجہ سے اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے کسی کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ ایسا ہونا آپؐ کی شان رحمت کے منافی ہے۔ اب خیال کرنا چاہیے کہ اس فضیلت کی کیا انتہا ہے اللہ اکبر یہ خیال کہ اگر نبوت ختم ہو جائے تو خدائے تعالیٰ کی صفت کلام معطل ہو جائے گی جاہلانہ خیال ہے ذرا غور کرو کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی ذات پاک ازلی وابدی ہے۔ اس طرح اس کی صفات بھی ازلی وابدی ہیں اور انسان کا وجود اور اس نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا جن کی نبوت کو آٹھ نو ہزار برس سے زیادہ مورخین نہیں بتاتے اس سے پہلے نبوت کا سلسلہ نہ تھا اس وقت اس کی صفت کلامیہ کا کیا حال تھا اگر اس نبوت کے ختم ہو جانے سے اس کی صفت کا معطل ہو جانا لازم آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے جب اس نبوت کا سلسلہ ہی نہ تھا تو اس خیال کے بموجب اس غیر متناہی زمانے میں خدائے پاک کی یہ صفت معطل ماننی ہوگی حالانکہ اس خیال کی بنیاد محض نادانی اور ناواقفی پر ہے خدا کے مقربین میں فرشتے بھی ہیں جن سے وہ ہمیشہ کلام کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا مگر افسوس ہے کہ مرزا قادیانی فرشتوں کے وجود شرعی سے بھی منکر ہیں اور توضیح المرام میں بے دینیوں کی طرح باتیں بتاتے ہیں اس کے علاوہ خدا کی مخلوق کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا کیونکہ ”وَمَا أَوْفَيْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا“ (الاسراء: ۸۵) اس کا ارشاد ہے پھر یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا کلام کس کس طرح اور کن کن طریقوں سے ہوتا ہے اور کون کون بندے اس سے ممتاز ہوتے ہیں انسان کا علم اس کو احاطہ نہیں کر سکتا مگر اس قدر ضرور کہیں گے کہ اس کے مخصوص فرشتے اور خاص خاص اولیاء اللہ اس کے خطاب اور کلام سے ممتاز ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اس کے لیے رسالت اور نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔

اس تمام بیان کا نتیجہ بھی معلوم کر لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی نص قطعی اور چار صحیح حدیثوں سے مسیح قادیان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا اور اس کے جھوٹے ہونے پر بیس صحابہ کرامؓ نے شہادت دی، بلکہ اس کے سوا جس قدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ختم نبوت کے مضمون کو روایت کیا ہے ان کا یقینی اعتقاد ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے اس لیے آپؐ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ ان صحابہؓ کی زبان سے جھوٹا ہے اب جو ایسے یقینی جھوٹے اور مفتری کو سچا کہتا ہے وہ حقیقت میں اللہ و رسول سے سخت گستاخی کرتا ہے اور تمام قرآن مجید اور مذکورہ احادیث صحیحہ کو نہیں مانتا، اگرچہ ظاہر میں زبان سے انکار نہ کرے اور مسلمانوں کو فریب دے اب اہل دانش سمجھ لیں وہ کیسا شخص ہے اور اس سے کیسا معاملہ کرنا چاہیے اور اس کے اصحاب کو کیا سمجھنا چاہیے۔

یہاں تک جو عبارت نقل کی گئی وہ بعینہ فیصلہ کے تہید کی ہے اس میں دس حدیثیں ہیں اور پانچ آیات قرآنی ہیں اور ان کے معنی ہیں ان کو یہ قادیانی مسخرہ پاگل کی بڑ کہتا ہے اور یہ وہ قادیانی ہے جو شب و روز قادیانی مریبوں کی صحبت میں رہتا ہے ان ہی کے مشورہ سے ایسے کام کرتا ہے اس کا یہ حال ہے کہ کلام خدا اور کلام رسول ﷺ کی کیسی بے حرمتی کر رہا ہے؟ اب ہمارے بھائی قادیانیوں کی ایمانی حالت کا اندازہ کریں یہ وہ باتیں ہیں جن سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ قادیانیوں کا یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن و حدیث کو ماننے ہیں مسلمانوں کو محض فریب دینا ہے یا مرزا قادیانی کی بیعت کا اثر ہے کہ عقل سلب ہو گئی ہے تیرہ درونی نے انوار حقانیت کو پوشیدہ کر دیا ہے اس لیے کلام خدا اور رسول بھی ان کے نزدیک پاگل کی بڑ ہے (نعوذ باللہ)۔ اب دیکھیں کون قادیانی مربی اس مدلل اور محکم تحریر کا جواب دیتا ہے ہم منتظر ہیں اگر دو ماہ کے اندر اس کا جواب نہ دیا تو کامل طور سے سمجھا جائے گا کہ تمام قادیانی کسی خاص وجہ سے ایک یقینی جھوٹ کے پیرو ہیں اور کسی طرح اس کی صداقت ثابت نہیں کر سکتے۔

آخر میں دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو قادیانیوں کی جہالت کا نمونہ دکھاتا ہوں ملاحظہ کیا جائے جن حدیثوں میں جناب رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ ”انا خاتم النبیین لانی بعدی“ یعنی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کے معنی میں اپنی قابلیت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ لانی بعدی کے معنی یہ ہیں کہ کوئی کامل نبی میرے بعد نہیں ناقص نبی آئیں گے اس کا نتیجہ یہ تو ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی ناقص نبی ہیں۔

..... اس کے علاوہ یہ فرمائیں کہ جب لانی بعدی کے بعد یہ معنی ہوئے کہ کوئی کامل نبی

میرے بعد نہیں ہے ناقص نبی ہوں گے تو ان کے نزدیک ”لا الہ الا اللہ“ کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی بڑا معبود کامل نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے معبود ہیں یعنی مشرکین عرب وغیرہ کا جو خیال تھا اور ہندو کا ہے وہ صحیح ہے اسلام نے انہیں مشرک نہیں ٹھہرایا، قادیانی مربی کہیے یہی عقیدہ آپ کا ہے؟ اگر نہیں ہے تو دونوں جملوں میں فرق بیان کیجئے۔

۲..... تمہید کی چوتھی حدیث دیکھئے اس میں جناب رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں انبیاء سیاست کرتے تھے۔ جب ایک نبی انتقال کرتا تھا اس کی جگہ دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہوتا تھا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب اگر اس کے یہ معنی ہوں گے کہ میرے بعد کوئی کامل نبی نہیں ہے تو حدیث سے یہ ثابت ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے بعد جتنے بنی اسرائیل میں ہوئے وہ سب کامل نبی تھے جناب رسول اللہ ﷺ کے مثل امت محمدیہ میں ویسے نبی نہ ہوں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ افضل الانبیاء نہ تھے بلکہ انبیاء بنی اسرائیل کے مثل تھے اور مرزا قادیانی کا مرتبہ ان سے بہت کم ہے، قادیانی ذرا ہوش کر کے باتیں کیجئے، تمہارے اس دعویٰ کے غلط ہونے کے اور بھی وجہ ہیں جو اہل علم الفاظ حدیث سے بخوبی سمجھتے ہیں، وقت ضرورت ہم بھی بیان کر دیں گے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک اہل حق کی طرف سے بہت سے رسالے مرزا قادیانی کے کذاب و مفتری ہونے کے ثبوت میں مشتمل ہو چکے ہیں اور قرآن و حدیث کے علاوہ خود مرزا قادیانی کو ان کا جھوٹا ہونا، مردود ہونا، ملعون ہونا، ہر بد سے بدتر ہونا ثابت کر دیا گیا ہے، ان کا اعلانیہ جھوٹ دکھا دیا گیا ہے مگر سخت حیرت ہے کہ مرزائی گروہ کی عقل کس طرح سے سلب ہو گئی کہ کچھ خیال نہیں کرتے اور ایسے اعلانیہ جھوٹے کو خدا کا رسول مان رہے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ اپنی عاقبت تباہ کر رہے ہیں، یہ بھی انہیں خیال نہیں ہوتا کہ کئی برس سے رسالے مشتمل ہو رہے ہیں اور یہاں سے قادیان تک کسی مرزائی کی مجال نہیں ہوئی کہ ان کا جواب دے پھر ان کے جھوٹے ہونے میں کیا شک رہا؟

بھائیو! جان بوجھ کر اپنی عاقبت تباہ نہ کرو، اور ان رسالوں کو فور سے دیکھو، جہاں تمہیں شبہ پیش آئے اسے دریافت کر دو، جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں، جو تمہیں ان رسالوں کے دیکھنے سے منع کریں انہیں اپنا دشمن سمجھو اور یقین کر لو کہ تمہیں راہ حق دیکھنے سے روکتے ہیں اور اندھا بنا کر جہنم میں گرانا چاہتے ہیں، ہم تمہاری خیر خواہی سے کہتے ہیں۔

خادم الحکما محمد یعسوب



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَرْزَائِي نُبُوتِ کَا خَاتَمِ  
صَحِیفَہ رَحْمَانِیہ

# مرزائی نبوت کا خاتمہ صحیفہ رحمانیہ

(۱۶)

پروفیسر مولانا سید محمد انور حسینؒ

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

جس میں ختم نبوت کے قطعی دلائل بیان کئے گئے ہیں اور یقینی طور سے ثابت کر دیا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ نہیں ملے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بموجب ارشاد نبویؐ جھوٹا دجال ہوگا، ختم نبوت کی بحث میں یہ ساتواں مضمون ہے اس سے پہلے تہ فیصلہ آسمانی حصہ فیصلہ آسمانی حصہ ۳ میں پھر مرزا محمود کی تشریف آوری والے مضمون میں دعویٰ نبوت مرزا اور صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۲ اور نمبر ۱۵ میں یہ مضمون بعنوان مختلف لکھا گیا ہے اور اس وقت تک کسی نے جواب نہیں دیا مگر با اس ہمہ مرزائی جھوٹی نبوت کا دعویٰ ہو رہا ہے۔

تاریخ۔ ۱۵ اگست ۱۹۱۷ء کو انجمن حمایت اسلام مولئیر کے مکان میں قادیانی فرقہ کے عقائد باطلہ کے رد میں ایک شاندار جلسہ ہوا۔ جس میں فاضل مولانا نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا۔ اما بعد! ”لَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰی، مَا كَانَ مُحَمَّدًا اَبًا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رُّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا۔“ (پ ۱۲۲ از باب ۴۰)

مسلمانو! افسوس ہے کہ یہ ایک ایسا پر آشوب زمانہ آیا ہے۔ کہ مقدس مذہب اسلام کے ان مسائل و عقائد پر جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں۔ اور جن پر تمام اہل اسلام کا اتفاق اور اجماع ہو چکا ہے۔ ایک ایسا شخص نکتہ چیںیاں کرنے کو کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہ جو نہ تو آیات قرآنیہ کی حقیقت سمجھ سکتا ہے۔ اور نہ احادیث نبویہ سے خبر رکھتا ہے، ایک جھوٹے مدعی نبوت کے اردو رسالوں کو دیکھ کر اسلام کے منصوص اور اجماعی مسئلوں اور عقیدوں کو غلط ثابت کرنے کا مدعی ہوتا ہے اور غلط غلط شبہات پیش کر کے مسلمانوں میں بیہودہ خیالات پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، دیکھو تمام مسلمانوں کا عموماً اور اہل سنت والجماعت کا خصوصاً اجماعی عقیدہ ہے۔ کہ آنحضرتؐ خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت اور رسالت آپؐ پر ختم ہو چکی ہے۔ آپؐ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہ ہوگا، آج کل اس کے خلاف یہ آواز اٹھائی گئی ہے۔ کہ نبوت و رسالت، هنوز ختم نہیں ہوئی ہے، آپؐ کے بعد بھی نبی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد آنجنابی



قادیانی نبی اور رسول ہیں اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ مسئلہ ختم نبوت پر مفصل اور مدلل تقریر کی جائے اور مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے۔ کہ آنحضرت ﷺ کا خاتم النبیین ہونا اور آپ کے بعد کسی کا نبی نہ ہونا قرآن مجید کی قطعی الدلالت آیت سے اور صحیح صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اور اہل اسلام کا عموماً اور اہل سنت و الجماعت کے تینوں فرقے (۱) فقہاء (۲) محدثین (۳) صوفیہ کا خصوصاً اسی پر اجماع ہے جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ اہل سنت و الجماعت بلکہ اہل اسلام سے خارج ہے اور جو شخص آپ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہے۔

مذکورہ بالا آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ حضرت زیدؓ صحابی آنحضرت ﷺ کے پسر حنفی (لے پالک) تھے حضرت زیدؓ کی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی تھی میاں بیوی میں سخت نا اتفاقی رہا کرتی تھی آخر حضرت زیدؓ نے حضرت زینبؓ کو طلاق دیدی طلاق کے بعد عدت گزرنے پر خداوند تعالیٰ کے حکم سے حضرت زینبؓ آنحضرت کے عقد نکاح میں آئیں اور ازدواج مطہرات میں داخل ہو گئیں اس پر مخالفین اسلام نے طعن اور طنز کی راہ سے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد ﷺ نے اپنے بیٹے کی بیوی (بیوہ) سے نکاح کر لیا ہے حالانکہ بیٹے کی بیوی (بیوہ) قرآن مجید کے رو سے حرام ہے اسی بیوہ اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ“ محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے (حقیقی اور نسبی) باپ نہیں ہیں اور زیدؓ تمہارے مردوں میں ہیں تو زیدؓ کے بھی حقیقی باپ نہیں ہیں پس زیدؓ آپ کے حقیقی اور نسبی نہیں ہوئے اور زیدؓ کی بیوی آپ پر حرام نہیں ہوئیں پس مذکورہ بالا اعتراض لغو ہے اور ناگہی پر مبنی ہے یہاں پر دو شبہ پیدا ہوتے ہیں۔

پہلا شبہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے تین بیٹے تھے (۱) ابراہیم (۲) قاسم (۳) طاہر جب آپ کے تین بیٹے موجود تھے تو پھر یہ کہنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ محمد ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ رجال رجل کی جمع ہے اور رجل عربی میں بالغ مرد کو کہتے ہیں پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ محمد ﷺ تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں چونکہ آنحضرت ﷺ کے تینوں صاحبزادے بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے اس لیے یہ کہنا بہت صحیح ہے کہ آنحضرت ﷺ تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اس شبہ کا جواب لفظ رجل کے معنی پر غور کرنے ہی سے ہو جاتا ہے اس لیے اس شبہ کے جواب

میں کوئی دوسری عبارت نہیں لائی گئی اور مِنْ رَجَالِکُمْ ہی کو اس کے جواب میں کافی سمجھا گیا۔  
 یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ مرزا قادیانی (اخبار البدیع ۱۹۔ دسمبر ۱۹۰۷ء ملفوظات ج ۷ ص ۲۳) میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کے گیارہ بیٹے فوت ہوئے۔ حالانکہ یہ محض غلط بات ہے نہ کسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور نہ تاریخ کی کتابوں میں کہیں لکھا ہے کہ آپ کے گیارہ بیٹے فوت ہوئے یہ مرزا قادیانی کا جاہلانہ جھوٹ ہے اگر کسی مرزائی کو کچھ بھی غیرت ہے تو اس روایت کا ثبوت پیش کرے ورنہ اس بات کا اقرار کرے۔ کہ مرزا قادیانی محض بیباک جھوٹے تھے۔

دوسرا شبہ یہ ہے کہ جب آپ سے ابوة کی نفی کی گئی، یعنی یہ کہا گیا کہ آپ تمہارے مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ نہیں ہیں۔ تو اس سے سمجھا جاتا ہے۔ کہ آپ میں حقیقی باپ جیسی شفقت بھی نہ ہوگی اس شبہ کے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”وَلٰكِنْ رُّسُوْلُ اللّٰهِ“ لیکن محمد (ﷺ) خدا کے رسول ہیں اور رسول کی شفقت امت پر اس شفقت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو شفقت حقیقی باپ کو اپنی اولاد پر ہوتی ہے انبیائے کرام کے واقعات زندگی پر غور کرو کہ انہوں نے امت کی یہی خواہی کے لیے کیسی کیسی معیشتیں جمیلی ہیں حق تو یوں ہے کہ اپنا باپ بھی اپنی اولاد کے لیے اتنی تکلیفیں نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ جتنی تکلیفیں انبیائے کرام علیہم السلام نے اپنی امت کے لیے برداشت کی ہیں بس اس کہنے سے کہ محمد خدا کے رسول ہیں وہ شبہ تو جاتا رہا کہ آپ میں حقیقی باپ جیسی شفقت نہیں ہوگی مگر یہ بات ثابت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی شفقت تمام انبیائے کرام کی شفقت سے بڑھی ہوئی ہے اس لیے فرمایا۔

”وَحَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ“ آپ تمام نبیوں کے ختم کرنے والے اور آخر الانبیاء ہیں اور جب آپ..... آخر الانبیاء ہیں تو آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور چونکہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اس لیے ضرور ہے کہ آپ ﷺ میں وہ نبوی شفقت اعلیٰ و اتم و اکمل درجہ پر ہو چنانچہ آپ ﷺ کی اعلیٰ تعلیمات و ہدایات سے اس کی کافی شہادت ملتی ہے جیسا کہ آپ کی تعریف میں کہا گیا ہے۔

”ماترک خیر الاہد اکم الیہ و ماترک شر الا حذرکم وبالہ الوحیم“  
 آپ نے ہر ایک بھلی بات کی ہدایت فرمادی اور ہر ایک بری بات کے ناقابل برداشت عذاب سے ڈرا دیا۔

اس آیت میں لفظ خاتم النبیین کی قراءات میں اختلاف ہے، سات قاریوں میں سے چھ قاریوں کے نزدیک خاتم النبیین بکسر تا ہے اور یہی مشہور قراءات ہے اور ایک قاری عاصم کے نزدیک خاتم النبیین مفتوح تا ہے، گو یہ قراءت مشہور نہیں ہے، مگر ہندوستان میں اسی قراءت کا رواج ہو گیا ہے، چنانچہ یہاں کے قرآن مجید میں خاتم النبیین مفتوح تا ہی ہے، بہرہف اگر خاتم کو بکسر تا پڑھئے تو یہ صیغہ اسم فاعل کا ہے۔ ختم یختم باب ضرب یضرب سے اور اس کے معنی ختم کرنے والا یا مہر کرنے والا ہوگا، خاتم النبیین کے معنی یہ ہوں گے کہ نبیوں کا ختم کرنے والا یا نبیوں پر مہر کرنے والا، چونکہ مہر کرنا خدا کی صفت ہے اس لیے اس معنی کے رو سے خاتم النبیین آپ ﷺ کی صفت نہیں ہو سکتی، پس یہاں پر سوائے ختم کرنے والے کے اور دوسرے معنی صحیح نہیں ہو سکتے ہیں، اس صورت میں نبوت کا ختم ہو جانا روز روشن کی طرح ثابت ہوتا ہے، تھوڑی سمجھ کا آدمی بھی اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔

اور اگر خاتم بہ فتح تا پڑھئے تو خاتم کے تین معنی ہیں۔ (۱) انگوٹھی جیسے خاتم فضیہ، چاندی کی انگوٹھی (۲) مہر جیسے خاتم الکتاب، خط کی مہر (۳) آخر جیسے خاتم القوم، قوم کا آخری شخص، عربی لغات اور عربی محاورات پر غور کرنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ختام، خاتم بالکسر و خاتم بالفتح یہ الفاظ جب کسی وسعت والی چیز کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو جہاں پر وسعت ختم ہوتی ہے اسی جگہ کو ختام، خاتم بالکسر، خاتم بالفتح کہتے ہیں، ختام الوادی اسی جگہ کو کہتے ہیں، جہاں پر میدان ختم ہو جائے، اسی طرح یہ الفاظ جب کسی ایسی چیز کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ جس کے بہت سے افراد ہوں، تو ختام، خاتم بالکسر خاتم بالفتح ہر ایک کے معنی آخر کے ہوتے ہیں، جیسے خاتم القوم، قوم کا آخری شخص، مجمع البحار جو احادیث کی ایک معتبر لغت ہے، اور قاموس اور اس کی شرح تاج العروس اور لسان العرب وغیرہ عربی کی مشہور لغتوں میں صاف لکھا ہے۔

”خاتم الوادی القصاہ ختام القوم و خاتمہم و آخرہم“

(لسان العرب ج ۳ ص ۲۵)

کہ ختام الوادی کے معنی انتہائی وادی ہے اور ختام القوم کے معنی آخر قوم ہیں اور اس کے ساتھ ان کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے، کہ خاتم النبیین یا خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے ہیں، پس خاتم النبیین پڑھو یا خاتم النبیین، ہر حالت میں یہی مطلب ہوگا، کہ آنحضرت ﷺ آخر النبیین ہیں، یعنی تمام انبیائے کرام کے آخر ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، یہاں

پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس آیت میں لفظ رسول اللہ کے بعد خاتم النبیین کا لفظ صرف اس بات کے ثابت کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ وہ شفقت جو انبیائے کرام کی اپنی اپنی امت پر رہا کرتی ہے آپ میں سب سے زیادہ تھی اور آپ اس شفقت میں نہایت ہی اعلیٰ و اتم و اکمل درجہ پر ہیں اور یہ مطلب اس آیت سے اسی وقت ثابت ہو سکتا ہے جب کہ خاتم یا خاتم کے معنی آخر یا ختم کرنے والا لیا جائے اور اگر خاتم بالغ کو بمعنی مہر بھی لیا جائے جب بھی ہمارے مطلب کے منافی نہیں۔ اس لیے کہ کسی چیز پر مہر لگ جانے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز بند کر دی گئی پس اس جملہ کا مطلب کہ آپ نبیوں پر مہر ہیں یہی ہوگا کہ آپ کے وجود باجود سے نبیوں کا آنا بند ہو گیا آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ وهو المطلوب۔

حضرات ناظرین! یہاں تک میں نے محض عربی لغتوں کے رو سے خاتم النبیین کے معنی بیان کیے جس سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی کہ یہ آیت مسئلہ ختم نبوت پر قطعی الدلالتہ نص ہے۔ اس میں کسی طرح دوسرے معنی کی گنجائش نہیں اب میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس مقدس ذات پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اس نے اس آیت کا کیا مطلب سمجھا اور سمجھایا ہے اور اپنی امت مرحومہ کو مسئلہ ختم نبوت میں کیا تعلیم دی ہے۔

پہلی حدیث! (سنن ابن ماجہ ص ۲۹۷ باب فتنۃ الدجال و خروج عیسیٰ بن مریم) میں دجال کے بارہ میں ایک طویل حدیث مروی ہے اس میں جناب رسول اللہ ﷺ اپنی امت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔

..... "انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم"

"کہ میں سب نبیوں کا آخری شخص ہوں اور تم سب امتوں میں آخری امت ہو۔"

یعنی نہ میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی دوسری امت جب خود حضور پر نور ﷺ نے اپنے کو آخر الانبیاء فرمادیا تو اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہیں جیسا کہ اہل لغت لکھتے ہیں اب کسی مسلمان کی مجال نہیں ہے کہ آخر کے سوا خاتم کے کوئی دوسرے معنی لے اس لیے کہ مسلمان کی شان یہ ہے۔

۔ ہر کجا قول رسول آمدہ لنگر گیرند

بلکہ مرزائیوں کی بھی مجال نہیں ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہونے میں چون و چرا کر سکیں اس لیے کہ مرزا قادیانی اور ان کے خلیفہ اول نور الدین قادیانی کا مذہب یہ ہے

کہ وحی والہام کے معنی جو صاحب وحی والہام بیان کرے وہی صحیح ہے اور اس کے سوا سب غلط یہاں پر جب خود صاحب وحی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انا آخر الانبیاء فرمادیا تو اب آخر کے سوا خاتم کے دوسرے معنی لینا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔ وهو المراد۔  
دوسری حدیث! جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں۔

۲..... عن جبیر بن مطعم قال سمعت النبی ﷺ يقول ان لی اسماء انا محمد. وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعده نبی.

(بخاری ج ۱ ص ۵۰۱ باب ماجاء فی اسماء رسول اللہ ﷺ مسلم ج ۲ ص ۲۶۱ باب فی اسمائہ ﷺ)  
میرے بہت سے نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں اللہ میرے ذریعہ سے کفر مٹائے گا، میں حاشر ہوں، میرے بعد لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میں عاقب ہوں، اور عاقب اسی کو کہتے ہیں، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، عاقب کی تفسیر میں ”لیس بعده نبی“ فرمایا۔  
اس میں نبی کا لفظ نکرہ ہے اور نفی کے تحت میں واقع ہے اور جب نکرہ تحت نفی میں واقع ہوتا ہے تو عام ہوتا ہے یعنی اس نکرہ کے ہر فرد کو شامل ہوتا ہے پس ”لیس بعده نبی“ کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں ہے تشریحی ہو یا غیر تشریحی ظنی ہو یا بروزی علاوہ اس کے عاقب کے لغوی معنی بھی پیچھے آنے والا ہے اور پیچھے آنے والا ای کو کہتے ہیں، جس کے بعد کوئی نہ ہو پس لغوی معنی کے رو سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وهو المقصود  
یہ بھی واضح رہے کہ قرآن مجید سے یا کسی حدیث صحیح سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی اور رسول دو قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) تشریحی (۲) غیر تشریحی یا (۱) اصلی (۲) ظنی و بروزی بلکہ قرآن مجید کی ایک صریح آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نبی صاحب کتاب اور صاحب شریعت تھے دیکھو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، اسمٰعیل، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر کر کے فرمایا۔

”أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ“ (پ ۶ انعام ۸۹)

یہ وہ جماعت ہے جن سب کو میں نے کتاب اور شریعت اور نبوت دی ہے۔

پس کسی نبی کو تشریحی یعنی صاحب کتاب و صاحب شریعت قرار دینا اور کسی نبی کو غیر تشریحی یعنی غیر صاحب کتاب و غیر صاحب شریعت قرار دینا اس آیت کے صریح خلاف ہے۔

اسی طرح آیہ کریمہ لَا تَقْرَؤُا بَیِّنًا أَحَدٌ مِنْ رُسُلِهِ (البقرہ ۲۸۵) سے بھی ایسی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبوت و رسالت میں سب رسول برابر ہیں کسی میں کچھ فرق نہیں ہے اب تشریحی و غیر تشریحی کا فرق نکالنا اور کسی نبی کو تشریحی کہنا اور کسی کو غیر تشریحی یا کسی کو اصلی کہنا اور کسی کو بروزی کہنا باطل ہے ہاں باعتبار درجہ کے بعض نبی کو بعض نبی پر فضیلت ہے جیسا کہ ”تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ“ (البقرہ ۲۵۳) سے ثابت ہوتا ہے مگر فضیلت کی یہ وجہ نہیں ہے کہ بعض نبی تشریحی ہیں اور بعض غیر تشریحی بلکہ وجہ فضیلت دوسری باتیں ہیں۔

تیسری حدیث! ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

۳..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بَسْتَ اعْطَيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ نَصَرْتُ بِالرَّعْبِ وَاحِلْتُ لِي الْغَنَائِمَ وَ جَلَعْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَ طَهَّرْتُهَا أَرْسَلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَ خَتَمْتُ بِهِ النَّبِيَّيْنَ. (رواہ مسلم ج ۱ ص ۱۹۹ باب المساجد و مواضع الصلوۃ)

کہ میں دوسرے نبیوں پر چھ باتوں میں فضیلت دیا گیا ہوں (۱) مجھ کو جامع کلمے دیئے گئے (۲) میں اپنے رعب کی وجہ سے فتح یاب ہوں (۳) مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا (۴) ساری زمین میرے لیے نماز اور تیمم کے لائق بنائی گئی (۵) میں سارے لوگوں کے لیے رسول ہوں (۶) نبیوں کے آنے کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا۔

اس حدیث سے عبارت الحس ثابت ہوا کہ رسالت آپ پر ختم ہو چکی ہے اب آپ کے بعد کوئی رسول ہو نہیں سکتا۔

مسلمانو! مرزائی جماعت کی گستاخی اور بے ادبی دیکھو کہ رسول اللہ نے تو ختم رسالت کو اپنے وجہ فضیلت میں بیان فرمایا ہے اور یہ جماعت کہتی ہے کہ بنی اسرائیل میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد زمانہ دراز تک نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رہا اور بد قسمتی سے مسلمانوں کے وقت میں نبوت و رسالت ختم کر دی گئی جس بات کو رسول اللہ نے اپنی فضیلت میں شمار کیا ہے یہ بے ادب جماعت اس بات کو بد قسمتی قرار دیتی ہے یہ ہے مرزائیوں کا اسلام اور ایمان۔

میں کہتا ہوں کہ مرزائیوں کا یہ خیال کہ جس طرح بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اور رسول آتے رہے اسی طرح امت محمدیہ میں بھی آنحضرتؐ کے بعد قیامت تک نبی اور رسول آتے رہیں گے غلط اور محض غلط ہے۔

چوتھی حدیث! بخاری شریف میں ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے

فرمایا۔

۴..... کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لاني بعدى وسيكون خلفاء. (بخاری ج ۱ ص ۴۹۱ باب ما ذكر عن بنی اسرائیل)

کہ بنی اسرائیل پر انبیاء (علیہم السلام) حکومت کرتے رہے جب کوئی نبی وفات پاتے تو دوسرے نبی ان کے جانشین ہوتے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے البتہ خلفاء ہوں گے۔

اس حدیث سے صاف طور سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس طرح بنی اسرائیل میں ایک نبی کے جانشین دوسرے نبی ہوتے تھے اس طرح سے آنحضرت ﷺ کا کوئی جانشین نبی نہ ہو گا اس لیے کہ نبوت آپؐ پر ختم ہو چکی ہے آپؐ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہو گا اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپؐ کے جانشینوں کا لقب خلفاء ہے انبیاء نہیں ہے اسی وجہ سے بعض خلفائے راشدین کی نسبت آنحضرت ﷺ نے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ ان میں نبی ہونے کی صلاحیت تھی مگر چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس وجہ سے وہ نبی نہ ہو سکے۔

پانچویں حدیث! (ترمذی ج ۲ ص ۲۰۹ باب مناقب عمرؓ) میں عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔

۵..... قال رسول الله ﷺ لو كان بعدى نبي لكان عمر بن الخطاب. ”کہہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ بن خطاب ہوتے۔“

چھٹی حدیث! صحیحین میں سعد بن وقاصؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے غزوہ تبوک میں جاتے وقت حضرت علیؓ سے فرمایا۔

۶..... قال رسول الله ﷺ انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدى.

(بخاری ج ۱ ص ۵۲۶ باب مناقب علیؓ ابن ابی طالب سلم ج ۲ ص ۲۷۸ باب فضائل علیؓ ابن ابی طالب)

”کہ آپ ہمارے غیب میں اسی طرح ہمارے جانشین ہیں جس طرح موسیٰ کے جانشین ہارون تھے مگر فرق یہ ہے کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں۔“  
یعنی ہارون نبی تھے اور چونکہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس لیے آپ نبی نہیں ہو سکتے۔

اس روایت سے روز روشن کی طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے بعد حضرت ہارون جیسی نبوت بھی کسی کو نہیں مل سکتی ہے اور مرزائیوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت ہارون کی نبوت غیر تشریحی تھی تو ثابت ہوا کہ غیر تشریحی نبوت بھی کسی کو نہیں مل سکتی۔

کیا کوئی مسلمان اس بات کو مان سکتا ہے کہ مرزا قادیانی تو فانی الرسول کے درجہ پر پہنچ کر غیر تشریحی اور ظلی و بروزی نبی بن جائیں اور حضرت عمر و حضرت علی کو یہ درجہ نہ ملے اور غیر تشریحی وظلی و بروزی نبوت سے بھی محروم رہ جائیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں (واقف کار حضرات جانتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ صحابہ کرام سے اور بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اسلام کو کس قدر نفع پہنچا اور اسلامی حکومت کو ترقی ہوئی اور مرزا قادیانی کے وجود سے اسلام کو اور مسلمانوں کو کس قدر نقصان ہر طرح کا پہنچا بایں ہمہ مرزا قادیانی کو اپنی فضیلت کا دعویٰ ہے۔ افسوس۔

۔ بایں خواری امید ملک داری

مسلمانو! اس وقت تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کیں ان سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہوگئی کہ آنحضرت ﷺ پر نبوت ختم ہو چکی ہے آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہ ہوگا۔  
اب ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں جس سے علاوہ اس مضمون کے کہ آپ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہ ہوگا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے بعد جو شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ محض کذاب و دجال ہے۔

ساتویں حدیث! (ابوداؤد ج ۲ ص ۱۲۷ باب ذکر الفتن و دلائلہا اور ترمذی ج ۲ ص ۲۵ باب ماجاء لا تقوم الساعة حتی ینخرج الکذابون) میں حضرت ثوبان سے مروی ہے۔

..... قال رسول اللہ ﷺ اذا وضع السیف فی امتی لم ترفع عنها الی یوم القيامة ولا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتی تعبد قبائل من امتی الا ولان وانه سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلهم یزعم انه نبی اللہ



وانا خاتم النبیین لانی بعدی ولا تزال طائفہ من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ و فی روایۃ البخاری دجالون کذابون۔

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہماری امت میں جب لڑائی شروع ہو جائے گی تو قیامت تک موقوف نہ ہوگی اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ہماری امت کے چند قبیلے مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے اور یہاں تک کہ چند قبیلے ہماری امت کے بت پرستی کرنے لگیں اور بیشک ہماری امت میں تمیں کے قریب کذاب ہوں گے (بخاری شریف میں اس طرح ہے دجال و کذاب ہوں گے) ہر ایک ان کا دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے حالانکہ میں سب نبیوں میں آخری شخص ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ہماری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا جو ان کی مخالفت کرے گا ان کو ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔

اس حدیث میں دو لفظ قابل غور ہیں (۱) کذاب (۲) دجال۔ کذاب کے لغوی معنی ہیں کثرت سے جھوٹ بولنے والا دجال کے لغوی معنی ہیں کثرت سے فریب دینے والا یہ ظاہر ہے کہ ایک معمولی انسان جب جھوٹ بولتا ہے یا کسی کو فریب دیتا ہے تو بڑے بڑے عقلا اس کے جھوٹ کو بچ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے فریب میں آجاتے ہیں بھلا جو شخص کہ مدعی نبوت ہوگا اس کا کذب و فریب کیسا ہوگا؟ خصوصاً ایسی حالت میں کہ وہ کثرت سے جھوٹ بولے اور کثرت سے فریب دے یقیناً معمولی انسان کے کذب و فریب سے کہیں زیادہ ہوگا جو لوگ اہل علم ہیں وہ تو قرآن و حدیث کی رو سے اس کذاب و دجال کو پہچان سکتے ہیں اور ان کے فریب سے بچ سکتے ہیں مگر جو لوگ قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہیں ان کا بچنا بہت دشوار ہے اس لیے حضور ﷺ نے ان کذاب و دجال کی نشانی ایسے عام فہم لفظوں میں فرمادی ہے کہ جس کو تھوڑی عقل والا آدمی بھی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے وہ نشان یہ ہے ”کلہم یزعم انہ نبی اللہ“ یعنی ہر ایک ان کا یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی اللہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص آنحضرت ﷺ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہی کذاب و دجال ہے یعنی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا ہی کذاب و دجال ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ ہر قسم کی نبوت آپ پر ختم ہو چکی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”انا خاتم النبیین لانی بعدی“ اگر آپ کے بعد کسی قسم کے نبی کا ہونا جائز ہوتا تو آپ کذاب دجال کی یہ نشانی نہیں بتاتے اور ہرگز عام لفظوں میں نہ فرماتے کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا یہاں پر لانی بعدی میں لانی جنس

ہے جو استغراق کے لیے ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخص کسی قسم کا نبی نہیں ہو سکتا، یہ جملہ کہ ”انا خاتم النبیین“ آپ کے بعد مدعیان نبوت کے کاذب ہونے کی دلیل ہے اور یہ جملہ کہ ”لانی بعدی“ انا خاتم النبیین کی تفسیر ہے، یعنی انا خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس حدیث سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جن جھوٹے مدعیان نبوت کے ظہور کی حضور ﷺ نے پیشینگوئی فرمائی ہے ان میں تین صفتیں پائی جائیں گی (۱) باوجود دعویٰ نبوت کے اپنے کو امتی کہیں گے (۲) کثرت سے جھوٹ بولیں گے (۳) بڑے فرحی ہوں گے۔

اس حدیث کی رو سے جب مرزا قادیانی کی حالت پر غور کرتا ہوں تو یہ تینوں صفتیں مرزا قادیانی میں نہایت صفائی کے ساتھ پاتا ہوں مرزا قادیانی کی تالیفات کو اٹھا کر دیکھو قریب قریب ہر تالیف میں ان کا یہ اقرار موجود ہے کہ میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی مرزا قادیانی میں اس پہلی صفت کا پایا جانا ان کا اقرار ہے کوئی مرزائی اس سے انکار نہیں کر سکتا دوسری صفت یعنی کثرت سے جھوٹ بولنا بھی مرزا قادیانی میں روز روشن کی طرح پائی جاتی ہے دیکھو صحیفہ محمد یہ نمبر ۸، ۱۳ وغیرہ۔ مرزا قادیانی جھوٹ بولنے میں ایسے دلیر ہیں کہ بے شمار جھوٹ باتیں قرآن و حدیث کی طرف منسوب کر دینے میں کچھ بھی باک نہیں کرتے اور مادشا کی طرف جھوٹ بات کا منسوب کر دینا تو ان کا شعار ہے دیکھو (اربعین نمبر ۳ ص ۷۷ خزائن ج ۱ ص ۴۰۴) میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

”لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشینگوئیاں پوری ہوتیں جس میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتویٰ دیے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔“ حالانکہ یہ محض جھوٹ ہے کہیں قرآن مجید اور احادیث میں ان مضامین کا پتہ نہیں ہے کوئی غیرت مند مرزائی ہے جو قرآن و احادیث میں ان مضامین کو دکھائے اگر نہیں دکھلائے (اور ہرگز نہیں دکھلا سکتا ہے) تو اس کو مرزا قادیانی کے کاذب تسلیم کرنے میں کیا عذر ہے؟ مرزا قادیانی کا ایک اور صریح جھوٹ دیکھو (اربعین نمبر ۳ ص ۹۷ خزائن ج ۱ ص ۳۹۴) میں لکھتے ہیں کہ ”مولوی غلام دہلوی قصوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی اسلمعل علی گڑھ والے نے میری نسبت قطعی حکم لگایا کہ وہ اگر کاذب ہے تو

ہم سے پہلے مرے گا اور ضرور ہم سے پہلے مرے گا کیونکہ وہ کاذب ہے مگر جب ان تالیفات کو دنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مر گئے اور اس طرح پران کی موت نے فیصلہ کر دیا کہ کاذب کون تھا۔ حالانکہ یہ بھی محض جھوٹ ہے نہ مولوی غلام دنگیر صاحب نے ایسا لکھا اور نہ مولوی اسماعیل صاحب سے عرصہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کہ دونوں صاحبوں کی کتابوں میں دکھلاؤ مگر کوئی مرزائی اس کا جواب نہیں دیتا ہے۔ دعاء مرزا میں جو عین جلسہ مناظرہ مونگیر میں شائع کی گئی تھی جس کو یہ ساتواں سال ہے مبلغ پانسو روپے کا چیلنج دیا ہوا ہے کہ جو مرزائی مذکورہ بالا مضمون دونوں مولوی صاحبوں کی کتابوں میں دکھلا دے وہ مبلغ پانچ سو روپیہ مجھ سے انعام لئے جلسہ مناظرہ میں مرزائی جماعت کے بڑے بڑے مربی موجود تھے مگر صدائے برخاست یہ ہے مرزا قادیانی کے کذاب ہونے کا قطعی ثبوت اب رہی تیسری صفت یعنی دجال بڑا فریبی ہوتا اس صفت میں بھی مرزا قادیانی اپنی نظیر آپ ہے اگر مرزا قادیانی کی دھوکا بازیوں اور فریبوں کو جمع کیا جائے تو ایک مستقل کتاب ہو جائے میں اس وقت ان کا ایک فریب دکھلاتا ہوں سنو!

مرزا قادیانی نے جس طرح مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اسی طرح خاتم الخلفاء ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کا آخری خلیفہ ہوں کسی نے ان پر اعتراض کیا کہ از روئے حدیث شریف کے خلافت تو میں برس تک ختم ہو چکی اب آپ خاتم الخلفاء کیونکر ہو سکتے ہیں اس کے جواب میں مرزا قادیانی (شہادۃ القرآن ص ۳۱ خزائن ج ۶ ص ۳۳۷) میں لکھتے ہیں۔

”اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہے مثلاً صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی کہ ”ہذا خلیفۃ اللہ المہدی“ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے مگر وہ حدیث جو معترض نے پیش کی ہے علماء کو اس میں کئی طرح کا جرح ہے اور اس کی صحت میں کلام ہے۔“

اس جواب میں مرزا قادیانی کا فریب یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اس حدیث کو جس میں یہ ذکر ہے کہ بعض خلیفہ کے لیے آسمان سے آواز آئے گی کہ ”ہذا خلیفۃ اللہ

المہدیؑ بخاری شریف کی طرف منسوب کر دیا ہے پھر اہل سنت و جماعت کے اس مشہور قول کو کہ قرآن مجید کے بعد تمام کتابوں سے صحیح کتاب بخاری شریف ہی ہے ذکر کر کے اس پر زور دے دیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ حدیث بہت صحیح ہے اور جو حدیث معترضین نے پیش کی ہے بمقابلہ اس حدیث کے ضعیف ہے حالانکہ یہ بات محض غلط ہے بخاری شریف میں اس حدیث کا کہیں پتہ نہیں ہے نہ تو ان لفظوں کے ساتھ یہ حدیث بخاری میں ہے اور نہ اس مضمون کی کوئی حدیث بخاری ہے ہن عرصہ ہوا کہ میں نے اس کو بھاگپور کے جلسہ میں بھی بیان کیا تھا اور صحیفہ رحمانیہ نمبر ۲۱ میں بھی طبع کروا کر شائع کر دیا ہے مگر آج تک مرزا یوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آج پھر مرزا یوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ اس حدیث کو یا اس کے مضمون کو بخاری شریف میں دکھلائیں یا مرزا قادیانی کے جھوٹے اور فریبی ہونے کا اقرار کریں یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک معترض کے جواب میں تو مرزا قادیانی نے اس حدیث کو بخاری شریف کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس وجہ سے اس کی صحت پر برا زور دے رہے ہیں اور اس سے یہ شتر اپنی مایہ ناز کتاب (ازالہ اوہام حصہ دوم ص ۵۶ خزائن ج ۳ ص ۲۷۸) میں لکھا ہے کہ ”اگر مہدی کا آنا مسیح ابن مریم کے زمانہ کے لیے ایک لازم غیر منطک ہوتا اور مسیح کے سلسلہ ظہور میں داخل ہوتا تو دو بزرگ شیخ اور امام حدیث کے یعنی حضرت محمد اسماعیل صاحب صحیح بخاری اور حضرت امام مسلم صاحب صحیح مسلم اپنے اپنے صحیحہ سے اس واقعہ کو خارج نہ رکھتے لیکن جس حالت میں انہوں نے اس زمانہ کا تمام نقشہ صحیح کر رکھ دیا اور مصر کے طور پر دعویٰ کر کے بتلا دیا کہ فلاں فلاں امر کا اس وقت ظہور ہوگا لیکن امام محمد مہدی کا تو نام تک بھی نہیں لیا اس سے سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی صحیح اور کامل تحقیقات کے روبرو ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھا جو مسیح کے آنے کے ساتھ مہدی کا آنا لازم غیر منطک ٹھہرا رہی ہیں۔“

اب کوئی مرزائی مجھے بتلائے کہ جب امام بخاری نے امام محمد مہدی کا نام تک نہیں لیا تو پھر یہ حدیث کہ ”ہذا حلیفۃ اللہ المہدیؑ“ صحیح بخاری میں کیونکر پائی جاسکتی ہے؟ یہ ہے مرزا قادیانی کا دوسرا فریب کہ جہاں ان کو یہ ثابت کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مہدی نہیں ہوں گے وہاں یہ لکھ دیا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں امام مہدی کا نام تک نہیں لیا ہے اور جب ایک معترض نے ان کے حاتم الخلفا ہونے پر اعتراض کیا تو اس کے جواب میں لکھ دیا کہ ”ہذا حلیفۃ اللہ المہدیؑ“ بخاری شریف میں ہے یا یوں کہیے کہ مرزا قادیانی کو معترض کے

جواب لکھتے وقت اپنے حافظہ کے تصور کی وجہ سے اپنی پہلی تحریر یاد نہیں رہی تو اس صورت میں بھی مرزا قادیانی مشہور مثل کے مطابق کہ دروغ گو را حافظہ نباشد دروغ گو ثابت ہوتے ہیں۔

الغرض مرزا قادیانی جس طرح قرآن وحدیث کی رو سے کاذب ثابت ہوتے ہیں اسی طرح ایک مشہور مثل کی رو سے بھی دروغ گو ثابت ہوتے ہیں ”فاعتبر وایا اولی الابصار“

مسلمانو! آپ حضرات نے ہمارے مذکورہ بالا بیان سے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، کہ ہم لوگوں کا یہ عقیدہ کہ سید المرسلین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ پر نبوت و رسالت ختم ہو چکی ہے آپ کے بعد کسی کو کسی قسم کی نبوت و رسالت نہیں مل سکتی۔ نہایت ہی پختہ عقیدہ ہے اور قرآن مجید کی آیہ قطعی الدلالت اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اور مذکورہ بالا آیت اور احادیث کے وہی معانی ہیں جو ابھی بیان کیے گئے ان کے سوا دوسرے معانی نہیں ہو سکتے جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے اور آنحضرت کے بعد کسی کے نبی و رسول ہونے کا قائل ہو وہ شخص اہل سنت و جماعت بلکہ اہل اسلام سے خارج ہے جیسا کہ قاضی عیاض اپنی مشہور کتاب (شفاء جز ۲ ص ۲۷۷) فصل فی بیان ماہو من المقالات کفر و مایتوقف ) میں لکھتے ہیں۔

”ومن ادعی النبوة لنفسه او حوز اکتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها کالفلاسفة وغلاة المتصوفة وكذلك من ادعی منهم انه یوحی الیه وان لم یدع النبوة وانه یصعد الی السماء ویدخل الجنة ویاکل من ثمارها ویعانق حورالعین فهو لاء کلهم کفار مکذوبون للنبی ﷺ لانه اخبر ﷺ انه خاتم النبیین لا نبی بعده و اخبر عن الله تعالیٰ انه خاتم النبیین و انه ارسل کافله للناس و اجمعت الامة علی حمل هذا الکلام علی ظاهره و انه مفهومه المراد به دون تاویل وتخصیص فلا شک فی کفر هؤلاء الطوائف کلها قطعاً و اجماعاً وسمعاً“

”جو شخص خود نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا یہ دعویٰ کرے کہ محنت سے نبوت حاصل ہو سکتی ہے یا یہ دعویٰ کرے کہ صفائی قلب سے نبوت کے مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے جیسا کہ فلاسفہ اور غالی صوفیاء قائل ہیں یا یہ دعویٰ کرے کہ اس پر وحی آتی ہے گو نبوت کا دعویٰ نہ کرے یا یہ دعویٰ کرے کہ وہ آسمان پر چڑھتا ہے جنت میں داخل ہوتا ہے اور اس کا میوہ کھاتا ہے حوروں کو گلے لگاتا ہے پس یہ سب کے سب کافر ہیں رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرنے والے ہیں اس لیے کہ آپ نے یہ خبر دی

ہے کہ آپؐ خاتم النبیین ہیں آپؐ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور آپؐ نے یہ بھی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو خاتم النبیین کہا ہے اور آپؐ کو تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے اور امت محمدیہؐ نے اس پر اجماع کیا ہے کہ ختم نبوت کے بارہ میں جو آیت یا حدیث آئی ہے اس کے وہی معنی ہیں جو اسکے الفاظ سے سمجھے جاتے ہیں اور وہی مراد ہیں اور اس میں کسی طرح تاویل یا تخصیص جائز نہیں ہے پس اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب گروہ یقینی کافر ہیں ان کے کفر پر اجماع ہو گیا ہے اور ان کا کفر قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔“ اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص اسلام سے خارج ہے نہ تو اس کے جنازے کی نماز درست ہے نہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اب میں اپنا بیان اس دعا پر ختم کرتا ہوں۔

”ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين“

اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد مولانا محمد عمر صاحب نے فرمایا کہ مسئلہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے جو شخص آنحضرت ﷺ کے بعد کسی کے نبی ہونے کا قائل ہو وہ مسلمان نہیں ہے جس طرح اس کے جنازہ کی نماز اور اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے اسی طرح اس سے شادی بیاہ بھی ناجائز ہے نہ اپنی لڑکی اس کو دو اور نہ اس کی لڑکی لو۔

ناظرین! مذکورہ بالا تقریر بر جلسہ حقانی میں بتاریخ ۵۔ اگست ۱۹۱۷ء ہوئی تھی۔ اس کے بعد تاریخ ۱۰۔ اگست مذکور کو مرزا بیوں کی طرف سے ایک اشتہار اس عنوان سے شائع کیا گیا۔ حکیم خلیل احمد (مرزائی) کا نبوت پر تیسرا لیکچر اس تاریخ میں مسلمانوں کی طرف سے چند حضرات مرزا بیوں کے جلسہ میں بھیجے گئے اور غازی مولوی سعید الحسن صاحب مختار نے حکیم خلیل احمد (مرزائی) سے مناظرہ کیا جس کی مختصر کیفیت صحیفہ محمدیہ نمبر ۱۲ میں شائع کی جا چکی ہے۔

اس جلسہ میں حکیم خلیل نے مناظرہ کے قبل اپنی تقریر میں یہ بیان کیا تھا کہ ہمارے مخالفین ختم نبوت کی دلیل میں آیت خاتم النبیین پیش کرتے ہیں حالانکہ خاتم النبیین کے یہ معنی نہیں ہیں کہ نبوت آپؐ پر ختم ہو گئی ہے بلکہ خاتم کے معنی مہر کے ہیں یعنی جس طرح مہر اس چیز کی تصدیق

کرتی ہے جس پر مہر ہے اسی طرح آپ سارے نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں اس رو سے خاتم النبیین کے معنی ہیں نبیوں کا تصدیق کرنے والا پس اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اسی طرح لانی بعدی کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ یہ مطلب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے جیسا کوئی نبی نہ ہوگا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سے کم درجہ کا نبی ہو سکتا ہے جس طرح ”اذا ہلک کسری فلا کسری بعده و اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعده“ کا یہ مطلب ہے کہ جب کسری ہلاک ہوگا تو اس جیسا دوسرا کسری نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس جیسا دوسرا قیصر نہ ہوگا۔“

(مسلم ج ۲ ص ۲۹۶ فصل فی ہلک قیصر و کسری)

ہر چند اس جواب کا جواب مذکورہ بالا تقریر میں موجود ہے لیکن اس وجہ سے کہ مرزائی مقرر نے اس جواب میں محض دھوکا دیا ہے اور صریح فریب سے کام لیا ہے پھر بچہ وجوہ جواب دیتا ہوں سنو!

..... اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ خاتم النبیین میں خاتم کے معنی مہر کے ہیں اور خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ سب نبیوں کے مہر ہیں تو بھی اس آیت سے نبوت کا ختم ہو جانا ہی ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ اس معنی کے رو سے مطلب یہ ہوگا کہ آنحضرت ﷺ کو مہر کے ساتھ اس بات میں تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح مہر آخر میں لگائی جاتی ہے اسی طرح آپ سب نبیوں کے آخر میں دیکھو حاشیہ بیضادی میں لکھا ہے ”قشبه النبی ﷺ بالخاتم لكونه فی خاتمهم“ یا یوں کہیے کہ جس طرح کسی چیز کو بوتل وغیرہ میں بند کر کے مہر کر دیتے ہیں تاکہ دوسری چیز اس میں داخل نہ ہو سکے اسی طرح سلسلہ نبوت کو بند کر کے آپ کو مہر بنایا تاکہ اب کوئی دوسرا سلسلہ نبوت میں داخل نہ ہو سکے۔

یہاں یہ کہنا کہ جس طرح مہر تصدیق کرنے والی چیز ہے اسی طرح آپ انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں دو جہوں سے غلط ہے۔

وجہ اول! یہ ہے کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ خاتم النبیین کے یہ معنی ہیں کہ آپ سب نبیوں کے تصدیق کرنے والے ہیں تو یہ صفت سب نبیوں میں پائی جاتی ہے اس لیے کہ ہر نبی کل انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں کسی نبی نے کسی نبی کی تکذیب نہیں کی ہے پس یہ صفت آپ کے ساتھ خاص نہیں نہ ہوئی حالانکہ حضور ﷺ نے ختم نبوت کو ان چھ چیزوں میں شمار کیا ہے جو آپ

کے سوا کسی نبی کو نہیں دی گئی مذکورہ بالا تقریر میں تیسری حدیث کو بغور دیکھو۔

وجہ دوم! یہ ہے کہ خاتم کو بمعنی مہر لے کر پھر اس کو تصدیق کرنے والے کے معنی میں لینا عربی لغات اور عربی محاورات کے محض خلاف ہے، کہیں عربی محاورہ میں خاتم تصدیق کرنے والے کے معنی میں مستعمل نہیں ہے، تو قرآن و حدیث میں اور نہ دیگر کلام عرب میں اگر کسی مرزائی کو کچھ بھی علمیت کا دعویٰ ہے تو اس بات کو کلام عرب سے ثابت کرے کہ خاتم کے معنی مصدق کے ہیں اگر نہیں ثابت کر سکتا اور ہرگز نہیں ثابت کر سکتا تو اس کو یقین کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی تفسیر میں اس حدیث شریف کا مصداق ہے جو (ترمذی ج ۲ ص ۱۱۹ ابواب تفسیر القرآن) میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ

۸..... عن النبی ﷺ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتؤمقعه من النار.

کہ حضورؐ نے فرمایا کہ جو شخص تفسیر محض اپنی رائے سے کرے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے۔

۲..... اس آیت میں مشہور قرأت کی رو سے خاتم بالکسر ہے جس کے معنی ہیں ختم کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی قرأت کو لیا ہے اور یہی معنی کیا ہے چنانچہ وہ اپنی مشہور کتاب ازالۃ الاوهام کے (حصہ دوم ص ۶۱۴ خزائن ج ۳ ص ۴۳۱) میں لکھتے ہیں وہ اکیسویں آیت یہ ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ دِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ.

”یعنی محمد ﷺ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے

والا نبیوں کا۔“

اب مرزائی لیکچرر بتائے کہ جب اس کے پیر و مرشد خاتم النبیین کے معنی نبیوں کا ختم کرنے والا لکھ چکے ہیں تو اب وہ اس معنی کو چھوڑ کر کس منہ سے دوسرے معنی بیان کرتا ہے اس کو اپنے پیر و مرشد کے خلاف معنی بیان کرنے میں شرم نہیں آتی ہے، شرم! شرم!!!

۳..... تمام اہل لغت اور تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ خاتم النبیین میں خاتم کو بالکسر پڑھو یا بالفتح دونوں حالت میں اس کے معنی آخر النبیین ہیں اور متعدد صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضورؐ پر نورؑ نے اپنے کو ”انا آخر الانبیاء انا العاقب انا اللبنة“

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ مثلی و مثل الانبیاء کمثل

قصر احسن بنیانه ترک منه موضع لبنة فطاف به النظار متعجبون من حسن بنیانه الاموضع تلک اللبنة فکنت انا سدوت موضع اللبنة ختم بی البیان و



عتم ہی الرسل و فی رواية فانما اللبنة وانا خاتم النبیین۔ (مسکوٰۃ ص ۵۱۱ باب فضائل سید المرسلین بخاری ج ۱ ص ۵۰۱ باب خاتم النبیین، مسلم ج ۲ ص ۲۳۸ باب ذکر کونہ ﷺ خاتم النبیین)

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا ”میری اور دوسرے نبیوں کی مثل ایک مکان کی ہے کہ کسی نے نہایت عمدہ مکان بنایا لوگ اس کو پھر پھر کر دیکھتے ہیں اور اس کے حسن تعمیر پر تعجب کرتے ہیں مگر اس مکان میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے پس میں نے آ کر اس اینٹ کی جگہ کو بھر دیا اور وہ ناتمام مکان مجھ سے پورا ہو گیا اور رسولوں کے آنے کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا پس میں پیغمبروں میں اس آخری اینٹ کے مانند ہوں یعنی میں خاتم النبیین ہوں۔“

اس روایت میں آپؐ نے دین کو ایک مکان کے ساتھ تشبیہ دی اور تمام انبیاء کو اینٹ کے ساتھ تشبیہ دی اور اپنے کو آخری اینٹ فرمایا جس سے ثابت ہوا کہ آپؐ آخری نبی ہیں آپؐ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا ایسی صحیح صحیح اور صاف صاف حدیثوں کے ہوتے ہوئے ختم نبوت کا انکار کرنا یا اس کی تاویل کرنی کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔

اور چند مواقع پر لانی بعدی فرما کر بتلادیا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہیں اب کون ایماندار ہے کہ ان تصریحات کو چھوڑ کر خاتم النبیین کے دوسرے معنی کرے یا وجدان تصریحات کے مرزائی جرات اگر ختم نبوت کی قائل نہیں ہوتی ہے تو صاف یہی کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم کو قرآن وحدیث کے ماننے میں کلام ہے اگر ایسا کہہ دیں تو ہم آئندہ اس کے مقابلہ میں قرآن وحدیث پیش نہیں کریں گے بلکہ دوسرے طریقہ سے ان کے غلط دعوئے کو باطل کر دکھائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

مرزائی لیکچر کا یہ کہنا کہ لانی بعدی کا یہ مطلب ہے کہ آپؐ کے بعد آپؐ جیسا کوئی نبی نہ ہوگا آپؐ سے کم درجہ کا نبی ہو سکتا ہے محض فریب دہی ہے اس لیے کہ اگر مرزائی لیکچر کا یہ بیان صحیح ہو تو اس سے لازم آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے یہ معنی ہوں کہ خدا جیسا کوئی معبود نہیں ہے خدا سے کم درجہ کا معبود ہو سکتا ہے۔ (نعوذ باللہ منہ) اسی طرح یہ بھی لازم آتا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ کا یہ مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسا کوئی مہدی نہ ہوگا حضرت عیسیٰ سے کم درجہ کا مہدی ہو سکتا ہے حالانکہ مرزا غلام احمد لا مہدی الا عیسیٰ کا یہ مطلب لکھتے ہیں کہ اس وقت بجز عیسیٰ کے کوئی مہدی نہیں ہوگا۔

اب مرزائی لیکچر بتلائے کہ کلمہ طیبہ کے صحیح معنی کیا ہیں اور مرزا قادیانی نے جو معنی

لامہدی الا عیسیٰ کے لکھا ہے صحیح ہے یا غلط؟ اس موقع پر میں ایک اور صحیح حدیث پیش کرتا ہوں جو (ترمذی ج ۲ ص ۵۱ باب ذہبت النبوة و بقیت المبشرات منہام احمد بن حنبل ج ۳ ص ۲۶۷) میں انس بن مالک سے مروی ہے۔

۱۰ ..... قال رسول اللہ ﷺ ان الرسالة والنبوة قد القطعت فلا رسول بعدی ولا نبی الحدیث۔

کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی پس کوئی رسول اور نبی میرے بعد نہیں۔

مرزائی لیکچرار اپنے بڑے بڑے مربیوں سے پوچھے کہ اس حدیث کے پہلے جملہ ان الرسالة والنبوة قد انقطعت کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر اس جملہ کے بعد فاء تفریع کے ساتھ لا رسول بعدی ولا نبی لانے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اگر مرزائی جماعت میں کسی کو بھی کچھ علمیت کا دعویٰ ہے تو باقاعدہ اس حدیث کا جواب دے ورنہ مسئلہ ختم نبوت میں چون و چرا کرنے سے باز آئے۔

اصل بات یہ ہے کہ مرزائی لیکچرار نہیں جانتا کہ لائے نفی جنس سے کس جگہ نفی ذات مراد ہوتی ہے اور کس جگہ نفی صفت سچ ہے۔

وہ لوگ نکتہ موزوں کی قدر کیا جانیں  
جو مبتدا و خبر کی خبر نہیں رکھتے

مرزائی لیکچرار کا اذا اہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ و اذا اہلک قبصر فلا قبصر بعدہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس حدیث کے شان نزول سے محض تاواقف ہے اگر اس حدیث کے شان نزول سے واقف ہوتا تو کبھی اس حدیث کو پیش نہیں کرتا۔

سنو! اس حدیث کا شان نزول یہ ہے کہ قریش اسلام قبول کرنے سے پہلے شام اور عراق میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کو اس بات کا خوف ہوا کہ شام میں قیصر کی سلطنت ہے اور عراق میں کسریٰ کی سلطنت ہے اور یہ دونوں ہمارے مذہب اسلام کے مخالف ہیں ہم لوگوں کو مسلمان ہو جانے کی وجہ سے اپنے اپنے ملک میں تجارت نہیں کرنے دیں گے اس وقت حضور ﷺ نے قریش کو یہ خوشخبری سنائی کہ شام سے قیصر کی سلطنت اور عراق سے کسریٰ کی سلطنت بہت جلد زوال پذیر ہو جائے گی پھر شام میں قیصر کی سلطنت اور

عراق میں کسریٰ کی سلطنت نہ ہوگی پس ”فلا کسریٰ بعدہ ولا قیصر بعدہ“ کا مطلب یہ ہے فلا کسریٰ بالعراق ولا قیصر بالشام اور یہی واقع بھی ہوا کہ عراق سے کسریٰ کی سلطنت گئی تو پھر کوئی کسریٰ عراق کا مالک نہیں ہوا اور شام سے قیصر کی سلطنت گئی تو پھر شام کا مالک کوئی قیصر نہیں ہوا۔

اس حدیث کا یہ مطلب امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اور یہی مطلب شان نزول کے مطابق ہے دیکھو (فتح الباری شرح بخاری)۔

اب مرزائی لیکچرار بتائے کہ اس حدیث سے اس کو کیا فائدہ پہنچا؟

نوٹ: ناظرین اس بات پر بھی غور کریں کہ علما اسلام مرزائیوں کے رد میں جو تقریریں کرتے ہیں ہم ان کو قلمبند کر کے چھاپ کر شائع کر دیتے ہیں تاکہ غیر حاضرین جلسہ بھی ان تقریروں سے فائدہ اٹھائیں اور مرزائی جماعت کو اگر ان تقریروں پر کوئی اعتراض ہے تو پیش کریں اور جواب سنیں مگر آج تک مرزائیوں کو جرات نہیں ہوئی کہ ان تقریروں پر کوئی اعتراض کر سکیں اس کے خلاف مرزائیوں کی یہ حالت ہے کہ اپنے اشتہاروں میں یہ تو لکھ دیتے ہیں کہ فلاں مضمون پر پہلا لیکچر دوسرا لیکچر تیسرا لیکچر مگر کسی لیکچر کا مضمون چھاپ کر شائع نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مضامین اَوْهَنَ مِنْ بَيْتِ الْمُعَنَكُوتِ ہیں یعنی کڑے کے جالے سے بھی زیادہ کمزور یہی وجہ ہے کہ کسی ذی علم مسلمان کے سامنے منہ کھولنے کی انہیں جرات نہیں ہوتی۔ مونگیر کے جلسہ کے بعد بھاگلپور عبدالماجد قادیانی کی مدد کو میاں خلیل قادیانی پہنچے وہاں بھی جبر مرزائی جہلاء کے کسی کے سامنے نہ آئے ایک لائق انگریزی دان نے مناظرہ کو کہا کہ مرزا کی نبوت پر بحث کی جائے مگر بالکل دم سے بخود اور کچھ نہ بولے پھر یہ حضرت نبوت پر لیکچر دیں گے ان کی باتیں صرف جہلاء کے بہکانے کے لیے ہیں۔ کڑے کے جالے سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں اگر ان مضامین میں کچھ بھی قوت ہوتی تو وہ ضرور شائع کرتے۔

بخودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

ضمیمہ: مذکورہ بالا تقریر کی کاپیاں تیار ہو چکی تھیں تصحیح ہو رہی تھی کہ مولوی عبدالشکور صاحب بی اے بھاگلپوری کا ایک خط پہنچا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے قادیانی عبدالماجد سے دو سوال کیے تھے جن کا جواب انہوں نے لکھا ہے اب جواب الجواب ہونا چاہیے یہ خط مولانا ابوالخیر مولوی سید

محمد انور حسین کو دیا گیا کہ آپ جواب الجواب لکھ دیں اور وہ آپ کی تقریر ختم نبوت کا ضمیمہ بنا دیا جائے چنانچہ مولانا ممدوح نے جواب الجواب تحریر فرما کر دیا جو درج ذیل ہے۔

### مولوی عبدالشکور صاحب بی اے کا پہلا سوال

کیا آپ قرآن شریف سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ بعد محمد (ﷺ) کے کوئی نبی یا رسول یا پیغمبر تشریف فرما ہوں گے اگر اس کا ذکر ہے تو آپ مہربانی کر کے حوالہ دیں گے، مگر لفظ پیغمبر نبی رسول کا ہونا ضرور ہے میں منطق اور فلسفہ نہیں جانتا۔

### قادیانی مربی عبدالماجد کا جواب

آپ کے دو سوالوں میں سے اول سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن شریف سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جب تک نبی آدم موجود ہیں خداوند تعالیٰ کے رسول آیا کریں گے کسی زمانہ کی تخصیص نہیں کی گئی ہے سورہ اعراف کے تیسرے رکوع میں یہ ہے کہ یٰبَنیٰ اٰدَمَ اٰمَآءَیٰتِیْنِکُمْ رُسُلٌ مِّنْکُمْ یَقْضُوْنَ عَلَیْکُمْ اَیَّامِیَ فَمَنِ اتَّقٰی وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ (اعراف ۳۵) اسی طرح ایک اور آیت سورہ حج میں ہے اَللّٰهُ یَصْطَفِیْ مِنْ الْمَلٰٓئِکَۃِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰہَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ (سورہ حج ۷۷)

### جواب الجواب

قادیانی مربی عبدالماجد کا جواب بچہ و جود غلط ہے۔

..... جواب سوال کے مطابق نہیں ہے اس لیے کہ سوال میں یہ ہے کہ حضرت محمد (ﷺ) کے بعد رسول یا نبی کا آنا قرآن مجید سے ثابت کیجئے مربی صاحب کی پیش کردہ دو آیتوں میں سے کسی میں یہ قید نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد بھی رسول آئیں گے یہاں پر دعویٰ خاص اور دلیل عام ہے پس جواب غلط ہوا ماہرین فن مناظرہ سے پوچھ لو علاوہ اس کی باتیں کہ نون تاکید ہے اور مرزا قادیانی اور ان کی تمام جماعت کو اس بات سے سخت انکار ہے کہ نون تاکید زمانہ استقبال پر دلالت کرتی ہے پس مرزائی علم نحو کی رو سے اس آیت سے زمانہ استقبال میں کسی رسول کا آنا کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا اگر قادیانی مربی عبدالماجد یہاں پر اس بات کے قائل ہو جائیں کہ نون تاکید استقبال پر دلالت کرتی ہے تو ان کو ماننا پڑے گا کہ وَاِنَّ مِنْ اٰہْلِ الْکِتٰبِ اِلَّا لَیُّوْمِیْنٌ بِہٖ قُبِلَ مَوْتُہٗ میں بھی نون تاکید استقبال کے لیے ہے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مولوی قادیانی کو

مہمات مسیح کے اعتقاد سے توبہ کر کے حیات مسیح کا قائل ہونا پڑے گا جس سے مرزا قادیانی کی مسیحیت کا بنیادی پتھر اکھڑ جائے گا اور سارا مرزائی کارخانہ درہم و برہم ہو جائے گا ہم اس آیت کا صحیح مطلب آگے چلکر بیان کریں گے۔

۲..... یہ آیت جملہ شرطیہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس رسول آئیں تو جو شخص صلاح و تقویٰ اختیار کرے گا وہ خوف زدہ و محزون نہ ہوگا اور جملہ شرطیہ کے لیے اس کا واقع ہونا ضروری نہیں ہے، مثلاً کسی نے یہ کہا کہ اگر زید ہمارے یہاں آئے گا تو ہم اس کو دس روپے دیں گے اس کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ زید کا آنا ضروری ہو پس مجرد اس آیت سے کسی زمانہ میں بھی رسولوں کے آنے کا ضروری ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا چنانچہ یہ ثابت ہو کہ آنحضرتؐ کے بعد بھی رسول آیا کریں گے۔

۳..... عبدالمہاجد قادیانی اپنے ایک چھوٹے سے رسالہ ”احیاء موتی“ میں یہ بات تسلیم کر چکے ہیں بلکہ اسی پران کا استدلال ہے کہ جب کوئی مضمون کسی آیت سے قطعی طور پر ثابت ہو جائے اور حدیث سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہو تو جو دوسری آیت و حدیث اس کے معنی کے خلاف ہو تو اس دوسری آیت و حدیث کے وہ معنی کرنے چاہیے جو پہلی آیت و حدیث کے خلاف نہ ہو پس اسی قاعدہ کی رو سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آیہ کریمہ ”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رُّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ“

قطعی طور پر از روئے لغات و محاورات عرب اور نیز با اتفاق مفسرین یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آنحضرتؐ پر نبوت ختم ہو چکی ہے آپؐ کے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ نہیں ملے گا اور اس کی کامل تائید متعدد صحیح حدیثوں سے ثابت کر کے دکھائی گئی ہے بلکہ یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ آپؐ کے بعد جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ دجال و کذاب ہے تو اگر قادیانی مربی کی سمجھ میں کوئی آیت یا حدیث ایسی ہے جس سے ختم نبوت کے خلاف ہمیشہ رسول کا آنا ثابت ہوتا ہو تو ان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اس آیت و حدیث کے ایسے معنی تراشیں جو آیت خاتم النبیین اور حدیث لانی بعدی کے خلاف ہوں۔

۴..... سورہ اعراف کی آیت میں اس وقت کا تذکرہ ہے جس وقت حضرت آدمؑ جنت سے جدا ہوئے خداوند تعالیٰ نے بنی آدم سے عالم ارواح جس طرح اور عہد و پیمان لیا تھا اسی طرح۔ سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ اے بنی آدم اگر ہمارے رسول تمہارے پاس آئیں اور ہماری آیتیں سنائیں تو جو

فخص ان کے کہنے کے مطابق صلاح و تقویٰ اختیار کرے گا وہ خوف زدہ اور محزون نہ ہوگا اور جو تکذیب و انکار کرے گا وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہوگا اس کے دو ثبوت ہم پیش کرتے ہیں۔

پہلا ثبوت! جناب شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمۃ (جن کو قادیانی عبدالماجد اپنے حلفی اظہار میں اسی طرح کا نبی مان چکے ہیں جس طرح کا نبی مرزا قادیانی کو مانتے ہیں) اسی آیت کے تحت میں فرماتے ہیں: یعنی برزبان آدم چنانکہ از سورہ بقرہ اشارت رفت۔ یعنی اس آیت میں برزبان حضرت آدم کے بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں صاف طور سے مذکور ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَلَقْنَا  
أَهْبَاطُوهَا مِنْهَا جَمِيعًا فَاِذَا يَا بَيْنَكُمْ مَنَىٰ هَذَىٰ لَمَنَ تَبِعَ هَذَا لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا  
هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ (سورہ بقرہ ۳۷-۳۹)

بس سمجھ لیے آدمؑ نے اپنے رب سے چند کلمے تو خدا نے ان کی توبہ قبول کی بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے کہا ہم نے کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ بس اگر تمہارے پاس ہماری ہدایت (کتاب و رسول) پہنچیں تو جو کوئی ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کبھی خوف زدہ و محزون نہ ہوگا اور جو انکار و تکذیب کرے گا وہ دوزخی ہوگا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

سورہ اعراف کی آیت اور سورہ بقرہ کی آیت دونوں کا ایک مطلب اور ایک وقت ہے اس آیت سے روز روشن کی طرح سے ثابت ہو گیا کہ سورہ اعراف میں جس خطاب کا ذکر ہے وہ خطاب اس وقت ہوا تھا جس وقت حضرت آدمؑ جنت سے دنیا میں آئے تھے اور اس میں شک نہیں کہ اس کے بعد حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت محمد ﷺ تک رسولوں کے آنے کا سلسلہ برابر جاری رہا جب آیہ خاتم النبیین نازل ہو گئی تو معلوم ہو گیا کہ اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا۔

دوسرا ثبوت! (تفسیر درمنثور ج ۳ ص ۸۲) میں (جس کا مرزا قادیانی نے بھی اپنے تالیفات میں اکثر حوالہ دیا ہے) سورہ اعراف کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔

اخرج ابن جریر عن ابی یسار السلمی قال ان الله تبارک و تعالی جعل آدم و ذریته فی کفه فقال یا بنی آدم اما یتینکم رسل منکم یقصون علیکم

آیاتِی لمن اتقی و اصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الآیہ۔

کہ ابن جریر نے ابی یار سلمیٰ سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور ذریت آدم کو اپنے ہاتھ میں لیکر فرمایا کہ اے بنی آدم اگر تمہارے پاس ہمارے رسول آئیں اور تم پر ہماری آیتیں پڑھیں تو جو شخص ان کے کہنے کے مطابق صلاح و تقویٰ اختیار کرے گا وہ خوف زدہ و محزون نہ ہوگا اور جو انکار و تکذیب کرے گا وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہوگا۔

اس روایت میں خاص اسی آیت کی تفسیر ہے جو قادیانی مربی عبدالماجد نے پیش کی ہے اس روایت سے یاتین کی نون تاکید کا زمانہ استقبال کے لیے ہونا بھی صحیح ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ خطاب حضرت آدم کے وقت کیا گیا تھا اور اس خطاب کے مطابق رسولوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہوا اور ہا جب آیت خاتم النبین نازل ہو گئی تو معلوم ہو گیا کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا خاتم النبین کی آیت کے نازل ہونے کے بعد اس آیت سے قیامت تک کے لیے رسولوں کے آنے پر استدلال کرنا یا تو محض حماقت ہے یا دیدہ و دانستہ آیت خاتم النبین کا انکار ہے۔

### دوسری آیت کا جواب

سورہ حج میں ہے کہ ”اللہ یضطفی من الملائکۃ رُسلًا و من الناس ان اللہ سمیع بصیر“

اللہ تعالیٰ جن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسولوں کو اور انسانوں میں سے بیشک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اس آیت کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ خدا کے رسول فرشتہ بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی یہ مطلب کسی طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ فرشتہ اور انسان ہمیشہ قیامت تک رسول بنا کریں گے، یہ صطفی مضارع مطلق ہے مضارع دوامی نہیں ہے قادیانی عربی علم صرف کی کتابیں ملاحظہ فرمائیں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مضارع دوامی کا صیغہ عربی میں کس طرح بنتا ہے اور مضارع مطلق اور مضارع دوامی میں کیا فرق ہے؟ اس کے علاوہ جب ایک آیت سے قطعاً ثابت ہو گیا کہ رسالت و نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی و رسول چنا نہیں جائے گا پھر اس آیت سے یہ سمجھنا کہ ہمیشہ انسانوں سے رسول چنے جائیں گے کیسی نا سمجھی ہے۔ مولوی مربی کی حالت پر نہایت افسوس ہے کہ وہ ایسے رکیک رکیک استدلالات پیش کر کے خود اپنی علمی پردہ دری کا باعث ہوتے ہیں۔

مولوی عبدالشکور صاحب بی اے کا دوسرا سوال  
اگر میں مرزا قادیانی کو نبی یا مسیح موعود نہیں مانوں تو میری شفاعت بروز قیامت ہوگی یا نہیں؟

قادیانی مر بی عبدالماجد کا جواب

شفاعت کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔ ”شفاعتی لاهل الکبائر من المؤمنین“ اب آپ اپنے علماء سے دریافت کر لیجئے کہ مسیح موعود کے منکر کی شفاعت ہے یا نہیں۔  
جواب الجواب

تمام علمائے اسلام کا عموماً اور علمائے اہل سنت و جماعت کا خصوصاً یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ مسیح موعود وہی حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیلی نبی ہیں ان کے سوا کوئی دوسرا شخص مسیح موعود نہیں ہو سکتا، حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیلی نبی کا منکر مومن نہیں ہے اس کی شفاعت ہرگز نہیں ہوگی اور جو شخص جھوٹے مدعیان مسیحیت کا منکر ہے وہ مومن ہے اس کی شفاعت ضرور ہوگی۔

راقم بندہ آثم

ابوالخیر سید محمد انور حسین عفی عنہ

پروفیسر ڈی جی کالج موئگیر، ۹۔ دسمبر ۱۹۷۱ء





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

النبوة في الاسلام کے نوجواب

صحیفہ رحمانیہ

(۱۷)

حضرت مولانا حکیم محمد یعسوب مونگیروی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ O

ہمدرد اسلام ممتاز احمد خان کا تحفہ امتیازیہ۔ جماعت احمدیہ نظر انصاف قبول کرے

دیکھیں تو کون مرزائی ان کا جواب دیتا ہے  
بغیر جواب دیئے منہ دکھانا سخت بے غیرتی ہے

النبوة فی الاسلام کے نو جواب

اور مرزا قادیانی کے جھوٹ

راقم الحروف عرصہ سے دیکھ رہا ہے کہ اہل حق نے مرزا غلام احمد قادیانی کی حالت کو نہایت روشن کر کے دکھایا اور اس قدر رسالے لکھے گئے کہ غالباً دوسرے کسی مدعی کا ذب کی نسبت نہ لکھے گئے ہوں گے اور نہایت روشن بات یہ دکھائی گئی ہے کہ مرزا قادیانی نے بہت کچھ دعویٰ کئے اور مختلف طور سے چندے لیے مگر ان کی ذات سے مسلمانوں کو اور اسلام کو بجز نقصان کے کسی قسم کا نفع نہیں ہوا، یعنی وہ نفع جو ان کی ذات سے مخصوص ہوا اور دوسرے ذی علم سے نہ ہوا ہو؟ اس کے جواب میں ہر ایک واقف کار نہایت یقین سے بے تامل یہی کہے گا کہ کسی قسم کا نفع نہیں ہوا، یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مخالفین اسلام کا رد کیا، مگر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خاص انہوں نے کی ہو

بلکہ اور علماء اسلام نے ان سے بہت زیادہ کیا اور اس کا نفع بہت زیادہ ہوا حضرت مولانا ابوالاحد صاحب عم فیضہ نے عیسائیوں کے جواب میں تیرہویں صدی کے آخر میں اور اس صدی کے شروع میں اس قدر کوشش کی کہ مرزا قادیانی نے اس کی عشر شیر بھی نہیں کی، بہت رسائل لکھے اور متعدد مناظروں میں انہیں عاجز کیا، اور بہت تدبیریں کیں جن سے پادریوں کا غل و شور اس وقت ایسا کم ہوا کہ گویا نہیں رہا، مرزا قادیانی نے ایک مناظرہ کیا اور اس قدر غل و شور مچایا کہ خدا کی پناہ، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پادریوں نے بہت خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کو شرمندہ کیا، اس کی تفصیل الہامات مرزا میں ملاحظہ ہو۔

آریہ کے جواب میں رسالہ لکھا مگر کانپور کے مدرسہ الہیات کو دیکھا جائے کہ اس نے بہت رسالے لکھے، اطراف میں آریوں کا اثر مٹانے کے لیے اہل علم بھیجے گئے اور بہت کچھ فائدہ ہوا، مرزا قادیانی کی تحریروں سے اگر کچھ فائدہ ہوا، مگر مضرت اس سے بہت زیادہ ہوئی، براہین احمدیہ میں اسلام کی حقانیت پر ایک دلیل لکھ کر نہایت زور سے یہ اشتہار دیا کہ ہم تین سو دلیلیں اسی طرح کی حقانیت اسلام پر لکھیں گے اس کے چھپنے کے لیے پیشگی قیمت دو۔

(مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۳۲ و ۲۳۳)

چونکہ اس وقت پادریوں نے زور کیا تھا اس لیے مسلمانوں نے قیمت بھیجی اور ہزاروں روپیہ آیا (رسالہ اشاعت السنۃ ملاحظہ ہو) مگر باوجود پختہ وعدہ کے اور اس وعدے کے نہایت مشتہر ہونے کے مرزا قادیانی نے تین سو کی جگہ تین دلیلیں بھی نہ لکھیں اور مسلمانوں کے علاوہ مخالفین اسلام نے اچھی طرح معائنہ کیا کہ مسلمانوں کا مجدد اور مسلمانوں کے امام اور مسیح اور نبی ایسے جھوٹے ہوتے ہیں اور جھوٹ بول کر روپیہ کماتے ہیں؟ اس قسم کے الزامات اور بھی ہیں، اگر کوئی حق طلب دریافت کرے گا تو بیان کیا جائے گا، خدا پر جھوٹ کے اور وعدہ خلافی کے الزام لگائے، انبیاء کی بہت کچھ توہین کی، خود اس قدر جھوٹ بولے ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے متعدد در سالوں میں انہیں دکھایا گیا ہے صرف ایک صحیفہ محمدیہ ﷺ نمبر ۸ میں بائیس جھوٹ دکھائے ہیں اور اس رسالہ میں دکھائے جائیں گے، اور جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ حضرت سرور انبیاء ﷺ کا ارشاد اس کی نسبت ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، بایں ہمہ اس صحیفہ کو چھپے ہوئے سال بھر سے زیادہ ہو گیا مگر کسی مرزائی نے جواب تو نہیں دیا، البتہ یہ کہتے سنا کہ انبیاء جھوٹ بولتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ پر ایک روایت پیش کر دی، حالانکہ قرآن شریف میں ان کی نسبت ارشاد

خداوندی ہے ”اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا“ (مریم ۴۱) اور حدیث میں آیا ہے کہ صدیق وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولے اور سچائی کی تلاش میں رہے اب جو روایت اسکے خلاف ہو اسے مرزائیوں کو اپنے قول کے بموجب نہ ماننا چاہیے البتہ اس اعلانیہ کذب و افتراء پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک رسالہ مشتمل کیا جس میں ایک مقدس بزرگ مجدد و وقت کو گالیاں دی ہیں اسی بازاری پاجھی نے پہلے بھی اسی مضمون کا رسالہ لکھا تھا اور اس کا محققانہ اور مہذبانہ جواب دور سالے ”تعبیر رویائے حقانی و جواب حقانی“ میں دیا گیا تھا مگر بازاری اور پھر قادیانی کے مقابلہ میں تحقیق و تہذیب سے کام نہیں چلتا ان کے مقابلہ میں تو انہیں کے مثل بازاری شہدہ ہو اور ایک گالی کے عوض دس گالیاں دے جب وہ خاموش ہوتے ہیں چونکہ اہل حق ایسی بیہودگی نہیں کر سکتے اس لیے اس بے حیائے اسی مضمون کا دوسرا رسالہ لکھ دیا جس سے مرزا قادیانی کی اور ان کے مریدوں کی حالت معلوم ہوتی ہے اس کے بعد دوسرا رسالہ اسی گروہ کا دیکھا گیا جس کا نام ”النبوة فی الاسلام“ ہے جس میں اپنے خیال میں یہ ثابت کیا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد بھی نبی ہوتے رہیں گے اور بہت سی جاہلانہ فریب باتیں اس میں بتائی ہیں اور عوام کو فریب دینے کے لیے بعض قرآن مجید کی آیتیں بعض حدیثیں بعض بزرگوں کے اقوال پیش کیے ہیں مگر یہ راقم نہایت خیر خواہی اور کمال وثوق سے کہتا ہے اور مجمع عام میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے وہ قطعاً اور یقیناً غلط ہے آیتوں کے معنی میں تحریف کی ہے غیر معتبر روایتیں پیش کی ہیں اور ان کا مطلب نہیں سمجھے بزرگوں کے کلام کو نہ سمجھنے کے علاوہ عبارت پوری نقل نہیں کی اس میں شبہ نہیں کہ امت محمدیہ کے تمام علمائے کرام اور صوفیائے عظام کا اس پر اتفاق ہے کہ نبوت شرعیہ یعنی شریعت محمدیہ میں جس کو نبوت کہتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی رو سے ختم ہو گئی جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ نہ ملے گا حضرت سید المرسلین ﷺ کا آفتاب نبوت ایسا تاباں و درخشاں ہوا اور قیامت تک روشن رہے گا کہ کسی چھوٹے یا بڑے کو کب کی حاجت نہ رہی اور اس آفتاب روشن جہان نبوت کے سامنے ایک کو کب کیا ہزار دس ہزار نبوت کے تارے بیکار ہیں اس روشنی اور تابانی کے علاوہ حضور سرور دو جہان ﷺ کی شان کا یہی تقاضا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہو اور آپ کی امت جسے اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کا خطاب دیا ہے راحت جاودانی کے بدلے عذاب دائمی کی مستحق نہ ہو مدعیان نبوت نے تو اس شاہ دو جہان کی ان دونوں امتیازی اور عظیم الشان صفوں سے انکار کیا اور حضور انور ﷺ کی امت کو جنم کا مستحق بنا کر کلام الہی کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ سے

انکار کر دیا، گوزبان سے نہ کہیں، چنانچہ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کر کے یہ اعلان کر دیا کہ جس نے مجھے نہ مانا وہ کافر جہنمی ہے۔ (تذکرہ ص ۶۳ طبع ۳)

اس کا حاصل یہ ہوا کہ چودھویں صدی میں جو امت محمدیہ کی تعداد چالیس کروڑ ہوئی تھی ان سب کو بجز چند افراد کے جہنمی بنا دیا۔

کہو میاں ارادت قادیانی آپ کے رسالہ ”النبوۃ فی الاسلام“ اور آپ کے نبی نے امت محمدیہ کو یہی فخر عنایت کیا کہ حضور سرور عالم ﷺ کی غلامی سے جو مخلوق کثیر نجات دائمی کی سند حاصل کر چکی تھی اسے اس جدید نبی نے چھین کر اس معزز جماعت کو ہمیشہ کے عذاب کا مستحق بنا دیا؟ اور نبوت فی الاسلام کا یہ نتیجہ ہوا، ہوش کر کے اس کا جواب دو اور تم تو کیا دو گے کوئی قادیانی مربی اس کے جواب میں دم نہیں مار سکتا، مجمع عام میں گفتگو کر کے دیکھ لو۔

ہمیں میداں ہمیں چرگاں ہمیں گوی

اب میں اس رسالے کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی اصل گفتگو تو مرزا قادیانی کی نبوت میں ہے، ہم نے ان کا جھوٹا ہونا متعدد طریقوں سے ثابت کر دیا ہے یعنی قرآن مجید سے، احادیث صحیحہ سے، ان کی ان پیشینگوئیوں کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے، جنہیں آپ کے مرشد نے اپنی صداقت کا نہایت ہی عظیم الشان نشان بڑے زور و شور سے بتایا تھا اور اپنے مرنے کے ایک سال قبل تک ان کی صداقت پر وثوق کرتے رہے، یہ وہ جھوٹ ہے جس کی صداقت معائنہ اور مشاہدہ سے ہو رہی ہے سینکڑوں بلکہ ہزاروں گواہ اس کی شہادت دل سے کرتے ہیں کہ منکوحہ آسمانی کے نکاح میں آنے کی پیشینگوئی اشتہاروں اور اخباروں کے علاوہ (شہادۃ القرآن خزائن ج ۶ ص ۳۷۵) اور (ازالہ الاوہام خزائن ج ۳ ص ۳۰۵) وغیرہ میں کس زور سے کی گئی ہے اور خدا کا وعدہ بتایا گیا ہے کہ ہر ایک مائع دور ہونے کے بعد وہ عورت تیرے نکاح میں ضرور آئے گی، اور سب موافقات دور ہوں گے، مگر معائنہ اور مشاہدہ اور تو اتر اس کو ثابت کر رہا ہے کہ وہ عورت اور اس کا شوہر اس وقت تک زندہ موجود ہے اور مرزا قادیانی کو مرے ہوئے آٹھ برس سے زیادہ ہو گئے اس پیشینگوئی کے جھوٹا ہو جانے سے مرزا قادیانی نے صرف اپنا ہی جھوٹا ہونا ثابت نہیں کیا بلکہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ و فریب کا الزام لگایا، اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، اپنے جہاں کو خوش کر دینا اور بات ہے اگر دعویٰ ہے تو معززین کے جلسہ میں آ کر اس کا جواب دیجئے اور پھر دیکھئے کہ ہم اس کی کیسی دجھیاں اڑاتے ہیں، اس کے علاوہ خود ان کے پختہ اقراروں سے ان کا قطعی جھوٹا ہونا ہر

بد سے بدتر ہونا، ملعون ہونا ثابت کر دیا ہے (فیصلہ آسمانی دیکھو اور اب رسالہ مسیح قادیان پر اقراری  
ذگریاں چھپا ہے اس میں دیکھ لیجئے گا) جب ہم ایسے مستحکم طریقوں سے ان کا جھوٹا ہونا ثابت کر  
چکے ہیں جن کے لیے آپ نے یہ رسالہ لکھا ہے تو اب ہم فضول گفتگو کرنا نہیں چاہتے بلکہ یہ کہتے  
ہیں کہ نبوت ختم ہوگئی یا نہیں ہوئی مگر ایسا جھوٹا شخص ہرگز اس مقدس عہدہ کا مستحق نہیں ہو سکتا، پہلے  
جس طرح آپ حضرات حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات و ممات کو ضروری بنا کر مرزا قادیانی کے  
کذب پر پردہ ڈالتے تھے اب ایک دوسرا مسئلہ اسی غرض سے نکالا ہے۔

اے نادان دشمنو! اس پر غور کرو جو دلیلیں مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی بیان کی  
گئیں ان کے علاوہ ان کے اعلانیہ جھوٹ بھی دکھائے گئے، محض تمہاری خیر خواہی کے خیال سے  
ان کا جواب تو تم نہیں دے سکے ایک بے جوڑ مسئلہ پر رسالہ لکھ دیا، اس رسالہ سے مرزا قادیانی سچے  
نہیں ہو سکتے، صحیفہ محمد یہ نمبر ۸ میں بائیس جھوٹ حیرت ناک دکھائے ہیں ان کا جواب دیجئے اور  
اسی صحیفہ کے نمبر ۱۳ میں بہت جھوٹ دکھائے ہیں ان جھوٹوں سے اپنے مرشد کی برأت ثابت کیجئے  
پھر اور کچھ لکھئے گا، مگر تم اپنی عمر میں تو ان کا جواب نہیں دے سکتے بطور مثال ایک عبارت مرزا  
قادیانی کی پیش کرتا ہوں (انجام آقہم ص ۳۰ خزائن ج ۱ ص ۳۰ حاشیہ) میں لکھتے ہیں۔

”خدا تعالیٰ نے پولس نبی کو قطعی طور (۱) پر چالیس دن تک عذاب نازل ہونے کا  
(۲) وعدہ دیا تھا اور وہ قطعی وعدہ تھا جس کے ساتھ کوئی بھی (۳) شرط نہیں تھی جیسا کہ (۴) تفسیر  
کبیر ص ۱۶۴ اور امام سیوطی کی تفسیر درمنثور میں (۵) احادیث صحیحہ کی رو سے اس کی تصدیق موجود  
ہے۔ مگر وہ وعدہ پورا نہ ہوا۔“

اب میاں ارادت قادیانی اور ان کے گمراہ کرنے والے بتائیں کہ وہ قطعی طور سے  
چالیس دن کا وعدہ کس یقینی آسمانی کتاب میں ہے، قرآن وحدیث متواتر میں کہیں اس کا پتہ نہیں  
ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ پانچ دعویٰ جن پر میں نے ہندسہ دے دیا ہے قطعی پانچ جھوٹ ہیں  
اس کی تشریح یہ ہے کہ اول تو نزول عذاب کا وعدہ ہی ثابت نہیں ہوتا بلکہ قرآن مجید سے اس کے  
خلاف ثابت ہوتا ہے (اس کی تفصیل رسالہ تذکرہ یونس میں کی گئی ہے ناظرین اسے ضرور ملاحظہ  
کریں تا کہ مرزا قادیانی کے اس کامل جھوٹ کا معائنہ ہو جائے جس کو مرزا قادیانی نے بار بار بول  
کر خوب مشق کر لیا ہے)۔ اس لیے (۱) پہلا جھوٹ تو یہی ہے اور جس ضعیف روایتوں میں وعدہ کا  
ذکر ہے ان سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ وعدہ الہی ہے بلکہ حضرت یونس علیہ السلام نے ام سابقہ پر

قیاس کر کے اپنی امت کو ڈرایا ہے البتہ ایک ضعیف روایت سے وعدہ الہی معلوم ہوتا ہے مگر اسی روایت میں اس وعدے کا پورا ہونا بھی آیا ہے اب مخلوق پر ظاہر کرنا کہ منکوحہ آسمانی والا وعدہ اسی طرح پورا نہ ہو جس طرح حضرت یونس سے نزول عذاب کا وعدہ الہی ہوا تھا اور پورا نہ ہوا (۲) یہ دوسرا جھوٹ ہے اور صرف جھوٹ ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کو سخت فریب دیا ہے اور اس قدم پر عیب لگایا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے (۳) تیسرا جھوٹ یہ ہے کہ اس وعدہ کو بلا شرط کہتے ہیں جب وعدہ ہی کا ثبوت نہیں ہے تو پھر اس میں شرط اور بے شرط کیسا؟ اس کے بعد جو تفسیر کبیر کا حوالہ دیا ہے اس سے مقصود تینوں دعوؤں کا ثبوت ہے یا صرف آخر کے دعوے کا یعنی شرط کا نہ ہونا مگر ہر طرح غلط ہے تفسیر کبیر سے کوئی دعویٰ مرزا قادیانی کا ثابت نہیں ہوتا اور اگر صرف تیسرے دعویٰ کے ثبوت میں حوالہ دیا ہے تو بھی محض غلط ہے اسی تفسیر کبیر کی (جلد ۶ ص ۱۸۸) میں صاف طور سے شرط موجود ہے کہ اگر ایمان نہ لائیں گے تو ان پر عذاب آئے گا اور تفسیر روح المعانی وغیرہ میں بھی شرط موجود ہے۔ اس کی عبارت یہ ہے ”فَاَوْحَىٰ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلَیْهِ قُلْ لِّہِمۡ اَنْ لِّمۡ یُّؤْمِنُوۡا جِءَ لَہِمۡ الْعَذَابُ“ یہی عبارت شیخ زادے محسے بیضاوی کی ہے اور ان کا ایمان لانا قرآن سے ظاہر ہے چنانچہ حضرت یونس کی نسبت ارشاد ہے ”وَاَرْسَلْنٰہٗ اِلَیْ مَآءٍ اَلْفٍ اَوْ یَزِیْدُوْنَ فَاٰمَنُوْا“ ہم نے یونس کو ایک لاکھ بلکہ زائد کافروں کی طرف بھیجا پس وہ ایمان لے آئے مرزا قادیانی پر تو نہ ان کی منکوحہ آسمانی ایمان لائی نہ اس کا شوہر وغیرہ پھر اپنی پیشینگوئی کی جھوٹا ہونے پر حضرت یونس کو پیش کرنا کیسا صریح فریب ہے؟ یہ بھی خیال رہے کہ ہمارا حوالہ مرزا قادیانی کے حوالے کی طرح بے ٹکا نہیں ہے کہ تفسیر کا نام لکھ کر صفحہ لکھ دیا اور جلد کا پتہ ندرذ غرض کہ یہ حوالہ (۴) چوتھا جھوٹ ہے اور تفسیر درالمعشور کا حوالہ دیگر احادیث صحیحہ سے اسے ثابت بتانا (۵) پانچواں جھوٹ ہے احادیث صحیحہ سے ان دعوؤں کا ثبوت ہرگز نہیں ہے سب دعوؤں کا کیا ثبوت ہوتا ایک دعویٰ کا بھی ثبوت صحیح حدیثوں سے نہیں ہے انجام آتھم میں اس قسم کے بہت جھوٹ ہیں اور اس کو خلیفہ قادیان بھی معلوم کر چکے ہیں۔ مگر یہ جھوٹ تو ایسے ہیں کہ مرزا قادیانی نے متعدد رسالوں میں ان کا استعمال کیا ہے، تتمہ ھدیۃ الوحی میں بھی نہایت زور سے حضرت یونس علیہ السلام پر یہ افتراء کیا ہے اور اس کے پورا نہ ہونے کو بیان کیا ہے۔

(تتمہ ھدیۃ الوحی ص ۳۳ اخرا ن ج ۲ ص ۵۷۱)

اصل بات یہ ہے کہ جب مرزا قادیانی کی بڑی عظیم الشان پیشینگوئی جھوٹی ہوئی ہیں تو انہوں نے ان جھوٹی پیشینگوئیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کی پیشینگوئی کے

جھوٹا ہونے کا ذکر کیا ہے، مگر ناظرین اس کا خیال رکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی ایسی پیشینگوئی نہیں کی جو پوری نہ ہوئی ہو کسی ضعیف روایت سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے اور قطعی اور یقینی ثبوت تو بڑی بات ہے جن حضرات کے ایسے قطعی اور یقینی جھوٹ ثابت ہوں اور جس نے اعلانیہ افتراء ایک مقدس نبی پر کیا ہو اس پاک ذات کا برگزیدہ ہو سکتا ہے؟ جسے جھوٹ سے کمال نفرت ہے جس کے برگزیدہ رسول کا ارشاد ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا؟ ہرگز نہیں۔

اب ایک نمونہ ان کی جھوٹی تعلیموں کا ملاحظہ کر لیجئے (انجام آتھم ص ۳۹ خزائن ج ۱۱ ص ۳۹) میں لکھتے ہیں۔

(۱) ”خدا نے میری سچائی کے سمجھنے کے لیے بہت سے قرآن واضح ان کو عطا کیے تھے (محض غلط خدا کی طرف سے کوئی قرینہ ان کی صداقت کا نہیں ہوا) (۲) ”میرا دعویٰ صدی کے سر پر تھا۔“ (یہ قرینہ مدعی کے سچے ہونے کا ہرگز نہیں ہے اس کو صداقت کا قرینہ کہنا صریح جھوٹ ہے جس مدعی کا جھوٹا ہونا متعدد دلیلوں سے ثابت ہو گیا ہو اس کا دعویٰ صدی کے سر پر ہو یا پھر پر ہو وہ ہر وقت جھوٹا ہے اگر مجدد کے لیے دعویٰ کی ضرورت ہوتی تو حدیث میں اس کا ذکر ہوتا تیرہ صدیوں میں جو مجدد آئے وہ دعویٰ کرتے اور دنیا کو اس کی اطلاع ہوتی، مگر کہیں خبر نہیں ہے اور ہجر دو ایک کے کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ (۳) ”میرے دعویٰ کے وقت میں خسوف و کسوف رمضان میں ہوا تھا“

(یہ صداقت کا قرینہ ہرگز نہیں ہے اس کو قرینہ کہنا محض غلط اور صریح جھوٹ ہے دوسری شہادت آسمانی میں نہایت تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ یہ معمولی گہن جیسے ۱۳۱۲ھ میں ہوئے تھے امام مہدی کی علامت ہرگز نہ تھی مرزا قادیانی نے اس دعویٰ میں بہت جھوٹ فریب سے کام لیا ہے۔ (۴) ”میرے دعویٰ الہام پر پورے بیس برس گزر گئے اور مفتی کو اس قدر مہلت نہیں دی جاتی“ (یہ بھی محض جھوٹ ہے بعض مفتیوں کو بہت کچھ مہلت دی گئی ہے) (رسالہ عبرت خیر دیکھو) (۵) ”میری پیشینگوئی کے مطابق خدا نے آتھم کو کچھ مہلت بھی دی اور پھر مار بھی

دیا۔“

(اول تو یہ پیشینگوئی پوری نہیں ہوئی اور یوں مرنے کو لوگ دنیا میں مرتے ہی ہیں اس کی تفصیل الہامات مرزا میں دیکھئے دوسرے یہ کہ پیشینگوئی کے پورا ہونے کو صداقت کا قرینہ کہنا محض غلط ہے پہلے کا ہن پیشینگوئیاں کرتے تھے اور وہ پوری ہوتی تھیں اور اب بھی رتال وغیرہ



کرتے ہیں اور اکثر پوری ہوتی ہیں اور اخباروں میں چھپتا ہے یہ دو جھوٹ ہوئے (۷) مجھکو خدا نے بہت سے معارف اور حقائق بخشے۔ (یہ محض غلط ہے البتہ جھوٹی باتیں بنانا اور جہلاء کو بہکانا اور بڑے زور سے جھوٹے دعوے کرنا خوب آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں صفت اضلال کا نمونہ بنایا تھا‘ حقائق اور معارف صوفیائے کرام کی کتابوں میں دیکھی جائیں مثلاً فتوحات مکیہ الحواقیت والجواہر ان میں حقائق کا بیان ہے‘ مرزا قادیانی کے یہاں تو جھوٹ و فریب کا انبار ہے چنانچہ یہاں چار سطروں میں سات جھوٹ ہوئے) پھر لکھتے ہیں۔

(۱) ”قرآن شریف کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا مفتری اسی دنیا میں دست بدست سزا پا لیتا ہے اور خدائے قادر غیور کبھی اس کو امن میں نہیں چھوڑتا اور اس کی غیرت جلد اس کو کھل ڈالتی ہے اور ہلاک کرتی ہے۔“ پھر ایک سطر کے بعد لکھتے ہیں۔

”ایک مفتری کا اس قدر روزِ عمر تک افتراء میں مشغول رہتا..... اور خدا تعالیٰ کا اس کے افتراء پر اس کو نہ پکڑتا..... ایسا امر ہے کہ (۲) جب سے خدا تعالیٰ نے دنیا کی بنیاد ڈالی ہے اس کی نظیر ہرگز نہیں پائی جاتی“ (انجام آختم ص ۳۹ خزائن ج ۱ ص ۳۹)

(محض غلط اس کی متعدد نظریں دیکھائی گئی ہیں) اور پھر یہی مضمون (رسالہ مذکور کے ص ۶۳ خزائن ج ۱ ص ۶۳ وحاشیہ) میں ہی لکھتے ہیں۔

(۱) ”توریت اور قرآن شریف دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ خدا پر افتراء کرنے والا جلد جاہ ہو جاتا ہے“ (۲) کوئی نام لینے والا اس کا باقی نہیں رہتا اور انجیل میں بھی لکھا ہے ”پھر اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

(۳) ”ہم نہایت کامل تحقیقات سے کہتے ہیں کہ ایسا افتراء کبھی کسی زمانہ میں چل نہیں سکا“ اور (۴) خدا کی پاک کتاب صاف گواہی دیتی ہے کہ خدا پر افتراء کرنے والے جلد ہلاک کئے گئے ہیں اور ہم لکھ چکے ہیں کہ (۵) توریت بھی گواہی دیتی ہے اور انجیل بھی اور (۶) فرقان مجید بھی“ ان دونوں قولوں میں مرزا قادیانی نے پانچ جھوٹے دعویٰ کئے ہیں اور تین کا ثبوت کتب مقدسہ ثلاثہ سے بتایا ہے۔

(حالانکہ کسی کتاب الہی سے ان دعوؤں کا ثبوت نہیں ہوتا اس لیے یہ نو جھوٹ ہوئے کیونکہ تین جھوٹے دعویٰ کئے اور ہر ایک کا ثبوت تینوں آسمانی کتابوں سے بتایا اس لیے نو جھوٹ ہوئے) وہ تین دعویٰ یہ ہیں۔ (۱) قرآن شریف کے متعدد نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ جھوٹا مدعی

وحی والہام دنیا میں دست بدست سزا پالیتا ہے اور جلد تباہ ہو جاتا ہے اور اس کا ثبوت متعدد آیات سے بتاتے ہیں مگر محض غلط ہے قرآن مجید میں یہ مضمون ہرگز نہیں ہے (۲) توریت سے بھی یہ دعویٰ ثابت ہے (۳) انجیل سے بھی ثابت ہے مگر یہ تینوں دعویٰ محض غلط ہیں ان دعوؤں کا جھوٹا ہونا واقعات سے اور قرآن مجید کی متعدد آیات سے ثابت ہے (رسالہ عبرت نیز ملاحظہ کیا جائے) غرضیکہ یہ تین جھوٹے دعویٰ ہیں اور پھر ہر ایک کے ثبوت کے لیے جھوٹا حوالہ دیا ہے اس لیے نو جھوٹ تو یہ ہوئے اور دو جھوٹ وہ ہیں جن کے ثبوت میں وہ اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں اس لیے ان دونوں قولوں میں گیارہ جھوٹ ہوئے چھ سات سطروں میں اور سات جھوٹ اس سے پہلے قول میں اور پانچ اول قول میں غرضیکہ ان تین قولوں میں پورے تیس جھوٹ ہوئے ان کا یہ کہنا کہ ایسا افتراء کبھی کسی زمانے میں چل نہیں سکا محض غلط ہے بعض مدعیان نبوت کا افتراء ایسا چلا ہے کہ مرزا قادیانی ان کے جوتے کے گرد کو بھی نہ پہنچے چنانچہ طریف اور صالح اور ابوعیسیٰ کا دعویٰ اور ان کی بادشاہت تاریخ ابن خلدون سے دکھائی گئی ہے اور آئینہ کمالات مرزا عنقریب چھاپا ہے اس میں غالباً اسی قدر جھوٹ مرزا قادیانی کے دکھائے گئے ہیں اب دونوں کا مجموعہ کر لیجئے اور اگر نظر کو اور وسیع کیجئے تو جھوٹ کا دفتر دیکھئے مثلاً ان کے اعجاز احمدی کا جواب لکھا گیا ہے جس میں قصیدہ کی سینکڑوں غلطیاں دکھا کر قصیدہ جوابیہ کی تمہید میں ان کے جھوٹ دکھائے ہیں چنانچہ ص ۲۴ حصہ دوم میں اس رسالہ کی نسبت لکھتے ہیں کہ

”مرزا قادیانی نے سینکڑوں جھوٹ لکھے ہیں اور افتراء سے اس کو بھر دیا ہے آپ خود خیال فرمائیں کہ جب سات صفحے میں موٹے موٹے اور سرسری نظر میں ۲۳ جھوٹ ہوئے اور یہ کتاب اشتہار سمیت نوے صفحے کی ہے تو اس حساب سے سینکڑوں جھوٹ اس میں کہنا بالکل صحیح ہے۔“ یہاں انجام آتھم کی چند سطروں میں تیس جھوٹ دکھائے گئے اب سات صفحوں میں ۳۳ جھوٹ کا ہونا کچھ تعجب نہیں ہے جناب والا کو جھوٹ بولنے کی ایسی مشق تھی کہ ان کا شمار دشوار ہے ان کی کچھ تعداد صحیفہ محمدیہ کے نمبر ۱۸ اور ۱۳ میں دکھائی گئی ہے آخر نمبر میں کروڑوں تک اس کا شمار پہنچ گیا ہے متعجب ہو کر انکار نہ کر دیجئے گا نمبر ۱۳ کو ملاحظہ کر لیجئے یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ صالح ابن طریف نے حضرت خاتم النبیین ﷺ کو مان کر نبی اور مہدی اکبر ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے اوپر کتاب الہی کے نزول کا بھی مدعی تھا اور اس میں اسی طرح کی سورتیں بنائی تھیں جس طرح قرآن مجید میں ہیں اور اس کے پیرو انہیں نماز میں پڑھتے تھے اور دعویٰ نبوت تشریح کے ساتھ

اڑتا لیس برس تک بادشاہی کرتا رہا اور لاکھوں کروڑوں اس کے مطیع اور امتی رہے اور پھر بھی نہیں مرا اور اپنے بیٹے کو تخت سلطنت پر بیٹھا کر جنگل چلا گیا (رسالہ عبرت خیز دیکھو) مرزا قادیانی تو بیس ہی برس اپنے عروج کا بیان کر رہے ہیں جس میں دس بیس گاؤں کے بھی مالک نہ ہوئے اور نہ ان کے مرید اس قدر ہوئے اور نہ انہیں نبوت صراحۃً تشریحی کرنے کا حوصلہ ہوا البتہ بڑے زور سے جھوٹ بولنے اور افتراء پردازی کرنے کا بڑا حوصلہ تھا۔

ایک اور نمونہ ملاحظہ کیجئے اس انجام آتھم مطبوعہ ضیاء الاسلام قادیان کے ص ۴۶ میں فرماتے ہیں ”اس بات کی کسی کو خبر نہیں کہ دنیا میں اس زمانے میں ایک ہی فتنہ ہے جو کمال کو پہنچ گیا ہے اور الہی تعلیم کا سخت مخالف ہے یعنی کفارہ اور تثلیث کی تعلیم جس کو صلیبی فتنہ کے نام سے موسوم کرنا چاہیے کیونکہ کفارہ اور تثلیث کے تمام اغراض صلیب کے ساتھ وابستہ ہیں..... پس خدا نے اپنے وعدے کے موافق چاہا کہ اس صلیبی فتنہ کو پارہ پارہ کرے (خوب خیال رہے کہ یہ وعدہ الہی تھا اور مشیت الہی بھی ہوگئی کہ صلیبی فتنہ پارہ پارہ کیا جائے) اور اس نے ابتداء سے اپنے نبی مقبول ﷺ کے ذریعہ سے خبر دی تھی کہ جس شخص کی ہمت اور دعا اور قوت بیان اور تاثیر کلام اور انفاس کا فرش ہے یہ فتنہ فرد ہوگا اسی کا نام عیسیٰ اور مسیح موعود ہوگا۔“ (انجام آتھم ص ۴۶ خزائن ج ۱۱ ص ۴۶)

ناظرین خوب ملاحظہ کریں اس قول کا حاصل یہ ہے کہ صلیبی فتنہ سے مراد تثلیث اور کفارہ کی تعلیم ہے اور مسیح موعود کی وجہ سے یہ تعلیم نیست و نابود ہو جائے گی یا بہت کم ہو جائے گی۔

اب مرزائی بتائیں کہ بیس پچیس برس سے زیادہ مرزا قادیانی کا بیان اور تحریر اور انفاس کا فرش رہی اور بہت کچھ غل چلایا مگر کیا نتیجہ ہوا؟ ان کے بیان کو سن کر کتنے تثلیث پرست مسلمان ہوئے ان کے تاثیر کلام سے کتنے کفارہ پر ایمان رکھنے والے تابع ہوئے ان کا فرش انفاس نے کتنے صلیب پرستوں کی کشی کر کے دکھایا؟

اے بھائیو! اس کا کوئی معقول جواب ہو سکتا ہے؟ سو اس کے کچھ نہیں ہوا اور مرزا قادیانی اپنے اقرار سے جھوٹے ہوئے ساری دنیا کے علاوہ صرف ہندوستان میں جس قدر تثلیث پرست تھے ان میں سے سو پچاس بھی کم نہ ہوئے اس مسیح کی وجہ سے بلکہ اس کے برعکس یہ ہوا کہ جو کفارہ اور تثلیث کے مخالف اور مسلمان تھے انہیں اس مسیح (مرزا) نے کافر جہنمی بنا کر دنیا کو اسلام سے خالی کر دیا اب غضب ہے کہ انہیں سچا مسیح موعود کہا جائے جن کا جھوٹا ہونا ان کے اعلانیہ اقرار سے آفتاب کی طرح روشن ہو رہا ہے جن کے جھوٹ ثابت کر رہے ہیں کہ ایسا شخص تو صالح

مسلمان بھی نہیں کہلا سکتا، تعجب ہے کہ اسے نبی اور مسیح موعود کہا جائے دیکھئے ان دل کے اندھوں پر کیا بلا نازل ہونے والی ہے ان روشن باتوں پر کچھ نظر نہیں ہے ان کا کچھ جواب نہیں دیا جاتا نبوت فی الاسلام ثابت کیجاتی ہے۔

بایں خواری امید ملک داری

اب یہ فرمائیے کہ جس شخص کے ایسے اعلانیہ جھوٹ ثابت ہوں جن کا نمونہ یہاں ۲۳ جھوٹ دکھائے گئے ہیں اور بے شمار جھوٹوں کا حوالہ دیا ہے اسے آپ کا رسالہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پھر ہم ایسی اعلانیہ باتوں کو چھوڑ کر آپ کے رسالہ کی بے ٹکی باتوں اور غلط بیانیوں کی طرف توجہ کر کے اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ اس کے علاوہ ہمارے علمائے حقانی نے متعدد طریقے سے متعدد رسالوں میں ختم نبوت کو ثابت کر کے حجت تمام کر دی ہے مگر دل کے ناپیٹا ان حقانی رسائل کو کیا دیکھیں گے اور سچی باتوں کو کیوں مانیں گے؟ جو رسالے اس مضمون پر لکھے گئے ہیں طالبین حق کے لیے ان کے نام لکھتا ہوں۔

۱۔ ختم نبوت

قادیانی اخباروں میں نبوت کے ختم نہ ہونے پر آیت قرآنی اور بعض صوفیاء کے اقوال پیش کئے تھے ان کا جواب نہایت خوبی اور کمال تہذیب سے مولانا حسن پھلواروی مرحوم نے اس رسالہ میں دیا ہے اور مطبع اخبار اہل فقہ امرتسر میں یہ رسالہ ۱۳۳۱ھ چھپا ہے اس کے ہمراہ ایک ضمیمہ ہے جس میں مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کو جھوٹا ثابت کر کے مرزائی اقوال کو اسلامی عقائد کے بالکل مخالف ثابت کیا ہے ۳۶ صفحے کا رسالہ ہے۔

۲۔ تردید نبوت قادیانی

یہ رسالہ ۲۲۳ صفحہ کا ہے اور قاسم علی مرزائی نے جو اسی مضمون پر رسالہ ”النبوة فی خیر الامم“ لکھا تھا اس کا یہ جواب ہے اور مرزا قادیانی کی صداقت کی بنیاد اکھیز کر پھینک دی ہے یعنی ان کی صداقت میں جو باتیں پیش کی جاتی ہیں سب کا غلط ہونا نہایت محققانہ طور سے ثابت کر دیا ہے قابل دید رسالہ ہے اس کے مؤلف مشی پیر بخش صاحب بڑے ہمدرد اسلام ہیں جن کا ماہواری رسالہ قادیانی جھوٹ کی اشاعت میں بھائی دروازہ لاہور سے لکھا ہے ۱۳۳۱ھ میں یہ رسالہ چھپا ہے چھ برس ہوئے مگر اب تک کسی نے جواب نہیں دیا۔ اور نہ کوئی دے سکتا ہے۔

### ۳۔ الخلافۃ فی خیر الامۃ

یہ بھی قاسم علی مرزائی کے رسالہ مذکورہ کا جواب ہے اور ثابت کیا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی خلافت باقی ہے اور آخر میں امامت قادیانی پر عمدہ بحث کر کے نہایت تحقیق و تہذیب سے مرزا قادیانی کا امام نہ ہونا ثابت کیا ہے یہ رسالہ ۱۳۳۳ھ مطبع قیومی کانپور میں چھپا ہے اس کا جواب بھی کوئی نہیں دے سکا۔

### ۴۔ مرزا محمود قادیانی کی تشریف آوری

مونگیر میں یہ خبر مشہور ہوئی تھی کہ مرزا محمود قادیانی مونگیر سے ہوتے ہوئے کلکتہ جائیں گے اس خوشی میں جناب مولانا مفتی عبداللطیف صاحب نے ایک خط مرزا محمود قادیانی کو لکھا تھا کہ اگر آپ یہاں تشریف فرما ہوں تو ہم مرزا قادیانی کی نبوت پر گفتگو کریں گے آپ وہاں سے تیار ہو کر آئیے گا اور بطور نمونہ قرآن وحدیث سے ختم نبوت کو ثابت کر کے دکھایا تھا اور قادیان بھیجا تھا یہ ۱۳۳۴ھ کا واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ قادیان کے مربی اس کا جواب کئی برس تک سوچتے رہے تیسرے برس نبوت فی الاسلام نکالا ہے، مگر چونکہ ان کا دل شاہد تھا کہ اس کا جواب دیا جائے گا اور غلطیاں دکھائی جائیں گی اس لیے ایک جاہل کے نام سے مشتمل کر دیا تاکہ قادیان کے لوگ بدنامی سے بچیں مگر لطف تو جب تھا کہ کوئی قادیانی سامنے آتا اور بالمشافہ گفتگو ہوتی مگر قادیانیوں میں اس قدر جان کہاں وہ اپنی حالت کو جان چکے ہیں، مگر بعض کو ضد اور جاہلانہ غیرت اس سے علیحدہ ہونے سے مانع ہے، بعض کی روٹیاں اسی پر ہیں، جس طرح پادریوں کے مشن سے بہت کرباں (پادری) تنخواہ پاتے ہیں اس لیے اسے جھوٹا جان لینے کے بعد بھی علیحدہ نہیں ہوتے چنانچہ ایک کرشناں نے پیغام محمدی دیکھ کر صداقت کا اقرار کیا مگر جب کہا گیا کہ آپ جھوٹ سے علیحدہ کیوں نہیں ہوتے تو صاف جواب دیا کہ اس قدر تنخواہ کون دے گا، بال بچوں کی پرورش کس طرح ہوگی؟ یہ قدیم مسیحی ہیں انہیں کے ہیرو وجدید مسیحی مرزائی ہیں۔

### ۵۔ اسلامی چیلنج

ایک مرزائی نے اپنا رسالہ حضرت مسیح کی ممات پر لکھ کر خانقاہ رحمانیہ میں بھیجا تھا اس کا نام چیلنج ہے اس کے جواب میں یہ رسالہ لکھا گیا۔ اس میں مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا متعدد طریقوں سے دکھا کر یہ لکھا گیا ہے کہ ہم نے مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیا اب ہمیں مسیح کی حیات و

مات پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت مسیح زندہ ہوں یا نہ ہوں، مگر ایسا جھوٹا شخص مسیح موعود ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ مرزائی اس کے جواب سے عاجز رہا، اس میں بھی ختم نبوت کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا گیا ہے۔

## ۶۔ صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۵

اس میں بھی وہی مضمون ہے مگر اس میں اس آیت کے معنی بھی لکھے ہیں جس سے مرزائی حضرات اپنا مدعا ثابت کرتے ہیں اور اس معنی کا قرینہ ثبوت قرآن مجید کی دوسری آیت سے دیا ہے اور جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد نبی نہ آنے کی وجہ نہایت ہی عمدہ بیان کی ہے جس سے جناب رسول اللہ ﷺ کی عظمت و شان اور امت محمدیہ کی شان کامل طور سے ثابت ہوتی ہے۔ رسالہ ص ۱۷ سے ۲۰ تک دیکھا جائے۔ مگر امر حق کو ماننا تو طالبین حق کا کام ہے راقم الحروف اس آیت کی توضیح کامل طور سے کرے گا جس سے اہل حق بہت مسرور ہوں گے اور قادیانی مربی حیران ہو جائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

## ۷۔ مرزائی نبوت کا خاتمہ

اس میں نہایت پر زور تقریر سے آیت قرآنی اور احادیث صحیحہ پیش کر کے ختم نبوت کو ثابت کیا ہے اور مرزائیوں کے شبہات کا جواب دیا ہے اور آیت ”يَا بَنِي آدَمُ اِمَّا يَاقِيْنُكُمْ رُسُلٌ“ (اعراف ۳۵) سے جو دوام نبوت ثابت کیا جاتا ہے اس کے متعدد جواب دیئے ہیں ص ۲۹ سے ۳۲ تک دیکھئے۔ یہ رسالہ ماہ دسمبر ۱۹۱۷ء میں چھپا ہے۔

اس آیت کی نسبت میں مختصر بات کہتا ہوں کہ اِمَّا يَاقِيْنُكُمْ جملہ شرطیہ کا مقدم ہے وعدہ الہی نہیں ہے جس کا پورا ہونا ضرور ہو یعنی یہ کہا گیا ہے کہ اگر رسول آئیں اس سے تو یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ رسولوں کا آنا ضروری ہے پھر یہ ثابت کرنا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد رسول آتے رہیں گے سخت جہالت ہے یہ جملہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی کہے کہ میاں ارادت اگر کچھ سمجھ رکھتے اور بھائی وغیرہ کے بہکانے میں نہ آتے تو گمراہ نہ ہوتے اب وہ یہ فرمائیں کہ اس جملہ شرطیہ کا مقدم واقعی ہے یا ان کا سمجھنا ہونا ضروری ہے اگر واقعی نہیں ہے اور نہ جملہ شرطیہ کے لیے یہ ضرور ہے بلکہ کسی اپنی مصلحت اور ضرورت کی وجہ سے ایسے جملے بولے جاتے ہیں تو پھر ایسے جملہ کو دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرنا جہالت نہیں تو کیا ہے؟ اور لطف یہ ہے کہ وہ حضرات اس جملہ سے اپنا



کے اور میری نشانیاں تم سے بیان کریں جو انہیں سن کر خدا سے ڈرا اور اپنی اصلاح کی انہیں کسی بات کا خطرہ نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جس نے ان نشانوں کو جھٹلایا اور ان کے ماننے سے سرکشی کی وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔“

اس آیت میں کئی لفظ قابل غور ہیں اَوَّلُ یَا بَنِی اٰدَمَ یہ خطاب عام بنی آدم سے ہے یا خاص امت محمدیہ سے اس پر غور کرنے کے لیے دیکھا جائے کہ اس کے دوسرے رکوع سے حضرت آدمؑ کا ذکر ہے اور سارے رکوع میں انہیں کا قصہ ہے پھر تیسرا رکوع اسی خطاب سے شروع ہوا ہے۔ یَا بَنِی اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْکُمْ الْخَ (اعراف : ۲۶)

اس میں اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسان کو خطاب کر کے اپنا عام احسان بیان فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو لباس عنایت کیا تاکہ تم اپنے ظاہری جسم کو ڈھانکنا اور زینت کرو اور تقویٰ اور پرہیزگاری کا لباس اندرونی حالت درست کرنے کے لیے نہایت خوب ہے۔

اس بیان کے بعد پراسی عام خطاب یَا بَنِی اٰدَمَ سے تمام بنی آدم کو متنبہ کیا جاتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ شیطان کے فتنے سے بچو ایسا نہ ہو کہ جس طرح تمہارے ماں باپ آدمؑ کو بہکا کر جنت سے نکالا اسی طرح تمہیں جنت سے محروم کروئے اس پر خوب نظر رکھئے کہ پہلے حضرت آدمؑ کی پوری حالت بیان کر کے ان کی اولاد کو ہدایت کی پھر بعض احکام ایسے بیان کیے جو سب بنی آدمؑ کے لیے ضروری تھے اس کے بعد پھر وہ قول نقل کیا گیا جو حضرت آدمؑ کے نزول کے وقت ارشاد ہوا تھا یعنی وہ آیت جو ابھی نقل کی گئی اب یہ تمام بیان اور روانی کلام اس کا شاہد ہے کہ یہ خطاب عام بنی آدم سے ہے اور صرف یہ سوق کلام (روانی کلام) ہی شاہد نہیں ہے بلکہ اس خطاب کے عام ہونے کے نہایت روشن متعدد وجوہ اور بھی موجود ہیں ملاحظہ کئے جائیں۔

پہلی وجہ! یہ خطاب الہی (یَا بَنِی اٰدَمَ) ان الفاظ سے ہے جو بالکل عام ہیں جن سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کل بنی نوع انسان سے یہ خطاب ہے کسی امت سے مخصوص نہیں ہے۔

دوسری وجہ! یہ ہے کہ عام خطاب کر کے جو یہاں خبر دی گئی ہے وہ قرآن مجید میں تین جگہ ہے ایک تو یہی آیت ہے جس میں گفتگو ہے دوسری سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں حضرت آدمؑ کے جنت میں رہنے کا ذکر ہے پھر شیطان کے بہکانے کے بعد ارشاد خداوندی اس طرح ہے۔



”قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ (البقرہ: ۳۸)

مطلب: ”یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم اور اس کی تمام نسل سے کہا کہ تم سب یہاں سے اترو اس کے بعد اگر میری طرف سے رہنمائی کی باتیں تمہارے پاس پہنچیں تو جس نے ان کی پیروی کی اور ہماری راہ پر چلا اسے کچھ خوف و خطر نہیں ہے اور نہ وہ کسی دقت و تکلیف میں ہوگا۔“

اس مضمون کو اعراف کی آیت مذکورہ کے مضمون سے ملائیے اس آیت میں آدم علیہ السلام کے اتارے جانے کا ذکر فرما کر اسی مضمون کا بیان ہے جو سورہ اعراف کی مذکورہ آیت میں بیان ہوا ہے وہ خاص لفظ جس سے رسول کے آنے اور ہدایت کے پہنچنے کی خبر دی گئی ہے وہ دونوں آیتوں میں ایک ہے یعنی اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ اس کے بعد تمام بنی آدم کی دو حالتیں دونوں آیتوں میں بیان ہوئی ہیں ایک مطیع و فرمانبردار دوسرے نافرمان اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسی ارشاد کی تکرار پھر کی گئی ہے جس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے شاہ ولی اللہ صاحب صاف طور سے اس کی صراحت کرتے ہیں اور ترجمہ آیت یَابَنِیْ اٰدَمَ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ میں لکھتے ہیں ”کتھیم اے فرزندان آدم اگر بیایند بشما پیغمبران از جنس شما“ اس ترجمہ میں کتھیم کا لفظ شاہ صاحب نے زیادہ کیا اور اس پر یہ حاشیہ لکھا یعنی بر زبان آدم چنانچہ در سورہ بقرہ اشارت رفت یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں قُلْنَا کہہ کر بنی آدم سے خطاب کیا تھا اسی طرح سورہ اعراف میں وہی قول خداوندی منقول ہے اس سے صاف ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں خطاب تمام بنی آدم سے ہیں خاص امت محمدیہ سے کوئی خطاب نہیں ہے پھر یہی مضمون سورہ طہ کے چھپے رکوع میں ہے یعنی حضرت آدم کے جنت میں رہنے اور پھر وہاں سے نکالے جانے کا حکم اس طرح ہوا ہے۔

آیت: قَالِ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. (طہ: ۱۲۳)

مطلب: ”یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا اور ان کی نسل سے فرمایا کہ تم سب جنت سے اترو تمہاری نسل میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے پس اگر تمہارے پاس ہدایت پہنچے تو جس نے اس کی پیروی کی وہ نہ بہکے گا اور نہ ناسرور رہے گا۔“

قرآن مجید کے اس حوالے نے بھی کامل شہادت دی کہ سورہ اعراف میں جو یَابَنِیْ اٰدَمَ کر کے خطاب ہوا ہے وہ حضرت آدم سے ہوا ہے اور اس واقعہ کے بیان کرنے کے لیے اللہ

تعالیٰ نے رسول ﷺ سے فرمایا۔ ”قُلْ“ یعنی اپنی امت سے اس واقعہ کو کہہ دے اب ان صریح قرائن قرآنیہ کے خلاف اس خطاب کو امت محمدیہ سے مخصوص بنانا کس قدر جہالت ہے اس کے بعد اس پر بھی نظر کرنا چاہیے کہ جس طرح اس خطاب کے الفاظ سے اور دوسری آیات سے عموم سمجھا جاتا ہے اور خاص حضرت آدم اور ان کی نسل سے خطاب معلوم ہوتا ہے اسی طرح حدیث سے اور علمائے کالمین کے اقوال سے بھی ظاہر ہوتا ہے یہ تیسری وجہ سے خطاب کے عام ہونے کی امام طبری اپنی تفسیر (جامع البیان ج ۸ ص ۱۶۷/۱۶۸) میں لکھتے ہیں۔

يَا بَنِي آدَمَ اِمَّا يَا تَيْنِكُمُ رُسُلٌ فَمِنْكُمْ (الی ان قال) معلوما خلقه ماعدا لحزبه واهل طاعته..... و ماعدا لحزب الشيطان واوليائه (پھر اس عام معنی کی سند میں ذیل کی روایت پیش کرتے ہیں) عن ابی یسار السلمی قال ان الله تعالى جعل ادم ذریئته فی کفه فقال يا بَنِي آدَمَ اِمَّا يَا تَيْنِكُمُ رُسُلٌ فَمِنْكُمْ (الخ)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی حالت بیان کرتا ہے کہ میری مخلوق میں دو گروہ ہیں ایک گروہ رحمانی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں ان کے لیے ہمیشہ کی راحت اور عیش ہے دوسرا گروہ شیطانی ہے جو اس کے پیرو ہیں ان کے لیے جہنم ہے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس عموم کی سند یہ ہے کہ ابی یسار سلمیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور ان کی تمام اولاد کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آیت کا مضمون ارشاد فرمایا یعنی جس طرح روز ”الست“ میں تمام مخلوق سے ارشاد ہوا تھا کہ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، فَالْوَا بَنِي اسی طرح تمام بنی آدم سے یہ ارشاد ہوا۔

چونکہ یہ مضمون کوئی قیاسی بات نہیں ہے اس لیے ضرور ہے کہ راوی نے رسول اللہ ﷺ سے سن کر بیان کیا ہے جس تفسیر سے یہ مضمون نقل کیا گیا اس کا نہایت معتبر اور مستند ہونا پہلے بیان کیا گیا ہے (تفسیر الدر المنکوح ج ۳ ص ۸۲) میں آیت مذکور کی تفسیر اسی عموم کے ساتھ اس روایت کی سند سے بیان کی گئی ہے یہ وہ تفسیر جسے جس مرزا قادیانی بھی معتبر سمجھتے ہیں اور اکثر اپنے دعوؤں کی سند میں اس کے اقوال اور اس کی روایات کو پیش کیا ہے انجام آتھم وغیرہ دیکھا جائے۔

صاحب تفسیر مظہری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ”الخطاب الی ذریۃ آدم“ یعنی یا بنی آدم کی اولاد سے خطاب ہے اور بھی بہت تفسیروں میں ایسا ہی ہے اب اس کے خلاف اس خطاب کو امت محمدیہ سے مخصوص سمجھنا اس آیت کے الفاظ ظاہری اور دوسری آیات قرآنی کے خلاف اور ان نصوص قطعیہ کے معارض سے جو ختم نبوت کے بارہ میں پیش کئے گئے ہیں۔ اور اس

آیت سے قبل جو لفظ **قُلْ** آیا ہے اس سے خیال کرنا کہ یہ خطاب امت محمدیہ سے خاص ہے ایک سخت جہالت ہے کیونکہ قرآن شریف میں جس قدر مضامین بیان ہوئے ہیں خواہ وہ قصص انبیائے سابقین ہوں یا ان کی کتابوں کے بیان ہوں سب کے ساتھ ہی ارشاد خداوندی ہے یعنی ارشاد ہوا ہے کہ اس مضمون کو کہو بیان کر ڈا ب لفظ **قُلْ** وہاں ظاہر میں ہو یا نہ ہو اس لیے قل کا ہونا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہو سکتی کہ یہ بیان خاص امت محمدیہ کے لیے ہے البتہ یہ قصہ سابقہ امت محمدیہ کے معلوم کرنے کے لیے بیان ہوا ہے اور (تفسیر روح المعانی ج ۸ ص ۹۹) میں بعض محققین کا قول اسی آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے ”ان هذا حکایۃ لما وقع مع کل قوم“ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلی امتوں کی سرگذشت بیان فرمائی ہے کہ ہر ایک گروہ سے اس طرح کہا گیا ہے۔

چوتھی وجہ! نہایت قابل لحاظ یہ ہے کہ ہمارے سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بہت کچھ عظمتیں بیان ہوئی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کا نام لیکر کہیں خطاب نہیں کیا، جس طرح اور انبیاء مثلاً حضرت موسیٰؑ حضرت عیسیٰؑ وغیرہا کا اکثر نام لیا ہے اور یا موسیٰ یا عیسیٰ کہا ہے مگر یا محمد ﷺ کہیں نہیں فرمایا اس طرح آپؐ کی امت کو خیر امت یعنی بہترین امت فرمایا اور عظمت کے ساتھ انہیں پکارا ہے یعنی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** فرمایا ہے یعنی اے ایمان والو! یہ کیسا پیارا لفظ ہے جس میں جنت کی بشارت پوشیدہ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب تک حضور سرور عالم ﷺ مکہ معظمہ میں رہے اور مسلمان بہت کم تھے اور مشرکین کا غلبہ تھا اس وقت تک اس غلبہ کی وجہ سے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** سے قرآن مجید میں خطاب الہی رہا اور جب حضور ﷺ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اس سرزمین مقدس میں مسلمان کا غلبہ تھا وہاں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** سے خطاب ہوا اتفاق پہلا خطاب کسی وقت آیا ہے مگر ایک معمولی خطاب **يَا بَنِي آدَمَ** سے امت محمدیہ مخاطب نہیں بنائی گئی۔ دوم! اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جملہ **يَا بَنِي آدَمَ** اگرچہ مضارع کا صیغہ ہے جس سے حال و استقبال کی خبر معلوم ہوتی ہے اور نون تاکید سے استقبال کی تاکید ہوتی ہے مگر اسی لفظ سے حال ماضی کی حکایت بھی ہوتی ہے چنانچہ ایک محقق کا قول ابھی نقل کیا گیا، جب یہ احتمال بھی ہے اور امت محمدیہ کے بعض محققین نے بیان بھی کیا ہے تو بفحوائر قول مشہور ”اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال“ آیت مذکور سے یہ ثابت کرنا کہ آئندہ رسول ضرور آئیں گے محض غلط ہو گیا اور اس پر اضافہ یہ ہے کہ نصوص قطعیہ سے ثابت کر دیا گیا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی

نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ کہنا ضرور ہے کہ اس آیت میں حال گزشتہ کی حکایت کی گئی ہے یعنی انبیائے سابقین اور بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے عام طور سے خطاب کیا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس رسول آئیں تو ان کی بات مانو۔

سوم! یہ کہ جملہ بَاتِیْنُکُمْ کے ساتھ لفظ اَمَّا بھی آیا جو ان 'حرف شرط اور نا' تاکید یہ سے مرکب ہے اور یہ سب اہل علم جانتے ہیں کہ جب حرف شرط مضارع پر آتا ہے تو مضارع میں جس بات کی خبر دی گئی ہے وہ یقینی نہیں رہتی ہے بلکہ وہ بالکل مشکوک ہو جاتی ہے اور حرف ما اور آخر کے نون تاکید نے شک کی کامل تاکید کر دی ہے اس لیے جملہ مذکورہ میں جو رسولوں کے آنے کی خبر دی گئی ہے وہ یقینی نہیں ہے بلکہ بالکل جملہ شرطیہ ہے جس کا وقوع ضروری نہیں اس سے ثابت کرنا کہ بالضرور رسول آئیں گے محض غلط ہے پھر ایسی بات پر ایمان رکھنا اور دوسروں کو اس پر ایمان لانے کی رغبت دلانا "ضَلُّوا فَاصْطَلُّوا" کا مصداق بننا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔

چہارم! یہ امر بہت غور طلب ہے کہ رسولوں کے آنے کی خبر جو دی گئی ہے ان سے مراد اصطلاحی اور شرعی رسول ہیں جن پر وحی نبوت آتی ہے یا لغوی مراد ہیں یعنی جو پیام لیکر جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد اپنی مخصوص امت سے ہے "ہَلْعُوا عَنی وَلَوْ اَیَّہ" یعنی میری باتوں کو پہنچاؤ ساری دنیا پر جس قدر ہو سکے اب جو امتی آپ کے ارشاد کی تعمیل کرے اور احکام شریعت اور پیام رسالت کو پہنچاؤے وہ رسول ہے اب کیا وجہ ہے کہ اس آیت میں یہ رسول مراد نہ ہوں رسول کے معنی عام پیامبر کے ہیں چنانچہ سورۃ یوسف میں بادشاہ کے پیامبر کی نسبت ارشاد ہے فَلَمَّا جَاءَهُ الرُّسُلُ اور جناب رسول اللہ ﷺ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو تبلیغ کے لیے یمن بھیجنے لگے تو آپ نے چند سوال کیے اور حضرت معاذ ؓ نے آپ کی حسب مرضی جواب دیے اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرمایا "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ وَفَّقَ رَسُوْلَہٗ بِمَا یَرْضٰی رَسُوْلَہٗ" یہاں رسول اللہ ﷺ نے اپنے پیامبر کو رسول فرمایا اسی طرح اس آیت میں خدا کے پیامبروں کو رسل کہا گیا ہے عبدالماجد قادیانی نے بھی اپنے رسالہ القامش لکھا ہے کہ قرآن شریف میں تین قسم کے رسولوں کا ذکر ہے تشریحی، غیر تشریحی، نائب رسول اس آیت میں تیسرے قسم کے رسولوں کا ذکر ہے یہ قیامت تک ہوتے رہیں گے اور یہاں اس معنی لینے کی دو وجہ معلوم ہوتی ہیں جن سے یہ معنی نہایت ظاہر اور صاف معلوم ہوتے ہیں۔

ایک وجہ یہ ہے کہ رسول کے آنے کی خبر ہر ایک انسان کو دی گئی ہے لفظ کُمْ کا خطاب ہر

فرد بشر سے ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس رسول آئیں تو ان کی باتوں کو سنو اور ان پر عمل کرو اب نہایت ظاہر ہے کہ جس قدر انبیائے کرام آئے وہ ہر ایک انسان کے پاس نہیں گئے اور نہ جاسکتے تھے مثلاً ہمارے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام صرف عرب میں رہے اور کہیں تشریف نہیں لے گئے اور چونکہ آپ کی رسالت سارے عالم کے لیے تھی اس لیے دنیا کے ہر شخص کے پاس آپ کو پہنچنا چاہیے تھا مگر یہ امر بالکل غیر ممکن تھا اس لیے اس آیت کے لحاظ سے جس کے پاس آپ تشریف نہیں لے گئے ان کو ایمان لانا ضرور نہ ہو اور آپ انہیں کے لیے رسول ہوں جن سے بالمشافہ آپ نے تبلیغ کی حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور اگر رسول سے مراد پیام رسول اللہ پہنچانے والا کیا جائے تو بے تکلف معنی بنتے ہیں کیونکہ ایسے رسول تو بے شمار ہوئے اور ہوتے رہیں گے یہ ہر جگہ ہر شخص کے پاس پہنچ سکتے ہیں اور ہر ایک فرد بشر پر ہجرت تمام ہو سکتی ہے اور آیت کے صریح معنی بے تکلف بنتے ہیں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ وہ مالک الملک عالم الغیب رسولوں کے آنے کی خبر شرط کے ساتھ دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ آئیں تو یہ کرو اب دیکھا جائے کہ رسولوں کا پہنچنا اس کے اختیار میں ہے ان کا آنا اور تبلیغ کرنے کا بھی اسے علم ضرور ہے پھر یہ شرط لگا کر واقعی اور ضروری خبر کو مکھوک کر دینے کی کیا وجہ ہے اور اس مختار الکل پر کوئی چیز واجب نہیں ہے پھر اس کی کیا ضرورت تھی کہ یہ جملہ شرطیں بیان کیا جاتا؟ غرضیکہ شرعی رسول مراد لینے سے یہ شبہات ہوتے ہیں اور اگر لغوی رسول مراد لیا جائے تو جس طرح پہلا شبہ وارد نہیں ہوتا اسی طرح یہ شبہ بھی وارد نہ ہو گا کیونکہ مبلغین بہت جگہ پہنچ سکتے ہیں مگر بعض جنگل اور پہاڑ ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہاں انسان ہیں مگر کوئی مبلغ وہاں اپنی لاعلمی سے یا نہایت دشواری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا اس لیے اس عالم الغیب نے ان دشواریوں سے واقف ہو کر اس میں شرط لگا دی جس سے وہ انسان جسے رسول خدا کی خبر نہیں پہنچی اور کوئی مبلغ اس کے پاس نہیں گیا وہ معذور ہے اس پر رسول کا ماننا فرض نہیں ہے اسی طرح مبلغین کو ایسی جگہ جانا جس کا انہیں علم نہیں ہے یا وہاں کا جانا نہایت دشوار ہے وہاں وہ نہیں گئے تو گنہگار نہ ہوں گے اس لیے وہ کریم و رحیم نے شرطیہ خبر دی تاکہ ان دونوں گروہوں پر تکلیف مالا یطاق نہ ہو اس کا ارشاد ہے ”لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا“ اب شرطیہ خبر دینا اور ہر ایک انسان کے پاس رسول کا پہنچنا بے تکلف صحیح ہوتا ہے اور ختم نبوت میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔

الغرض ان نہایت قوی سات وجہوں سے آیت مذکورہ سے یہ استدلال کرنا کہ رسول

اللہ ﷻ کے بعد رسول شرعی آتے رہیں گے محض غلط ثابت ہوا۔

آٹھویں وجہ! یہ ہے کہ یہ دعویٰ لصوص قطعہ کے خلاف ہے اور نویں! وجہ یہ ہے کہ احادیث صحیحہ کے مخالف ہے دسویں! وجہ یہ ہے کہ اجماع امت محمدیہ ﷺ اسے غلط بتا رہا ہے۔

لو! میاں ارادت قادیانی اب تو تم نے دیکھ لیا کہ کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو حضور سرور عالم ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کے مخالف ہو تم نے ایک آیت ۱۰۴: اِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ (الرّٰح) پر التاسید حازور لگایا تھا کہ کسی صورت سے جاہلوں کے سامنے ایک آیت پیش کر کے ان کو دھوکے میں ڈال کر ایک کذاب و دجال کو نبی منوادیٰ مگر یاد رکھو کہ مسلمان تمہارے دام تزدیر سے خوب واقف ہو گئے ہیں وہ تمہارے لئے سیدھے معنی کو جو مفسرین عظام و محدثین کرام کے خلاف ہوں ہرگز نہیں مان سکتے بلکہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور جس کتاب و کاغذ میں تمہاری دروغ بانی کو دیکھتے ہیں اس کی جگہ روئی کی نوکری بناتے ہیں۔

بھائیو! اب ملاحظہ کیجئے کہ اس آیت کو میں نے سات وجہوں سے تو مدلل کر کے ثابت کر دیا کہ اس سے سلسلہ نبوت کا باقی رہنا کسی صورت سے ثابت نہیں ہوتا ہے اب کوئی شرعی رسول نہیں آئے گا ہاں

علمائے امت قیامت تک تبلیغ احکام الہی کرتے رہیں گے اور خلق اللہ برائے ان کے نور ہدایت سے مستفیض ہوتی رہے گی اور عَلَمَاءُ اُمِّي كَانَتْ اَنْبِيَاءُ بَنِي اِمْرٍ اَلِیْلِ کی شان ظاہر ہوتی رہے گی۔

میاں ارادت قادیانی! اس کے بعد مجھے اس کی ضرورت تو نہیں تھی کہ میں تمہاری پیش کردہ موضوع حدیث کی طرف جو تم نے اپنے رسالہ کے ص ۱۱ میں لکھی ہے توجہ کرتا مگر چونکہ عام پبلک کو تمہاری لیاقت علمی کا جتنا نا اور تم کو بھی تمہاری غلطی پر متنبہ کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں اس لیے میں تمہاری روایت کا غلط اور بے بنیاد ہونا دہرے سے ثابت کرتا ہوں۔

پہلا طریقہ! یہ ہے کہ ختم نبوت جن احادیث سے ثابت ہوتی ہے وہ حدیثیں صحاح ستہ کی ہیں یعنی ان کتابوں کی جن کو امت محمدیہ کے ائمہ دین نے معتبر اور مستند مانا ہے اور ان کی حدیثوں کو صحیح بتایا ہے وہ چھ کتابیں ہیں پھر ان میں سے دو کتابیں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو بالخصوص صحیحین کا خطاب دیا ہے اور پھر اس میں خاص صحیح بخاری کو یہ شرف ہے کہ اسے اصح الکتاب

بعد کتاب اللہ سب نے مانا ہے یہاں تک کہ آپ کے مقتداء آپ کے بہکانے والے مرزا قادیانی بھی اس کتاب کو انہیں الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں۔ ان مستند کتابوں کی روایات سے ہم نے رسول اللہ ﷺ کے بعد نبوت کے ختم ہونے کو ثابت کیا ہے اور مختلف عنوان سے اس اسلامی عقیدہ کو جناب رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا ہے، میں چند حدیثیں پیش کرتا ہوں خدا کے لیے بہ نظر انصاف انہیں ملاحظہ کیجئے۔

حدیث: ۱..... انا العاقب والعاقب الذی لیس بعده نبی، (بخاری و مسلم)  
(بخاری ج ۱ ص ۵۰۱ باب ما جاء فی اسماء رسول اللہ ﷺ ج ۲ ص ۲۶۱ باب فی اسمائہ)  
مطلب: جناب رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی عاقب کے لفظی معنی آخر میں آنے والے کے ہیں۔

مگر جناب رسول اللہ ﷺ اس کے شرعی معنی یہ فرماتے ہیں کہ عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہ ہو یعنی وہ سب انبیاء کے آخر میں ہوئے یہ بیان اس کو ثابت کرتا ہے کہ جس طرح آپ کا نام آپ کے والدین نے محمد (ﷺ) رکھا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نام آپ کا عاقب رکھا گیا۔ تاکہ امت محمدیہ معلوم کر لے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

حدیث: ۲..... لم یبق من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحة (بخاری ج ۲ ص ۱۰۳۵ باب الرؤیا الصالحة و مسلم ج ۱ ص ۱۹۱ باب النهی عن قراة القرآن)  
مطلب: رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ نبوت کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہا مگر مبشرات، صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ مبشرات کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ سچی خوابیں۔

اس حدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ نے نہایت صفائی سے اپنی امت کو آگاہ کر دیا کہ نبوت کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہا یعنی ظلی اور بددوسی، مستفید، غیر مستفید، کامل یا ناقص، عالی مرتبہ یا کم مرتبہ، کسی قسم کا کوئی نبی میرے بعد نہیں ہو سکتا، یہی معنی ہیں لا نبی بعدی کے، یعنی لفظ نبی پر لائے نفی جس کا لاکر یہ ظاہر کر دیا کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہ ہوگا یہ وہ طرز بیان ہے کہ کم علم اور عامی عرب بھی اس سے اسلامی اعتقاد کو پورے طور سے جان سکتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی طرح کا نبی نہ ہوگا، یہ حدیث بھی صحیحین کی ہے یعنی اصح الکتاب بعد کتاب اللہ بخاری اور صحیح مسلم کی۔

حدیث: ۳..... کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ

نبی وانہ لانی بعدی و سیکون خلفاء۔ (بخاری ج ۱ ص ۴۹۱ باب ما ذکر عن بنی اسرائیل) مطلب: بنی اسرائیل پر انبیاء حکومت کرتے تھے جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا البتہ خلفاء ہوں گے۔

اس حدیث میں تیسرے طریقے سے ختم نبوت کو بیان فرمایا جس سے مرزائی خیال کے موافق نبوت تشریحی اور غیر تشریحی، مستفید اور غیر مستفید وغیرہ ہر قسم کی نبوت کی نفی ہوگئی، کیونکہ پہلے حضورؐ نے تمام انبیاء سابقین کے سلسلہ نبوت کی حالت بیان فرمائی کہ ہر ایک نبی کے بعد نبی ہوتے رہے اب یہ ظاہر ہے کہ انبیاء سابقین میں نبی تشریحی اور غیر تشریحی بھی ہوئے اور مستفید اور غیر مستفید بھی اور عالی مرتبہ اور کم مرتبہ بھی مثلاً حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت لوطؑ، حضرت یونسؑ اس میں ہر قسم کے انبیاء ہیں، کوئی قسم خاص نہیں ہے اب جملہ لائبسی بعدی میں لائے نبی جس کا لاکر ہر قسم کے نبی کی نفی کر دی اور ختم نبوت کو نہایت شائستہ پیرائے سے عام فہم طریقہ سے سمجھا دیا۔ یہ حدیث اس کتاب کی ہے جسے مرزا قادیانی بھی اصح الکتاب بعد کتاب اللہ لکھتے ہیں یعنی صحت کے لحاظ سے اس کا مرتبہ قرآن مجید کے بعد ہے۔

حدیث ۴۰: ..... کان رسول اللہ ﷺ یسمی لنا نفسه اسماء فقال انا محمد و احمد و المقفی الخ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۶۱ باب فی اسمائہ)

مطلب: جناب رسول اللہ ﷺ اپنے متعدد نام بیان فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا نام محمد ہے اور احمد ہے اور مقفی ہے اور مقفی کے معنی محدثین نے وہی بیان کئے ہیں۔ جو ابن ماجہ کی روایت میں جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنی صفت میں فرمایا ہے یعنی انا اخر الانبیاء یعنی میں سب انبیاء کے آخر میں ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، یہی معنی مقفی کے ہیں۔ اس سے بوضاحت ظاہر ہو رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد ختم نبوت کا مسئلہ اور کسی نبی کے نہ آنے کا اعتقاد ایسا ضروری اور مہتمم بالشان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے متعدد نام مبارک ایسے رکھے گئے جن سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حضور ﷺ آخر النبیین ہیں اس میں کسی کو شک و شبہ نہ رہے اور ان حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ ﷺ کی خاص صفت خاتم النبیین بیان فرمائی ہے اس کے معنی آخر النبیین کے ہیں جن کا بیان مختلف طور سے حضور انور ﷺ نے مختلف اوقات میں فرمایا ہے۔



اس حدیث سے یہ بھی روشن ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا نام احمد بھی ہے اور حضور انور ﷺ اپنی زبان مبارک سے اپنا نام احمد فرماتے ہیں، مگر ہاں ہمہ محمودی مرزائی کہتے ہیں کہ یہ نام جناب رسول اللہ ﷺ کا نہیں ہے بلکہ مرزا غلام احمد کا ہے اب یہ مرزائی غلام کو مولیٰ اور مولائے دو جہان سرور صادقان کو جھوٹا بنانا چاہتے ہیں اور افضل السالکین میں اپنا ٹھکانا بناتے ہیں، افسوس! اب اس فرقہ قادیانی کو دیکھا جائے کہ ان صحیح حدیثوں کو خلاف قرآن شریف قرار دے کر رسول اللہ ﷺ کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ (معاذ اللہ)

اے مرزا نیو! محمد کی حدیث سے یہ حدیثیں بہت زیادہ معتبر اور کمال درجہ کی مستند ہیں جس سے تم مرزا کا مجدد ہونا ثابت کرتے ہو، مگر تمہارے زور لگانے سے رسول اللہ ﷺ (روحی فداہ) جھوٹے نہیں ہو سکتے، ان صحیح اور نہایت مستند حدیثوں کے مقابلہ میں ابن عساکر کی موضوع روایت پیش کرنا تمہاری اور تمہارے مریبوں کی جہالت اور سخت جہالت ہے، اول تو یہ دیکھو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مقابلہ میں ابن عساکر کی روایت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کہ یہ متعدد احادیث صحیحہ اس کی روایت سے مردود ہو جائیں (استغفر اللہ)

اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس حدیث پر آپ کے دعوے کا دارومدار ہے اور صحیح حدیثوں کو اس کے مقابلہ میں (نعوذ باللہ) ردی میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں اسے ائمہ محدثین نے موضوع اور جھوٹی کہا ہے، چنانچہ علامہ محمد بن علی بن محمد الشوکانی الفوائد المجموعۃ فی الاحادیث الموضوعہ کو ص ۱۰۳ میں اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

قال الخطابی وضعه الزنادقة ویدفعه اوتبت الكتاب و مثله معه وكذا قال الصغاني قلت وقد سبقهما الى نسبة وضعه الى الزنادقة ابن معين كما حكاہ عنه اللہبی علی ان لم یحذف هذا الحديث الموضوع نفسه ما يدل علی رده لا نا اذا عرضناه علی كتاب الله خالفه ففی كتاب الله عز وجل ما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا ونحو هذا من الايات.

مطلب: اس کا یہ ہے کہ خطابی اور صغانی دونوں نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے اور ان سے پہلے علامہ ابن معین نے اس روایت کو زندقہ کا بنایا ہوا کہا ہے، غرض کہ ان تین کا ملین اور نقادین حدیث نے اس روایت کو موضوع کہا ہے اور وہ بھی اس طور سے کہ اس کے بنانے والے کو زندقہ

قرار دیا ہے (یعنی کچے کافر) اور ان باہرین حدیث کے اقوال کے علاوہ اس روایت کا نفس مضمون کتاب اللہ کے مخالف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیز تمہارے رسول لائیں اس کو لے لو اور جس چیز سے تم کو روکیں اس سے رک جاؤ اس مضمون کی متعدد آیتیں ہیں۔

حاصل اس کا یہ ہے کہ دونوں حدیثیں اور دوسری حدیثیں جو اس کے ہم معنی ہوں وہ ہرگز حدیث الرسول ﷺ نہیں ہو سکتیں؛ کیونکہ وہ آیت **مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ** کے بالکل خلاف ہیں۔ اسی طرح صاحب المادہ الشیوخ بمقدار النامخ والمنسوخ لکھتے ہیں۔

وروايت عرض احادیث برقرآن مختلف وموضوع است نزدائے ایں شان۔ اوزاعی گفتہ الکتاب احوج الی السنۃ من السنۃ الی الکتاب ویکفی ابن کثیر گفتہ السنۃ قاضیۃ علی الکتاب وخلاف نمی کند وراں مگر ہر کہ بہرہ از اسلام ندارد (چنانچہ پیروان مرزائے قادیانی)

یہ روایت میں جو آیا ہے کہ حدیث کو قرآن مجید پر پیش کرؤ وہ روایت محدثین کے نزدیک جھوٹی اور بیانی ہوئی ہے امام اوزاعی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو حدیث کی طرف زیادہ حاجت ہے، بہ نسبت حدیث کے اور امام بخاری کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے معنی کا فیصلہ حدیث سے ہوتا ہے اور اس میں وہی شخص خلاف کر سکتا ہے جو اسلام سے بے نصیب ہے۔ (اس کے مصداق مرزائی ہیں)

اب رہی وہ حدیث یعنی ”لو عاش ابراہیم لکان نبیا“ اور دوسری ”لو عاش لکان صدیقاً نبیا“

ان دونوں حدیث پر بھی میاں ارواۃ قادیانی کے مربیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ اس حدیث سے آپ کے بعد نبی آنے کا امکان ثابت ہوتا ہے اس کا کامل جواب بڑے رسالہ ”ختم النبوة فی الاسلام“ میں لکھا گیا ہے اس میں صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ پہلی حدیث سرے سے حدیث ہی نہیں ہے دوسری حدیث ابن ماجہ ص ۱۰۸ کی ہے مگر اس کے راوی ابراہیم بن عثمان بن خواش ہیں اور ان کی نسبت صاحب تہذیب المعجم ص ۹۵ (ج ۱ ص ۹۵) محدثین کے حسب ذیل اقوال نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔

قال الترمذی منکر الحدیث وقال النسائی متروک الحدیث وقال ابو حاتم ضعیف الحدیث سکتوا عنه و ترکوا حدیثہ۔

یعنی یہ شخص منکر الحدیث ہے اس کی روایت کو محدثین نے لینے کے لائق نہیں سمجھا اس

کی حدیث کی طرف توجہ نہیں کی، قادیانیوں کے اس جہل پر افسوس ہے کہ ایسے شخص کی روایت کو سند میں پیش کرتے ہیں اگر تہذیب الہندیہ کا دیکھنا میسر نہیں ہوا تھا تو ابن ماجہ میں اسی نام کے نیچے لکھا ہے متروک، مگر چشم بداندیش اس کے دیکھنے سے قاصر رہی، آپ کے مربیوں کی جہالت پر افسوس ہے کہ متروک الحدیث کی روایت کو اپنے دعویٰ کی سند میں پیش کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ صحیحین کی روایات صحیحہ مردود ہو جائیں، اسی ناہنجی اور جہالت کا نتیجہ ہے کہ ایک متروک الامۃ اور بقول سرور امت و جال کو اپنا پیشوا مان رہے ہیں۔

لومیاں ارادت! اب تو تمہاری اور تمہارے قادیانی مربیوں کی تمام گندم نمائی جو فردوسی ظاہر ہو گئی، ان محققین کا طین کی تحقیق کی بنا پر تمہارے رسالہ النبوة فی الاسلام کی وقعت ہرگز ردی کی ٹوکری کے چند درقوں سے زیادہ نہیں رہی، لو یہ مختصر رسالہ اپنے بھگپوری اور قادیانی مربیوں کو دود اور کہو کہ اس کا جواب لکھو۔ ہم دعویٰ کے ساتھ چیلنج دیتے ہیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک نہیں لکھ سکتے، آپ کے رسالہ کا طرز تحریر یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے صدر انجمن کا لکھا ہوا ہے جنہوں نے قریب میں مولانا عبدالشکور صاحب کے مقابلہ میں عام جلسہ کے رد بروخت ہزیمت اٹھائی تھی اور اعلانیہ کہتے تھے کہ میں مناظرہ کے لیے تیار نہ تھا، میری مثال تو ایسی ہوئی کہ ”طفل بملک نمیردو لے برندش“ یعنی بے پڑھے لکھے بچے بن گئے تھے اس لیے میں ان کے خاص رسالے القاء شیطانی کا ذکر کرتا ہوں جسے مرزائی حضرات فیصلہ آسانی کا جواب سمجھتے ہیں، اگرچہ یہ رسالہ قادیانی خلیفہ اول کی مدد اور مشورہ سے لکھا گیا ہے مگر ہمارے حضرت قبلہ ابوالواحد صاحب عم فیضہم کی توجہ سے اس شیطانی القاء کے اغلاط کا اظہار دس رسالوں میں کیا گیا ہے۔

### القاء قادیانی کے جوابات اور اظہار اغلاط میں رسائل

۱..... قریب میں رسالہ ”حقیقت رسائل اعجازیہ“ شائع ہوا ہے اس میں القاء کے ایک صفحہ میں آٹھ غلطیاں دیکھائی ہیں ص ۳۵ سے ۵۵ تک ملاحظہ کیجئے تاکہ مرید و مرشد دونوں کا نمونہ معلوم ہو جائے۔

۲..... رسالہ اغلاط ماجدیہ میں القاء کے ایک ورق میں ۳۲ غلطیاں دیکھائی ہیں، غرضیکہ تین صفحوں میں چالیس غلطیاں ہوئیں، جن کی تالیف کا یہ حال ہو وہ ایک لا جواب رسالہ فیصلہ آسانی کا جواب لکھیں گے؟ بایں خواری امید ملک داری۔

۳..... صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۰ یہ ۲۹ صفحوں کا رسالہ ہے اس میں اسی القاء کی بہت بڑی غلطیاں اور ان کے جھوٹ دیکھائے ہیں یہ رسالہ ۱۹۱۴ء میں چھپا ہے چار برس ہو گئے مگر ایک غلطی کا بھی جواب نہیں دیا گیا۔

۴..... نمونہ القاء قادیانی۔ یہ پونے چار جز کا رسالہ ہے اس میں قادیانی مربی کی حیرت انگیز بددیانتیاں اور غلطیاں اور تافہیساں دیکھائی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی علم و دیانت کیا ہو گئی اور وہ کیا سے کیا ہو گئے انہیں چاہیے کہ اپنے چہرہ مبارک کو آئینہ انصاف میں دیکھیں۔

۵..... محکمات ربانی۔ یہ رسالہ سات جز کا ہے مطبع النبی بالکل پور میں چھپا ہے نہایت ہی محققانہ اور مہذبانہ طریقہ سے لکھا گیا ہے اس کے مؤلف عبدالماجد قادیانی کے خاص عزیز ہیں بہت خوبی سے پہلے قادیانی مربی کے فریب دیکھائے ہیں پھر ان کے مرشد کی غلطیاں بیان کی ہیں اس رسالہ کے تمہیدی اشعار بڑے لطف کے ہیں نمونہ ملاحظہ ہو۔

### جواب القاء کے لطیف اشعار

مجھے حیرت ہوئی ہے دیکھ کر القاء ربانی	نہیں القاء ربانی یہ ہے اغوائے شیطانی
کہہ دیجیے خود تحریر میں حق سے معزئی ہوں	دہائے سے کہیں دیتا ہے حضرت جوش نفسانی
طریقہ یہ نہیں دیندار کا سچے مسلمان کا	طریقہ یہ مسیحی ہے عقیدہ ہے یہ نصرانی
غلط تحریر پر ایسی تعلق واہ رے جرأت	نہیں ہے نور دین کچھ بھی نہیں ہے آنکھ میں پانی
یہ حالت زار اپنے بھائی کی دیکھی نہیں جاتی	تجھ پر خوب روشن ہے میرے دل کی پریشانی
طبیعت مضطرب ہے اٹک کی تجھ سے دعا یہ ہے	بہت گیزی سنبال ان کو دکھا اپنی درخشانی

یہ رسالے تو قادیانی مؤلف القاء سے خطاب کر کے لکھے گئے ہیں ان کے علاوہ حضرت مؤلف ”فیصلہ آسانی“ عم فیضہم نے اپنے کئی رسالوں میں قادیانی مربی غلط فہمیوں کا نہایت محققانہ جواب دیا ہے مگر انہیں مخاطب نہیں بنایا کیونکہ وہ اس قائل نہ تھے وہ رسائل یہ ہیں۔

۶..... فیصلہ آسانی حصہ ۳ کا نصف آخر جس میں کامل طور سے مرزا قادیانی کی پیشینگوئیوں کو جھوٹا ثابت کر کے انہیں قطعی کا ذب ثابت کر دیا ہے وہاں القاء کے سارے مہملات ردی ہو گئے ہیں۔

۷..... معیار صداقت ۸..... تنزیہ ربانی یہ دونوں رسالے اگرچہ اخبار البدر مرقومہ ۸۔

اگست ۱۹۱۲ء کے ایک مضمون کے جواب میں ہیں مگر مضمون وہی ہے جو فیصلہ آسمانی میں ہے اور القاء میں اس کی نسبت کچھ کہا گیا ہے، مگر یہ مختصر رسالے اس تحقیق اور متانت سے لکھے گئے ہیں کہ مرزا قادیانی کی جھوٹی پیشینگوئیوں کے لیے جو جھوٹی باتیں بنائی گئی تھیں سب کا نہایت محققانہ جواب دے کر مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔

۹..... عبرت خیز، اس بے نظیر رسالے میں نہایت محققانہ طور سے عبرت خیز مضمون دیکھایا ہے اور فیصلہ آسمانی حصہ دوم کے آخری حصہ کے مضامین کی تحقیق اس خوبی سے کی ہے کہ القاء کے شبہات باور ہوا ہو گئے ہیں اور مرزا قادیانی جو اپنی دنیاوی کامیابی کو اپنی صداقت کی عظیم الشان دلیل قرار دیتے تھے وہ بیکار ہو گئی اور واقعات زمانہ اور آیات قرآنی سے ثابت کر دیا کہ یہ ایک فریب تھا مرزا قادیانی کا۔

۱۰..... انوار ایمانی، اس میں پہلے قادیانی مؤلف القاء کی بددیانتیاں دیکھا کر یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت مولانا مؤلف فیصلہ آسمانی کی اصل باتوں کا کچھ جواب نہیں دے سکے اور جو کچھ لکھا ہے وہ محض غلط ہے یہ دس رسالے تو القاء قادیانی کے جواب میں لکھ کر منتشر ہو چکے ہیں اور ایک نہایت محققانہ رسالہ خاصان کے منہاج نبوت پر لکھا گیا ہے اور ان کی شرمناک غلطیاں اس میں دکھائی گئی ہیں مگر وہ ابھی تک چھپا نہیں ہے، مگر مذکورہ دس رسالے جو عرصہ سے منتشر ہیں کسی کا جواب تو نہیں دیا گیا البتہ عوام کو فریب دیا جاتا ہے کہ القاء فیصلہ آسمانی کے تینوں حصوں کا جواب ہے اور اس کہنے سے شرم نہیں آتی، جن کے ایک ایک صفحہ میں آٹھ آٹھ اور آٹھ دو سو سولہ غلطیاں ہوں وہ ان کی محققانہ تصنیف کا جواب دے سکتے ہیں جن کے علم و فضل کا دنیا میں شہرہ ہے جن کے مجدد ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے؟

میاں ارادت قادیانی ان دس رسالوں میں سے ایک کا جواب لکھوا کر اپنے مرزا کی صداقت ثابت کی ہوتی، النبوة فی الاسلام سے مرزا قادیانی کی صداقت ثابت نہیں ہو سکتی، فیصلہ آسمانی حصہ کا تہمہ جو چھپا ہے اس میں القاء کی ضروری باتوں کا جواب دے دیا گیا ہے اور درحقیقت القاء کے گیارہ جواب دیئے گئے ہیں اسی القاء پر فخر کیا جاتا ہے اور اسے ردی میں نہیں پھینکا جاتا؟ ناظرین جب القاء کا حال معلوم کر چکے کہ اس کی کیسی دجھیاں اڑائی گئی ہیں جس کے مصنف مرزا انیوں کے صدر اور بڑے مربی کہلاتے ہیں پھر برق آسمانی کیا چیز ہے؟ جس رسالہ کا جواب القاء میں لکھا گیا ہے اسی کے جواب کا مؤلف برق بھی دعویٰ کرتا ہے جو مؤلف القاء کے

مقابلہ میں ایک جاہل شخص ہے اس لیے جو رسالے القاء کے جواب میں لکھے گئے وہی برق کے جواب بھی ہیں اور علیحدہ بھی اس کا جواب لکھا گیا ہے مگر بے ضرورت سمجھ کر اس کے چھوانے کی طرف توجہ نہیں کی گئی پھر یہ کہتا کہ برق کا جواب کوئی نہیں دے سکا کیسا اعلانیہ جھوٹ اور ابلہ فریبی ہے اور نصرت یزدانی کا جواب تائید ربانی لکھا گیا ہے جو ۱۳۳۱ھ میں چھپا ہے۔

مرزائی یہ بھی کہتے ہیں کہ حقیقۃً آسح کا جواب تصدیق آسح دیا گیا ہے یہ محض غلط ہے اس کا جواب ہو نہیں سکتا اگر دعویٰ ہے تو کوئی مرزائی دکھائے کہ وہ تصدیق آسح کہاں ہے؟ کسی خانگی اخبار میں کچھ لکھ دینے سے جواب نہیں ہو سکتا رسالہ یہاں بھیجو۔

میاں ارادت قادیاंनी یہ تو مختصر رسالہ ہے جو تمہارے رسالہ النبوة فی الاسلام کے جواب میں لکھا گیا ہے اس کے بعد ختم النبوة فی الاسلام بھی عنقریب چھپ کر شائع ہوگا جس میں قرآن شریف کی دس آیتوں سے اور ۱۶ مفسرین کی تفسیروں سے اور متعدد احادیث صحیحہ اور اجتماع امت محمدیہ سے اور نیز مرزا قادیانی کے متعدد اقوال سے ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت سرور انبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا نبوت ختم ہو گئی مگر مرزائی ان باتوں سے بے خبر ہیں اور اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں غاصبر وایا اولی الالہاب

## رحمانی فیض کی بارش

حضرت قبلہ عالم مولانا سید ابوالاحمد رحمانی دام اللہ فیوضا جہم علی سائر المسلمین کی

توجہ باطنی اور تالیفات نادرہ کا بہترین نتیجہ

باخبر حضرات پر روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ صوبہ بہار کے شہر مونگیر اور بھاگلپور اور اس کے اطراف میں قادیانی گمراہی کا ایک سیلاب آیا تھا اور قریب تھا کہ ان دونوں شہروں کے اہل ایمان اکثر یا کل اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور پھر یہ سیلاب دور تک ایمانی عمارات کو بہالے جائے عنایت خداوندی کا شکر ہے کہ اس نے حضرت ممدوح کو متوجہ کر دیا اور ان کی توجہ ظاہری اور باطنی سے ہزاروں بلکہ لاکھوں مخلوق خدا سخت گمراہی اور دکھتی آگ سے بچ گئی آپ کے رسائل نادرہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے غلط دعوؤں اور ان کے جھوٹ و فریب کو تمام دنیا پر روشن کر دیا کہ ہر ایک دیکھنے والا مرزا قادیانی کی حالت سے واقف ہو گیا اور اس گمراہی سے بچا اور بہت

تاواقف مسلمان جو اس دام گمراہی میں پھنس چکے تھے اور قریب تھا کہ بہت سے اس بلا میں مبتلا ہو جاتے مگر آپ کے رسائل ہدایت مآب کے دیکھتے ہی اس سے علیحدہ ہو گئے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے انصاف پسند اور حق بین حضرات تاواقف ہوں جو دام گرفتہ ان پُر ہدایت رسائل کے دیکھنے سے روک دیئے گئے ہیں وہ اس پر غور فرمائیں کہ روکنے والے اپنے مذہب کو ایسا ضعیف سمجھتے ہیں کہ کوئی سمجھدار ان مفید اور حقانی رسائل کو دیکھ کر ہمارے دجل و فریب سے ناواقف نہیں رہ سکتا اس کا نمونہ مونگیر و بھاگلپور والے حضرات تو دیکھ چکے ہیں جو حضرات تاواقف ہیں وہ معلوم کریں کہ ان رسالوں کا اثر صوبہ بہار تک محدود نہیں رہا بلکہ ساری دنیا میں پھیلا، صوبہ پنجاب، مدراس، بمبئی، گجرات، حیدرآباد، تمام بنگال یعنی کلکتہ سے لیکر چانگام، سلہٹ، ڈھاکہ، نواکھائی، مین سنگھ وغیرہ تک جہاں قادیانی پہنچے ہیں وہاں سے ان رسالوں کی طلب آئی ہے اور رسائل پہنچنے کے بعد عاجز ہو کر بھاگ گئے ہیں یا خاموش ہو گئے ہیں اور چونکہ حضور ممدوح الصدر کی شہرت اور فیض محمدی ہندوستان تک محدود نہیں ہے بلکہ اکثر دنیا میں ہے اس لیے آپ کے رسائل مفیدہ حرمین شریفین بھی گئے ہیں اور رنگون اور ملک افریقہ میں بہت گئے ہیں اور جہاں جہاں رسالے پہنچے ہیں وہاں سے گمراہی پھیلانے والے بھاگے ہیں اور مسلمان قادیانی گمراہی سے محفوظ رہے ہیں اور بعض جو فریب میں آ گئے تھے وہ راہ راست پر آ گئے۔ اسی طرح سرحد کی طرف بھی اثر ہوا الحمد للہ بعض رسائل کا ترجمہ انگریزی میں بھی ہو گیا اور گجراتی زبان میں بھی اور بنگلہ زبان میں ہو رہا ہے۔

اب میں اسی فیضان بے پایاں کا ایک نمونہ دیکھانا چاہتا ہوں صوبہ اڑیسہ میں کلنگ اور اس کے اطراف میں ان گمراہوں کی جماعت ہو گئی تھی اور اس کی ترقی ہو رہی تھی وہاں کے مدرسہ سلطانیہ کے صدر مدرس مولوی سید محمد قاسم صاحب بہاری نے رحمانیہ رسائل منگوا کر شائع کئے اس کا اثر وہاں کے مسلمانوں پر جو کچھ ہوا وہ ذیل کی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کئی روز ہوئے مولوی محمد عبدالستار صاحب اسٹنٹ ہیڈ ماسٹر مسلم سمٹری کلنگ کا خط آیا ہے وہ نقل کیا جاتا ہے۔

مسلم سمٹری کلنگ کا خط

جناب قبلہ و کعبہ حضرت مولانا صاحب دام ظلکم..... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور سے گرچہ شرف زیارت حاصل نہیں ہے مگر تصانیف اور تالیفات جو حضور کے برابر یہاں آتے رہتے ہیں اس سے گویا غائبانہ شرف زیارت حاصل ہے حضور کی تصنیفات کے

سبب سے حضور کا تذکرہ اکثر یہاں رہتا ہے خصوصاً اس زمانے میں جبکہ ہر معاملات میں مولوی محمد قاسم صاحب اپنے زمانہ قیام میں ہماری مدد کرتے تھے مجھے چند دنوں سے یہ معلوم ہوا کہ کنگ کے قادیانیوں کے متعلق کوئی صحیح خبر حضور کے نزدیک نہیں پہنچتی ہے اس واسطے یہ کام اپنے ذمہ لیتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً یہاں کی خبر سے حضور کو اطلاع دیتا رہوں حضور کے رسالوں اور کتابوں کا اس ملک میں اچھا اثر پڑا۔ مسلمانوں کے عقائد بہت درست ہو گئے ایک جم غفیر اور بڑی جماعت جو قادیانی ہونے والی تھی انہی کتابوں کی بدولت قادیانی ہونے سے بچ گئی اور اب یہ حالت ہے کہ کسی قادیانی کو اپنے مذہب سے دلچسپی نہیں رہی ہم لوگوں نے ہمیشہ سے قادیانیوں کی سخت مخالفت کی اور اب بھی ان کی بچ کنی میں حتی المقدور کوشاں ہیں اسی قادیانی جماعت کو کمزور اور اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے واسطے ہم لوگوں نے ایک اسکول مسلم سنتری کھولا ہے جو مذہبی رنگ لیے ہوئے ہے اور وہاں انٹرنس تک انگریزی کی تعلیم دی جاتی ہے کنگ میں اسکول تو بہت ہیں مگر اس کی بنیاد ڈالنے کی ہم بانیان اسکول کی یہی غرض تھی کہ جب ہم لوگوں نے مسلمانوں کا زیادہ رجحان قادیانی مذہب کی طرف دیکھا تو ہم لوگوں نے اپنی ایک بڑی جماعت قائم کر لی اور اسی اسکول کو قائم کیا جس میں جوق در جوق مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا اور اس طرح ہماری ایک بڑی جماعت قادیانیوں کے مقابلہ میں قائم ہو گئی جس کی سب سے قادیانی جماعت پر جو قبیل جماعت ہے بہت گہرا اثر پڑا۔ ہم بانیان اسکول نے ہمیشہ قادیانیوں سے نفرت ظاہر کی اس اسکول کے قائم کرنے سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لڑکے جو اور اسکولوں میں اس مذہب کے زہریلے اثر سے متاثر ہو جاتے تھے اس سے محفوظ رہے کیونکہ اور اسکولوں میں ماسٹر اور بعض لڑکے بھی قادیانی ہیں ہمارا اسکول اس سے پاک ہے اور ہم بانیان اسکول کا اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے پاک رکھا جائے اسی اسکول میں اسکولی تعلیم کے ساتھ دینیات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اس کے متعلق ایک مسجد بھی قائم کی گئی ہے جس میں اسکول کے وقتوں میں لڑکے ظہر اور عصر کی نماز بھی پڑھتے ہیں اب ایک سال سے ایک مطبع بھی بنام مصدر فیوض جاری کیا گیا ہے جس میں دوسری چیزوں کے علاوہ اکثر قادیانیوں کی تردید میں اشتہار وغیرہ چھپتے رہتے ہیں ہمارے اسکول کے خزانچی اور پریذیڈنٹ جناب کرم علی صاحب رئیس کنگ ہیں جو اسکول سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور قادیانیوں کی تردید میں اکثر ہم لوگوں کو ان سے مدد ملتی رہتی ہے حضور کو شاید معلوم ہو گا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہاں سوگڑے مفصلات کے قادیانیوں کا جو مقدمہ مسجدوں کے بارے



میں تھا وہ فیصلہ ہو گیا ہے جناب مجسٹریٹ صاحب نے ایک آرڈر بھی پاس کیا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ کل مسجدیں سنیوں کی ہیں اور اس میں قادیانی آ نہیں سکتے اس خط کے ہمراہ ایک اشتہار ارسال مدت ہے جس میں اس آرڈر کا مفصل ذکر ہے قادیانی تو اب مسجدوں سے محروم ہو گئے اب وہ ایک نیا فساد برپا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے مردوں کو مسلمانوں کے مقبروں میں دفنانے کا حق جتنا چاہتے ہیں چند دن قبل ایک قادیانی لڑکا اس شہر میں انتقال کر گیا انہوں نے شہر میں دفنانا چاہا پولیس سے مدد چاہی مگر کامیاب نہ ہو سکے آخر شہر کے باہر ایک ٹکڑا زمین خرید کر کے وہاں دفنا دیا دس بارہ دنوں کی بات ہے کہ سوگڑے میں ایک نیا اور تازہ واقعہ پیش آیا ایک قادیانی عورت مرگئی قادیانی لوگ اسے مسلمانوں کے مقبرے میں دفنانا چاہتے تھے مسلمانوں نے منع کیا مگر قادیانی نہیں مانے اور موقع پا کر قبر کھود کر لاش کو گاڑ آئے جب یہ بات مسلمانوں کے کان میں پڑی سب لوگ جمع ہو گئے اس لاش کو قبر سے نکال کر اس کے مکان کے سامنے پھینک آئے قادیانیوں نے مخالفت کی بہت بیجا طور پر مسلمانوں کو گالیاں دیں نوبت یہاں تک پہنچی کہ مار پیٹ شروع ہو گئی ایک قادیانی کا سر پھٹ گیا دوسرے قادیانی کو کسی نے ایسے زور سے ایک اینٹ رسید کی کہ عینک ٹوٹ کر بچا رہے کی ناک کو زخمی کر دیا۔

سنا ہے کہ قادیانیوں نے پولیس کو خبر دی ہے کل پولیس تدارک کے واسطے گیا تھا دیکھئے خدا تعالیٰ کی مرضی کیا ہے انشاء اللہ اس مقدمہ کی حالت حضور کی خدمت میں پہنچتی رہے گی ہم لوگوں کی یہ دلی خواہش ہے کہ حضور سے زیارت کا شرف حاصل کریں اور اس بات کی دلی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں اور اسی خیال میں ہیں کہ جب موقع ہو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف زیارت حاصل کریں میرے ایک دوست مولوی عبدالجید صاحب بی اے جو ہمارے اسکول کے سیکرٹری ہیں ان کو حضور کی جدید تصنیفات کو دیکھنے کا بہت ہی شوق ہے ازراہ مہربانی ذیل کے پتہ پر نئے رسالے بھیج دیئے جائیں۔

آپ کا خادم

محمد عبدالستار

اسٹنٹ ہیڈ ماسٹر مسلم سمٹری کنگ

یہ سب کچھ ہمارے حضرت قبلہ عالم مدظلہ کے فیض باطنی کا اثر ہے الحمد للہ پہلے موٹیر کی مسجد کے مقدمہ میں ہائیکورٹ تک مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور مرزائی ذلیل و رسوا رہے اور مسجد

سے نکالے گئے، دوسرا واقعہ پور بنی ضلع بھاگلپور کی عید گاہ کا ہے وہاں بھی ان کی مدد اور توجہ خاص سے ان کو ناکامی ہوئی اور عبدالمجاہد مرزائی کے جھوٹے اظہاروں سے ان کی بہت رسوائی ہوئی، صوبہ بہار کا یہ تیسرا واقعہ ہے وہاں کے حضرات نے بھی یہاں سے مدد چاہی ہائیکورٹ کی نظیر کی نقل منگوائی، الحمد للہ کہ یہاں بھی کامیابی ہوئی وہاں کے حاکم نے جو فیصلہ لکھا ہے اس کی یہاں نقل کی جاتی ہے۔

”ہم احمد یوں کی التجا کے مطابق کما حقہ تدارک کے بعد صاف حکم صادر کرتے ہیں کہ قادیانی لوگ رسولپور، کوکبھی، محی الدین پور اور دھواں ساہی کی چاروں مسجدوں میں یعنی جن مسجدوں میں قادیانی اپنا دخل اور حق جتا کر دعویدار ہوتے تھے اور نیز انہوں کی ہوئی تعمیر کو اپنے آباؤ اجداد کی طرف منسوب کر رہے تھے، قدم رکھ نہیں سکتے کیونکہ ان مسجدوں کے تیار کنندگان اہل سنت والجماعت میں سے تھے، اگر وہ اپنی دانست میں کوئی استحقاق رکھتے ہیں تو صاف عدالت دیوانی کی طرف رجوع کریں اور کسی مسجد کی جانب رخ نہ کریں اگر کئے تو فوجداری آئین کے دفعہ ۷۰ کے مطابق ان کے خلاف عملدرآمد ہوگا“ اب اس سے زیادہ صاف حکم ہم نفاذ کر نہیں سکتے۔“

اب مرزائیوں کو چاہیے کہ مرزا قادیانی کا وہ قول یاد کریں کہ جھوٹا ناکام ہوتا ہے اور سچا کامیاب ہوتا ہے اس لیے مرزائی اپنے مرشد کے قول سے جھوٹے ثابت ہوئے ”الحمد للہ علی ذالک“۔

آخر میں نہایت خیر خواہانہ عرض کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے کذب کے دلائل میں اس قدر رسالے لکھے گئے ہیں کہ دنیا میں کسی جھوٹے مدعی کے کذب میں نہیں لکھے گئے ابھی ایک فہرست جس میں ۳۶ رسالوں کے نام ہیں ان کو ملاحظہ کیجئے اور اس کا یقین کیجئے کہ یہ وہ رسالے ہیں کہ ان کا کچھ جواب نہیں ہو سکتا جھوٹی اور غلط باتیں لکھ کر چھاپ دینا اور بات ہے۔

الراقم محمد اسحاق غفرلہ الرزاق  
مگران تعلیم مسلمانان ضلع موئیکیر  
۵۔ جنوری ۱۹۱۸ء



الحمد لله الذي جعلنا من عباده

چیلنج محمدیہ ﷺ وصولت فاروقیہ

# صحیفہ رحمانیہ

(1A)

حضرت مولانا حکیم محمد یعسوب مونگیریؒ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## چیلنج محمدؐ

### صولت فاروقیہ

طالبن حق اس پر غور فرمائیں کہ یہ مختصر رسالہ ۱۳۳۷ھ مطابق ۱۹۱۹ء میں گروہ مرزائی قادیانی اور لاہوری دونوں کی ہدایت و خیر خواہی کے لئے مشہر ہوا تھا، اور جواب کیلئے تمام دنیا کے قادیانیوں کو چیلنج دیا گیا تھا اب ۱۳۴۰ھ ہے۔ اس وقت تک نہ کسی نبی ماننے والے نے اور نہ کسی مجدد کہنے والے نے دم مارا۔ ایڈیٹر الفضل اور خلیفہ قادیان کے نام مکرر بھیجا گیا مگر غرور اور سکوت اس وقت تک کچھ جواب نہیں آیا۔ اب قادیانی خلیفہ کے خاص چیلے میاں اللہ مار عرف اللہ دیتے کا چیلنج آیا ہے، انہوں نے اپنے خیال میں مہمات مسیح ثابت کی ہے۔ اس کے جواب میں ہم ساتویں روز ایک رسالہ بھیج چکے ہیں جس کا نام ”رسائل لاثانی در کذب مسیح قادیانی“ ہے۔ اب یہ رسالہ بھیجتے ہیں جس میں مرزا قادیانی کا جھوٹا اور بدترین خلافت ہونا نہایت ان کے پختہ الہامی اقراروں سے خوب روشن کر کے دکھایا ہے اور ان کے اعلانیہ افتراء پر دازیوں اور کذب بیانیوں سے ان کا جھوٹا ہونا ثابت کیا ہے۔ اب اس رسالہ کے دوبارہ طبع میں کچھ اضافہ ہوا ہے اور انجام آتھم کی تھوڑی سی عبارت میں مرزا قادیانی کے چوڑے جھوٹ دکھائے گئے ہیں۔ اب اللہ دیتے بتائیں کہ ایسا اقراری جھوٹا اور ہر بد سے بدتر مسیح موعود ہو سکتا ہے؟ حضرت مسیح کا مرنا ایسے کذاب کو مسیح موعود نہیں بنا سکتا۔

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوَةُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَخَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ لَا نَبِیَّ بَعْدَهُ

اس کے بعد یہ خیر خواہ تمام مرزائی گروہ کو کلکتہ سے قادیان اور حیدرآباد سے افریقہ تک پہنچ دیتا ہے کہ میرے رسالہ کا جواب دیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تقریری جواب دیں یا تحریری، تقریری کی صورت یہ ہے کہ کلکتہ میں، قادیان میں، لکھنؤ میں، دہلی میں، جلسہ عام کریں، اور مجھے اطلاع دیں میں اس جلسہ میں تنہا یا اپنی جماعت کے ہمراہ حاضر ہوں گا، اور اسی جلسہ میں ایک ایک قول حاضرین جماعت کو سناؤں گا اور جواب طلب کروں گا، مگر کامل دعویٰ سے کہتا ہوں کہ کوئی مرزائی کسی مقام کا جواب نہیں دے سکتا اور ہر گز نہیں دے سکتا۔ اس میں کسی طرح کا شبہ نہیں ہے کہ ہادی مطلق نے نہایت روشن طریقے سے مخلوق پر ایک بڑے ہوشیار کذاب و مفتری کے کذب کو اسی کے اقوال سے دکھا دیا اور کامل طور سے حجت تمام کر دی، پانچواں مہینہ ہے کہ اس کی لاجوابی کا ثبوت خدا تعالیٰ نے اس طرح دکھایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ قادیانی اور علمائے دیوبند سے تحریری مناظرہ ہو رہا تھا، اور علمائے دیوبند کے متعدد رسالے اور اشتہارات چھپ رہے تھے۔ مگر ایڈیٹر الفضل کے گیارہویں نمبر کا جواب غالباً علمائے دیوبند نے اس وقت تک مستہر نہیں کیا تھا۔ ایڈیٹر الفضل سمجھے کہ ہمارے جواب سے علمائے دیوبند عاجز ہو گئے اس لئے وہ نمبر فخریہ خانقاہ رحمانیہ مونگیر میں بھیج دیا، چونکہ علمائے دیوبند سے مبالغہ پر بحث شروع ہوئی تھی اس وجہ سے اس پہنچ محمدیہ کے پہلے ہی صفحہ پر یہ مضمون لکھ کر کہ جس مدعی کا جھوٹا ہونا اس کے پختہ اقراروں سے ثابت کر دیا ہو جیسا کہ اس رسالہ میں دکھلایا گیا ہے۔ جس میں سات اقرار مرزا قادیانی نے اپنے جھوٹے ہونے کے کئے ہیں۔ پھر ایسے اعلانیہ جھوٹے کی صداقت پر کوئی فہمیدہ مبالغہ کر سکتا ہے؟ ہر گز نہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر اسی اشتہار کے سرورق پر یہ لکھا آیا کہ مبالغہ تو آخری فیصلہ ہے۔ ۲۰/رجب ۱۳۳۸ھ کو یہاں سے جواب گیا کہ آخری فیصلہ اگر ہے تو اس کے لئے ہے جس کا فیصلہ نہ ہوا ہو، جس کا فیصلہ خود مدعی کی زبان سے ہو گیا اور قطعاً اور یقیناً اس کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیا گیا ہو۔ پھر

اس کے لئے دوسرا فیصلہ بے کار ہے۔ اس مضمون کو کچھ تفصیل سے لکھ کر اور چھپوا (۲۸ شعبان ۱۳۳۸ھ میں رحمانیہ پریس موگنیر میں چھپا ہے) کرایڈیٹر الفضل اور مرزا محمود خلیفہ قادیان کو بھیج دیا گیا اب دوسرا سال تمام ہوتا ہے۔ اس وقت تک تو صدائے برنخواست کا مضمون ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگا، مگر افسوس ہے کہ اس اعلانیہ طور سے جھوٹے ثابت ہوئے مگر ایسے جھوٹے کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ صحیفہ رحمانیہ نمبر ۲۰ میں اس جواب کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

برادران اسلام پورے طور سے متوجہ ہو کر میری دردمندی کو ملاحظہ کریں ان دنوں نکلکتہ میں ایک دشمن اسلام مرزائی غلمدی آیا تھا اور اپنے ترلقہ کو ہضم کرنے کے لئے علمائے اہل اسلام اور خصوصاً ان مجدد و وقت کو چیلنج دیتا تھا جنہوں نے پچاس ساٹھ رسالے مرزا کی کذابی کے بیان میں شائع کر کے دنیا کے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا اور عظیم الشان گرامی سے بچایا۔ فیصلہ آسمانی کے تین حصوں کو مشتمل ہوئے برسین گزر گئیں جس میں توریت مقدس، اور قرآن مجید سے اور صحیح حدیثوں سے اور ان کے اعلانیہ کذابیوں سے ان کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیا گیا اور اس کے جواب دینے والے کو ہزاروں روپیہ کا انعام دینے کے لئے کہا گیا مگر اس وقت تک قلم نہ اٹھا سکے، دوسری شہادت آسمانی میں ان کی آسمانی شہادت کو کیسا خاک میں ملایا ہے اور ان کے جھوٹ اور فریب دکھائے ہیں۔ مگر کسی مرزائی کی مجال تو نہ ہوئی کہ سامنے آئے اور اپنے مرشد کی روسیاسی کو مٹائے اور اس کا جواب دے۔ عنقریب (قریب میں) رسالہ چشمہ ہدایت چھپا ہے جس میں ان کے اٹھارہ اقوال دکھائے گئے ہیں جن سے مرزا قادیانی جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ اس رسالہ میں یہ اقوال بھی ہیں جو اس چیلنج میں لکھے گئے اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے جھوٹے ہونے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اقوال، ان کے نہایت پختہ اقرار، انہیں جھوٹا ثابت کرتے ہیں مگر چونکہ مرزا قادیانی کا وجود چودھویں صدی میں نمونہ قہر الہی تھا، اس لئے اس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اس فتنہ کی طرف سے مسلمانوں کو کچھ توجہ نہیں ہے قادیانی جماعت کی عقل سلب کر دی گئی ہے۔ وہ اپنی اس خیر خواہی کو دیکھتے ہی نہیں اور دیکتی آگ میں گرے پڑتے ہیں اور دوسروں کو اپنے ہمراہ زبردستی گھسیٹتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے اتمام حجت کیلئے مرزا قادیانی کو ان کے پختہ اقراروں سے ان کا مفتری اور جھوٹا ہونا ثابت کر دیا اور وہ اقرار جن کے سچے ہونے پر انہوں نے نہایت سخت قسم کھائی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر میرا قول سچا نہ ہو تو میں جھوٹا اور ہر بد سے بدتر ہوں اور انہیں نہایت پختہ اور سچا الہام الہی کہا ہے یعنی ان اقراروں کو

انہوں نے اسی طرح الہام الہی کہا ہے جس طرح اپنے مسیح اور مہدی اور مجدد اور نبی ہونے کے الہام کو کہا ہے، ان دونوں الہاموں میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، مگر مرزائی حضرات کچھ خیال نہیں کرتے اور ان کے مسیح اور مہدی ہونے کے الہام کو سچا سمجھ کر انہیں مہدی اور مسیح مان رہے ہیں اور اسی قسم کے وہ الہامات جن سے وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں ان کی طرف کچھ خیال نہیں کرتے اور ایسے اقراری کذاب سے علیحدہ نہیں ہوتے اور اپنے سچے اور بی خواہوں کے مجز و نیاز پر بھی رحم نہیں کرتے اور ایسے اعلانیہ کذاب سے علیحدہ نہیں ہوتے اور دہکتی آگ میں گرنا قبول کرتے ہیں۔ راقم خیر خواہ اس قسم کے چند اقرار، ان کی صرف ایک کتاب انجام آتھم سے یہاں نقل کرتا ہے، اور قدرت خدا کا نمونہ دکھاتا ہے کہ ایسا ہوشیار اور چالاک شخص اپنے ایک رسالہ میں ایک ہی واقعہ کے بیان میں آٹھ نو اقرار ایسے کرتا ہے جن سے وہ خود جھوٹا اور ہر بد سے بدتر ثابت ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے جھوٹے ہونے پر قسم کھائی ہو۔ وہ اقرارات ملاحظہ ہوں، پہلا اقرار (۱) میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشین گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے، اس کا انتظار کرو (یہ عبارت محاورہ اردو سے غلط ہے، مرزا کو تانیہ و تذکیر میں امتیاز نہ تھا) (۲) اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔ (۳) اور اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ ضرور اس کو بھی ایسا ہی پورا کر دے گا جیسا کہ احمد بیگ اور آتھم کی پیش گوئی پوری ہوگئی اصل مدعا تو نفس مفہوم ہے اور وقتوں میں تو کبھی استعارات کا بھی دخل ہو جاتا ہے۔ (۴)..... جو بات خدا کی طرف سے ٹھہر چکی ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔“ (انجام آتھم ص ۳۱ خزائن ج ۱۱ ص ۳۱ حاشیہ) مرزا قادیانی کے قول سے ثابت ہوا کہ وعید کی پیشین گوئی رونے دھونے سے رک نہیں سکتی، یہ اقرار مرزا قادیانی نے ۲۲ جنوری ۱۸۹۷ء سے کچھ قبل کیا ہے، اس اقرار کے الہامی اور سچے ہونے پر اس قدر اصرار و پختگی ہے کہ صرف انہیں چار سطروں میں نہایت زوردار چار طریقوں سے اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کو بیان کیا ہے، لیکن الحمد للہ ہر طریقہ سے مرزا قادیانی کا کذب ہی ثابت ہوتا ہے۔ تفصیل ملاحظہ ہو، اول طریقہ بیان مرزا قادیانی کا یہ ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشین گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے۔“ (جس بات کا پورا ہونا علم الہی میں قرار پا چکا ہو اسے تقدیر مبرم کہتے ہیں) اس لئے مرزا قادیانی کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ داماد احمد بیگ کا میرے سامنے مرنا علم الہی میں قرار پا چکا ہے، وہ صرف ضرور میرے سامنے مرے گا لیکن دنیائے دیکھ لیا کہ یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی۔ (مرزا ۱۹۰۸ء میں مرزا اور مرزا سلطان بیگ پاکستان بننے

کے بعد فوت ہوا) جس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کا اسے تقدیرِ مبرم کہنا محض جھوٹ اور اللہ تعالیٰ پر افتراء تھا اور نہایت ظاہر طریقہ سے مرزا قادیانی کا ذب و مفتری علی اللہ ثابت ہوئے اور جب اس جھوٹ کو مرزا قادیانی بار بار بولے تو اس طریقہ سے کم سے کم تین جھوٹ مرزا قادیانی کے ثابت ہوئے یعنی ایک جھوٹ تین مرتبہ بولے اور اگر قادیانی جماعت مرزا قادیانی کو اس دروغ گوئی سے مزہ اے سمجھتی ہے، تو دہریوں کی موند ہے۔ دوسرا طریقہ! نہایت ظاہر طور سے اپنا کمال وثوق اس کے پورا ہونے پر اس طرح ظاہر کیا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔“ ہمارے دینی برادران طلبیں حق اس پر غور فرمائیں کہ جناب مرزا قادیانی نے اپنی صداقت کے اظہار میں اور اپنی نبوت کی دلیل میں نہایت روشن بات پیش کی ہے جس کی صداقت آنکھوں سے معائنہ ہوتی ہے اور جس کا یقین متواتر خبروں سے ہو سکتا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ مرزا قادیانی کو مرے ہوئے بارہ برس ہو گئے اور خدا جانے ان کی ہڈیوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی اور احمد بیگ کا داماد اب تک موجود ہے اور اپنے چہرے کو دکھا کر ان کی کذابی کا معائنہ کر رہا ہے۔ مگر ان کے مریدین ایسے اندھے ہیں کہ ایسی اعلانیہ بات پر بھی ایمان نہیں لاتے اور اس کذاب کو جھوٹا نہیں سمجھتے جس کے کذب کا معائنہ ان کی آنکھوں سے ہو رہا ہے اس پر نظر رہے کہ یہ قول مرزا قادیانی کا معمولی نہیں ہے کہ اتفاقاً کوئی بات کہہ دی ہو بلکہ اپنی نبوت کی دلیل میں یہ پیشین گوئی کی ہے اور اس دلیل نے انہیں جھوٹا ثابت کر دیا۔ تیسرا طریقہ! اور اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالیٰ ضرور اس کو بھی ایسا ہی پورا کر دے گا، جیسا کہ احمد بیگ اور آتھم کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ اصل مدعا تو نفسِ مفہوم ہے اور وقتوں میں تو کبھی استعارات کا دخل ہو جاتا ہے، مرزا قادیانی تیسرے طریقے میں تمثیل دے کر اپنی پیشین گوئی پوری ہونے کی توضیح کرتے ہیں اور احمد بیگ اور مسٹر آتھم کی نظیر پیش کرتے ہیں لیکن یہ دونوں پیشین گوئیاں بھی جھوٹی ثابت ہوئیں۔ اس کی تفصیل الہامات مرزا اور فیصلہ آسمانی میں کی گئی ہے اور اس قول میں مرزا قادیانی نے چار جھوٹ بولے ہیں۔ (۱) یہ کہ پیشین گوئی پوری ہوگی (۲) احمد بیگ کی پیشین گوئی پوری ہو گئی (۳) آتھم کی پیشین گوئی پوری ہو گئی (۴) وقتوں میں کبھی استعارات کا بھی دخل ہو جاتا ہے یہ چوتھی بات بھی محض دروغ اور ہٹاوت ہے۔ انبیاء کے مقرر کئے ہوئے اوقات میں کبھی استعارہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی ڈھٹائی ہے۔ اس تیسرے طریقہ میں چار جھوٹ مرزا قادیانی کے ہوئے۔

چوتھا طریقہ! جو بات خدا کی طرف سے ٹھہر چکی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس



چوتھے جملہ میں مرزا قادیانی اپنی پیشین گوئی کی مزید توثیق کے خیال سے اس کو خدا کے یہاں کی ٹھہری ہوئی بات بیان کرتے ہیں۔ جب یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ خدا کے یہاں کی ٹھہری ہوئی بات نہ تھی، بلکہ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا اور اللہ تعالیٰ پر افتراء کیا، مرزا قادیانی اپنے پہلے اقرار کے تمام طریقوں سے جھوٹے ٹھہرے البتہ ان کا یہ اقرار سچا نکلا، اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آجائے گی۔ مرزا قادیانی عمر بھر میں غالباً سو اے اس جملہ کے کوئی سچ نہ بولے ہوں گے، اب قادیانی جماعت بتائے کہ جب آپ مرزا قادیانی کے تمام الہاموں اور ان کے اقوالوں کو سچا اعتقاد کر کے ان پر ایمان لائے ہیں تو اس پختہ اور یقینی اقرار پر ایمان لا کر انہیں جھوٹا کیوں نہیں مانتے اور اس اقرار میں انہیں جھوٹا کیوں سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کے خیال میں نبی جھوٹ بولتا ہے یا کسی وقت وحی والہام کے معنی نہیں سمجھتا تو پھر کسی صاحب عقل کے نزدیک نبی کی کوئی بات لائق اعتبار نہیں ہو سکتی اور نبوت بے کار ہو جاتی ہے ذرا اس میں غور کرو عقل کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جب مرزا قادیانی کا وہ قول جو اس نے بار بار کہا ہوا اور اس کو خدا کا الہام بتایا ہوا اور اسے اپنی صداقت کا معیار ٹھہرایا ہو، اور عرصہ دراز تک وہ اپنے اس غلط دعوے کو مشہور کرتا رہا ہوا اور اللہ تعالیٰ اس غلطی پر اسے کسی وقت متنبہ نہ کرے اور دنیا کے رو برو اسے جھوٹا اور رسوا کرے ایسا ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں اور میں نہایت خیر خواہانہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق اور بالخصوص مسلمانوں پر بڑا احسان کیا کہ مرزا قادیانی کے کذب کو دنیا پر روشن کر کے دکھا دیا اور کسی نا فہم اور جاہل کو بھی جانے دم زدن نہ رہی کیونکہ مرزا قادیانی اس کے لائق تھے، وہ جھوٹ بولنے میں ایسے بے باک اور عوام کے فریب دینے کو ایسے جھوٹ بے باکانہ بولے ہیں کہ اہل فہم ان کے جھوٹ کو اچھی طرح معلوم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی اقرار میں مرزا قادیانی کے آٹھ جھوٹ دکھائے گئے اور اس سے پہلے اسی انجام آتھم کے تیسویں صفحہ میں حضرت یونسؑ کا ذکر کیا ہے۔ اس میں متعدد جھوٹ بولے ہیں۔ اس کے ساتھ مرزا قادیانی کے اس پیشین گوئی کے جھوٹ کو بھی ملا لیا جائے تو مرزا قادیانی کے جھوٹ کی تعداد اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تاثرین مختصر لفظوں میں اس کی تشریح ملاحظہ فرمائیں،

### مرزا قادیانی کے اعلانیہ چوں جھوٹ

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ ”خدا تعالیٰ نے یونسؑ نبی کو قطعی طور پر چالیس دن تک عذاب نازل ہونے کا وعدہ دیا تھا اور وہ قطعی وعدہ تھا جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہ تھی جیسا کہ تفسیر

کبیر کے ص ۱۶۴ اور امام سیوطی کی تفسیر درمنثور میں احادیث صحیحہ کی رو سے اس کی تصدیق موجود ہے“ (حاشیہ انجام آتم ص ۳۰ خزائن ج ۱ ص ۳۰ حاشیہ)

اس قول میں مرزا قادیانی کئی دعوے کرتے ہیں۔ ایک! یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نزول عذاب کا قطعی وعدہ کیا تھا یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر بالیقین عذاب نازل ہوگا، دوسرا دعویٰ! یہ کہ نزول عذاب کی مدت چالیس دن ہے اور اس مدت کا ثبوت بھی قطعی ہے کچھ شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر نزول عذاب کی وعید کو قطعی اور یقینی کہتے ہیں اور اپنے پہلے قول کی تاکید کرتے ہیں۔ تیسرا دعویٰ! یہ کہ نزول عذاب کے لئے کوئی شرط نہیں ہے۔ اب نہایت ظاہر ہے کہ نزول عذاب کے لئے اگر شرط ہوگی تو یہی ہوگی کہ اگر ایمان نہ لائیں تو ان پر عذاب آئے گا، مگر مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شرط نہ تھی۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں ان پر عذاب ضرور نازل ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک خدا تعالیٰ کسی وقت ظلم بھی کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کے یہ تینوں دعوے جھوٹے ہیں اور کہیں سے ثابت نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قطعی طور سے بلا شرط بطور نادری حکم کے عذاب کا وعدہ کر دیا تھا تین جھوٹ یہ ہوئے۔ چوتھا دعویٰ! یہ ہے کہ یہ تینوں دعوے تفسیر کبیر ص ۱۶۴ سے ثابت ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے یہ دعویٰ نہ تفسیر کبیر کے کسی مقام سے ثابت ہے اور نہ تفسیر کبیر کے اس صفحہ سے کیونکہ تفسیر کبیر کی آٹھ جلدیں ہیں اور آٹھوں جلدوں کے اس صفحہ سے اس پیشین گوئی کا قطعی ہونا کسی طرح ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے یہ دو جھوٹ ہوئے اور چونکہ تفسیر کبیر سے تین دعوے ثابت کر رہے ہیں اس لئے اس میں درحقیقت تین دوئی چھ جھوٹ ہوئے۔ پانچواں دعویٰ! یہ ہے کہ تفسیر درمنثور سے بھی یہ تینوں دعوے ثابت ہیں۔ یہ بھی محض جھوٹ ہے اور چونکہ تین دعوؤں کا ثبوت اس کتاب سے بھی دے رہے ہیں۔ اس لئے تین جھوٹ یہ بھی ہوئے اور شروع سے یہاں تک شمار میں بارہ جھوٹ ہوئے اور چونکہ ان تفسیروں میں احادیث صحیحہ سے ان دعوؤں کا ثبوت بتاتے ہیں اور احادیث جمع کا صیغہ ہے جس کے لئے کم سے کم تین صحیح حدیثوں کا ہونا ضرور ہے اس لئے اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر دعوے کے متعلق تین صحیح حدیثیں ہیں اور دعوے تین ہیں تو اس لحاظ سے نو صحیح حدیثیں ہونا چاہئیں اور چونکہ ان حدیثوں کا حوالہ دو کتابوں سے دے رہے ہیں۔ اس لئے نو دوئی اٹھارہ صحیح حدیثیں دونوں کتابوں میں مل کر ہونا چاہئے تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اٹھارہ تو کیا ہوئیں ایک صحیح حدیث بھی ان دعوؤں کے ثبوت میں نہیں ہے تو اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ

تعداد حدیث کے لحاظ سے اٹھارہ جھوٹ یہاں پر مرزا قادیانی کے ہوئے اور بارہ پہلے ہوئے تھے تو اب کل میزان تیس ہوئے اب ایسی حالت میں کہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئی جھوٹی نکلی اور دنیا پر اس کا جھوٹا ہونا آفتاب کی طرح روشن ہو گیا تو مرزا قادیانی نے اپنی پیشگوئی پر پردہ ڈالنے کے لئے کہہ دیا کہ جس طرح حضرت یونسؑ کا وعدہ عذاب ٹل گیا اسی طرح مرزا احمد بیگ کے داماد کی موت کا وعدہ ٹل گیا۔ یہ مرزا قادیانی کا اکتیسواں جھوٹ ہے کیونکہ حضرت یونسؑ کا وعدہ عذاب پورا ہوا اور عذاب آیا، جو قرآن شریف کی نص قطعی سے ثابت ہے اور سورہ یونس میں مذکور ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان پر سے وہ عذاب جو ان پر نازل ہو چکا تھا، خدا نے دور کر دیا اور یونسؑ کا وعدہ پورا ہوا، بخلاف اس کے کہ مرزا قادیانی نے احمد بیگ کے داماد کی موت کے لئے قطعی طور سے بار بار کہا مگر وہ نہ مرا۔

علاوہ اس کے حضرت یونسؑ کے واقعہ کو پیش کرنا اور اپنی پیشگوئی کے ہم شکل بنانا اس وجہ سے بھی غلط اور سراسر کذب و فریب ہے کہ حضرت یونسؑ کی قوم پر سے عذاب اس وجہ سے خداوند تعالیٰ نے نازل کرنے کے بعد اٹھایا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی اور یہاں تو مرزا قادیانی پر وہ لوگ جن کے متعلق مرزا قادیانی نے پیشین گوئی کی تھی آخری دم تک ایمان نہیں لائے۔ لہذا مرزا قادیانی کی پیشین گوئی حضرت یونسؑ کی پیشین گوئی سے دوسرے معنی کے اعتبار سے بھی مختلف ہے اور اس لحاظ سے مرزا قادیانی کا اپنی پیشین گوئی کو حضرت یونسؑ کے واقعہ کے ہم شکل ٹھہرا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا بیسواں جھوٹ ہوا، اس کے بعد اسی پیشین گوئی کے ضمن میں مرزا قادیانی کی چار سطر کی عبارت بھی قابل دید ہے کہ بالکل بے باک و غرور ہو کر جھوٹ بولتے گئے ہیں۔ میں ناظرین کے سامنے وہ عبارت پیش کر کے اس کے جھوٹ دیکھاتا ہوں، مرزا قادیانی (حاشیہ ضمیمہ انجام آختم ص ۳۲، ۳۱ خزائن ج ۱۱ ص ۳۲، ۳۱) میں لکھتے ہیں ”تو پھر اگر خدا کا خوف ہو تو اس پیشین گوئی کے نفس مفہوم میں شک نہ کیا جائے، کیونکہ ایک وقوع یافتہ امر کی یہ دوسری جز ہے۔ جس حالت میں خدا اور رسول اور پہلی کتابوں کی شہادتوں کی نظیریں موجود ہیں کہ وعید کی پیشگوئی میں کو بظاہر کوئی بھی شرط نہ ہو تب بھی بوجہ خوف تاخیر ڈال دی جاتی ہے تو پھر اس اجماع عقیدہ سے محض میری عداوت کیلئے منہ پھیرنا اگر بد ذاتی اور بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے“ اس عبارت میں پہلا جھوٹ تو یہ ہے کہ اس پیشین گوئی کو وقوع یافتہ بات کا ایک جز قرار دے رہے ہیں، حالانکہ محض غلط ہے کیونکہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ پیشین گوئی کا کوئی حصہ پورا نہیں ہوا جیسا کہ اس کو

(الہامات مرزا) میں خوب اچھی طرح ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں خدا اور رسول اور پہلی کتابوں کی شہادتوں کی نظریں موجود ہیں کہ وعید کی پیشین گوئی میں گو بظاہر کوئی بھی شرط نہ ہو تب بھی بوجہ خوف تاخیر ڈال دی جاتی ہے۔ اس عبارت کا مطلب آسان ہے، اس لئے تشریح نہیں کرتا ہوں۔ اس میں ایک جھوٹ خدا پر ہوا قرآن مجید میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ عذاب کی پیشین گوئی خوف سے ٹل جاتی ہے۔ اگر کسی مرزائی کو دعویٰ ہو تو ثابت کرے بلکہ اس کے خلاف متعدد جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ فیصلہ آسمانی حصہ سوم میں متعدد آیات سے اس دعویٰ کو ثابت کیا ہے کہ خدا کا وعدہ اور وعید میں کبھی تخلف نہیں ہوتا، لہذا یہ مرزا قادیانی کا دوسرا جھوٹ ہوا، تیسرے یہ کہ اسی مضمون کو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن حدیثوں میں بھی اس کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ یہ تیسرا جھوٹ ہے، چوتھے یہ کہ اس کے مضمون کو پچھلی کتابوں کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں۔ پچھلی کتابیں دس ہیں تو گویا دسوں کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ ایک کتاب میں بھی یہ مضمون نہیں ہے اس لئے دس جھوٹ یہ ہوئے۔ اس کے بعد غضب کی ڈھٹائی کے ساتھ مرزا قادیانی اسی مضمون کو اجماعی عقیدہ بیان کرتے ہیں یہ کس قدر بے باکی و جسارت ہے کہ جس بات کے دس بیس علماء بھی قائل نہ ہوں اس کو اجماعی عقیدہ بیان کر دیا۔ اپنے اس قول میں مرزا قادیانی نے صرف ایک دو علماء پر اتہام نہیں باندھا ہے بلکہ کروڑوں مسلمانوں کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دی ہے۔ کیونکہ اجماعی عقیدہ وہی کہلاتا ہے جس کو تمام مسلمان تسلیم کر لیں اب خیال کرو کہ رسول اللہ ﷺ سے لے کر اس وقت تک کتنے مسلمان گذرے ہوں گے اور اگر تم تمام مسلمانوں کو نہ لو صرف علماء ہی کا شمار کرو اس وقت بھی کروڑوں کی تعداد ہو جائے گی تو گویا اس قول میں مرزا قادیانی نے کروڑوں جھوٹ بولے اور اگر کروڑوں جھوٹ اس کو نہ کہو گے تو کروڑوں جھوٹ کے مقابلہ کا ایک جھوٹ تو شمار کرو گے اس لحاظ سے اس چار سطر کی عبارت میں چوداں جھوٹ ہوئے اور تیس پہلے ہوئے تھے اور اب اس سے قبل آٹھ تو اب میزان کل چون ہوتی ہے خدا کی پناہ جس شخص کے ایک اقرار کی چند سطروں میں چون جھوٹ ظاہر ہوں، اس کو لوگ نبی مانیں سو اس کے کیا کہا جائے کہ مرزائیوں کی عقلیں سلب ہو گئی ہیں۔ اب جو شخص مرزا قادیانی کی صداقت کا مدعی ہو وہ جمع کر کے ہمارے سامنے ان کی صداقت ثابت کرنے پھر دیکھے کہ ان کا جھوٹا ہونا کس طرح ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے اور اس جلسہ میں ہم اس کیلئے انعام بھی مقرر کر دیں گے اس قدر عرض کرنے کے بعد اب میں پھر مرزا قادیانی کے اقرار کی طرف لوٹا ہوں جس

وقت مرزا قادیانی نے داماد احمد بیگ کے اپنے سامنے نہ مرنے پر اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار عام طور سے مشتہر کیا تو خاص طور سے بعد میں علماء کو بھی خط لکھا ہے اور عربی اور فارسی کی قابلیت دیکھائی ہے اور ۲۱ صفحوں پر اسی پیشین گوئی کا ذکر کیا ہے، اور علماء کی شکایت کی ہے کہ احمد بیگ کا داماد پیشین گوئی کی میعاد میں نہیں مرا ”وایں برخلاف آں وعدہ تاکید است کہ در الہام بود“ پھر اس کے جواب میں ایک طوفان بے تمیزی کا اٹھایا ہے، اور ص ۲۱۴ پر پہنچ کر اس کے مرنے کا جدید الہام بیان کیا ہے اور الہام سابق کی اسے تفصیل قرار دی ہے اور ص ۲۱۵ میں اس مضمون کا اعادہ کیا ہے، پھر (خرائن ج ۱۱ ص ۲۱۶) میں تیسرا الہام اسی داماد احمد بیگ کی موت کی بابت بڑے زور سے پیش کرتے ہیں اور اس میں کسی شرط کو بیان نہیں کرتے اور اس کی تعریف عربی اور فارسی میں اس طرح کرتے ہیں۔

”وتجلی هذا الا لہام كالنور فی الظہور و رفع الحجب کلہا من السر المستور  
وكان هذا شرخاً مبسوطاً للالہامات السابقة وتفصيلاً لكللم المجللة الكشفية  
وبیاناً واضحا للسامعین“

”وایں الہام در ظہور مانند نور تجلی کرد و ہمہ حجاب ہا کہ بر راز پوشیدہ بود از میان برداشت وایں الہام برائے الہامات سابقہ بطور شرخ بود مبسوط و برائے کشوف مجملہ تفصیل بود واضح۔“

اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کے مرنے کی اس تیسرے الہام نے پہلے الہاموں کی ایسی واضح شرع کردی کہ کسی طرح کا شبہ نہ رہا اور آفتاب نیمروز کی طرح روشن ہو گیا کہ احمد بیگ کا داماد ضرور میرے سامنے مرے گا، ان مکرر الہاموں اور یقینی شرح بیانوں سے یہ امر بھی بخوبی ظاہر ہو گیا کہ جس طرح مرزا قادیانی کو اپنے مجدد اور مسیح اور نبی ہونے کا یقینی الہام ہوا تھا یہ الہام بھی یقین اور وضوح میں اس سے کم نہیں ہے بلکہ الہام کی یہ شرح تو اس کی مقتضی ہے کہ مسیحی الہام سے یہ الہام زیادہ واضح اور یقینی ہے کیونکہ ان الہاموں کی ایسی تعریف کہیں دیکھی نہیں گئی۔ اس کا نتیجہ بالضرور یہ ہے کہ جب اس الہام سے مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا تو مسیحی الہام بھی قابل اعتبار نہ رہا خوب خیال رکھئے کہ یہ محکم اور مشرح الہام جس کا بیان ابھی کیا گیا، مرزا قادیانی نے عربی اور فارسی دونوں میں لکھا ہے، مگر صرف ان کی فارسی نقل کرتا ہوں۔

دوسرا اقرار

”بیان ان این است خدا تعالیٰ مراد بارہ قبیلہ من مخاطب کرد و گفت کہ ایں مردم کذب آیات من

ہستہ و بدانہا استہزائی کنند پس من ایساں رانشانے خواہم نمود۔ ویرائے تو ایں ہمہ را کفایت خواہم شد و آن زن را کہ زن احمد بیگ را دختر است باز بسوئے تو واپس خواہم آورد یعنی چونکہ اواز قبیلہ باعث نکاح اجنبی بیروں شدہ باز بتقریب نکاح تو بسوئے قبیلہ رد کردہ خواہد شد در کلمات خدا وعدہ ہائے او یکسکس تبدیل نتواند کرد و خدائے تو ہرچہ خواہد آں امر بہر حال شدنی است ممکن نیست کہ در معرض التوا بماند پس خدائے تعالیٰ بہ لفظ **فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ** سوئے ایں امر اشارہ کرد کہ او دختر احمد بیگ را بعد میرانیدن مانعان بسوئے من واپس خواہد کرد و اصل مقصود میرانیدن بود۔ تو میدانے کہ ملاک ایں امر میرانیدن ست و پس۔“ (انعام آتھم ص ۲۱۶-۲۱۷ خزائن ج ۱ ص ۲۱۶-۲۱۷)

مطلب..... مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کنبہ کے باب میں فرمایا کہ یہ لوگ میرے نشانوں کے منکر ہیں اور انہیں ہنسی اور مذاق میں اڑاتے ہیں ان کو میں ایک معجزہ دکھاؤں گا (اور وہ معجزہ یہ ہے) کہ احمد بیگ کی لڑکی کو تیرے پاس واپس لاؤں گا یعنی اس لڑکی کا نکاح ایک اجنبی غیر کفو سے ہو گیا ہے، اس لئے وہ اپنے قبیلہ سے خارج ہو گئی ہے مگر تیرے نکاح میں آنے سے پھر اپنے قبیلہ میں آجائے گی خدا کی باتوں اور اس کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے کسی طرح ملتوی نہیں رہ سکتا، (اس لڑکی کا مرزا کے نکاح میں آنا خدائے تعالیٰ کی انہیں باتوں میں ہے جو کسی وقت ملتوی نہیں ہو سکتیں) اللہ تعالیٰ کے الہام میں لفظ **فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ** اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ احمد بیگ کی لڑکی کے نکاح میں آنے کے جو مانع ہیں اور روک رہے ہیں انہیں مار کر اس لڑکی کو میرے نکاح میں لائے گا اور اس مقصود خداوندی ان مانعوں کا مار ڈالنا ہے۔“)

اس قول سے پانچ باتیں ثابت ہوئیں (۱) اللہ تعالیٰ مرزا قادیانی کے کنبے کے لوگوں کو نشان یعنی ایک خاص معجزہ دکھانے کا وعدہ کرتا ہے (۲) وہ معجزہ یہ ہے کہ احمد بیگ کی لڑکی کا نکاح جو غیر کفو میں ہو گیا ہے اس کا شوہر مرے گا اور وہ لڑکی مرزا قادیانی کے نکاح کے ذریعے سے اپنے قبیلہ میں آئے گی یہ دو وعدہ الہی ہیں۔ ایک یہ کہ احمد بیگ کا داماد مرے گا، دوسرا یہ کہ اس کی بیوی مرزا کے نکاح میں آئے گی۔ (۳) خدا کی باتیں بدل نہیں سکتیں (۴) اس لڑکی کا مرزا قادیانی کے نکاح میں آنا خدا تعالیٰ کی ان باتوں میں ہے جس کی نسبت مرزا قادیانی یا ان کا الہام یہ کہتا ہے کہ بہر حال شدنی است ممکن نیست کہ در معرض التوا بماند۔“ (۵) اصل مقصود خداوندی، احمد بیگ کے داماد وغیرہ کا مار ڈالنا ہے، ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ اور اس کی مشیت یہ ہو چکی

ہے کہ اس لڑکی کا شوہر مرے گا اور وہ لڑکی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی یہ امر کسی طرح ملتوی نہیں ہو سکتا یعنی مذکورہ دونوں وعدے پورے ضرور ہوں گے اور نکاح میں آنا کیا معنی بلکہ نکاح میں آ چکی ہے کیونکہ بقول مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ نے اس کا نکاح آسمان پر کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا لقب منکوہ آسمانی دنیا میں مشہور ہو گیا۔

اب خیال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے نکاح میں لانے کا پختہ وعدہ کیا پھر اس کے ظہور کی پختگی کیلئے آسمان پر نکاح بھی خود پڑھا دیا۔ اس لئے اس کا ظاہر ہونا ہر حالت میں ضرور ہے۔ کسی وجہ سے یہ ملتوی نہیں ہو سکتا، اس کو نہ کوئی شرط روک سکتی ہے اور نہ کسی کا رونا دھونا اسے ملتوی کر سکتا ہے، اگر ایسا پختہ وعدہ بھی پورا نہ ہو تو اس کے کسی وعدہ پر اطمینان نہ رہے گا اور اس کے نبی کی نبوت اور اس کا تمام کلام بیکار ہو جائے گا، کسی پر اعتماد نہ رہے گا۔ اب مرزا قادیانی کی خطبہ الحواس یا دفع الوقتی اور فریب دہی ملاحظہ کیجئے۔ مدت کے بعد جب وہ احمد بیگ کا داماد نہ مرا اور اس کی بیوی مرزا کے نکاح میں نہ آئی تو اس وقت ایک نے دریافت کیا کہ وہ عورت تو تمہارے نکاح میں نہ آئی اور تم جھوٹے ہوئے تو اپنے رسالہ ہقیقہ الوحی میں اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ پیشین گوئی شرطی تھی اور اس عورت نے شرط کو پورا کر دیا اس لئے وہ پوری نہ ہوئی، اب مرزائی حضرات دیکھیں کہ یہاں تو نہایت صاف طور سے کہہ رہے ہیں کہ ”بہر حال شدنی! ست ممکن نیست کہ در معرض التواہم اند“، یعنی اس نکاح کا ملتوی ہونا ممکن نہیں ہر طرح اس کا ظہور ہوگا اور ہقیقہ الوحی میں اس کے التوا کے لئے ایک جھوٹی شرط پیش کرتے ہیں یہ اعلانیہ فریب نہیں تو اور کیا ہے؟

ناظرین! اس پر خوب غور فرمائیں کہ یہاں مرزا قادیانی نے تین وعدہ الہی بیان کئے ہیں جن کا پورا ہونا وہ ضرور بیان کرتے ہیں جنہیں کوئی شے روک نہیں سکتی، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مرزا قادیانی کے کنبے کے لوگوں کو معجزہ دکھائے گا، دوسرا یہ کہ احمد بیگ کی لڑکی خاص مرزا قادیانی کے نکاح میں لائے گا۔ تیسرا وعدہ یہ کہ احمد بیگ کے داماد وغیرہ کو مرزا قادیانی کے روبرو مارے گا، اس کا مرنا مرزا قادیانی کے لئے وعدہ ہے اور اس کے لئے وعید ہے اور تیسرے وعدہ کی نسبت کہتے ہیں کہ اصل مقصود خداوندی اس وعدہ کا پورا کرنا ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کی زندگی میں احمد بیگ کے داماد کو مارنا۔ اب دنیا نے دیکھ لیا کہ ان تین وعدوں میں سے کوئی وعدہ الہی پورا نہ ہوا یہاں تک کہ جس وعدہ کا پورا ہونا عین مقصود خداوندی بتایا تھا وہ بھی پورا نہ ہوا اس لئے اس قول سے خدائے قدوس پر دو عیب مرزا قادیانی نے ایسے لگائے جس سے اس کی خدائی درہم برہم ہو گئی۔ کیونکہ یہ وہ

وعدے ہیں جو اس نے نہایت پختگی سے بار بار مرزا قادیانی سے کئے ہیں اور ایسے پختہ وعدوں کو اس نے پورا نہ کیا، اس لئے اس کے تمام وعدے جو شریعت محمدیہ میں اس نے کئے ہیں وہ سب بیکار ہو گئے، ان میں کوئی وعدہ قابل وثوق نہیں رہا، تیسرے وعدے کے پورا نہ ہونے سے وعدہ خلافی کے علاوہ اس کا عاجز ہونا بھی ثابت ہوا، کیونکہ مرزا قادیانی کے قول کے بموجب وہ اپنے اصلی مقصود کو پورا نہ کر سکا اور احمد بیگ کے داماد کو نہ مار سکا اور اپنے اور اپنے رسول کے قول کو جھوٹا اور دنیا کے نزدیک غیر معتبر ٹھہرا دیا اور پورے طور سے دہریوں کی تائید کی۔ اے مرزا نیو! اس اعتراض کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں یہ پرانے اعتراض نہیں ہیں بلکہ نئے ہیں اور اس طرح کے ہیں کہ ان سے آپ کے پرانے جوابات ردی ہو گئے اور آپ کے مرشد اپنے اقراروں سے یقیناً مفتری اور دہریوں کے موید بلکہ پوشیدہ دہریہ ثابت ہوئے اس کے بعد ص ۲۲۲ تک وہ میعاد جھوٹی پیشین گوئی کے متعلق اپنی سلطان القلمی دکھائی ہے اور خوب جھوٹی باتیں بنا کر یہ دکھایا ہے کہ وہ پیشین گوئی اس وجہ سے ملتی ہو گئی یعنی احمد بیگ کا داماد اس وقت تک نہیں مرا مگر اب ص ۲۲۳ میں اس کے مرنے کے لئے پھر پیشین گوئی کرتے ہیں۔

### تیسرا الہامی اقرار

جس سے قدرت خدا نظر آتی ہے کہ ایسے چالاک اور ہوشیار مدعی کو اس کے نہایت صاف اور مستحکم اور قسیمیہ اقرار سے دنیا کو جھوٹا دکھا کر اپنی قدرت کا نمونہ معائنہ کرایا ہے۔ طالبین حق ملاحظہ کریں کہ ایک پیشین گوئی ہے۔ داماد احمد بیگ کی اب اس کی صداقت اور اپنے اعتماؤ کا اظہار متعدد زبانوں اور مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے یہ دوسرا طریقہ ہے یہاں اپنی قابلیت کے اظہار میں عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں اپنا مدعا بیان کیا ہے مگر عربی میں زیادہ زور ہے اور ان کا مدعا بھی عربی زبان میں زیادہ واضح ہوتا ہے اس لئے میں ان کی عربی عبارت نقل کر کے اس کا مطلب لکھتا ہوں۔

”لَمْ مَافَلْتُ لَكُمْ اَنْ الْقَضِيَّةَ عَلٰى هٰذَا الْقَدْرِ تَمَّتْ وَالنَتِيْجَةُ الْاٰخِرَةُ هِيَ الَّتِي ظَهَرَتْ وَحَقِيْقَةُ النَّبَاِ عَلَيْهَا خَتَمَتْ بَلْ الْاَمْرُ قَائِمٌ عَلٰى حَالِهِ“

(انجام آتھم ص ۲۲۳ خزائن ج ۱۱ ص ۲۲۳)

مطلب..... (میں پھر تم سے کہتا ہوں کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ اس پیشین گوئی کی حالت اسی پر ختم ہو گئی۔) یعنی مذکورہ وجوہات سے احمد بیگ کا داماد نہیں مرا اور اب وہ ہمارے حیات میں





میں سب سے زیادہ تاکید جملہ وہ ہے جس میں مرزا قادیانی نے اس خبر کے سچ ہونے پر قسم کھائی ہے اور قسم بھی بڑے زوروں کی ہے جس میں انہوں نے اپنی ذہانت سے ایک لطیف اشارہ رکھا ہے وہ یہ کہ قسم کھانے والا اس خدائے عالی ذات کا بندہ ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ جیسے عالی صفات پیغمبر بنا کر بھیجے اور اسی عالی مرتبہ نبی کا ارشاد ہے کہ مسلمان یعنی میرا امتی جھوٹ نہیں بولتا پھر جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے؟ اس طرح قسم کھانے کی یہ وجہ ہے کہ اہل علم اس قسم پر کامل وثوق کریں، آخری جملہ میں ان کا یہ کہنا کہ میں نے وہی کہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے۔ اپنی صداقت کے اظہار کی تاکید ہے کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ پیشین گوئی بغیر خدا کے خبر دیئے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور کسی کے مرنے کی خبر دینا پیشین گوئی ہے۔ اس لئے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ خدا سے خبر پا کر یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں مگر مرزا قادیانی تو سلطان القلم ہیں اپنے اظہار صداقت کو انتہا مرتبہ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ مخاطب کے دل میں کمال مرتبہ وثوق بیٹھ جائے مگر یہاں خدا کی قدرت نمائی قابل ملاحظہ ہے ان کی سلطان القلمی اور اظہار قابلیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دربار اسلام میں اپنے نہایت محکم بیان اور پختہ قسم سے جھوٹے ہوئے اور اپنے مقرر کردہ معیار سے کاذب اور مفتری علی اللہ ثابت ہوئے۔ ”الحمد لله علی احسانه“ اس نے اپنی بہت مخلوق پر رحم فرمایا کہ واقعی کذاب کے کذب کو اسی کے قسمیہ اقرار سے دنیا پر آشکارا کر کے ہر ایک پر اپنی حجت تمام کر دی جس کے مرنے کی نسبت اس قدر وثوق ظاہر کیا گیا اور بار بار مختلف عنوان سے اسے بیان کر کے اس پر وثوق دلایا گیا، مگر ان کے اس تمام اہتمام نے ان کے کذب کو خوب روشن کر دیا وہ احمد بیگ کا داماد جس کے جلد مرنے کی نسبت یہ زور دار بیان ہو رہا ہے اور اس پر قسم کھائی جاتی ہے وہ اب تک موجود ہے اور مرزا قادیانی کی ہڈیاں بھی قبر میں سڑ کر خاک میں مل گئی ہوں گی اور ان کی روح پر خدا جانے کس طرح کا عذاب ہو رہا ہوگا۔ جس کا جی چاہے قبر کھول کر دیکھ لے۔ اے حضرات مرزا نیو اس کا کچھ جواب ہو سکتا ہے۔ اے قادیانی اور لاہوری مرزا نیو! یہ تو بتاؤ کہ ۱۹۰۸ء میں احمد بیگ کا داماد مر کر بہشتی مقبرے میں دفن ہوا؟ یا مرزا قادیانی آپ کے مرشد اپنی پیشین گوئی کو نہایت حسرت سے جھوٹی دیکھتے ہوئے اپنے دشمن کے روبرو دنیا سے گذر گئے اور اپنے مقرر کردہ معیار سے دنیا کے روبرو جھوٹے ثابت ہوئے۔ خدا کے لئے یہ بتا دو کہ اب تمہیں ان کے جھوٹے ماننے میں کیا عذر ہے؟ اب تو ان کے اقرار سے ان کے تمام نشانات جھوٹے ہو گئے ان کے تمام دعوے جھوٹے نکلے۔ جیسے امت محمدیہ کے دوسرے جھوٹے مدعیوں کے۔ کہو میاں حیدر آبادی جنرل



پیشین کوئی شرطی تھی یا غیر شرطی مگر یہ وعید ہر طرح پوری ہوگی، مگر اب تو آفتاب نیمروز کی طرح ظاہر ہو گیا کہ احمد بیگ کا داماد نہیں مرا اور مرزا قادیانی کو مرے ہوئے برسوں گزر گئیں اور وہ اب تک زندہ موجود ہے اس لئے مرزا قادیانی اپنے پختہ اقراروں اور اپنے الہام سے جھوٹے ثابت ہوئے اور انہوں نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ کا الزام لگایا۔

### پانچواں اقرار

دوسرا الہام دہلی میں شادی ہونے سے پہلے کا وہ یہ ہے کہ ”بَکْرُو وَتَبْتُ“ یعنی مقدر یوں ہے کہ ایک بکر سے شادی ہوگی، اور پھر بعد اے ایک بیوہ سے۔

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۱۴ خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۸ ط ۱۶)

مرزا قادیانی کو کیسے کیسے الہام ہوتے ہیں جیسے بقول مشہور ملی کو خواب میں بھی چمچہڑے نظر آتے ہیں اور ایسے جملے القا ہوتے ہیں کہ بقول المعنی فی بطن الشاعر سوائے مرزا قادیانی کے کوئی انہیں سمجھ نہیں سکتا۔ اس الہام کو ملاحظہ کر لیجئے۔ یہ الہام اور اس کا مطلب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ جہاں کرسی پر بیٹھ کر میں نے اس کو الہام سنایا تھا اور احمد بیگ کے قصہ کا ابھی نام و نشان نہ تھا اور نہ ابھی اس دوسری شادی کا کچھ ذکر تھا۔ پس اگر وہ سمجھے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ (الہام) خدا کا نشان تھا جس کا ایک حصہ اس نے دیکھ لیا (یعنی دہلی میں کنواری لڑکی سے شادی ہوگئی) اور دوسرا حصہ جو تَبْتُ یعنی بیوہ کے متعلق ہے دوسرے وقت میں دیکھ لے گا۔

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۱۴ خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۸)

یعنی احمد بیگ کی لڑکی بیوہ ہوگی، اس کا داماد مرے گا اور اس کی بیوی یتیمہ سے میرا نکاح ہوگا اور اس الہام کا دوسرا حصہ پورا ہوتے شیخ محمد حسین بٹالوی دیکھ لے گا۔ اب ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ پہلے حصہ کی نسبت ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوا مگر دوسرے حصہ کی نسبت تو آسانی فیصلہ ہو گیا کہ اس ناظرین نہیں ہوا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ احمد بیگ کی لڑکی بیوہ نہیں ہوئی، یعنی احمد بیگ کا داماد نہیں مرا اور اس کی بیوی یتیمہ جسے منکوحہ آسانی کا خطاب ہو چکا تھا، مرزا قادیانی کے بیان کے بموجب اللہ تعالیٰ نے اس کا نکاح مرزا قادیانی سے پڑھا دیا تھا مگر وہ فرضی منکوحہ مرزا قادیانی کے نکاح میں کسی وقت نہ آئی اور اس سے صرف مرزا قادیانی ہی جھوٹے نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے خدا پر بخت عیب لگایا کہ اسے آئندہ کی حالت معلوم نہ ہوئی اور ایک عبث فعل آسمان پر کر کے مرزا قادیانی کو رسوا کیا اس کے بعد بعض اور جھوٹے نشانات بیان کر کے داماد احمد بیگ کی پیشین

گوئی پورا نہ ہونے کی وجہ میں باتیں بنائی ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ احمد بیک کے مرجانے سے چونکہ اس کو بہت خوف اور غم ہوا اور اس نے توبہ کی اس لئے اس کی موت میں تاخیر ہو گئی مگر اس کا پورا ہونا ضرور ہے یہ محض غلط ہے اس کا جھوٹا ہونا دکھا دیا گیا پھر ص ۵۳ میں مذکورہ پیشین گوئی کے ظہور پر کمال وثوق و اعتبار نہایت شائستہ اور مہذب الفاظ سے بیان کرتے ہیں، اور اپنی تہذیب اور جمالی ظہور کا معائنہ کراتے ہیں۔ (مرزا محمود کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد وہی جناب رسول اللہ ﷺ ہیں، یعنی حضور انور ﷺ نے دوسرا جنم لیا ہے مگر پہلا ظہور جلالی تھا اور مرزائی جنم میں جمالی ہے یعنی کسی قسم کی سختی نہیں ہے مگر ان کے اس قول کو دیکھا جائے کہ مسلمانوں کی سچی بات کہنے پر کس قدر سخت کلامی کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ جلال تو ان کے اختیار میں نہیں تھا۔) ملاحظہ ہو۔

چھٹا اقرار اور نہایت معتمد قول

مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ ”بھلا جس وقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی۔ (یعنی احمد بیک کا داماد مر جائے گا اور اس کی بیوی میرے نکاح میں آ جائے گی) تو کیا اس دن یہ احمق مخالف جیتے ہی رہیں گے؟ اور کیا اس دن یہ تمام لڑنے والے سچائی کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے؟ ان بے وقوفوں کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی، اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منخوس چہروں کو بندروں اور سڑکوں کی طرح کر دیں گے۔“

(ضمیمہ انجام آقہ ص ۵۳ خزائن ج ۱ ص ۳۳۷)

سُبْحَانَ اللہ! کیا تہذیب اور شائستگی ہے انہیں کو حضرت رحمۃ اللعالمین کا ظل اور دوسرا جنم اور جمالی ظہور کہا جاتا ہے اور حضور کو جلالی مظہر، اب کوئی ان دل کے اندھوں سے دریافت کرے حضور انور ﷺ کو مخالفین نے کیسی کیسی تکلیفیں دی ہیں، مگر کسی وقت کسی قسم کے سخت الفاظ آپ نے نکالے ہیں؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں، بلکہ اس نازک وقت میں جس وقت جان لینے کے واسطے مخالفین حملہ کر رہے تھے اس وقت حضور انور ﷺ نے یہ فرمایا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت کر یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہ ناواقفی سے میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ کہنا ہے کہ مرزا قادیانی نے جو صفات اپنے مخالفوں کیلئے تجویز کیں تھیں وہ اس وقت کیلئے کیں تھیں جس وقت ان کی وہ پیشین گوئیاں پوری ہو جائیں گی یعنی منکوحہ آسمانی ان کی آغوش میں آ جائے گی، اور اس کا شوہر مر جائے گا، جس کے لئے وہ قسمیہ اقرار کر چکے ہیں، مگر اب تو قدرت خدا نے آفتاب کی طرح روشن کر دیا کہ مرزا قادیانی کی ان دونوں مرادوں سے ایک بھی

پوری نہ ہوئی اور دم والہیں تک اپنی نامرادی پر کف افسوس ملتے ہوئے جان دی، واے برنا کای ایشاں، اب کہنا یہ ہے کہ جب یہ دونوں پیشین گوئیاں پوری نہ ہوئیں تو اب انصاف سے فرمایا جائے کہ مرزا قادیانی کے مذکورہ ارشادات کا مستحق خود جناب والا اور ان کے موافقین ہوئے یا نہیں؟ ضرور ہوئے، کیونکہ کلام خداوندی نے انہیں مستحق بتایا، ارشاد نبوی نے انہیں جھوٹا اور کذاب کہہ کر انہیں ان صفات کا مورد قرار دیا، پھر جب مدعی نبوت کی ایسی مستحکم پیشین گوئیاں جھوٹی ہو گئیں تو اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ سچائی کی تلوار نے اس مدعی کو اور اس کے ماننے والوں کو گلے لگڑے کر دیا؟ (اس میں کسی کو کیا تاثر ہو سکتا ہے، جسے خدا اور رسول نے جھوٹا اور کذاب قرار دیا ہو، اس کی صورت مسخ ہونے میں کسی کو تاثر ہو سکتا ہے۔ مفتری کی سزا موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے اس لئے ان کی قبر کو کھول کر ان کی صورت کو دیکھا جائے اور صورت مسخ ہونے کا معائنہ کیا جائے، جس نے مسیح و مہدی ہونے کا دعویٰ کر کے چالیس کروڑ امت محمدیہ پر کفر کا فتویٰ دے دیا ہو اور کسی کافر کو سچا مسلمان نہ بنایا ہو اس کے جھوٹے ہونے میں کسی کو تاثر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں پھر یہ قلم و ستم اس مدعی تک محدود نہیں رہا۔ بلکہ اس کے ایک خلیفہ گزر گئے، اب دوسرے خلیفہ کی باری ہے مگر ان کا تمام زور و شور مسلمانوں ہی کے تباہ کرنے پر ہے کسی کافر پر ہاتھ صاف نہیں کیا جاتا، ہندوستان میں کثرت سے ہنود، آریہ، عیسائی وغیرہ ہیں۔ ان کا کوئی مبلغ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اتنے ہندو اور عیسائیوں کو قادیانی بنایا؟ ہرگز نہیں، جناب رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ ثانی نے اسلام کو کس قدر ترقی دی تھی، ذرا تاریخ اٹھا کو دیکھو کہ کس طرح یہود و نصاریٰ وغیرہ کفار کو مسلمان بنایا تھا) قول مذکور کے بعد آخر میں لکھتے ہیں۔ ”خدا کے الہام میں جو توہی توہی ان البلاء علیٰ عقبک ۱۸۸۶ء میں ہوا تھا، اس میں صریح شرط توبہ کی موجود تھی اور الہام کلبہو ہا بیتا اس شرط کی طرف ایماء کر رہا تھا پس جبکہ بغیر کسی شرط کے یونس کے قوم کا عذاب نازل کیا تو شرعی پیشین گوئی میں ایسے خوف کے وقت میں کیوں تاخیر ظہور میں نہ آتی۔“

(ضمیمہ انجام آختم ص ۵۳-۵۴ خزائن ج ۱۱ ص ۳۷۷)

اس عبارت سے نہایت روشن ہو گیا کہ پیشین گوئی کے شرعی ہونے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس کے ظہور میں تاخیر ہو گئی، یعنی احمد بیگ کا داماد ڈھائی برس کے اندر نہ مرا، اس کے دو سطر بعد نہایت زور سے یہ کہتے ہیں کہ انجام کار اس پیشین گوئی کا ظہور ضرور ہو گا۔ اس کا شرعی ہونا اس کے ظہور کو روک نہیں سکتا، وہ قول ملاحظہ ہو بقلم جلی لکھتے ہیں۔

## ساتواں اقرار اور نہایت فیصلہ کن مقولہ

”یاد رکھو کہ اس پیشین گوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی (یعنی احمد بیگ کا داماد نہ مرا) تو (۱) میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا، اے احقویہ انسان کا افتراء نہیں یہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں، یقیناً سمجھو کہ (۲) یہ خدا کا سچا وعدہ ہے (۳) وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملتیں، (۴) وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔

(ضمیمہ انجام آتھم ۵۴ خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۸ سطر ۶ سے ۸ تک)

اس ساتویں اقرار میں مرزا قادیانی چھ باتیں کہتے ہیں (۱) یہ کہ اگر احمد بیگ کا داماد نہ مرا تو میں بدترین خلاق ثابت ہوں گا یعنی مجھ سے بدتر دنیا میں کوئی نہ ہوگا (۲) یہ کہ یہ پیشین گوئی میرا افتراء نہیں ہے بلکہ الہام ربانی ہے (۳) دوسرے عنوان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ قول کسی خبیث مفتری کا نہیں ہے (۴) اس قول کو خدا کا سچا وعدہ کہتے ہیں خدا نے دکھا دیا کہ یہ خدا کا وعدہ نہیں ہے بلکہ بالیقین خدا پر افتراء ہے۔ (۵) اپنی پیشگوئی کو اس خدائے تعالیٰ کی باتوں میں بتاتے ہیں جس کی باتیں نہیں ملتیں (۶) یہ کہ اپنی بات کو اس قادر مطلب کے ارادوں میں شمار کرتے ہیں، جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا، حالانکہ یہ دونوں باتیں بھی محض غلط ہیں کیونکہ یہ پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی اور احمد بیگ کا داماد مرزا قادیانی کے سامنے نہ مرا اس لئے اس پیشین گوئی میں مرزا قادیانی کے پانچ جھوٹ ثابت ہوئے اور ایک قول پہلا وہ سچا ثابت ہوا مگر وہ سچا قول ایسا ہے جس نے جھوٹوں کا سرگردہ انہیں قرار دیا کیونکہ ہر بد سے بدتر بالضرور جھوٹوں کا سرگردہ ہوگا۔ اب اس پر غور کرنا چاہئے کہ مرزا قادیانی اپنے جھوٹے دعوؤں پر کس قدر اپنا وثوق اور اعتماد ظاہر کرتے ہیں ایک طریقے سے نہیں چار طریقوں سے اس کے ظہور پر وثوق بیان کیا ہے پہلے یہ کہا کہ اگر احمد بیگ کے داماد کے متعلق پیشین گوئی پوری نہ ہو، یعنی وہ میرے سامنے نہ مرے تو میں ہر بد سے بدتر ٹھہروں گا یعنی بدترین خلاق ہوں گا مجھ سے بدتر دنیا میں کوئی انسان نہ ہوگا۔ اب خوب خیال کیا جائے کہ اگر یہ پیشین گوئی پوری نہ ہو تو مرزا قادیانی اپنے اس اقرار سے بالیقین اس قول کے مصداق ٹھہریں گے کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ان کے قول کے بموجب انہیں بد سے بدتر نہ کہا جائے کیونکہ جب دنیا نے دیکھ لیا کہ احمد بیگ کا داماد نہیں مرا اور برسیں گزر گئیں۔ مرزا قادیانی تو قبر میں عذاب اٹھاتے ہوئے اور وہ خود زندہ رہ کر مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کا معائنہ کراتا رہا یہاں تک کہ پہلے خلیفہ کو بھی قبر میں ڈال کر دوسرے خلیفہ کی تاک میں ہے۔ اب مرزا محمود قادیانی اپنے

باپ کے آغوش میں جائیں یا نہ جائیں مرزا قادیانی کی حالت معلوم ہوگئی۔

دوسرے! یہ کہ اس کے مرنے کو یقینی خدائی دعویٰ کہتے ہیں۔ پھر یہ معمولی وعدہ نہیں ہے جو مرزا قادیانی کے نزدیک کبھی جھوٹا بھی ہو جاتا ہے اور ”یَعِدُ وَلَا يُؤْفِی“ کا مصداق ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے بلکہ مرزا قادیانی اسے خدا کا سچا وعدہ کہتے ہیں وہ ضرور پورا ہوگا۔ تیسرے! یہ کہ اسے خدا کا سچا وعدہ کہتے ہیں وہ ضرور پورا ہوگا۔ چوتھے! یہ کہ اسے خدا کا وعدہ بیان کر کے اس کی یہ صفت بیان کرتے ہیں کہ اس کی باتیں نہیں ٹلتیں جو وہ کہتا ہے وہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ سچ ہے ”مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَی“ اس کا ارشاد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری کوئی بات نہیں بدلتی جو کہہ دیا گیا وہ ضرور پورا ہوگا۔ اب چونکہ اس نے داماد احمد بیگ کی موت کا وعدہ کیا ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ میری زندگی میں وہ ضرور مرے گا۔ پانچویں! یہ کہ یہ وعدہ اس پروردگار کا ہے جو صاحب جلال ہے کسی وقت اپنے مخالفوں اور منکرین پر عظمت و جلال کی شان ظاہر کرتا ہے کس کی مجال ہے کہ اس ذوالجلال کے ارادوں کو روک سکے۔ احمد بیگ اور اس کا داماد مخالف اور منکر رہا اس لئے وہ رب ذوالجلال ان کی نسبت اپنے جلال کے اظہار کا ارادہ کر چکا ہے۔ اس ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب وہ ایمان لائی نہیں سکتا اور کوئی بات ایسی نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے پیشین گوئی پوری نہ ہو، اگر ایسا ہو تو خدا کا عالم الغیب نہ ہوتا اور سچا وعدہ کر کے پھر بھی اسے پورا نہ کرنا اور بدل جانا ثابت نہ ہوگا۔ غرضیکہ خدائی درہم و برہم ہو جائے اگر یہ پیشین گوئی پوری نہ ہو۔ اب ناظرین حق پسندان تمام اقراروں کو اور بالخصوص اس اخیر اقرار کو دیکھیں کہ وہ اپنے اقرار اور یقینی الہام کے بموجب جھوٹے اور بدترین خلائق ثابت ہوتے ہیں اور ان کا جھوٹا اور کذاب ہونا دنیا پر مثل آفتاب کے روشن ہو رہا ہے۔ اب کسی صاحب عقل و فہم کے نزدیک ایسا شخص بزرگ عالی مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو نبی اور مسیح موعود اور مہدی ماننا کسی صاحب عقل کا کام نہیں ہے۔ اب اگر مان لیا جائے کہ حضرت مسیح اسرائیلی جنہیں شریعت محمدیہ نے مسیح موعود کہا ہے مر گئے ہوں اور کوئی دوسرا عالی مرتبہ بزرگ مسیح موعود ہو تو وہ مرزا کی طرح نہیں ہو سکتے بالفعل ۲۸ دسمبر ۱۹۲۲ء کو جو خلیفہ قادیان نے اپنے خاص چیلے میاں اللہ مارا عرف اللہ دتہ سے ایک چیلنج شائع کرایا ہے جس میں انہوں نے اپنے خام خیال کے بموجب حضرت مسیح کی موت ثابت کر کے یہ سمجھے ہیں کہ مسیح قادیان کا مسیح موعود ہونا ثابت ہو گیا مگر افسوس ہے کہ خود مسیح قادیان کے اقوال نہیں دیکھتے جو اپنے پختہ اقوالوں سے بدترین خلائق ثابت ہو چکے ہیں اور اپنے اقوال سے خدا پر بہت کچھ الزامات لگا



چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب کسی مرزائی سے مرزا قادیانی کی صداقت ثابت کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ پہلے حیات و ممات کی بحث کو چھیڑتا ہے یا ختم نبوت کی بحث کو درمیان میں لاتا ہے۔ اب اس سے ہم یہی دریافت کرتے ہیں کہ اس بحث سے کیا فائدہ اگر ہم مان بھی لیں کہ حضرت مسیح مر گئے اور نبوت ختم نہیں ہوئی مگر یقینی بات ہے کہ جو اپنے کرداروں اور اپنے اقراوں سے جھوٹا کذاب مفتری ہر بد سے بدتر ثابت ہو گیا ہو وہ مسیح موعود اور نبی نہیں ہو سکتا اور ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا مرنے والے جھوٹے کذاب کو سچا نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح میں عام گروہ مرزائیہ سے اور بالخصوص میاں اللہ دتہ سے عرض کرتا ہوں کہ جن کے قولوں پر آپ ایمان لا چکے ہیں اور ان کو مسیح موعود مان چکے ہیں انہیں کے الہامی اقوال کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان کو ملاحظہ کیجئے کہ ان کی صداقت پر اور ان کے الہامی ہونے پر مرزا قادیانی کو کس قدر وثوق ہے۔ ان کو آپ نہ مانیں گے۔ آپ اپنی فہم و عقل کو کیوں برباد کرتے ہیں اور ایسے اقراری جھوٹے کو جھوٹا نہیں مانتے اور اعلانیہ طور سے مسئلہ کذاب ثانی کو مان کر جہنم میں جانا پسند کر رہے ہیں۔ میں مختصراً مکرر عرض کرتا ہوں غور سے ملاحظہ کیجئے کہ مرزا قادیانی کس زور و شور و یقین سے داماد احمد بیگ کے مرنے کو اپنی زندگی میں بیان کر رہے ہیں اور اسے وعدہ خداوندی کہہ کر اسے یقینی الہام بتا رہے ہیں مگر غضب یہ ہے کہ بایں ہمہ یہ سب جھوٹ کا طومار لکھا اور احمد بیگ کا داماد ان کی زندگی میں ان کے سینہ پر مونگ دلتا رہا اور انہیں مرے ہوئے رسول گذر گئے اور وہ زندہ موجود رہ کر ان کی روح کرتڑپا رہا ہے۔ اے مرزائی حضرات! اب انہیں بدترین خلاق ماننے میں تمہیں کیا عذر ہے؟ کچھ تو کہو، اے حق کے دشمنو اس قول نے ان کے سارے عموؤں کو جھوٹا ثابت کر کے انہیں ہر بد سے بدتر ثابت کر دیا۔ وہ کون دعوئی ہے جس پر انہوں نے اس سے زیادہ اپنا وثوق ظاہر کیا ہو اور بالفرض اگر کیا بھی ہو تو جب اس قدر مؤکد اور مکرر اقرار جھوٹا ہو گیا اور اپنے مکرر اقراروں سے وہ جھوٹے ثابت ہوئے تو اب کسی المل حق، صاحب عقل کے نزدیک کسی طرح وہ سچے نہیں ہو سکتے، اب اگر کوئی بے ایمان ان کی مجبوری اور معذوری بیان کر کے خدا پر جھوٹ بولنے اور فریب دینے کا اقرار کرے تو اس نے خدائی پلٹ دی، دہریہ ہو گیا، جب اس کا خدا ان صفات کا ہے تو اس کے رسول کیا چیز ہوں گے۔ وہ جھوٹوں اور فریبوں کے رسول ہوں گے اور انہیں جھوٹ کی تعلیم دیں گے اور اپنے ہمراہ جہنم میں انہیں لے جائیں گے، کلکتہ کے مرزائی ایسے بدترین خلاق کے ماننے پر ترقی کا مدار بتاتے ہیں۔ کیسا فریب نکالا ہے، خیال کیا جائے کہ جس نے دنیا کے

چالیس کروڑ مسلمانوں کو کافر ٹھہرا کر دنیا کو اسلام سے گویا خالی کر دیا ہو، اور گروہ کفار میں کروڑوں کی ترقی دے دی ہو، اس سے اسلام کو ترقی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں جو اپنے اقرار سے ہر بد سے بدتر بالیقین ثابت ہو گیا ہو، اسے ترقی اور نجات کا سبب بنانا اپنے کو مسلوب العقل ثابت کرنا یا دنیا کو اعلانیہ فریب دینا ہے۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ مرزا اپنے اقرار کے بموجب بدترین خلائق شخص تھا مرزائیوں کا یہ کہنا کہ ہمارے گروہ کو بہت کچھ ترقی ہو رہی ہے، جھوٹی تقی کے علاوہ یہ ان کے فخر کی بات نہیں ہے، آریوں کو بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے۔ ہزاروں مسلمان آریہ ہو گئے، کئی مولوی آریہ ہو گئے ضلع فرخ آباد میں وہ تبلیغ کرتے ہیں، پادریوں کی دس سالہ رپورٹ دیکھو، ہزاروں کیا لاکھوں کی تعداد ہر دس برس میں عیسائی ہو جاتے ہیں۔ یہ کوشش وسعی اور روپیہ صرف کرنے کا نتیجہ ہے۔ (عیسائی کروڑوں صرف کرتے ہیں اس کا نتیجہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں مرزائی اس قدر نہیں صرف کرتے اس لئے اس مرتبہ کو نہیں پہنچتے ہزاروں صرف کرتے ہیں اس لئے اسی قدر اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں) گروہ بابی نے تو یورپ اور امریکہ میں ترقی کی ہے اور کثرت سے انگریز اور بڑی بڑی میسین بابی ہو گئی ہیں۔ غرضیکہ نصاریٰ کو انہوں نے اپنے طور کا مسلمان بنایا ہے۔ مرزا قادیانی نے اور ان کے گروہ نے تو کسی جماعت کفار کو اپنا مسلمان بھی نہیں بنایا مسلمانوں کو ہی کافر بنایا اور بناتے ہیں، غرضیکہ ہر طرف سے کفر کی ترقی ہے۔ مسلمانوں کو دین کا خیال نہیں دین کی تائید اور گمراہی کے مٹانے کو جھگڑا سمجھتے ہیں، کسی طرح مدد کرنا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قیامت قریب ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ اشرار ناس پر قیامت آئے گی یعنی جب تمام دنیا میں شر و فساد اور کفر و کفریات پھیل جائیگا۔ اس وقت قیامت آئے گی، مرزائیوں کو دیکھنا چاہئے کہ کس طرح سے انہیں گفتگو میں عاجز کیا گیا ہے، لا جواب رسالے مرزا کے دجل و فریب میں لکھ کر شائع کئے گئے۔ ان کے پاس بھجوائے گئے، جواب سے عاجز ہیں، مگر دلوں پر تو ان کی مہر ہو گئی ہے اور گمراہ کرنے والے اپنے پیٹ بھرنے کے لئے انہیں حقانی رسائل دیکھنے سے روک دیا ہے۔ پھر وہ ایمان کیسے لائیں مگر ہم خیر خواہی سے باز نہ رہیں گے۔ مرزا قادیانی کا جھوٹا اور ہر بد سے بدتر ہونا تو ان کے اقراروں سے ثابت کر دیا گیا۔ اب مرزا قادیانی کے دہریہ ہونے کا ثبوت ملاحظہ ہو۔

### مرزا قادیانی کے دہریہ ہونے کا ثبوت

ناظرین! آپ نے مرزا قادیانی کا اقراری دہشتی جھوٹا ہونا تو معلوم کر لیا اب میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی معلوم کر لیں کہ مرزا قادیانی صرف جھوٹے ہی نہیں ہیں، بلکہ اعلانیہ دہریہ ہیں۔

خدا اور رسول کو نہیں مانتے، ان کی متعدد تحریروں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو ہن انبیاء میں ان کی ایک عبارت نقل کر کے دیکھا تا ہوں، انبیاء کی تو ہن بجز منکر نبوت اور دہریہ کے کوئی نہیں کر سکتا، مگر مرزا قادیانی نے اعلانیہ طور سے بہت زور و شور سے مسیح علیہ السلام کی تو ہن کی ہے۔ جن کی تعریف قرآن مجید میں بہت جگہ آئی ہے اور انہیں سچائی فرمایا ہے اور ان کے معجزات بیان کئے ہیں، مگر مرزا قادیانی اپنے رسالہ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۶۷، خزائن، ج ۱۱ ص ۲۹۰-۲۹۱ حاشیہ) میں انہیں حضرت مسیح کی نسبت لکھتے ہیں ”مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا (یعنی حضرت مسیح سے جن کو یسوع بھی کہتے ہیں..... دیکھا جائے کہ مرزا قادیانی یہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پرہیزگار انسان بھی نہ تھے اور نبی تو کیا ہوتے اس تو ہن کی کچھ انتہا ہے) ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کو روغیرہ کو اچھا کیا ہو یا کسی اور ایسے بیمار کا علاج کیا ہو، مگر آپ کی بد قسمتی سے اسی زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا۔ جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ خیال ہو سکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے۔ اسی تالاب سے آپ کے معجزات کی پوری پوری حقیقت کھلتی ہے اور اسی تالاب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی معجزہ بھی ظاہر ہوا ہو تو وہ معجزہ آپ کا نہیں بلکہ اس تالاب کا معجزہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں سوائے مکر اور فریب کے اور کچھ نہیں تھا، پھر افسوس کہ نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بتا رہے ہیں۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور کسی عورتیں تھیں، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا مگر شاید یہ بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔“ صحیفہ رحمانیہ نمبر ۲۱ کے صفحہ ۲۴ سے ۲۶ تک یہ عبارت مع اس کی کچھ شرح کے لکھی گئی ہے جس سے دہریت کے علاوہ ان کا جھوٹ و فریب بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اسے بھی ملاحظہ کر لیجئے گا۔

طالبین حق کو غالباً یہ شبہ ہوگا کہ مرزا قادیانی نے بہت زور و شور سے اسلام کا دعویٰ کیا ہے اور براہین احمدیہ میں اسلام کی حقانیت پر بڑی دلیل لکھی ہے۔ پھر انہیں دہریہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب غور سے ملاحظہ کیجئے اور مرزا قادیانی کے مختلف رسائل کو دیکھئے مرزا قادیانی کا اصل مقصود یہ

تھا کہ تمام دنیا کے انسان یعنی یہود، عیسائی، ہندو، مسلمان عام اور خاص تمام مذہب والے مجھے مقدس اور بزرگ مان لیں، اسی وجہ سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جن کو یہود اور نصاریٰ اور مسلمان سب مانتے ہیں اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں نبی اور رسول ہوں اور امام مہدی ہوں جن کو عام اور خاص مسلمان سب مانتے ہیں اور ہندوؤں سے یہ کہا کہ میں کرشن اوتار ہوں مگر قدرت خدا یہ ہوئی کہ کسی مذہب کے دس بیس شخصوں نے بھی انہیں نہیں مانا۔ ہمارے بھائی مسلمان ہی ان کے فریب میں آ گئے اور اب تک آرہے ہیں اور ان کے مُتَلَفَن کہیں کفار پر تبلیغ نہیں کرتے بلکہ جاہل مسلمانوں کو ہی بہکاتے پھرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب کسی مذہب والے نے انہیں نہ مانا کچھ مسلمان ہی ان کے پھندے میں آئے تو انہیں ضرور ہوا کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، دہریہ کو تو جھوٹ بولنا اور فریب دینا کوئی بات نہیں ہے اپنے مطلب کیلئے سب جائز سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے مرزا قادیانی نے اپنا یہ رنگ دکھلایا اور ان کے بیٹے مرزا محمود ہندو کا مذہب اختیار کر کے جناب رسول اللہ ﷺ کو مرزائی جنم میں آنا بیان کرتے ہیں (نعوذ باللہ) بھائیو! کیا غضب ہے کہ ایسے اعلانیہ جھوٹے دہریہ کو جناب سرور عالم محبوب کبریا کا جنم بیان کرتے ہیں۔ اب ناظرین اس کو ملاحظہ کریں کہ اس رسالہ کے صفحہ ۵ سے صفحہ ۱۲ تک ایک مطلب کے بیان میں چوکنے جھوٹ لکھے گئے ہیں۔ اب تمہیں انصاف سے کہو کوئی ایسا جھوٹا شخص مجدد یا نبی اور رسول ہو سکتا ہے۔ ضرور یہی کہو گے کہ ہرگز نہیں ہو سکتا اور اسی صفحہ ۵ سے صفحہ ۲۵ تک ان کے سات پختہ اقرار ہیں، جن سے وہ جھوٹے ہوتے ہیں اور پہلے اور ساتویں اقرار میں جو اپنی صداقت میں آٹھ دلیلیں بیان کی ہیں ان دلیلوں سے بھی خود جھوٹے ٹھہرتے ہیں، اب میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں یہ قول تو آپ ان کا دیکھ چکے ہیں، جس میں انہوں نے ایک بڑے نبی عظیم الشان کی بھوک ہے۔ جن کی عظمت و شان اور ان کا سچا ہونا قرآن شریف میں بہت جگہ آیا ہے اور جن کے متعدد معجزات بیان کئے گئے ہیں۔ انہیں یہ مکار و فریبی کہتا ہے اب میں تمام طالبین حق کی خیر خواہی کیلئے ان کی مذہبی حالت کی عام اطلاع دیتا ہوں۔

### ان کی مذہبی حالت کی عام اطلاع

معززین کلکتہ کو اس کی اطلاع نہ ہوگی کہ اس وقت میں اسلام کے لئے مرزائی فتنہ نہایت خطرناک ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو ان کا مرشد اور گمراہ کرنے والا ہے وہ درحقیقت ایک لحد ہر یہ شخص تھا، مگر نہایت ہوشیار اور چالاک تھا۔ چاہتا یہ تھا کہ ساری دنیا مجھے مانے، اسی

لئے انہوں نے یہ دعوے کئے ہیں کہ میں اس وقت کا مجدد، امام، مسیح موعود، امام مہدی، نبی، رسول ہوں، مسلمانوں اور یہود و عیسائیوں کے لئے اور ہندوؤں کے لئے کرشن ہوں اور مسلمانوں کے لئے صرف دعویٰ نبوت ہی نہیں ہے بلکہ افضل الانبیاء ہونے کا دعویٰ ہے اور تمام انبیائے کرام کی مذمت و توہین کی ہے اور ایک بڑا راز یہ ہے کہ حضرت مسیحؑ کی نہایت ہی توہین کی ہے۔ باوجود یہ کہ ان کے ماننے والے انہیں خدائی میں شریک کرنے والے دنیا کے بادشاہ ہیں، مگر مرزا قادیانی سے کسی پادری نے کچھ گرفت نہیں کی۔ آخر میں مرزا قادیانی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدائی اختیارات دے دیئے ہیں۔ البتہ دعویٰ خدائی میں کچھ دیر تھی غالباً مریدوں کا امتحان لے رہے تھے کہ انہیں اس دعوے کے قبول کرنے میں کوئی عذر تو نہ ہوگا۔ اسی حالت میں بری حالت سے ان کا انتقال ہو گیا۔ خدائے قدوس پر بھی انہوں نے شائستہ طور سے الزامات لگائے ہیں۔ کسی وقت وہ بھی دکھائے جائیں گے۔ یہ سب باتیں ان کے دہریہ ہونے کو ثابت کرتی ہیں، مگر چونکہ ان کے دعویٰ کو بجز مسلمانوں کے کسی گروہ یہودی یا عیسائی، یا ہنود نے نہیں مانا، یہ بد نصیبی مسلمانوں ہی کے حصہ میں تھی اس لئے مرزا قادیانی نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تاکہ یہ گروہ قابو میں رہے، پہلے انکا بہت شور و غل تھا اور ہر جگہ مناظرہ کے اشتہارات دیتے تھے۔ شہر منگیر و بھاگلپور میں بہت زور تھا اور بہت مسلمان ان کے فریب میں آنے والے تھے۔ حضرت مولانا سید ابوالاحمد صاحب عم فیضیہم خاموش تھے ان کی حالت سے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ بہت مسلمانوں نے آکر دریافت کیا، آپ نے ان کی کتابیں دیکھ کر مرزا قادیانی کی حالت معلوم کی اور ان کی گمراہی سے واقف ہو کر متوجہ ہوئے اور پہلے مناظرہ کرایا اور قادیان کے مخصوص اشخاص مناظرہ کیلئے آئے خدا کا شکر ہے کہ قادیانوں کو اس مناظرہ میں ایسی شکست اور ذلت ہوئی کہ کہیں نہیں ہوئی اور عام جلسہ میں بعض قادیانی بول اٹھے کہ ایسی شکست ہمیں کہیں نہیں ہوئی تھی۔ جیسی یہاں ہوئی۔ اس کی کیفیت چھپ کر مشہور ہو چکی ہے اور سرکٹری انجمن مرزائیہ کلکتہ کو بھیجی گئی ہے اس کے بعد سے اس گروہ نے تقریری مناظرہ سے انکار کیا ہے اس وقت تک حکم مقرر کرنے سے انکار نہیں کرتے تھے۔ مگر جس وقت سے فاتح قادیان مولوی ثناء اللہ صاحب کا مناظرہ قاسم علی مرزائی سے ہوا اور اس جلسہ میں ایک معزز غیر مذہب حکم مقرر ہوئے تھے اور تین سو روپیہ انعام کا غالب فریق کیلئے قرار پایا تھا، مولوی صاحب غالب ہوئے اور فاتح قادیان کا لقب پایا اور حکم کی منصفانہ رائے سے وہ روپیہ مولوی صاحب کو ملا اور مرزائی نقصان مایہ اور شامت ہمسایہ کے مصداق ہوئے۔ اس وقت سے

مرزائی حضرات کو حکم کے نام سے لرزہ آتا ہے، حالانکہ تمام دنیا اس کی شہادت دے سکتی ہے کہ فیصلہ کے لئے حاکم، یا حکم کا ہونا ضرور ہے مگر الحمد للہ مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کے ثبوت میں ہمیں کسی حکم کی بھی ضرورت نہیں ہے حاکم حقیقی نے خود مرزا کی زبان سے ان کے قلم سے اس کا فیصلہ نہایت کامل طور سے کرا دیا اور دیکھنے والوں نے دیکھ لیا اور جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھیں گے اور جن کے کان ہیں وہ دوسروں سے سن لیں گے کہ مرزا قادیانی اپنے متعدد اقراروں سے اپنی پختہ قسم سے جھوٹے ثابت ہوئے یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ صرف زبانی اور جسمانی اقرار نہیں ہے۔ بلکہ روحانی اور الہامی اقرارات ہیں ان اقراروں کا مجموعہ پہلے چھپ کر مستہر ہو چکا ہے۔ جس کا نام چشمہ ہدایت ہے اور خانقاہ رحمانیہ مونگیر سے پہلے قادیان بھیجا گیا ہے اس کے بعد کلکتہ کے مرزائیوں نے جب اپنا چیلنج بھیجا ہے اس کے جواب میں خانقاہ سے متعدد چیلنج اور رسائل پچاس کی تعداد میں بھیجے گئے ہیں ان میں رسالہ چشمہ ہدایت بھی بھیجا گیا ہے۔ اس چیلنج میں ان کے چند اقرار ہیں۔ اب حضرات مرزائیوں کو بڑا صدمہ یہ ہوگا کہ مرزا قادیانی نے صرف اپنے جھوٹے ہی ہونے پر کفایت نہیں کی بلکہ نہایت زور سے اپنے کامل وثوق و الہام سے اپنے بدترین خلاق ہونے کا اقرار کیا ہے اور اپنے تمام ماننے والوں کو عاجز و لا جواب کر دیا ہے۔ اب کسی کو جائے دم زدن نہیں رہی کلکتہ کے مرزائیوں کو چاہئے کہ مرزا محمود کو مع ان کے تمام اسٹاف کے بلائیں بلکہ دنیا بھر کے مرزائیوں کو جمع کر کے وادیل کریں اور مرزا قادیانی کی قبر پر جا کر روئیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ایسے بدترین خلاق سے علیحدہ نہ ہوئے تو یقین کر لیں اور ہم سے اسٹام پر لکھوا لیں کہ قیامت تک ان کی روح روئے گی اور پھر ہمیشہ کے لئے بدترین خلاق کے ہمراہ رہیں گے، اس سے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی اگر کچھ حوصلہ ہے تو اس چیلنج کا جواب دیجئے، مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے اور ہرگز نہیں دے سکتے اور اس کو بھی خوب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ الاسلام اور حق الیقین اور دیگر مہملات سے اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ نبوت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی مگر مرزا اس لائق نہیں کہ وہ نبی یا مجدد ہو سکے اگر اسکی تصدیق چاہتے ہو تو سامنے آؤ، مجمع عام میں اس کا فیصلہ کر لویا خاص تعلیم یافتہ حضرات کے جلسہ میں ہم ہر طرح سے تیار ہیں، میاں عبدالرحیم مرزا کی حقانی رسائل دیکھ کر کلکتہ سے بھاگے بھاگے ہوئے ہیں ابھی رسائل حقانیہ کی بوجھاڑ کی گئی انہیں دیکھ کر مدد اس بھاگے وہاں بھی متعدد رسائل بھیجے گئے مگر وہ ایسے دم بخود ہوئے کہ کوئی پتہ و نشان نہ رہا۔ آخر میں میں نہایت خیر خواہانہ کہتا ہوں کہ یہ وقت اسلام کیلئے نہایت نازک ہے اگر اس مقدس مذہب سے

پوری محبت ہے تو مستعد ہو جاؤ اور جس طرح جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنے وقت میں لسانی جہاد کئے تھے اور اپنا جان و مال اللہ کے لئے وقف کر دیا تھا۔ اسی طرح اس وقت ہر مسلمان پر بالخصوص اہل علم اور صاحب مال پر فرض ہے کہ جہاد لسانی و قلمی کریں اور صاحب مال اپنے روپے کو جنت کا ذریعہ بنائیں اور اتفاق کر کے اس کی صورتیں نکالیں ورنہ پچھتنا ہوگا۔

والہم! خیر خواہ اسلام

ابو محمود محمد اسحاق غفرلہ



حکیم العصر مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ کے ارشادات

☆..... اگر بہروپے کے طور پر بھی کسی کو نبی بنانا تھا تو نقل مطابق اصل تو ہوتی۔ شکل دیکھو، فہم دیکھو، فراست دیکھو مرزا قادیانی نبیوں کا مقابلہ کرتا ہے؟۔

☆..... ہماری غیرت کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک قادیانی بھی زندہ نہ رہے۔ پکڑ پکڑ کر خبیثوں کو مار دیں۔

☆..... عقیدہ نزول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس کا انکار کفر ہے۔ اور اس کی تاویل کرنا زلیع و ضلال اور کفر و الحاد ہے۔

## ماہنامہ لولاک

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع ہونے والا ﴿ماہنامہ لولاک﴾ جو قادیانیت کے خلاف گرانقدر جدید معلومات پر مکمل دستاویزی ثبوت ہر ماہ میا کرتا ہے۔ صفحات 64، کمپوزنگت، عمدہ کاغذ و طباعت اور رنگین ٹائٹل، ان تمام تر خوبیوں کے باوجود زر سالانہ فقط ایک صد روپیہ، مئی آرڈر بھیج کر گھر بیٹھے مطالعہ فرمائیے۔

### رابطہ کے لئے:

دفتر مرکزی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان

## ہفت روزہ ختم نبوت کراچی

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان ﴿ہفت روزہ ختم نبوت﴾ کراچی گذشتہ بیس سالوں سے تسلسل کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ اندرون و بیرون ملک تمام دینی رسائل میں ایک امتیازی شان کا حامل جریدہ ہے۔ جو مولانا مفتی محمد جمیل خان صاحب مدظلہ کی زیر نگرانی شائع ہوتا ہے۔

زر سالانہ صرف =/250 روپے

### رابطہ کے لئے:

دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مسجد باب الرحمت

پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کراچی نمبر 3



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

# چشمہ ہدایت کی صداقت اور مسیح قادیان کی واقعی حالت صحیفہ رحمانیہ

(۵۱)

خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کا عجب نمونہ دکھایا ہے کہ کس طرح مرزا قادیانی کو نہایت روشن طریقوں سے جھوٹا ثابت کر کے دکھایا گیا ہے مگر مرزائی حضرات کچھ نہیں دیکھتے اور اسی طرح کذب پرستی کر رہے ہیں جس طرح ہنود اپنی عقل کو طاق میں رکھ کر بت پرستی کرتے ہیں مگر رسالہ چشمہ ہدایت نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ مرزا قادیانی بزبان حال اپنی نسبت صائب کا یہ شعر پڑھتے ہیں۔

نمائے بہ صاحب نظرے گو ہر خود را عیسیٰ نتوان گشت بتصدیق خرے چند  
یعنی آئندہ معلوم ہوگا کہ مرزا قادیانی نے مسیح موعود کے کام اور ان کی خوبیاں بیان کر کے یہ لکھا ہے کہ میں ان کاموں کے لیے مستعد ہوا ہوں اگر میں نے یہ کام کر کے نہ دکھائے اور جو خوبیاں مسیح موعود میں ہونا چاہیں وہ مجھ میں نہ پائی گئیں تو میں جھوٹا ہوں۔ اس کا حاصل یہی ہوا کہ کسی کے مان لینے سے مسیح موعود نہیں ہو سکتا اس میں خود وہ خوبیاں ہونا چاہئیں جو مسیح موعود کے لیے مخصوص ہیں سچ ہے۔

۔ عیسیٰ نتوان گشت بتصدیق خرے چند

بہت درد مند ان اسلام اس سے واقف ہوں گے کہ اس نازک وقت میں ہمارے

پاک مذہب اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور ہر ایک گروہ اپنی گمراہی اور بددینی پھیلا کر اسلام کو مٹانا چاہتا ہے ان سب میں اس وقت بڑا دشمن ہندوستان میں مرزائی قادیانی گروہ ہے اس گروہ کی اصلاح اور اسلام کی حمایت میں خانقاہ رحمانیہ مونگیر سے بہت رسالے لکھے ہیں جن سے بہت کچھ فائدہ ہوا اور مرزائیوں کا تمام گروہ ان کے جواب سے عاجز ہے سب سے اول رسالہ اس مبارک خانقاہ سے فیصلہ آسمانی لکھا ہے اس کے تین حصے ہیں۔ پہلے حصے میں مرزا قادیانی کے نہایت عظیم الشان نشان کو ایسا پامال کر کے ان کو ایسا جھوٹا ثابت کر دیا ہے کہ ان کا شمار کسی معمولی نیک آدمیوں میں بھی نہیں ہو سکتا مجدد اور ملہم اور نبی ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ خیال کرنے کی بات ہے کہ یہ رسالہ ایک سو بارہ صفحہ کا ہے جو ۱۹۱۱ء میں دہلی میں چھپا ہے اس کے صفحہ انتالیس تک مرزا قادیانی کے بائیس جھوٹ گنائے ہیں اور بقیہ اکاذیب کو ناظرین کے شمار پر چھوڑ دیا ہے مگر اب کئی برس ہو گئے کسی پرانے اور نئے مرزائی نے اس کا جواب تک نہیں دیا اور مرزا قادیانی کو سچا ثابت نہیں کر سکے۔ دوسرے حصے میں مرزا قادیانی کے متعدد اقوال سے انہیں جھوٹا ثابت کیا ہے اس کے جواب میں عبدالمجید قادیانی نے قادیانی خلیفہ اول حکیم نور الدین کی تائید سے کچھ قلم فرسائی کی تھی ان کی ایسی خبر لی گئی کہ پھر بالکل دم بخود ہو گئے۔ ایک رسالہ اس کے جواب میں انہیں کے ایک مسلمان عزیز نے لکھا جس کا نام ”محکمات ربانی“ ہے اسے ہر ایک سمجھدار دیکھ کر مرزائیوں کی صداقت اور دیانت کا اندازہ کر سکتا ہے کہ مشہور قادیانی مربی ہو کر کیسی بددیانتیاں اور غلطیاں کی ہیں۔ دوسرا رسالہ ”انوار ایمانی“ اس کے جواب میں لکھا گیا ہے اس میں بھی ان کی غلطیاں اور بددیانتیاں دکھائی ہیں صحیفہ محمدیہ کے نمبر دس و گیارہ و بارہ میں کس قدر ان کی کذابی اور بددیانتی دکھائی ہے مگر کسی کا تو وہ جواب نہیں دے سکے

فیصلہ آسمانی کا تیسرا حصہ اب دوسری مرتبہ دہلی میں ایک سو ستر صفحوں پر چھپا ہے اس کے جواب میں بھی اب تک کسی نے قلم نہیں اٹھایا اور نہ کوئی اٹھا سکتا ہے۔ ایک رسالہ دوسری شہادت آسمانی ہے جس میں نہایت تحقیق سے مرزا قادیانی کی آسمانی شہادت کو خاک میں ملایا ہے اور مرزا قادیانی کے جھوٹ اور فریب پورے طور سے دکھائے ہیں غرض ان باتوں کا جواب کوئی نہیں دے سکا اور اب کسی کو دعویٰ ہو تو سامنے آئے اور جواب دے مگر ہم بالیقین کہتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں دے سکتا اگرچہ یہاں سے قادیان تک کے سارے قادیانی مربی جمع ہو جائیں۔ مگر حیرت ہے کہ مرزا کو نبی مان رہے ہیں ان کے علاوہ اور بہت سے رسائل لکھے گئے۔ اس سال

۳۷ء میں نہایت نادر رسالہ چشمہ ہدایت منتشر ہوا ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کے اٹھارہ اقرار نقل کیے ہیں جنہیں دیکھ کر ہر ایک ذی علم اور جاہل سے جاہل مرزا قادیانی کو جھوٹا یقین کرے گا اور علاوہ ان اقراروں کے محققانہ طور پر بھی ان کو جھوٹا ثابت کیا ہے اس وقت تک کسی مرزائی نے اس کے جواب میں دم نہیں مارا۔ مگر قادیانی چونکہ ”خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ“ کے مصداق ہو گئے ہیں اس لیے ایسے اعلانیہ جھوٹے سے علیحدہ بھی نہیں ہوتے۔ البتہ ایک ناشائستہ جدید مرزائی شکار حرم و طمع نے اسے دیکھا اور دیکھ کر تمام اصلی باتوں کے جواب سے عاجز رہ کر پانچویں اقرار کی ایک زائد اور فضول بات پر زور لگایا ہے اور اسے غلط ثابت کرنا چاہا ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ اگر اسے ہم غلط ہی مان لیں تب بھی مرزا قادیانی پر جو الزامات ہیں ان میں سے ایک الزام کا بھی جواب نہیں ہو سکتا۔ مرزا قادیانی جتنے اقراروں سے جھوٹے ثابت کئے گئے ہیں وہ بدستور قائم ہیں۔ اب اس ناشائستہ شکار سے دریافت کیا جائے کہ تیری انتیس یا تیس باتوں سے کیا نتیجہ ہوا؟

جس طرح ہم حیات و ممات کی بحث کی نسبت کہتے ہیں کہ حضرت مسیح مر گئے یا زندہ ہیں ہم کو اس سے کچھ بحث نہیں ہے۔ مرزا قادیانی ہر طرح جھوٹے ہیں حضرت مسیح زندہ ہوں یا مردہ ہو گئے۔ اسی طرح ہم یہاں بھی کہتے ہیں کہ مؤلف رسالہ ”چشمہ ہدایت“ سے بالفرض اگر کوئی غلطی ہو گئی اور ایک نہیں ایک سو غلطیاں ہو گئیں تو کیا حرج ہے؟ کیونکہ انہیں محصوم ہونے کا دعویٰ نہیں ان غلطیوں کے ہو جانے سے مرزا قادیانی بچے نہیں ہو سکتے وہ باتیں دکھاؤ جن سے مرزا قادیانی بچے ہوں، مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا تو قرآن مجید کے نصوص قطعیہ سے، احادیث صحیحہ سے، ان کے اقوال سے، ان کے اعلانیہ فریبوں سے، ان کے پختہ اقراروں سے آفتاب کی طرح روشن کر کے دکھا دیا گیا ہے، وہ رسالے جن میں یہ سب باتیں لکھی گئی ہیں دنیا میں منتشر ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ ناشائستہ شکار جدید مرزائی ان باتوں کا جواب دیں۔ اسی چشمہ ہدایت کے آخر میں دس ہزار کا چیلنج دیا گیا ہے آپ پیٹ بھرنے کے لیے مرزائی ہوئے ہیں تو وہ دس ہزار کیوں نہیں حاصل کرتے مگر کیا کریں عاجز ہیں اگر کچھ انہیں علم ہے اور تواریخ پر نظر بھی ہوگی تو اپنے دل میں جانتے ہوں گے کہ مرزا کے مثل کوئی ایسا جھوٹا نہیں گذرا جس کا اتنا جھوٹ اس کے اقراروں سے ثابت ہوا ہو۔

اب تمام ہمدردان اسلام اور بالخصوص پیردان مسیح قادیان سے التماس ہے اور ان میں خاص ایڈیٹر الفضل اور ان کے ناشائستہ شکار مضمون نگار سے عرض رسا ہوں کہ آپ بنظر غورو

انصاف ملاحظہ فرمائیں کہ جناب مؤلف چشمہ ہدایت نے اس چودھویں صدی کے مسیح کاذب کے جھوٹے ہونے کے دلائل صراحۃً اور اشارۃً کس قدر بیان فرمائے ہیں انہیں شمار کیجئے۔

### مسیح قادیان کے جھوٹے ہونے کی مقبولہ دلیلیں

جناب مؤلف چشمہ ہدایت نے صفحہ ۲ سے ۷ تک ۳۶ رسالوں کا حوالہ دیا ہے جن میں مختلف اور متعدد طریقوں سے مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا نہایت محققانہ طریقہ سے ثابت کیا گیا ہے اور اس وقت تک کوئی مرزائی ان کا جواب نہیں دے سکا اب ہم ان رسالوں کی متعدد دلیلوں سے قطع نظر کر کے ہر ایک رسالہ کو ایک ایک دلیل مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی قرار دے کر مجموعہ رسائل کو چھتیس دلیلیں ٹھہراتے ہیں اس میں تو کسی مرزائی اور خصوصاً ایڈیٹر الفضل اور ناشائستہ مضمون نگار کو جائے دم زدن نہیں ہو سکتی۔ اب وہ دیکھ لیں کہ مرزا قادیانی کے کذابی کی دلیلوں کا شمار ایک مہینہ کے دنوں سے زائد تو صفحہ ۷ تک ہو گیا اب آگے چلئے اور آنکھیں کھول کر دیکھئے۔

صفحہ ۸ میں ایام صلح سے ایک قول نقل کیا ہے جس میں مرزا قادیانی مسیح موعود کے وقت کی تین علامتیں بیان کرتے ہیں (۳۷-۳۸-۳۹) (۱) اسلام دنیا پر پھیل جائے گا۔ (۲) ادیان باطلہ ہلاک ہو جائیں گے۔ (۳) راست بازی ترقی کرے گی۔ ”نہایت روشن ہو رہا ہے کہ مسیح قادیان کو خروج کیے یا نزول کیے دو قرن سے زائد ہو گئے مگر ان علامتوں کا نشان بھی نہیں پایا گیا بلکہ نہایت ظاہر طور سے ہر ایک علامت کے خلاف ظہور ہو رہا ہے اسلامی حالت دیکھ لیجئے اور ادیان باطلہ کی ترقی کا مشاہدہ کر لیجئے۔ جھوٹ اور فریب کی ترقی اظہر من الشمس ہے۔ اس لیے یہ تین علامتیں مرزا قادیانی کے کذب کے لیے ان کے تین اقرار ہوئے (۴۰-۴۱) (براہین احمدیہ ص ۴۹۹ خزائن ج ۱ ص ۵۹۳) (تفخیص) میں مسیح موعود کی علامت بیان کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے دین اسلام تمام دنیا میں پھیل جائے گا اور آیت ”هُوَ الَّذِي أَوْسَلَ رَسُولَهُ“ (الخ) کو اس کی دلیل کہتے ہیں۔ یعنی یہ آیت انہیں کی شان میں ہے اس علامت کا شائبہ بھی ظہور میں نہ آیا بلکہ مرزا قادیانی کے ظہور کی شومی سے بالکل برعکس معاملہ ہو رہا ہے اس قول سے دو طرح مرزا قادیانی جھوٹے ہوئے ایک ان کے وقت میں وہ علامت نہ پائی گئی جو انہوں نے خود بیان کی تھی دوسرے یہ کہ آیت مذکورہ ان کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے مضمون کا ظہور ان کے وقت میں نہیں ہوا۔ دیکھو (۴۲-۴۳) (چشمہ معرفت ص ۸۳ خزائن ج ۲۳ ص ۹۱) (تفخیص) میں مسیح موعود کی

علامت یہی بیان کرتے ہیں کہ تمام قومیں ایک ہی مذہب پر ہو جائیں گی اور دین اسلام کو ایک عالمگیر غلبہ اس کے ذریعہ سے ہوگا مگر اس کا جھوٹا ہونا بھی بخوبی ظاہر ہو گیا، خصوصاً اس وجہ سے کہ مرزا قادیانی نے دنیا کو گویا اسلام سے خالی کر دیا کیونکہ چند اپنے ماننے والوں کے علاوہ چالیس کروڑ مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا اور کسی کافر کو مسلمان نہیں بنایا (ہقیقۃ الوحی ملاحظہ ہو) اس لیے دو طرح سے جھوٹے ہوئے ایک یہ کہ جو علامت مسیح موعود کی انہوں نے بیان کی تھی وہ ان میں نہ پائی گئی دوسرے یہ کہ اس کے برعکس پایا گیا۔ یعنی کفر کی ترقی ان کی وجہ سے ہو گئی۔ (۳۳-۳۵-۳۶) ضمیمہ انجام آتھم میں اپنی صداقت کے ثبوت میں چار باتیں پیش کرتے ہیں (۱) میرے ذریعہ سے ادیان باطلہ کا مرجانا۔ (۲) اسلام کا بول بالا ہونا۔ اور ہر ایک طرف سے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا۔ (۳) اور عیسائیت کے باطل معبود کا فنا ہو جانا یعنی نیست و نابود ہو جانا۔

ان تینوں باتوں کا سات برس کے اندر ہو جانے کو کہتے ہیں اور پھر اس میں خدا کی قسم کھا کر لکھتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو میں اپنے تئیں کاذب خیال کر لوں گا۔ ان کا یہ قول ۱۸۹۷ء میں ہے اس کے بعد گیارہ بارہ برس تک زندہ رہے مگر ان باتوں میں سے ایک کا بھی ظہور نہ ہوا اور اپنے تئیں دعوؤں کے لحاظ سے اپنے قسمیہ اقرار سے جھوٹے ہوئے اور اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں نے ان کی بات کو نہیں مانا تو اس سے خدائی پیشین گوئی غلط نہیں ہو سکتی چنانچہ مرزا قادیانی کا یہ قول اس سے قبل نقل ہو چکا ہے حاشیہ صفحہ ۱۱ چشمہ ہدایت دیکھو اب ایڈیٹر صاحب اور ناشرانستہ مضمون نگار ملاحظہ کریں کہ آپ کے مرشد کے جھوٹے ہونے کی دلیلوں کا شمار ڈیڑھ مہینے کے دنوں کے شمار سے تو زیادہ ہو گیا۔ اب مرزا قادیانی کا وہ اقرار جس کے تتمہ سے مضمون نگار کو عوام کے فریب دینے کا موقع ملا ہے۔ چشمہ ہدایت میں جو پانچواں اقرار لکھا گیا ہے اس کی ابتدا مرزا قادیانی کی اعجازی تحریر سے ہے ۱۹۰۲ء میں (اعجاز احمدی نے خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳) میں اپنی نسبت الہام الہی لکھتے ہیں ”اور میری نسبت کہا گیا تھا کہ تو ہی کسر صلیب کرے گا..... اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے کہ ”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ“ ۵ یہاں کسر صلیب کو مرزا قادیانی نے جلی قلم سے لکھا ہے اس الہام میں تو کسر صلیب کی پیشین گوئی کی گئی ہے اس کے بعد ۱۹۶۰ء میں اس کام پر مستعد ہونے کی خبر دیتے ہیں اور (اخبار البدر ج ۲ نمبر ۲۹ ص ۳ مطبوعہ ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء) میں لکھتے ہیں: ”میرا کام جس کے لیے میں اس میدان میں

کھڑا ہوں یہی ہے کہ میں عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑ دوں اور بجائے تثلیث کے توحید کو پھیلاؤں اور آنحضرت ﷺ کی جلالت اور شان دنیا پر ظاہر کروں پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں پس دنیا مجھ سے کیوں دشمنی کرتی ہے اور وہ میرے انجام کو نہیں دیکھتی، اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود مہدی موعود کو کرنا چاہیے تھا تو پھر میں سچا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور مر گیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔“

ناظرین راستباز عموماً اور ایڈیٹر الفضل اور ناشائستہ جدید مرزائی خصوصاً اس پر اچھی طرح نظر کریں کہ مرزا قادیانی بزبان حال یہاں یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔

بمائے لصاحب نظرے گو ہر خود را عیسیٰ توان گشت بتحدیق خرے چند

اس کا حاصل بھی ہے کہ بیوقوفوں کے مان لینے سے کوئی مسیح موعود نہیں ہو سکتا بلکہ اس مدعی کی ذات میں وہ کمالات ہونا چاہیں جو مسیح موعود کے لیے مخصوص ہیں مرزا قادیانی اس قول میں مسیح موعود کے تین کام بیان کرتے ہیں اور ان کی تین علامتیں بتاتے ہیں۔ اول یہ کہ عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑ دینا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں کوئی تثلیث پرست نہ رہے۔ دوسرا کام یہ کہ تثلیث کی جگہ توحید کو پھیلا نا۔ تیسرا یہ کہ آنحضرت ﷺ کی جلالت و شان کو ظاہر کرنا۔

مرزا قادیانی یہ کام مسیح موعود کے بیان کرتے ہیں اور اس کے مدعی ہیں کہ میں ان کاموں کے لیے مستعد ہوا ہوں اور انہیں کر کے دکھا دوں گا اور اگر یہ کام میں نہ کروں اور مسیح موعود کے آنے کی جو علت غائی ہے وہ ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ اور صرف اپنے کو جھوٹا ہی نہیں کہتے بلکہ اپنے جھوٹے ہونے پر دوسروں کو گواہ بناتے ہیں۔

ناظرین خوب خیال کریں کہ کس صفائی سے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ مجھ سے کروڑ نشان ظاہر ہوں اور یہ علامت نہ پائی جائے تو میں جھوٹا ہوں اور خوب خیال کیجئے کہ صرف اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار ہی نہیں کرتے۔ بلکہ اپنے سب ماننے والوں کو اور سب کو اپنے جھوٹے ہونے کا گواہ قرار دیتے ہیں اور عاصف طور سے کہتے ہیں کہ اگر یہ کچھ نہ ہوا۔ (یعنی مسیح موعود کا جو کام ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں نہ کیا) اور میں مر گیا تو پھر سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔

اب یہ خیر خواہ اور تمام بھی خواہان امت مرزا قادیانی کے ماننے والوں سے اور بالخصوص ایڈیٹر الفضل اور ناشائستہ مضمون نگار اور میاں روشن علی قادیانی سے نہایت اخلاص اور ادب سے یہ

دریافت کرتا ہے کہ اپنا آپ ان کے ارشاد کے بموجب ان کے جھوٹے ہونے پر گواہی کیوں نہیں دیتے؟ خدا کے لیے اپنی عاقبت کا خیال کر کے یہ فرمائیے کہ مرزا قادیانی نے عیسیٰ پرستی کے ستون کے توڑنے میں کچھ کام کیا ہے۔ دنیا میں کسی مقام پر اور کسی جگہ تثلیث پرستی میں کچھ کی ہوگئی، مرزا قادیانی کی ذات سے کسی ملک میں کسی شہر میں کسی قریہ اور دیہات میں تثلیث کی جگہ توحید پھیلی؟ اس کا جواب بجز اس کے اور کوئی نہیں دے سکتا کہ مرزا قادیانی سے یہ کام ہرگز نہیں ہوا اور ہرگز نہیں ہوا کیونکہ اس کا تو معائنہ ہو رہا ہے اور تمام دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہر جگہ تثلیث پرستی کا زور ہے اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے خلیفہ دوم اپنے اخباروں میں اپنی تحریروں میں اہل تثلیث کی بہت تعریف کر رہے ہیں اور خوب خوشامدانہ باتیں بنا رہے ہیں۔ پھر بتائیں کہ مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے میں کیا شک رہا ہے؟ اب تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ انہیں جھوٹا نہ کہا جائے اور ان کے کہنے کے بموجب ان کے جھوٹے ہونے پر گواہی نہ دی جائے یہاں تو مرزا قادیانی نے اپنے ان تمام نشانات کو بھی خاک میں ملا دیا جن کی تعداد تین لاکھ سے زائد بیان کی جاتی ہے۔ اب تو ایڈیٹر الفضل اور روشن علی قادیانی کو ان کے نشانات پیش کرنے کی مجال نہ رہی اور ہر طرح مرزا قادیانی جھوٹے ثابت ہو گئے اور ایک دلیل سے نہیں انچاس دلیلوں سے پہلی دلیلوں کو اس قول کی تین دلیلوں سے ملا کر دیکھ لیجئے قول مذکور کی شرح چشمہ ہدایت کے صفحہ ۱۹ سے ۲۸ تک ملاحظہ کر لیجئے۔

اب اگر رسالہ مذکور کی تین سطروں میں کوئی غلطی ہوگئی ہے تو اس سے مرزا قادیانی کی کذابی میں کوئی فرق نہیں آتا اور اس امر کا ایڈیٹر الفضل اور ناشائستہ مضمون نگار کو بھی اقرار ہے کیونکہ ناشائستہ مضمون نگار نے مرزا قادیانی کے ان اقراردوں کی نسبت دم بھی نہیں مارا جو اوپر نقل کیے گئے ہیں۔ میں مکرر کہتا ہوں آنکھیں کھول کر دیکھئے کہ مرزا قادیانی نے اس قول میں مسیح موعود کے تین کام بیان کیے ہیں۔ اب بتائیے کہ ان میں سے کونسا کام مرزا قادیانی نے کیا؟

۱..... کیا تثلیث پرستی کے ستون کو توڑ دیا؟ اس کے جواب میں دنیا کے ایمان دار یہی کہیں گے کہ ہرگز نہیں توڑا۔

۲..... کیا مرزا قادیانی نے بجائے تثلیث کے توحید پھیلایا؟ اس کا جواب بھی ہر ایک جاننے والا ایمان دار یہی کہے گا کہ ہرگز نہیں بلکہ نہایت ظاہر ہے کہ تثلیث کا شیوع ہو رہا ہے۔

۳..... کیا مرزا قادیانی نے رسول اللہ ﷺ کی عظمت و شان کو ظاہر کیا؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔

نہایت ظاہر ہے کہ جب تثلیث پرستی کو ترقی ہے تو جناب رسول اللہ ﷺ کی عظمت و

شان ظاہر نہیں ہو سکتی بلکہ اس میں شبہ نہیں کہ مرزا قادیانی کے وجود سے اور ان کے اقوال سے جناب رسول اللہ ﷺ کی نہایت تحقیر ہوئی دو وجہ سے ایک یہ کہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں غلط ہوئیں تو انہوں نے خدا اور رسول پر ایسی باتیں لگائی ہیں کہ تمام مذہب درہم و برہم ہوتا ہے خدا اور رسول کی شان میں نہایت بڑا آتا ہے ان باتوں کا ذکر ایک خاص اعلان میں کیا گیا ہے اور چھپ کر مشتہر ہو چکا ہے اب دوبارہ مشتہر ہو رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ مرزا قادیانی نے امت محمدیہ کو یعنی رسول اللہ ﷺ کے جان نثاروں کو جہنم کا مستحق بنا دیا یعنی یہ کہہ دیا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ جہنمی ہے حضرت سرور انبیاء کی یہ کیسی کسر شان ہے کہ آپؐ کا ماننے والا اور آپؐ کا جان نثار دائمی جہنم کا مستحق ہو جائے یہ کہنا آپؐ کی سروری کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ کہو میاں روشن علی قادیانی ان باتوں کا کوئی جواب ہو سکتا ہے ذرا ہوش کر کے جواب دو۔ کیا آپؐ تذکرہ یونس علیہ السلام پر تنقید کرنا چاہتے ہیں۔

میاں روشن علی اندھیر نہ چاہیے مرزا قادیانی کی کذابی کی دلیلوں کا جواب دیجئے۔ آپؐ تذکرہ یونس پر کیا تنقید کریں گے آپؐ کی کیا مجال ہے۔ تذکرہ یونس میں جو کچھ لکھا ہے وہ لا جواب بات ہے کیونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے جو اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے جا بجا یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کے آنے کی قطعی الہامی پیشین گوئی کی تھی اور وہ پوری نہ ہوئی یہ محض غلط اور مرزا قادیانی کا صریح جھوٹ ہے اس کا ثبوت نہ قرآن شریف سے ہے نہ حدیث صحیحہ سے اگر آپؐ کو صداقت کا دعویٰ ہے تو ثبوت پیش کیجئے فضول باتیں بنا کر عوام کو فریب نہ دیجئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی الہامی پیشین گوئی ایسی نہیں کہ جو پوری نہ ہوئی ہو۔ اس جھوٹ کے علاوہ ہم نے مرزا قادیانی کے بہت جھوٹ ثابت کر دیئے ہیں۔ ایسا جھوٹا کوئی مجدد اور بزرگ بھی نہیں ہو سکتا اور نبوت کی تو بڑی شان ہے اور مرزائی جھوٹوں کے جواب میں یہ کہہ دینا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے تھے محض جہالت یا فریب ہے۔ جس روایت سے حضرت ابراہیم کا جھوٹ ثابت کیا جاتا ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے تفسیر کبیر ج ۶ دیکھئے اس کے علاوہ وہ روایت قرآن شریف کے صریح خلاف ہے اور یہ بات مرزا قادیانی کے نزدیک بھی مسلم ہے جو روایت قرآن شریف کو خلاف ہو وہ صحیح نہیں قرآن شریف میں حضرت ابراہیم کی نسبت نہایت صاف طور سے مذکور ہے کَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝ (مریم ۴۱) یعنی ابراہیم نہایت سچے نبی تھے۔ صدیق اسی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولے مرزا قادیانی کے جھوٹوں کی تو انتہا نہیں ہے پھر ان کو نبوت سے کیا واسطہ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم  
سورة الفاتحة

# صحیفہ رحمانیہ

(۲۰)

حضرت مولانا محمد اسحاق مونگیریؒ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

## اثر مہبلہ مولوی عبدالحق غزنوی

حم خالق را کہ بے چون و چراست  
نعت احمد را کہ نثر انبیاء است

مرزائی گردہ کو جب سے شہر موگیلر صوبہ بہار کے مناظرہ میں شکست فاش ہوئی ہے اس وقت سے انہیں مناظرہ کی ہمت نہیں رہی۔ یہ وہ شاندار مناظرہ تھا جس میں قادیان کے مخصوص مربی اور بھاگلپور کے مرزائی صدر مناظر تھے اور جنہیں جلسہ میں اقراری شکست ہوئی تھی اس کے بعد خانقاہ رحمانی موگیلر سے لاجواب رسائل رد قادیانی کی بھرمار ہوئی اور جناب مرزا قادیانی کے دجل و فریب سے ان کے مخصوص حضرات واقف ہوئے تو ان کے خلیفہ کو خوف ہوا کہ یہ رسائل حقانی اگر ہماری جماعت فریب خوردہ دیکھے گی۔ تو بالضرور ہمارے مرشد عیار کے فریبوں سے واقف ہو کر ہم سے علیحدہ ہو جائے گی اور ہماری عزت اور روزی دونوں میں خلل آ جائے گا۔ اس لیے اپنی جماعت فریب خوردہ کو قطعی حکم دیا کہ ان رسالوں کو کوئی نہ دیکھے۔ ورنہ ایمان جاتا رہے گا اب ہم قادیانی جماعت سے محبتاً اندر یافت کرتے ہیں کہ بنظر تحضبانہ قادیانی خلیفہ کے اس حکم

پر غور فرما کر اس کا فیصلہ فرمائیں کہ اس حکم نے یہ ثابت کروایا نہیں کہ مذہب قادیان ایسا ضعیف اور کمزور ہے کہ ان حقانی رسائل کے دیکھنے کے بعد قادیانی مذہب کا جھوٹا ہونا پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ آپ کا ولی انصاف اور آپ کا ضمیر بالضرور یہی کہے گا کہ بلاشبہ یہ حکم ان کی کمزوری اور واقف ہو کر ایک کذاب کی بیرونی کو آشکارا کر رہا ہے اس کے علاوہ پہلے علمائے دیوبند اس گروہ کو بے حقیقت سمجھ کر اس کی طرف مطلقاً توجہ نہیں کرتے تھے اس بنا پر بعض جاہل قادیانیوں کو خیال ہوا کہ یہ علمائے حقانی ہمارے مقابلہ سے عاجز ہیں اس خام خیالی میں آ کر انہوں نے اشتہار دیا کہ علماء دیوبند ہم سے مبہلہ کریں گے۔

اس اعلان پر حضرات دیوبند میں کچھ جوش پیدا ہوا اور مناظرہ اور مبہلہ پر مستعد ہو گئے اور تحریری طریقہ پر جواب دینا شروع کر دیا اور بڑے بڑے اشتہاروں کے ذریعہ عالمانہ اور محققانہ جواب لکھ کر شائع کرائے۔ جو دس گیارہ نمبر تک نکالے گئے مگر مرزائی جماعت چونکہ اپنے مرشد سے جھوٹ اور فریب کی تعلیم یافتہ ہے اس لیے وہ حقانی گروہ جو جھوٹ اور فریب کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا انہوں نے سکوت اختیار کیا اور ایڈیٹر الفضل نے اپنا اشتہار نمبر ۱۸ خانقاہ رحمانی موئگیر میں فخریہ بھیجا چونکہ ان اشتہاروں کی بنیاد مبہلہ پر تھی اور ان کا اوّل اشتہار مبہلہ کے طلب میں چمپا تھا اس لیے خانقاہ رحمانی سے صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۸ جس کا نام چیلنج محمدیہ ہے اور اس میں مرزا قادیانی کے نہایت صاف و صریح اساتذہ اقرار لکھے گئے ہیں جن سے وہ یقینی جھوٹے اور ہر بد سے بدرجہ ثابت ہوتے ہیں مدیر الفضل اور خلیفہ قادیان کے پاس بھیجا گیا اور اس کے لوح پر صرف اس قدر لکھ دیا گیا کہ اشتہار آپ کا پہنچا۔ مگر یہ فرمائیے کہ جو مدعی اپنے پختہ اقراروں سے خود جھوٹا ثابت ہو چکا ہے جیسا کہ اس رسالے میں دکھائے گئے ہیں اس کی صداقت پر مبہلہ کرنا کسی صاحب عقل کا کام ہو سکتا ہے یہ ہرگز نہیں۔ اس کا کچھ جواب نہیں آیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہی اشتہار مدیر الفضل نے پھر بھیجا مگر اس کے حاشیہ پر اس قدر لکھ دیا کہ مبہلہ تو آخری فیصلہ ہے اور حضرت مجدد صاحب کا حوالہ دے دیا۔ اس مہمل جواب کے اظہار میں جو تحریر لکھ کر بھیجی گئی وہ ذیل میں مرقوم ہے البتہ اس میں کچھ اضافہ اور پہلی تحریر سے کچھ تغیر ہو گیا ہے مگر اس کا یقین ہے کہ اگر تمام قادیان کی جماعت مل کر اس کا جواب دینا چاہے۔ تو نہیں دے سکتی اور ہرگز نہیں دے سکتی۔ کیونکہ نہ انہیں علم سے کچھ واسطہ ہے اور نہ حق طلبی کی ان میں بوجہ ان دونوں باتوں کا ثبوت ان کے مختصر جواب سے ظاہر ہے کیونکہ انہیں اب تک مبہلہ کی حقیقت ہی نہیں معلوم اور زبردستی اور ناحق کوشی کا یہ حال ہے کہ ہم

مرزا قادیانی کے اقراری کذب پر ستاون دلیلوں سے زیادہ انہیں دکھا رہے ہیں۔ مگر ایک کا بھی جواب نہیں دیتے اور جہلاء کے فریب دینے کو صرف یہ لکھ دیا کہ مباہلہ آخری فیصلہ ہے اس کا جواب ملاحظہ ہو۔

### ایڈیٹر الفضل قادیان

اگر مباہلہ کو آپ کے لکھنے کے بموجب یقینی حجت شرعی و قطعی فیصلہ امت محمدیہ کے لیے مان لیا جائے تو اس وقت یہ فیصلہ قرار پائے گا۔ جس وقت اس مدعی کے کذب پر کوئی دلیل نہ قائم ہوئی ہو اور جب ہم اس کے یقینی کذب پر آپ کے روبرو ستاون دلیلیں پیش کر چکے ہیں اور دو رسالے ایک چیلنج محمدیہ دوسرا چشمہ ہدایت کی صداقت آپ کے پاس بھیج چکے ہیں جن میں مرزا قادیانی کے ستاون وہ قول نقل کئے گئے ہیں۔ جن سے وہ خود یقینی کاذب ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے عقلاً اور شرعاً اور فحوائے ”المرء یؤخذ بأقراءہ“ وہ قطعاً جھوٹے ثابت ہوئے اس میں کسی طرح چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے اس کے بعد کون صاحب عقل مباہلہ کو ایسے یقینی کاذب کے لیے آخری فیصلہ اس کی صداقت کا اقرار دے گا؟ برائے خدا اپنے مرشد کے اس قول کو ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے احمد بیگ کے داماد کے مرنے کی نسبت متعدد طور سے پیشین گوئی کر کے مختلف طور سے اپنا وثوق و اعتماد اس پر ظاہر کیا ہے اور یقینی طور سے اس کو الہام الہی اور وعدہ خداوندی فرمایا ہے آخر میں سب سے زیادہ وثوق اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ اگر یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی تو میں ہر بد سے بدتر ٹھہروں گا، کسی انسان کا افتراء نہیں ہے بلکہ خدا کا سچا وعدہ ہے وہ خدا جس کی باتیں نہیں بدلتیں۔“ پورے الفاظ چیلنج محمدیہ میں (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۴ خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۸) نقل کیے گئے ہیں۔ انہیں دیکھئے، جب یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی جسے انہوں نے خدا کا سچا وعدہ کہا ہے تو اب کیا وجہ ہے کہ ان کو ہر بد سے بدتر نہ مانا جائے خصوصاً اس وجہ سے کہ خدا کو جھوٹا اور سخت وعدہ خلاف بات کر رہے ہیں جب ایسا زبردست قول انہیں ہر بد سے بدتر ثابت کر رہا ہے کیا سبب ہے کہ انہیں اس کا مصداق نہ قرار دیا جائے اور امر حق کو پوشیدہ کرنے کے لیے مباہلہ کا حیلہ پیش کیا جائے۔ خصوصاً جبکہ ان کی نہایت عظیم الشان پیشین گوئی کے جھوٹے ہو جانے سے توریت مقدس و قرآن مجید نے انہیں جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ فیصلہ آسمانی میں اس کا ثبوت کامل طور سے دیا گیا ہے اور اگر بائیں ہمہ مرزا قادیانی کو سچا مانا جائے تو نفوذ باللہ خدا کو جھوٹا اور وعدہ خلاف اور نہایت

فریب دہندہ ماننا ہوگا اور شریعت الہی کے جتنے وعدے اور وعیدیں ہیں۔ ان سب کو غیر معتبر کہنا پڑے گا (اس کی تصدیق توضیح المرام کے صفحہ ۸ میں ملاحظہ ہو) کیونکہ مرزا قادیانی اس پشیمین گوئی کو خدا کا سچا وعدہ کہتے ہیں۔ باایں ہمہ وہ وعدہ پورا نہ ہوا۔ باوجودیکہ وہ قادر مطلق برسوں وعدہ کرتا رہا۔ اس سے اس کا صرف جھوٹا ہی ہونا ثابت نہیں ہوا بلکہ اس کا وعدہ خلاف ہونا اور اپنے نبی کو فریب دینا اور دنیا پر اس کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دیا۔ اتنے الزام خدا پر آتے ہیں تو ایسے خدا کے نبی بھی جیسے ہوں گے وہ معلوم ہے۔

اب نہایت تعجب ہے کہ ایسے خدا کے مصنوعی نبی کی صداقت پر مباہلہ کیا جائے اور اس کو آخری فیصلہ کہا جائے دنیا میں کوئی صاحب عقل اس کا قائل نہیں ہو سکتا ذرا ہوش کر کے اس کا جواب دیجئے میں نے شروع میں آپ کے قول کو فرضی طور پر مان کر یہ لکھا ورنہ آپ کا قول ماننے کے لائق نہیں ہے کیونکہ امت محمدیہ میں مباہلہ کی نسبت اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ مباہلہ جناب رسول اللہ سے مخصوص تھا چنانچہ تفسیر بحر محیط کی جلد ثانی میں آیت مباہلہ کے بیان پر لکھا ہے کہ ”قال الشعبي ويدل على ان ذالك مختص بالنبي ﷺ“ بعض اس میں شرطیں لگاتے ہیں چنانچہ تفسیر جمل میں علامہ شیخ سلیمان لکھتے ہیں ”وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني قدس سره في جواز المباحلة ما بعد النبي ﷺ فكتب رسالة في شروطها المستتب من الكتاب والسنة والاثار والكلام الاثمة“ اور اس عبارت کو تفسیر فتح البیان میں بھی نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ کسی اور دلیل سے اس کا فیصلہ نہ ہوتا ہو اور بعض اس کے ظہور اثر کے لیے یہ قید لگاتے ہیں کہ سال ڈیڑھ سال کے اندر ہوتا ہے اور آپ کی جماعت تو یہ غضب کرتی ہے کہ اثر کو متعین نہیں کرتی یہ دو باتیں بھی مباہلہ کو بیکار کر دیتی ہیں کیونکہ یہ بات نہایت ظاہر ہے اور ہر ایک حق پسند اس کی شہادت دے سکتا ہے کہ دنیا میں بہت ہی کم ایسے اشخاص ہوں گے جو اس مدت کے اندر کم و بیش کسی تکلیف یا کسی مصیبت یا کسی بیماری سے محفوظ رہتے ہوں۔ یا بغیر مباہلہ اس مدت کے اندر کوئی مرتا نہ ہو جب یہ بات ہے تو پھر مباہلہ کرنے والے پر اگر کوئی مصیبت یا بلا آئی یا وہ مر ہی گیا تو اس کو بالیقین اثر مباہلہ کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی ان باتوں سے ظاہر ہے امت محمدیہ کا مباہلہ کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہے اگر یقینی حجت شرعی ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا اور اپنے قیاس اور گمان سے اس میں شرطیں زائد نہ کی جاتی اور اس کے اثر کو غیر متعین نہ رکھا جاتا یہاں تک مباہلہ کے بیکار ہونے کی دو وجہ تو بیان ہو گئیں جو ۲۰ رجب المرجب

۱۳۳۸ھ کو ایڈیٹر افضل کے پاس جوابی رجسٹری کرا کے بھیجی گئی ہیں اب تیسری نہایت زبردست وجہ پیش کی جاتی ہے جس سے آپ کے خیال کے موافق مبہلہ کو آخری فیصلہ مان کر اور ان کی اقراری ڈگریوں سے چشم پوشی کر کے آپ کے مرشد کو مبہلہ سے جھوٹا ثابت کیا جاتا ہے ملاحظہ ہو۔

### مولوی عبدالحق غزنوی کے مبہلہ کا اثر

بڑی وجہ مرزائی قادیانیوں کے مبہلہ کے بیکار ہونے کی یہ ہے کہ مولوی عبدالحق صاحب غزنوی نے مرزا قادیانی سے مبہلہ کہا تھا اور پندرہ مہینہ کے بعد ۱۳۱۲ھ میں مطابق ۱۸۹۵ء کے اس کے اثر کا اشتہار دیا تھا جس کا عنوان یہ ہے۔

### اثر مبہلہ عبدالحق غزنوی بر غلام احمد قادیانی

اس کے بعد عربی کا ایک شعر لکھ کر اس طرح شروع کرتے ہیں۔ کیوں مرزا جی مبہلہ کی لعنت اچھی طرح پڑ گئی یا کچھ کسر ہے۔ اس کے بعد چار پیشین گوئیوں کا جھوٹا ہونا دکھایا ہے اس میں چوتھی پیشینگوئی (حجۃ اللہ خزائن ج ۶ ص ۳۹) سے نقل کرتے ہیں۔

”پس جبکہ یہ بات ہے تو میری سچائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ میری طرف سے بعد مبہلہ ایک سال کے اندر ضرور نشان ظاہر ہو اور اگر نشان ظاہر نہ ہو تو پھر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوں اور نہ صرف وہی سزا بلکہ موت کی سزا کے لائق ہوں۔“

اس قول میں مرزا قادیانی دو باتیں کہتے ہیں ایک یہ کہ میرے مبہلہ کا اثر مخالف پر ایک سال کے اندر ظاہر ہوگا اس سے زیادہ مدت نہ ہوگی دوسری بات یہ کہ اگر اس مدت میں مخالف پر بڑا اثر نہ ہو تو میں جھوٹا اور موت کی سزا کے لائق ہوں۔ اس کے لیے مدت متعین نہیں کی، مرزا قادیانی کے اس قول کے بعد مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

”اب مسلمانوں کو عموماً اور مرزائیوں کو خصوصاً قسم دیتا ہوں کہ میرے اور مرزا کے حال کو دیکھ کر تم خود اندازہ کر لو کہ مبہلہ کو پندرہ ماہ گزر گئے۔ اب میرے پر تاثر مبہلہ کی پڑی یا مرزا پر میں نے تو جب سے مبہلہ کیا اللہ عزوجل نے مجھ کو آباد کیا اور وجہ صالحہ عنایت کی اب اولاد صالح کا امیدوار ہوں آگے میں ہمیشہ بیمار رہتا تھا اب کے سال اللہ کے فضل سے میرے بدن پر پھوڑا پھنسی تک نہیں اور وہ باطنی لعنتیں اور فتوحات جو اللہ عزوجل نے اس عاجز پر کی ہیں نہ بیان کرتا ہوں اور نہ مناسب جانتا ہوں اور مرزا کا حال تو ظاہر ہے اور اسکے مریدوں کا یہ حال ہے (کہ تمہیں

خاص مرید مرزا کے اسی عرصہ میں عیسائی ہو گئے۔ ”ایک کا نام اسمعیل، دوسرے کا یوسف خاں تیسرے کا نام محمد سعید“ اب اہل انصاف دونوں صاحبوں کے قولوں کو ملاحظہ کریں کہ مرزا قادیانی اپنے مخالف پر سال بھر کے اندر اثر مہبلہ کے ظہور کو بیان کرتے ہیں یعنی اس مدت میں لعنت کا ظہور اس پر ہو گا ان کے مخالف مولوی صاحب مہبلہ کا عہدہ اثر ڈیڑھ سال کے بعد خدا کے متعدد انعامات بیان کرتے ہیں۔ ایک انعام یہ کہ پہلے ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ مہبلہ کے بعد ان کی شادی ہو گئی یہ وہ بڑا انعام الہی ہے جسے خاص و عام سب شادی کہتے ہیں دوسرا انعام یہ ہے کہ نیک بیوی ملی تیسرا انعام یہ ہے کہ بہت تھوڑے عرصہ میں وہ بیوی حاملہ ہوئی اور اولاد کی امید ہوئی۔ اس کے بعد اولاد ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس کا ہم کو علم نہیں ہے مگر یہ ظاہر ہے کہ جس مدت میں لعنت کا اثر مرزا قادیانی کے کہنے کے بموجب پڑنا چاہیے تھا اس مدت میں کوئی برا اثر نہیں پڑا بلکہ یہ خوشی کی امید ہوئی چوتھا انعام یہ ہے کہ پہلے بیمار رہتے تھے مہبلہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحت عنایت کی پانچویں باطنی متعدد نعمتوں کا اجمالی اظہار کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے مہبلہ کا برا اثر اور لعنت کا ظہور ان پر نہیں ہوا۔ بلکہ مرزا قادیانی پر متعدد اثر ہوئے ایک یہ کہ مرزا قادیانی نے اپنے دعوؤں کی صداقت ثابت کرنے کے لیے اپنے مخالف سے مہبلہ کیا مگر ان کی لعنت کا اثر مخالف پر کچھ نہ ہوا بلکہ انہیں پر ہوا اور متعدد طریق سے ہوا ایک یہ کہ اپنے اقرار سے اپنے متعدد دعوؤں میں جھوٹے ہوئے کیونکہ صاف لکھتے ہیں کہ ”میری طرف سے بعد مہبلہ ایک سال کے اندر ضرور نشان ظاہر ہو“ مہبلہ کے بعد نشان کا ظہور یہی ہے کہ مخالف پر لعنت کا اثر اعلانیہ طور سے ظاہر ہو یہی مرزا کی بددعا ہے اس کا ظہور مولوی صاحب پر ہونا چاہیے تھا مگر نہیں ہوا بلکہ مرزا قادیانی پر ہوا اور وہ اپنے اقرار سے جھوٹے ہوئے مولوی صاحب کے اشتہار سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسی عرصہ میں تین پیشینگوئیاں مرزا قادیانی کی اور بھی جھوٹی ہوئیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ توریت مقدس نے اور قرآن مجید نے تین مرتبہ مرزا کے جھوٹے ہونے پر گواہی دی کیونکہ دونوں کلام الہی یہ شہادت دیتے ہیں کہ جس مدعی کی ایک پیشینگوئی بھی جھوٹی ہو تو وہ جھوٹا ہے اس کی تفصیل فیصلہ آسانی میں دیکھئے حضرات مرزا بیان آنکھیں کھول کر اس اعلانیہ بیان کو ملاحظہ کریں کہ کس خوبی سے مرزا قادیانی پر لعنت کا اثر ظاہر ہوا اور مرزا قادیانی مولوی عبدالحق صاحب کے مہبلہ سے جھوٹے ثابت ہوئے اور ہزاروں اشتہارات ان کے کذب کے اظہار میں شائع ہو گئے پھر اب ان کے لیے مہبلہ بیکار اور تحصیل حاصل نہیں تو کیا ہے خدا کے لیے کوئی حق بات تو زبان سے فرمائیے مگر یہ آپ

سے ہو نہیں سکتا کیونکہ مرزا کے اثر نے آپ کی راستبازی کو مٹا دیا ہے مرزا قادیانی مولوی صاحب کی یہ اعلانیہ صداقت اور کامیابی دیکھ کر حیران ہو گئے اور دو برس تک سوچتے رہے کہ اس جھوٹ کو کیونکر پوشیدہ کر دوں تیسرے برس یہ خیال کیا ہو گا کہ ان کا اشتہار ایک دو مرتبہ چھپ گیا اور صرف پنجاب کے بعض مقاموں میں شائع ہوا چند روز کے بعد اس کا پتہ بھی نہ رہے گا اس لیے حقوق کو فریب دیتے ہیں اور (ضمیمہ انجام آٹھم ص ۲۵ خزائن ۱۱ ص ۳۰۹ حاشیہ) میں اپنے مخالف علماء کو بہت کچھ لعن طعن کر کے اور کمال بے تہذیبی کا جامہ پہن کر صفحہ ۲ میں لکھتے ہیں۔ ”اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اگرچہ عبدالحق کے مباہلہ میں اس طرف سے کسی بددعا کا ارادہ نہ کیا گیا ہو مگر جو صادق کے سامنے مباہلہ کے لیے آیا ہے کسی قدر تو بعد مباہلہ ایسے امور کا پایا جانا چاہیے جن پر غور کرنے سے اس کی ذلت اور تارواوی پائی جائے اور اپنی عزت دکھلائی دے۔“

(ضمیمہ انجام آٹھم ص ۶۲ موری ۲۲ جنوری ۱۸۹۷ء)

ناظرین: مرزا قادیانی کی اس بناوٹ پر غور فرمائیں۔ تحریر فرماتے ہیں کہ اگرچہ عبدالحق کے مباہلہ میں اس طرف سے (یعنی میری طرف سے) کسی بددعا کا ارادہ نہ کیا گیا ہے۔ یہ قول مرزا قادیانی کا ہے وہ بددعا کی نسبت اپنا واقعہ اپنی حالت تردد اور شک کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرچہ کسی بددعا کا ارادہ نہ کیا گیا ہے یہ کیسی ابلہ فریبی ہے اے دشمن حق مباہلہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ طرفین سے جھوٹے پر لعنت کی جائے اور جب طرفین سے بددعا نہیں کی گئی۔ تو مباہلہ ہی نہیں ہوا پھر یہ کہنا کہ عبدالحق سے مباہلہ ہوا۔ محض جھوٹ ہوا مگر بھلا اللہ کہ ابھی انہیں کے قول سے بددعا کرنا اور اپنے اقرار سے ان کا جھوٹا ہونا اور مولوی عبدالحق صاحب کا صادق ہونا ثابت کر دیا گیا۔ اس اعلانیہ جھوٹ اور کذابی کے بعد جھوٹی باتیں بنانا اور اپنے نعمتوں کا اظہار کرنا ایسا ہی ہے۔ جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض کفار و منکرین کی نسبت فرمایا ہے۔

یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے مختصراً سورہ الفجر ۱۵-۱۶ میں ارشاد ”فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض انسان کا امتحان اور اس کی آزمائش اس طرح کرتا ہے کہ اس کی عظمت ظاہر کرتا ہے اور اسے دنیاوی نعمتیں دیتا ہے اس سے وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو اللہ نے مكرم اور معظم بنایا ہے اور جس کا امتحان تنگی معاش وغیرہ سے کیا گیا وہ سمجھتا ہے کہ میری اہانت کی اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے مقبول ہونے کی یہ علامت



نہیں ہے کہ دنیا میں قورمہ پلاؤ کھائے اور روپیہ پیسہ بہت مل جائے جسے مرزا قادیانی مقبولیت کا نشان سمجھتے ہیں اور دنیا میں کچھ تنگ حالی سے گزارنا اہانت سمجھتے ہیں حالانکہ اکثر انبیاء کی زندگیاں تنگ حالی سے گذری ہیں۔ کہ ہم انہیں مہلت دیتے ہیں اور بہت کچھ انہیں راحت و آرام اور دولت دے کر انہیں بھول میں ڈالتے ہیں اور پھر ایک بارگی انہیں پکڑتے ہیں اسی کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی پر دکھایا کہ سمجھدار مخلوق پر پہلے ان کا کاذب ہونا اعلانیہ طور سے ثابت کر دیا پھر ان کو ایسی نصیحتیں دیں جن سے مرزا قادیانی اپنی ہلاکت اور کلام الہی کی شہادت کو بھول گئے اور اپنی سرکشی میں ترقی کر گئے آخر کار نہایت بری حالت اور ایسی ناگفتہ بہ صورت سے مرے کہ خاص مریدوں نے مرنے کے بعد ان کا چہرہ دکھانا رو انہیں رکھا اور غالباً ایسی مبالغہ کے اثر سے ایسی موت ان کی ہوئی اور ان کے قول کے بموجب ہوئی۔ کیونکہ خود انہوں نے اپنے مبالغہ کا اثر یہ بیان کیا تھا کہ اگر ایک سال کے اندر میرا نشان ظاہر نہ ہو (یعنی میری لعنت کا اثر مخالف پر ظاہر نہ ہو) تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں اور موت کی سزا کے لائق ہوں وہی ہوا اور اپنی زندگی کی نسبت جو پیشین گوئی کی تھی اس سے بہت پہلے خاک میں جا ملے اس کی تفصیل شہادت آسمانی مطبوعہ موئگیر ۱۳۳۳ھ کے آخری ورق پر کی گئی ہے شائقین حق ملاحظہ کریں۔

حاصل کلام: جناب خلیفہ قادیانی اور مدیر صاحبان کی خدمت میں پیش کر کے قبول حق یا جواب کا یہ خیر خواہ خواستگار ہے پہلے مختصر مضمون ۲۰ رجب المرجب کو بھیجا گیا تھا چھپنے کے وقت تک ایک مہینے سے زیادہ ہوا مگر جواب کا پتہ نہیں ہے اور ہمارا الہام یہ کہتا ہے کہ مرزائی جواب سے عاجز ہیں اس تحریر سے مرزائی مبالغہ تین وجہ سے بیکار ثابت ہوا۔

پہلی وجہ! مبالغہ اسی بات پر کیا جاتا ہے جس کا حق یا ناحق ہونا ثابت نہ کر دیا گیا ہو۔ اور جس کا کاذب اور ناحق پر ہونا متعدد دلیلوں سے اور مدعی کے پختہ اقراروں سے ثابت کر دیا گیا ہو جیسا کہ مرزا مسیح قادیان کا کاذب ہونا قرآن و حدیث کے علاوہ ان کے قسمیہ اور الہامی اقراروں سے ثابت کر کے وہ رسالے ایڈیٹر الفضل اور خلیفہ قادیان کے پاس بھیج دیئے گئے۔ جن میں ستاون اقرار مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کے ثبوت میں دکھائے گئے ہیں پھر ایسے یقینی کذاب کی صداقت پر کون ایماندار فہمیدہ مبالغہ کر سکتا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔

دوسری وجہ! یہ کہ امت محمدیہ میں مبالغہ سے ایسی یقینی بات ثابت نہیں ہو سکتی جس پر کفر و اسلام

موقوف ہو کہ اس کے ماننے سے مسلمان ہو جائے اور نہ ماننے سے کافر ٹھہرے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے مرزا قادیانی مدعی نبوت کے صدق و کذب پر مبہلہ کرنا محض فضول اور بیکار ہے۔

تیسری وجہ! یہ کہ مرزا قادیانی نے مولانا عبدالحق صاحب سے مبہلہ کیا اور بدعا بھی اس میں کی مگر اس بددعا کا اثر مولانا صاحب پر کچھ نہیں پڑا بلکہ وہ اس معیاد میں نہایت خوش و خرم رہے تھے جس میں مرزا قادیانی نے اپنے لعنت پڑنے کا وقت بیان کیا تھا بلکہ مرزا قادیانی اپنے اقرار کے بموجب جھوٹے اور خس کم جہاں پاک کے مستحق ہوئے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔  
غیر خواہ

ابو محمود محمد اسحاق رحمانی

## حکیم العصر مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ کے ارشادات

☆☆..... مرزا قادیانی سب دہریوں سے بڑھ کر اپنے دہریہ ہونے کا اعلان کرتا ہے۔

☆☆..... قادیانی کا ذبیحہ کسی حال میں بھی حلال نہیں بلکہ مردہ ہے۔

☆☆..... مرزا یو میرے اس سوال کا جواب دو کہ 52 سال جھوٹ بچنے والا مسیح موعود کیسے بن گیا؟۔

☆.....☆.....☆

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَنَا مُحَمَّدًا

خاتم النبیین یعنی کلام الہی میں  
ختم نبوت فی الاسلام کی بشارت

صحیفہ رحمانیہ

(۲۱)

حضرت مولانا محمد اسحاق مونگیروی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

## خاتم النبیین یعنی کلام الہی میں ختم النبوة فی الاسلام کی بشارت

جس میں ختم نبوت کے دلائل اور مرزا قادیانی کے کذب کی روشن براہین دکھائی گئی ہیں  
طالبین حق ضرور ملاحظہ کریں۔

اس کی مختصر توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سرور انبیاء علیہم السلام کی وہ صفت بیان فرمائی جو حضرت موسیٰ وغیرہ انبیاء علیہم السلام میں نہیں پائی گئی مقصود یہ ہے کہ ہمارے رسول محمد مصطفیٰ ﷺ کو مثل موسیٰ وغیرہ کے نہ سمجھنا کہ ان کی نبوت کا اثر اور فائدہ ان کی زندگی تک محدود رہا تھا اور ان کے انتقال کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت ہوتی تھی، محمد مصطفیٰ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی وہ شان ہے کہ آپؐ کا آفتاب نبوت قیامت تک درخشاں رہے گا اور آپؐ کی امت اس سے مستفید ہوتی رہے گی اور آپؐ کی ہدایات اور احکام کی تعلیم آپؐ کے علمائے کرام کرتے رہیں گے تو جو بجائے انبیاء کے ہیں اور آپؐ کا سچا ماننے والا کسی طرح دائمی جہنم کا مستحق نہ ہوگا، مرزا غلام احمد قادیانی جو حضور انور ﷺ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثل قرار دے کر آپؐ کے بعد انبیاء کا آنا قرار دیتا ہے اور ان کے نہ ماننے سے آپؐ کی امت کو جہنمی کہتا ہے وہ حضور انور ﷺ کی اور آپؐ کی امت کی نہایت ہتک کرتا ہے اور حضور انور سرور انبیاء اور آپؐ کی امت کو بہترین امت نہیں مانتا اور صریح آیات قرآنیہ کا منکر ہے اب اس کی زیادہ تشریح ملاحظہ ہو۔

بعد حمد خدا و نعت سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ناظرین حق بین بغور ملاحظہ کریں۔

لفظ خاتم النبین جو اس مضمون کے عنوان پر بقلم جلی لکھا گیا ہے عربی لفظ ہے اس کے وہی معنی ہوں گے اور بالضرور وہی ہونا چاہئیں جو عرب کے محاورہ اور ان کی بول چال میں مروج تھے اور اب تک ہیں کیونکہ قرآن مجید خاص محاورہ عرب میں نازل ہوا ہے اسی وجہ سے کسی ذی علم یا بے علم کو جائز نہیں ہو سکتا کہ ان معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی بیان کرے اس کو اس طرح سمجھ لینا چاہیے کہ غالب دہلوی کے رسالہ اردو معنی کے ہر جملہ کے وہی معنی ہوں گے جو اہل زبان دہلی سمجھتے ہیں اب اگر کوئی بنگالی یا کالمی اس کے دوسرے معنی اپنے خیال کے بموجب کرنے لگے تو ہرگز وہ قابل اعتبار نہیں ہوں گے بلکہ اس کی جہالت سمجھی جائے گی اور اگر ایسا کرے گا تو اسے تحریف کہا جائے گا جس کی مذمت قرآن مجید میں آئی ہے اور اس کا التزام یہود کو دیا گیا ہے کیونکہ یہودیوں کی عادت یہ ہو گئی تھی کہ اپنے غلط مدعا اور جھوٹی باتوں کے ثابت کرنے کے لیے توریت میں لفظی اور معنوی تحریف کرتے تھے اور توریت کے اصلی معنی اور مطلب بدل کر عوام کو اپنے غلط مدعا کا ثبوت توریت سے بتاتے تھے بعینہ یہی حال مرزائیوں کا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرما کر لفظی تحریف کا دروازہ تو بند کر دیا البتہ معنوی تحریف متعدد و گروہ کرتے ہیں مثلاً تیرہویں صدی کے درمیان میں ایک گروہ بابی پیدا ہوا جس کے ماننے والے یورپ اور امریکہ اور رنگون میں زیادہ ہیں یہ گروہ قرآن مجید کو مان کر یہ کہتا ہے کہ ہمارے رسول نے شریعت محمدیہ کو بالکل منسوخ کر دیا اور ہماری کتاب نے احکام محمدیہ کو بدل دیا مثلاً ماں، بیٹی، بہن سے نکاح حرام تھا، ہماری کتاب کی رو سے ان سے نکاح جائز ہو گیا، اب مرشد کی بیوی کے سوا سب سے نکاح کرنا جائز ہے، مرزائیوں کو اتنی جرأت تو نہ ہوئی کہ ماں بہن کو اپنے لیے جائز کر لیتے اور دوسری بیوی کی ضرورت نہ پڑتی۔

اب دیکھا جائے کہ یہ گروہ کیسی محکم آجوں میں تحریف کر کے اپنے مدعا کو ثابت کرتا ہے اسی طرح مرزائی گروہ اپنے خیال میں غیر تشریحی نبوت کو ثابت کرنے میں خوب زور لگا کر عجیب عجیب طرح کے معنی بیان کر کے عوام کو فریب دیتے ہیں اور یہودیہ نہ تحریف معنویہ کا نمونہ دکھاتے ہیں چنانچہ لفظ خاتم النبین کی تحریف خوب ہی دل کھول کر کی ہے اور عجیب عجیب طرح کے معنی بیان کیے ہیں اور اعلانیہ جھوٹ بول کر عوام کو فریب دیا ہے صحیح معنی کی شرح ملاحظہ ہو۔

خاتم النبین میں دو لفظ ہیں خاتم اور النبین، قرآن مجید میں لفظ خاتم دو طرح سے آیا

ہے یعنی جناب رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے اکثر پڑھنے والوں نے خاتم کی ت کو زیر سنا ہے اور بعض نے زیر سنا ہے اگرچہ ہندوستان میں زیر ہی رائج ہو گیا ہے اور جہلاء اسی کو ہی صحیح سمجھتے ہیں (حالانکہ دونوں قرأتیں صحیح ہیں) اس لفظ کے کئی معنی ہیں مہر کو بھی خاتم کہتے ہیں اور انگٹھی کو بھی کہتے ہیں اور آخری کو بھی کہتے ہیں مگر عرب کی بول چال میں جب یہ لفظ کسی جماعت کی طرف مضاف ہوتا ہے جس طرح عنوان بیان میں انبیاء کرام کی جماعت کی طرف مضاف کیا گیا ہے اور خاتم النبیین کہا گیا ہے اس حالت میں اس کے ایک ہی معنی ہیں یعنی آخر النبیین اس کے دوسرے معنی نہیں ہو سکتے چنانچہ کتاب لسان العرب (جو اہل عرب کے نزدیک نہایت معتبر اور مستند لغت ہے) اس میں محاورہ عرب سے اس کے معنی آخر کے بیان کر کے قرآن مجید کی وہ آیت نقل کی ہے جس میں حضرت سرور انبیاء علیہ السلام کی صفت میں لفظ خاتم النبیین آیا ہے اور اس کے معنی اس طرح بیان کئے ہیں اے آخر ہم یعنی خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے ہیں یعنی تمام انبیاء کے آخر میں آنے والے اس کے سوا کوئی دوسرے معنی نہیں کیے اس کی پوری عبارت اور مطلب ملاحظہ ہو۔ اصل عبارت اس کی یہ ہے۔

خاتم القوم و خاتمہم و خاتمہم اخرہم و محمد ﷺ خاتم الانبیاء علیہ و علیہم الصلوٰۃ والسلام و الخاتم و الخاتم من اسماء النبی ﷺ و فی التزیل العزیز مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ اِیْ اٰخِرِهِمْ (لسان العرب ج ۴ ص ۲۵)

خاتم القوم اور خاتم القوم ت کو زیر اور خاتم القوم ت کو زیر آخر قوم کو کہتے ہیں یعنی جب لفظ خاتم یا خاتم و خاتم کو ایک جماعت کی طرف مضاف کریں تو اس کے معنی آخر اور انتہا کے ہوتے ہیں اور آنحضرت خاتم الانبیاء ہیں اور خاتم اور خاتم دونوں آپ کے نام بھی ہیں اور قرآن مجید میں ”جو ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ و خاتم النبیین“ آیا ہے وہاں خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے ہیں یعنی تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے آپ کے بعد کوئی جدید نبی کسی مرتبہ کا نہیں آئے گا اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ خاتم النبیین کے معنی کے بیان میں صاحب لسان العرب نے کس قدر تفصیل کی ہے مگر اس کا کہیں اشارہ بھی نہیں کیا کہ نبیین سے خاص انبیاء مراد ہیں اگر کسی طرح کی تخصیص ہوتی تو ضرور بیان کرتے تاکہ اصلی مدعا ظاہر ہو جاتا اس سے ظاہر ہوا کہ تخصیص کرنا بلا دلیل ہے اور تحریف معنوی ہے۔

جب یہ لفظ قرآن مجید کا ہے اور جن کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ان کا قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے معنی آخر النبیین کے ہیں تو کلام الہی کے نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ حضرت سرور انبیاء محمد رسول اللہ ﷺ آخر النبیین ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سرور انبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ تک جتنے انبیاء آئے ہیں خواہ عالی مرتبہ یا کم مرتبہ سب کے بعد آخر میں ہمارے رسول کریم بھیجے گئے، آپ کے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ نہیں ملے گا، اس کی وجہ یہ ہے ہر کہ وہ پر روشن ہو جائے کہ حضور انور ﷺ کی نبوت و ہدایت کا ماہتاب قیامت تک روشن رہے گا اور آپ کے خادم علمائے امت اس روشنی سے مستفید ہو کر ساری امت کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے اور یہ علماء وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء کے معزز خطاب سے مشرف رہیں گے یہ وہ عزت اور مرتبہ ہے جو حضور انور کے پیشتر کسی نبی کو نہیں ملا پیشتر ہر نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت ہوتی تھی اس مختصر بیان میں تو ختم نبوت کا ثبوت قرآن مجید سے دیا گیا اور اس کی تفصیل رسالہ ختم النبوۃ فی الاسلام میں کی گئی ہے اور قرآن مجید کی دس آیتوں سے ختم نبوت کو ثابت کیا ہے اور خاتم النبیین کے معنی متعدد کتب لغات کاملہ سے بیان کئے ہیں جس سے بالیقین ثابت ہوا کہ حضور ﷺ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالیقین جھوٹا ہے اب اس کی تصدیق و تفصیل جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہے اور ایسے جھوٹے مدعیوں کی پیشین گوئی کی ہے جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے چنانچہ ارشاد ہے۔

۱..... وَاَنَّهُ سَيَكُونُ فِيْ اٰمَتِيْ كَذٰبُوْنَ ثَلٰثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ اَللّٰهُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ (مسلم ج ۲ ص ۳۹۷ ترمذی ج ۲ ص ۳۵ ابوداؤد ج ۲ ص ۲۲۸)

”جناب رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ میری امت میں تیس جھوٹے ہوں گے اور ان میں پر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں خدا کا رسول ہوں حالانکہ میں تمام انبیاء کا ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔“

اس حدیث میں پہلے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے جھوٹے مدعیان نبوت کو جھوٹا فرما کر ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل میں جملہ ”وَ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ“ فرمایا جس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجھے خاتم النبیین فرمایا ہے جس کے معنی ہیں آخر النبیین کے، مگر حضور ﷺ نے اس کی دوسری تفسیر بیان کرنے کی غرض سے الفاظ بدل دیئے اور لا نبی بعدی فرمایا یعنی میرے بعد کوئی نبی کسی قسم کا نہ ہوگا، یہ عموم اس وجہ سے ہوا کہ لفظ نبی نکرہ

ہے جو ہر قسم کے نبی کو شامل ہو یعنی جس پر نبی کا لفظ بولا جائے خواہ وہ تشریف ہی ہو یا غیر تشریف ہی ظلی ہو یا بروز طفیلی ہو یا غیر طفیلی اور جو قسم نکلے سب کو یہ لفظ شامل ہے پھر اس پر لائفی جنس کا لا کر یہ فرمایا کہ کسی قسم کا کوئی نبی میرے بعد نہیں ہے یعنی کسی انسان کو کسی قسم کی نبوت کا مرتبہ نہیں ملے گا اس سے لفظ انہیں کے معنی کی کامل تشریح ہو گئی کہ اس پر الف لام استغراق کا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ تمام انبیاء کے آخر میں ہیں خواہ کامل ہوں یا کم مرتبہ کے ہوں آپ کا وہ عالی مرتبہ اور وہ شان رحمت ہے کہ آپ کا ماننے والا کسی کے نہ ماننے سے جہنمی نہیں ہو سکتا اس لیے آپ کے بعد کسی نبی کا آنا آپ کی نہایت کسر شان ہے کہ آپ کا نہ ماننے والا دوسرے کے نہ ماننے سے آپ کے سایہ رحمت میں آ کر پھر وہ سخت زحمت میں پڑ جائے اور جہنم کا مستحق ہو جائے اور آپ کی رحمت عامہ اس کے کچھ کام نہ آئے اور وہ جدید نبی آپ کی شان رحمت کو ملیا میٹ کر دے جیسا کہ مرزائے قادیان نے تمام جہان کے محمدیوں کو جہنمی بنا کر آپ کی عالی شان کو اپنے خیال میں پامال کیا ہے صد ہزار لعنت کا ہار ایسے جھوٹے کے گلے میں کس قدر افسوس ہے کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور دو چار عیسائیوں کو بھی تو مسلمان نہ بنا سکے مگر چالیس کروڑ مسلمانوں کو کافر بنا دیا مسیح موعود اسی لیے آئے تھے؟

اس حدیث کو ثوبان، ابو ہریرہ، ابن عمر، ثمرہ، ابن جندب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اصحاب کرام سے صحیح مسلم اور ترمذی اور ابوداؤد وغیرہم نے روایت کیا ہے یعنی صحاح ستہ کی متعدد اور مستند کتابوں میں متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے یہ حدیث نہایت قابل غور کئی وجہ سے ہے اول یہ کہ اس حدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ دو باتوں کی پیشین گوئی فرماتے ہیں ایک یہ کہ میرے بعد جھوٹے مدعی نبوت آئیں گے دوسرے یہ کہ کوئی نبی میرے بعد مبعوث ہونے والا نہیں ہے اس مدعا کو مختلف اوقات میں متعدد طریقوں سے آپ نے بیان فرمایا ہے ایک تو یہ بیان ہوا۔

۲.....کنز العمال کی جلد ۶ میں ثوبان کی روایت میں یہی الفاظ ہیں بجز ایک لفظ کے۔

۳.....(صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۰۹ باب علامات نبوة فی الاسلام) میں قرب قیامت کی علامات میں بیان ہے۔ ”یبعث دجالون کذابون قریبا من ثلاثین کلہم یزعم انه رسول اللہ“ یعنی قیامت کے قریب تیس جھوٹے دجال انھیں گے اور ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔

۴.....ترمذی میں ہے۔



”لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون دجالون قريب من ثلاثين كلهم يزعم انه

رسول الله“ (ترمذی جلد ۳ ص ۳۵ باب ماجاء لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون)

یعنی جب تک دنیا میں قریب تیس کے جھوٹے دجال پیدا نہ ہوئیں گے قیامت قائم نہ ہوگی۔

۵..... پانچویں حدیث (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۲۰ باب الناس تبع القریش) میں جابر بن سمرہؓ سے روایت ہے۔ ”سمعت النبی ﷺ ان بین یدی الساعة کذابین فاحذروهم“ ”جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپؐ نے اپنی تمام امت سے فرمایا کہ قیامت کے قریب جھوٹے مدعی ہونے والے ہیں ان سے بچو۔“

جھوٹوں کے آنے کی اور ان سے بچنے کی تاکید کس طرح ہو رہی ہے؟ مگر کسی جدید نبی کے آنے اور اس پر ایمان لانے کا ذکر کسی حدیث میں نہیں آیا حالانکہ اس کا ذکر بھی ضرور تھا تیسری چوتھی اور پانچویں حدیث میں نہایت صاف طور سے یہ بیان ہے کہ ان جھوٹے مدعیوں کے لیے جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد سے قیامت تک کوئی وقت معین نہیں ہے بلکہ الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں زیادہ ہوں گے یعنی اگرچہ جھوٹے مدعی رسول اللہ ﷺ کے آخر وقت سے شروع ہو گئے مگر قیامت تک ان کا سلسلہ آہستہ آہستہ رہے گا کوئی وقت ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہا جائے کہ اس پیشین گوئی کا وقت تمام ہو گیا اب سچے نبی آ سکتے ہیں کیونکہ حدیث کے الفاظ اس کے بالکل خلاف ہیں اگرچہ نبی آتے تو ان حدیثوں میں ضرور ان کا بیان ہوتا کیونکہ جس طرح جھوٹوں سے ڈرانا اور بچانا ضروری تھا اسی طرح اگرچہ نبی آنے والے تھے تو ان پر ایمان لانے کی ترغیب ہوتی اور ضرور ہوتی کیونکہ جس طرح جھوٹوں سے بچنے کی ضرورت ہے اس طرح بچوں پر ایمان لانا فرض ہے اس لیے کسی حدیث میں مثلاً آتا کہ ”ان انبیاء اللہ سیبعث تحت نبوتی فامنوا بہم“ مگر اس مضمون کا تو ایک روایت میں بھی پتہ نہیں ہے اور جھوٹوں کے بیان میں متعدد حدیثیں مختلف طور سے آئی ہیں اور بعض میں اسکے بعد نہایت صفائی سے ”لانیسی بعدی“ فرما کر متعدد طریقے سے ہر قسم کے نبی کی نفی فرمائی ہے کسی قسم کی تخصیص کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتی الفاظ حدیث اور قرینہ سابق اور لاحق سب عموم پر شہادت دیتے ہیں اور جنس نبی کی نفی ثابت ہوتی ہے مگر اس کے خلاف آنکھوں پر جہالت اور تعصب کی پٹی باندھ کر ان

حدیثوں میں بلا دلیل تخصیص کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور عوام کے فریب دینے کو وہ اقوال پیش کیے جاتے ہیں جو کسی دلیل عقلی اور نقلی سے خاص کئے گئے ہیں اس پر ذرا غور نہیں کرتے کہ کس کس طریقے سے حضور علیہ السلام نے سچے نبی کے ہونے کی عام طور پر نفی کی ہے اور خصوصیت کا کہیں اشارہ بھی نہیں فرمایا ہے جس کو دعویٰ ہو وہ کوئی حدیث پیش کرے اس بیان میں پہلا طریقہ ”لانیہی بعدی“ ہے اس طریقے کی چند حدیثیں اس وقت پیش نظر ہیں جن میں تخصیص کا کہیں اشارہ بھی نہیں ہے۔

۶..... طریقہ یہ ہے ”انا اخر الانبیاء“ میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں (ابن ماجہ ص ۲۹۷)

۷..... طریقہ تاکید کے ساتھ ”فانی اخر الانبیاء“ اس میں شبہہ نہیں کہ میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۴۴۶)

۸..... طریقہ ”انا خاتم الانبیاء“ میں تمام انبیاء کو ختم کرنے والا ہوں۔

(کنز العمال ج ۱۲ ص ۲۷۰ حدیث نمبر ۳۴۹۹۹)

ان تین طریقوں میں تو لانا نبی بعدی کی طرح لافنی جنس کا نہیں ہے اور لافنی الاعلیٰ کا فریب کچھ چل نہیں سکتا۔

۹..... طریقہ ”انہ لانیہی بعدی و سیکون خلفاء“ اس میں شبہہ نہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، بلکہ خلفاء ہوں گے۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۹۱) اس میں جناب رسول اللہ ﷺ نے لفظ سیکون خلفاء فرما کر نہایت صاف طور پر مطلق نبی کے ہونے کی نفی فرمادی اور نہایت صاف طور سے دو پیشینگوئی آپؐ نے فرمائیں اؤل کسی قسم کے نبی کے نہ ہونے کی اور دوسرے خلیفہ کے ہونے کی اگر کسی قسم کا کوئی نبی ہوتا تو یہاں ضرور اس کا ذکر فرماتے۔

۱۰..... دسواں طریقہ ”لم یبق من النبوة الا المبعثرات“ (بخاری ج ۲ ص ۱۰۳۵ باب الرؤیا

الصلاة مسلم ج ۱ ص ۱۹۱ باب النهی عن قراءة القرآن فی الركوع والسجود)

یعنی نبوت کا کوئی حصہ اور کوئی شعبہ اور جز باقی نہیں رہا، صرف عمدہ خواہیں باقی ہیں اس کا حاصل یہ ہوا کہ نبوت کے اجزاء میں جن کا ہونا نبی کے لیے ضروری ہے اب ان اجزاء میں سے کوئی جزء کسی کو نہ ملے گا، صرف ایک حصہ اس کا امت محمدیہ کے نیک لوگوں میں پایا جائے گا، یعنی صالحین امت محمدیہ کو اب دیکھیں گے اور اس کا ظہور ہوگا، اس صحیح ترین حدیث نے ظلی بروزی ہر طرح کی نبوت کی نفی کردی اور نہایت صاف طور سے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کے بعد کسی کو کسی طور

کی نبوت کا مرتبہ نہ ملے گا اور نبوت کا جزا اور جو حصہ باقی رہا ہے اس سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے حدیث میں صاف طور سے فرمادیا کہ لم یبق من النبوة یعنی نبوت کا کوئی جزا اور کوئی حصہ باقی نہیں رہا بجز حجتی خواب کے۔

۱۱..... طریقہ ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا اور انہوں نے جواب دیا۔

”قَالَ اَدَمُ مَنْ مُحَمَّدٌ قَالَ اَخِرُ وَلَدُكَ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ“

(کنز العمال ج ۱۱ ص ۳۵۵ حدیث نمبر ۳۲۱۳۹)

یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ محمد (ﷺ) کون ہیں انہوں نے جواب دیا کہ جتنے انبیاء تمہاری اولاد میں ہوں گے ان سب کے آخر میں یہ تمہارے بیٹے نبی ہوں گے۔

اس روایت میں کوئی بناوٹ مرزائیوں کی نہیں چل سکتی اس میں تو نہایت صاف طریقہ سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جس قدر انبیاء ہوں گے عالی مرتبہ یا کم مرتبہ سب کے آخر میں محمد رسول نبی ہوں گے آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

ناظرین احادیث مذکورہ اور ختم نبوت کے طریقوں کے بیان سے کس قدر روشن ہو رہا ہے کہ جناب رسول اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کو اس قدر ضروری اور مہتمم بالشان سمجھا تھا کہ متعدد اصحاب سے مختلف اوقات میں صاف بیانی کے مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔

تاکہ کسی کم علم ناقص فہم کو بھی اس کے سمجھنے میں کوئی عذر نہ رہے مگر قادیانی مبلغ اپنی کمائی کی دھن میں حواس باختہ ہو گئے ہیں کہ علم احادیث صحیحہ قطعیہ کے مقابلہ میں قول لافنی الا علیٰ کی دھن میں حواس باختہ ہو گئے ہیں کہ علم احادیث صحیحہ قطعیہ کے مقابلہ میں قول لافنی الا علیٰ پیش کرتے ہیں اور لاصلوٰۃ الابفاتحۃ الکتاب کو دیکھاتے ہیں اور اتنا نہیں سمجھتے کہ لافنی الا علیٰ کی خصوصیت تو چشم دید اور ہاتھوں کے حس معائنہ اور مشاہدہ کرار ہی ہے کہ بے انتہا دوسرے جوان موجود ہیں اس لیے لافنی سے ایک خاص صفت کے جوان مراد ہیں اگر خاص جوان مردانہ لیے جائیں تو معائنہ اس جملہ کو جھوٹا قرار دے گا لافنی بعدی میں تخصیص کی کون سی دلیل ہے؟ اسی طرح ”لاصلوٰۃ الابفاتحۃ الکتاب کو دوسری حدیث قرآۃ الامام قرآۃ لہ“ سے خاص کر رہی ہے مبلغ قادیان کیوں اپنے ایمان کو تباہ کرتے ہیں اور دائمی جہنم میں گرنا چاہتے ہیں اسے خوب سمجھ لو کہ لافنی نفی جنس کا کلام عرب میں عام نفی کے واسطے موضوع ہے ہاں البتہ

جہاں عقلی یا نقلی کافی دلیل اس کے خلاف پر ہوگی اس وقت وہ خاص ہو جائے گا۔ اب قادیانیوں کا لائبی بعدی کو خاص کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بت پرست لا الہ الا اللہ کو خاص کرے اور یہ معنی کہے کہ جو معبود عالی مرتبہ ہے وہ اللہ ہے اس سے جھوٹے معبودوں کی نفی نہیں ہوتی جو کم مرتبہ کے ہیں اب اگر آپ بت پرستوں کے شریک ہوں اور کلمہ طیبہ کے لائے نفی جنس میں خصوصیت کے قائل ہوں اور جھوٹے معبودوں کو مانیں تو ہم آپ سے خطاب چھوڑ دیں گے اور اگر آپ ان کے معبودوں کو تسلیم نہ کریں اور کلمہ لا الہ الا اللہ سے عام معبودوں کی نفی ثابت کریں گے تو لائبی بعدی میں بھی آپ کو عام نفی ثابت کرنی ہوگی کوئی خصوصیت آپ ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ الفاظ عرب محاورہ عرب میں جس معنی کے لیے موضوع ہیں اس سے جو مطلب سمجھا جاتا ہے وہی مطلب ہر عربی جملہ کا ہونا ضرور ہے البتہ بعض وقت کسی دلیل عقلی یا نقلی سے اس کے خلاف ہو سکتا ہے جس طرح مبلغ قادیانی نے چند جملے لکھے ہیں ان میں دلیل عقلی یا نقلی خاص کرنے کی موجود ہے جیسا کہ بیان کیا گیا، یہاں تک ختم نبوت کے ثبوت میں بارہ حدیثیں بیان کی گئیں اور مبلغ مرزائی کے شبہات کا جواب دیا گیا، اس کے بعد چند حدیثوں کی تفصیل اور بھی ملاحظہ کیجئے۔

۱۲..... حدیث۔ صحیح ابن ماجہ میں دجال کے بیان میں ایک طویل حدیث مذکور ہے اس میں جناب رسول اللہ ﷺ نے نہایت ہی صفائی سے اپنی امت سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے۔

اَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ. (ابن ماجہ باب قتال الدجال ص ۲۹۷)

یعنی میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم تمام امتوں کے آخر میں ہو۔ نہ میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے یعنی امت محمدیہ کے بعد کوئی مرزائی یا غلامی یا غلمدی یا احمدی امت نہ ہوگی۔

خوب خیال رہے کہ یہاں الانبیاء میں اور الامم میں کسی قسم کی تخصیص نہیں ہے جو تخصیص کرے وہ بلا دلیل حدیث نبوی میں یہودیہ یا نہ تحریر معنوی کرتا ہے اس حدیث میں حضور انورؐ نے لفظ خاتم نہیں فرمایا بلکہ اس کی جگہ ایسا صاف لفظ فرمایا جسے جاہل بھی سمجھتا ہے کہ آنحضرتؐ نے اپنے آپ کو آخر الانبیاء فرمایا جس کے معنی عام و خاص ہر ایک بے تکلف یہی سمجھتا ہے کہ ہمارے رسول اللہ سب انبیاء کے آخر میں تشریف لائے۔ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی یہ تو پہلا جملہ حدیث کا ہے دوسرا جملہ یعنی أَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ نے پہلے جملے کی تاکید اور تشریح کر دی کیونکہ جب کوئی نبی آتا ہے تو اس کی امت خاص ہوتی ہے اور جب امت محمدیہ کے بعد کوئی امت نہیں

ہے تو کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھا جائے کہ کس صفائی سے اور کیسے عمدہ طریقے سے خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین کے جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمادئے ہیں وہ قادیانی مبلغ جن کی باتوں کا جواب اس کے پہلے دیا گیا ہے چونکہ حقانیت اور سمجھ سے انہیں کچھ واسطہ نہیں ہے اور زبان درازی خوب آتی ہے وہ اس حدیث کو جو اس میں دوسری حدیث اپنی ناسمجھی سے پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے۔

۱۳..... قال رسول الله ﷺ فاني اآخر الانبياء وان مسجدي اآخر المساجد (صحیح مسلم شریف ج ۱ ص ۴۴۶ باب فصل الصلوة بمسجدي مكة والمدينة)

یعنی میں آخر الانبیاء ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہیں۔ یعنی جس طرح اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی مسجد کو آخری مسجد کہا ہے حالانکہ آپ کی مسجد کے بعد ہزاروں مسجدیں بنیں اور بنتی رہیں گی اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو آخر الانبیاء کہا ہے جس طرح آپ کی مسجد کے بعد اور مسجدیں بنیں اسی طرح آپ کی نبوت کے بعد اور انبیاء ہوں گے؟

مبلغ صاحب حدیث کا مطلب بیان کرنے سے عاجز ہیں، آنجناب یہ تو فرمائیے کہ آخری مسجد کہنے سے کیا مقصد ہے؟ کیا آخری نبوت حضرت سرور انبیاء اور آپ کی آخری مسجد میں مشابہت تامہ ہے اور جس طرح آپ کی مسجد کے بعد دنیا میں بے شمار مسجدیں ہوتی رہیں اور ہوتی رہیں گی کوئی قریب اور کوئی قصبہ مسلمانوں کا مسجد سے خالی نہیں رہا۔ یہی حالت آپ کی نبوت کے بعد انبیاء کی ہونی چاہیے اور آپ کے خیال کے بموجب جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بہت سے نبی ہوئے اس طرح حضرت سرور انبیاء کی امت میں بھی بے شمار انبیاء ہونے چاہیں اور ہر وقت میں حسب عادت الہی ان بے شمار انبیاء کے منکر بھی بے شمار ہوتے رہیں گے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ امت محمدیہ کے بے شمار مسلمان قیامت تک جہنم کے مستحق ہوتے رہیں گے اب یہ اندازہ کہ ایک وقت اور ایک نبی کے وجود سے کس قدر جہنمی ہوں گے؟ اس کی حالت مرزا قادیانی کے وجود سے معلوم ہو سکتی ہے آپ کے دعویٰ کے وقت میں مردم شماری کے لحاظ سے چالیس کروڑ امت محمدیہ تھی ان میں سے دو چار ہزار یا دو چار لاکھ تو بچے اور باقی سب جہنم کے مستحق ہو گئے اور یہ چند لاکھ کا جنتی ہونا کچھ مرزا جی کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ مرزا کے دعویٰ کے پہلے ساری امت محمدیہ جنتی تھی البتہ دعویٰ کے بعد جن کو جہنمی بنایا انہیں مرزائی رحمت قہر کا جہنم لیکر جہنم میں ان کی پرورش کرے گی اور وہ دو چار لاکھ بھی اسی میں داخل تھے۔

مبلغ صاحب یہ تو آپ کے بیان سے لازم آتا ہے اب اگر آپ کا مطلب کچھ اور ہے تو صاف بیان کیجئے مگر ایسا مطلب بیان کیجئے جس کی تعیین کسی دلیل سے ہو مگر یہ آپ کے امکان میں نہیں ہے آپ راہ نجات چھوڑ کر یہ کہے جارہے ہیں اب حدیث کا مطلب مجھ سے سنئے جس طرح اس سے پہلے تیرہ حدیثوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اس طرح اس حدیث میں آنحضرتؐ نہایت تاکید سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آخر الانبیاء ہوں میرے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ نہ ملے گا اور اس کے بعد مسجدی آخر المساجد اسی مطلب کی تاکید ہے یعنی انبیاء کی مسجدیں مجھ سے پہلے بہت ہو چکیں اب یہ میری مسجد آخری مسجد ہے اس کے بعد نبی کی مسجد کوئی نہ ہوگی اس کی تشریح اور اس مطلب کے دلائل ملاحظہ ہوں۔

۱..... اس حدیث میں ایسی صراحت اور تاکید سے ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا ہے کہ کسی فہمیدہ ایماندار کو انکار کی گنجائش نہیں ہو سکتی ملاحظہ ہو رسول اللہؐ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اس میں شبہ نہیں کہ میں آخر الانبیاء ہوں اس لفظ کے معنی زبان اردو میں اور عربی میں یقینی طور سے یہی ہیں کہ رسول اللہؐ تمام انبیاء کے آخر میں ہیں آپؐ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

انبیاء لفظ جمع ہے اور اس پر الف لام استغراق کا ہے یا جنس کا اس لیے ہر قسم کے نبی کو شامل ہے کوئی وجہ نہیں ہے جس سے کسی قسم کی تخصیص کی جائے۔

۲..... اس حدیث سے پہلے جو حدیث ہے اس میں ان الفاظ کے سوا جناب رسول اللہؐ اپنی امت کو آخر الامم فرماتے ہیں اس کا نتیجہ اور حاصل یہی ہے کہ آپؐ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ کیونکہ اگر آپؐ کے بعد کوئی نبی ہوتا اور امت محمدیہ کے سوا کوئی دوسری امت ہوتی تو قرآن مجید کی کسی آیت میں یا کسی روایت میں صاف طور سے اس کا ذکر ضرور آتا مگر کہیں نہیں آیا۔

۳..... کس قدر عقل و فہم سلب کر دی گئی ہے کہ جھوٹے کذابوں کے آنے کا ذکر تو صاف طور سے بار بار آئے اور بچوں کے آنے کا ذکر کہیں نہ پایا جائے یہ کامل تصدیق اس بات کی ہے کہ جناب سرور انبیاء ﷺ آخر الانبیاء ہیں آپؐ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اس کے علاوہ پہلی حدیث کے بیان میں اس کا بیان دیکھو اب اس بیان کو زیادہ طول نہیں دیتا اس قدر کہتا ہوں کہ علامہ زرقانی نے مؤطا کی شرح میں اس آخری مسجد کے تین معنی ہمارے موافق بیان کئے ہیں اگر کتاب میسر ہو اور دیکھنے کی تاب ہو تو دیکھو اور اگر یہ بھی نہ ہو تو جناب رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے اپنی جہاں و کذاب پر شہادت ملاحظہ کر کے کچھ تو خوف خدا کرو۔

## فضل الحرمین والمسجد الاقصیٰ

۱۴ ..... ”انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء“

(کنز العمال ج ۱۲ ص ۲۷۵ حدیث نمبر ۳۳۹۹۹)

”میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور میری مسجد تمام انبیاءوں کی مسجد کے آخر میں ہے یعنی میرے بعد نہ کوئی نبی ہونے والا ہے اور نہ کوئی نبی کی مسجد ہوگی۔“

جس طرح آپؐ پر نبوت ختم ہے اور آپؐ خاتم الانبیاء ہیں اس طرح آپؐ کی مسجد خاتم مساجد الانبیاء ہے ظاہر ہے کہ جب کوئی نبی نہ ہوگا تو نبی کی مسجد بھی نہ بنے گی حضرت مسیح علیہ السلام آخر وقت میں جب نازل ہو کر آئیں گے تو رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں نماز پڑھیں گے کوئی نبی مسجد نہیں بنائیں گے (جسے انبیاء کی مسجد میں اضافہ قرار دیا جاسکے) اس لیے آپؐ کی مسجد آخر المساجد الانبیاء ہوئی دیکھا جائے کہ ایک حدیث میں آپؐ نے آخری مسجد کا صاف بیان نہیں فرمایا؟ مگر نبی کے آنے کا ذکر تو کسی حدیث میں آپؐ نے کسی طرح نہیں فرمایا وہ تفصیل رسالہ ختم النبوة فی الاسلام میں دیکھئے گا اور اپنے جہل مرکب کو معاند نہ کیجئے گا۔

الغرض جناب رسول اللہ کے آخر الانبیاء ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اب جو ان معنی سے انکار کرتا ہے اور دوسرے معنی خلاف قرآن اور احادیث صحیحہ کے اپنی طرف سے لگاتا ہے وہ بالضرور جناب رسول اللہ ﷺ کا مکتذب ہے اور مسلمانوں کو بہکا تا ہے اگرچہ ظاہر میں بغرض فریب دہی انکار نہ کرے اور تعریف کرتا رہے خود مرزا قادیانی جناب رسول اللہ ﷺ کی تعریف بھی کرتے تھے اور سب انبیاء سے افضل بتاتے تھے اور جب اپنی تعریف کے جوش میں آتے تھے تو کہیں تو اپنے کو رسول اللہ ﷺ کے برابر اور کہیں اپنے آپ کو بہت بڑھا ہوا کہتے تھے چنانچہ ان کا الہام ہے ”اقامیٰ مالک یوت احد من العالمین“ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وہ فضائل و کمالات دیئے جو عالم میں کسی کو نہیں دیئے۔“ اب ظاہر ہے کہ اس الہام سے مرزا قادیانی کو دعویٰ ہے کہ میں سارے انبیاء اور اولیاء سے افضل ہوں تحفہ گولڑویہ میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ سے تین ہزار معجزے ہوئے (تحفہ گولڑویہ ص ۳۰ خزائن ج ۷ ص ۱۵۳ اور ہدیہ الوحی ص ۶۸ خزائن ۲۲ ص ۷۰) تحفہ الاذہان میں اپنے معجزوں کی تعداد تین لاکھ سے زیادہ بیان کرتے ہیں اس سے ظاہر ہوا کہ وہ اپنے آپ کو سو حصے زیادہ افضل جناب رسول اللہ سے سمجھتے تھے اب خیال کرنے کا

مقام ہے کہ جو جھوٹوں کا سردار اور فریبوں کا افسر ہو چنانچہ متعدد رسالوں میں ان کے جھوٹ و فریب دیکھائے گئے ہیں مگر کسی قادیانی نے دم تو نہیں مارا اسے مبلغ صاحب نبی اور اپنا مرشد مانتے ہیں مذکورہ حدیثوں میں ختم نبوت کے بیان کا جو پانچواں طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کی کامل طور سے شرح کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے جس سے لَا نَبِيَّ بَعْدِي کا عموم آفتاب کی طرح روشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ہمیشہ انبیاء سیاست کرتے رہے اور احکام دینی اور دنیاوی سب کا اجراء اس وقت کے نبی کے اختیار میں ہوتا تھا جب ایک نبی کا انتقال ہوتا تو اس کے بعد ہی اس کی جگہ دوسرا نبی اللہ تعالیٰ قائم کرتا تھا اس سے بخوبی ثابت ہوا کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل کا فیضان اور اثر ہدایت ان کی زندگی تک محدود رہتا تھا اس لیے ان کے انتقال کے بعد ہی دوسرا نبی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا تھا اس حالت میں حضرت موسیٰ اور تمام انبیائے بنی اسرائیل برابر ہیں مگر اہل علم اس سے بخوبی واقف ہیں کہ ان انبیائے بنی اسرائیل کے مراتب میں فرق تھا بعض عالی مرتبہ اور بعض کم مرتبہ کے تھے ان سب کی حالت یکساں بیان فرما کر حضور انور اپنی عظمت و شان کو عام فہم طریقے سے تاکید اور عموم کے ساتھ اس طرح بیان فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي یعنی اس کو اچھی طرح تحقیق سے معلوم کر لو کہ میرے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے یعنی کسی کو نبوت کا مرتبہ نہیں ملے گا البتہ خلفاء ہوں گے جو امت محمدیہ کی سیاسی خدمات کو انجام دیں گے چنانچہ ارشاد ہے کہ۔

۱۵..... کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبياء كلما هلك بنی خلفه بنی وانہ  
لانی بعدی و سیکون خلفاء (بخاری ج ۱ ص ۴۹۱ باب ما ذکر عن بنی اسرائیل)

بنی اسرائیل پر انبیاء حکومت کرتے تھے جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا البتہ خلفاء ہوں گے اور وہ سیاست کریں گے۔

الغرض حضورؐ نے اس حدیث میں اپنے بعد مطلقاً ہر طرح کے نبی کے آنے کی نفی اس طرح فرمادی کہ کوئی شبہ باقی نہ رکھا کیونکہ اس لفظ نبی کے عموم کا ثبوت پہلے لفظ نبی کے عموم سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کیونکہ پہلے عام انبیاء کے آنے کا اثبات جناب رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں اس کے متصل ہی اپنے بعد کی حالت اسی لفظ نبی سے بیان کرتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ پہلے نبی کے آنے کو فرمایا ہے اور پھر نبی کے نہ آنے کو اس لیے عمومیت لفظ کے علاوہ بیان سابق دوسری



دلیل ہے اس جملہ کے عموم کی، مگر حضور ﷺ نے انہیں دو دلیلوں پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ جملہ **مَسْكُونٌ خُلَفَاءُ** فرما کر ختم نبوت کے عموم کی تیسری دلیل ارشاد فرمائی جس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح پہلے نبی کے بعد انبیاء آتے تھے میرے بعد خلفاء ہوں گے نبی نہ ہوں گے اگر کسی طرح کا کوئی نبی ہوتا ہوتا تو خلفاء کے ساتھ اس کا ذکر بھی ضرور ہوتا اگر سیاسی نبی کی نفی ہوتی تو اس طرح ارشاد ہوتا ”لانیسی بعدی نسوس اعنی ہل مسکون خلفاء“ مگر کسی حدیث میں اس کا اشارہ بھی نہیں ہے یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جسے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ مرزا قادیانی نے بھی لکھا ہے۔ (شہادۃ القرآن ص ۳۱ خزائن ج ۶ ص ۳۷۷)

اس حدیث سے نہایت روشن طریقے سے دو باتیں ثابت ہوئیں ایک یہ کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد نبوت تشریحی، غیر تشریحی، ظنی، بروزی کسی طرح کی نہیں ہو سکتی یعنی پہلے طریقے میں جو حدیث نقل کی گئی ہے اس کے آخری جملہ ”لانیسی بعدی“ میں لافنی جنس آیا ہے جس سے ہر قسم کے نبی کی نفی ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا مگر یہ عموم کا ثبوت علمی طریقے سے ہے جسے عوام نہیں سمجھتے اس لیے مرزائی ان سے جھوٹی باتیں بنا کر فریب دے سکتے ہیں اس طرح دوسرے طریقے میں بھی جاہلوں اور کم فہموں کو بہکا سکتے ہیں مگر حدیث کے اس طریقے میں پہلے عام انبیاء علیہ السلام کی حالت بیان کر کے اپنے بعد کی حالت ایسے الفاظ سے بیان فرمائی جس سے ان کے فریب کے راستے بند ہو گئے کیونکہ پہلے آپؐ نے ہر قسم کے انبیاء کا آنا بیان فرمایا کسی قسم کی تخصیص نہیں کی اور اپنے بعد نبی کے نہ آنے کو تاکید سے فرما کر خلفاء کا ہونا بیان فرمایا اس سے یقینی طور سے ظاہر ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہ ہوگا اور کسی خلیفہ کو نبی کا لقب نہیں ملے گا کیونکہ آپؐ نے پہلے ”لانیسی بعدی“ کہہ کر ”مسکون خلفاء“ فرمایا ہے اگر کسی خلیفہ کو نبی کا لقب ملتا تو آپؐ اس کے پیشتر ”لانیسی بعدی“ کبھی نہ فرماتے پس آپؐ کا سب سے پہلے عام لفظ میں انبیاء بنی اسرائیل کا اس طرح ذکر فرمانا کہ بنی اسرائیل پر انبیاء حکومت کرتے تھے جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا اور سیاسی و مذہبی خدمات اس کے متعلق ہو جاتے تھے اس کے بعد تاکید کے ساتھ عام طریقہ پر یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا محض اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ جو آپؐ کے بعد ہونے والے ہیں یعنی خلفاء انہیں بیان فرما دیا یہ صاف اس امر پر دلیل ہے کہ آپؐ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہ ہوگا کیونکہ نبی کی نفی کرنے کے بعد جملہ ”مسکون خلفاء“ فرمانے

سے یہی مقصود ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ خطرہ ہو کہ بنی اسرائیل کی طرح جب آپؐ کے بعد انبیاء نہ ہوں گے تو پھر امت محمدیہ کی سیاست کس کے ہاتھ میں رہے گی اور احکام شریعہ کس طرح نفوذ پائیں گے؟ تو اس کا جواب حضرتؑ نے دیا کہ جس طرح بنی اسرائیل پر انبیاء سیاست کرتے تھے اور ایک کے انتقال کے بعد دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا امت محمدیہ پر خلفاء سیاست کریں گے کیونکہ نبوت تو مجھ پر ختم ہو گئی لہذا جو کام کہ انبیائے بنی اسرائیل انجام دیتے تھے اس خدمت کو امت محمدیہ میں خلفاء انجام دیں گے اب ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر امت محمدیہ میں کسی طرح کے انبیاء کا آنا حضور کے خاتم النبین ہونے کے بعد جائز ہوتا تو ضرور آپؐ اس کی خبر دیتے کیونکہ آپؐ اپنے بعد کی حالت بیان فرما رہے ہیں اور نظام شریعت کی سیاست کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ کس کے ہاتھوں یہ کام انجام پائے گا؟ اور جب آپؐ نے اس کے لیے کسی نبی کی خبر نہیں دی بلکہ یہ فرمایا کہ خلفاء ہوں گے تو صاف ظاہر ہو گیا کہ آپؐ کے بعد کس طرح کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور تا قیامت یہی خلفاء یکے بعد دیگرے امت محمدیہ پر سیاست کرتے رہیں گے۔

اس میں حضور علیہ السلام کی نہایت عظمت و شان یہ ہوئی کہ تمام انبیائے بنی اسرائیل کی ہدایت کا اثر ان کی زندگی تک محدود رہا اور حضور انور ﷺ کی ہدایت کا روشن چراغ قیامت تک درخشاں رہے گا، مرزا دیانی نے جابجا حضور انور علیہ السلام کو مثیل موسیٰ علیہ السلام قرار دیا ہے جس سے کمال درجہ کی بے حرمتی حضور انور ﷺ کی ہوتی ہے کیونکہ آپؐ تو حضرت موسیٰ سے بدرجہا بلند مرتبہ ہیں اور مرزا کا مثیل موسیٰ کہنا جس کے معنی یہ ہیں کہ سرور انبیاء ﷺ موسیٰ علیہ السلام کے برابر تو نہیں ہیں مگر ان کے مشابہ تھے اہل علم اس کو بخوبی سمجھیں گے۔

۱۶..... اب میں وہ ارشاد نبوی نقل کرتا ہوں جو آپؐ نے آخر عمر میں جماعت کثیر یعنی ایک لاکھ چوالیس ہزار اصحاب کرامؓ کے رو برو نہایت زور شور سے بیان فرمایا ہے یعنی اپنی وفات سے تین مہینے کنی روز پیشتر حجتہ الوداع میں ”قصواء“ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر پہاڑی پر چڑھ کر جماعت مذکورہ کے رو برو نہایت ضروری اور ہدایات عامہ آپؐ نے بیان فرمائے ہیں ان میں خاص طور سے یہ عام ارشاد بھی ہوا۔

”عن ابن امامۃ ایہا الناس انہ لانی بعدی ولا امة بعدکم الا لعابدوا ربکم“ الخ (کنز العمال جلد ۵ ص ۲۹۵ حدیث نمبر ۱۲۹۲۲)

”کہ اے حاضرین جماعت اس کو معلوم کرو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ

تمہارے بعد کوئی امت ہے اس کو اعتقاد کر کے خوب متنبہ ہو جاؤ اور اللہ کی یاد میں مشغول رہو۔“

طالبین حق اس حدیث کے معنی اور الفاظ پر خوب غور فرمائیں کہ کس طرح آپؐ نے اپنے بعد کسی نبی کے نہ ہونے کی بشارت دی ملاحظہ ہو اس وصیت کے اعلان کے واسطے بہت بڑا مجمع کیا اور اس مجمع میں اونٹنی پر سوار ہو کر عام حاضرین کو متوجہ کر کے پہلے یہی فرمایا کہ ”اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي“ جس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے متعدد معنی ہوں یا کوئی ایسا لفظ ہو جسے عام طور پر لوگ سمجھتے نہ ہوں غالباً اسی وجہ سے آپؐ نے خاتم النبیین کا لفظ نہیں فرمایا کہ بعض نا سمجھ نفس پرست دوسرے معنی لگا کر گمراہ نہ ہوں اس کے علاوہ ہر ایک ذی ہوش سمجھ سکتا ہے کہ جناب رسول اللہؐ کے بعد کسی نبی کا نہ ہونا کیسا مہتمم بالشان مسئلہ ہے کہ اس پر ایمان رکھنے کے لیے حضور انورؐ نے اپنی عمر کے درمیانی حصہ میں بارہا بیان کرنے پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ آخری عمر میں بھی جلسہ عام کر کے بلندی پر کھڑے ہو کر یہ وصیت فرمائی کہ دیکھو ایسا خیال ہرگز نہ کرنا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا بلکہ میرے بعد کوئی نبی کسی قسم کا نہ ہوگا پھر اس کی تاکید اس طرح فرماتے ہیں ”وَلَا اُمَّةَ بَعْدُكُمْ“ کوئی امت تمہارے بعد نہ ہوگی یعنی امت محمدیہ کے بعد کوئی امت غلمدی یا احمدی وغیرہ نہ ہوگی۔

ان احادیث نبویہ نے قرآن مجید کی اس نص قطعی کی کیسی تائید اور تشریح فرمائی ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا۔

اب اس کے بعد جس کے دل میں کچھ بھی ایمان ہے اس کے خیال میں کبھی اس کا خطرہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی سچا نبی ہوگا، مگر چونکہ مرزائی مذہب کی بنیاد خدا اور رسول کے بالکل خلاف ہے اس لیے یہاں بھی قرآن مجید کے نص قطعی اور بہت سی احادیث صحیحہ کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد بھی رسول آتے رہیں گے اور چونکہ قرآن وحدیث کے اصلی اور صحیح معنی سے انہیں کچھ واقفیت نہیں ہے بلکہ مرزا قادیانی یا ان کے کسی خاص مرید نے یہودیانہ تحریف کر کے جو معنی بنا کر کہہ دیئے ہیں انہیں غلط معنی پر ان کا ایمان ہے اس لیے ہمتھائے جہل مرکب قرآن مجید سے اس کا ثبوت بتاتے ہیں۔

اس مختصر بیان سے قرآن مجید کے ایک نص قطعی اور سولہ احادیث صریحہ صحیحہ سے ثابت ہو گیا کہ جناب رسول ﷺ پر نبوت و رسالت ختم ہو گئی، آپؐ کے بعد کسی کو مرتبہ نبوت نہیں ملے گا اسی وجہ سے تمام اولیائے کرام کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کو نبوت نہ ملے

گی اور کسی پر وحی نبوت نہیں آئے گی؛ بالفرض اگر کوئی ولی خلاف صریح قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے کہے تو اس کا قول لائق توجہ نہ ہوگا اور اس کی غلطی سمجھی جائے گی؛ یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ صاحب فتوحات کی نسبت ہمارے علماء میں اختلاف ہے بعض انہیں بہت برائی سے یاد کرتے ہیں بعض انہیں بڑا بزرگ سمجھتے ہیں مگر بعض مسائل میں غلطی کے قائل ہیں، فتح الباری ملاحظہ ہو، اور بعض ان کے زیادہ معتقد ہیں، عبدالوہاب شعرانی انہیں بہت مانتے ہیں اور اپنی کتاب یواقیت میں انہیں کے اقوال نقل کیے ہیں اب اگر بقائے نبوت کے وہ قائل ہیں تو علمائے منکرین کے نزدیک ان کا ایسا ہی حال ہوگا جیسا مرزا غلام احمد قادیانی کا پھر اسے ہمارے مقابلہ میں پیش کرنا جہالت ہے، مگر ہمارے خیال میں گروہ قادیانی کی یہ محض نادانی یا فریب دہی ہے، شیخ محی الدین ابن عربی نے فتوحات میں اصطلاحات صوفیاء بیان کیے اس کا سمجھنا ان اصطلاحوں کے جاننے پر موقوف ہے، گروہ قادیانی اور ان کا مرشدان سے بالکل ناواقف ہے اور بمقتضائے جہل مرکب ان کے بعض قولوں کو اپنے موافق خیال کر کے جواب میں پیش کرتے ہیں، مگر یہ یقینی ان کی غلطی ہے، فتوحات یکہ کا مطلب سمجھنا ہر ایک ملا کا کام نہیں ہے، ان کے اصطلاحات کو جاننا کمال واقفیت اور نظر وسیع کو چاہتا ہے میں چند عبارتیں فتوحات کی نقل کرتا ہوں جن سے قادیانیوں کی غلطی اور ہمارے قول کی تصدیق ہوتی ہے۔

پہلا قول: حضرت محی الدین اپنے شیخ ابوالعباس کی دعا نقل کرتے ہیں۔

”اللهم انک مددت باب النبوة والرسالة دوننا ولم تسد باب الولاية“

(فتوحات مکین ج ۲ باب ۷ ص ۹۷ سوال نمبر ۹۳)

”اے اللہ تو نے ہمارے لیے نبوت و رسالت کا دروازہ تو بند کر دیا ہے مگر ولایت کا

دروازہ بند نہیں کیا“

شیخ ابوالعباس ”محققین صوفیہ رحمہم اللہ میں ہیں وہ کس صفائی سے فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے لیے نبوت اور رسالت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے یعنی رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہ ہوگا البتہ ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا۔

دوسرا قول: ”انما انقطع الوحي الخاص بالرسول والنبي من نزول

الملک علی اذنه وقلبه وتحجیر لفظ اسم النبی و الرسول“

(فتوحات مکین ج ۲ باب ۱۵۵ ص ۲۵۳)

اس میں شبہ نہیں کہ جو وحی انبیاء اور رسولوں پر آتی تھی وہ موقوف ہوگئی اور کسی کو نبی اور رسول کہنا ممنوع ہو گیا اس میں صاف طور سے شیخ فرماتے ہیں کہ اب کس کو نبی اور رسول نہیں کہہ سکتے اس مطلب کو شیخ اکبر نے جلد ۳ میں زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے وہ یہ ہیں۔

تیسرا قول: ”واعلم ان لنا من الله الالهام لا الوحى فان سبيل الوحى قد انقطع بموت رسول الله ﷺ وقد كان الوحى قبله ولم يعجب خبر الهى ان بعده (ﷺ) وحيا كما قال الله تعالى وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ حَيًّا بَعْدَهُ“

(فتوحات مکینہ ج ۳ باب ۳۵۲ ص ۲۲۸)

اے مخاطب تو معلوم کر لے کہ امت محمدیہ کے لیے اللہ کی طرف سے الہام ہے وحی نہیں ہے وحی کا آنا رسول اللہ ﷺ کے انتقال کے بعد سے بند ہو گیا البتہ آپ سے پیشتر انبیاء کو وحی آتی تھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ پر اور آپ سے پیشتر انبیاء پر وحی آنے کی خبر دی ہے اور آپ کے بعد کسی پر وحی آنے کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا اور جب وحی نہیں آئے گی تو کوئی نبی بھی نہیں ہوگا کیونکہ نبی کے لیے وحی کا آنا ضروری ہے اس قول میں شیخ اکبر نے قرآن مجید سے مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ کیونکہ مرزا قادیانی اپنے اوپر نزول وحی کے مدعی ہیں اور نئے طور کا نزول ہے کہ حقیقۃ الوحی میں لکھتے ہیں کہ بارش کی طرح مجھ پر وحی کا نزول ہوا یہ بارش کی طرح نزول وحی کا دعویٰ کسی نبی نے نہیں کیا اور نہ اس طرح کا نزول ہو سکتا ہے کیسے مؤلف ختم نبوت اب تو سید الاولیاء نے آپ کے مرشد کو قرآن مجید سے جھوٹا ثابت کر دیا حضرت شیخ کو تو آپ سید الاولیاء فرماتے ہیں اور ان کے اقوال کو سند میں پیش کرتے ہیں پھر جب ایسے بزرگ مرزا قادیانی کو جھوٹا فرما رہے ہیں تو آپ کو اپنے مرشد کے جھوٹا ماننے میں کیا عذر ہے۔

چوتھا قول: ”وان كان سواله عن مقام الانبياء من الاولياء اى انبياء الاولياء والنبوۃ التى قلنا انها لم تنقطع“ (الخ) (فتوحات مکینہ ج ۲ باب ۷۲ ص ۵۲ سوال نمبر ۱۹)

”اگر کوئی ان اولیاء اللہ کے مقام کو دریافت کرے جو مقام نبوت تک پہنچے ہیں جنہیں انبیاء الاولیاء کہا جاتا ہے اور یہی وہ نبوت ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ منقطع نہیں ہوئی ہے قیامت تک باقی رہے گی۔“

یعنی جس نبوت کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے اور جن کو نبی اور رسول شریعت محمدیہ میں

کہا گیا ہے اور جن کا ماننا فرض ہے اور ان کے نہ ماننے سے انسان کافر ہو جاتا ہے وہ نبوت ختم ہوگئی، اسی نبوت کو صاحب فتوحات نے نبوت تشریحی کہا ہے، یعنی وہ نبوت جس کا ثبوت شریعت محمدیہ سے ہے اور انبیاء الاولیاء کی نبوت کو غیر تشریحی اس لیے کہا کہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے بلکہ صوفیاء کی اصطلاح میں یہ نبوت اولیاء اللہ کا ایک عالی مقام ہے اس نبوت کو اور اس نبی کو جو اس مقام پر ہے امت پر ماننا فرض نہیں ہے، نہ ان کا منکر کوئی کافر ہو سکتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ نبوت شرعیہ بالیقین ختم ہوگئی جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے دیا گیا اور نبوت اصطلاحی ختم نہیں ہوئی لیکن مبلغ گمراہی قادیانی اب تو آپ کے سید الاولیاء صاحب کے کلام سے بھی نبوت شرعی کا ختم ہو جانا ثابت کر دیا گیا اور آپ کی جہالت بھی اظہر من الشمس ہوگئی، اب بھی کچھ شرم کیجئے اور اپنی آخرت کو برباد نہ کیجئے۔

- یہاں تک قادیانی مبلغ کی بیہودہ گوئی کا جواب ہولیا اور ان کی نافرمانی یا فریب دہی کو اظہر من الشمس کر دیا گیا، اب صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۲ کا وہ مضمون دکھایا جاتا ہے جس کے جواب سے قادیانی مبلغ صاحب عاجز ہیں اور عاجز کیوں نہ ہوں کہ اس تحریر سے مرزا قادیانی کا پختہ دہریہ ہونا ثابت ہوتا ہے، اور قرآن شریف کی نصوص قطعیہ سے بھی جھوٹے ٹھہرتے ہیں، صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۲ کا صفحہ ۵۲ ملاحظہ ہو۔ (صحیفہ نمبر ۱۲ میں اجمال ہے اس میں تفصیل ہے اس لیے اسے یہاں پورا لے لیا ہے۔ مرتب)

### مولف صحیفہ رحمانیہ مذکور لکھتے ہیں

اب اگر کسی کو میرے قول میں تردد ہو اور کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسالت و نبوت کا دعویٰ کر کے خدا پر الزام لگائے تو میں کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی یہی حالت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا و رسول کو درحقیقت نہیں مانتے تھے، مسلمانوں کے فریب دینے کو ظلم اور بروز اور محبت رسول کا دعویٰ تھا۔

اب اس کا ثبوت ملاحظہ کیجئے، حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ شان ہے کہ قرآن مجید میں ان کی تعریف اور عظمت غالباً تیس جگہ سے زیادہ بیان ہے، یہاں صرف تین آیتیں نقل کی جاتی ہیں۔

۱..... وَإِنَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْبَيْنُتِ وَإِلَهُنَا هُوَ رُوحُ الْقُدُسِ (سورہ بقرہ ۸۷)  
”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو نشان و معجزے دیئے اور روح

القدس سے ان کی تائید کی حضرت ممدوح کے نبی ہونے کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ دو دلیلیں حضرت سرور انبیاء سے بیان فرماتا ہے ایک معجزوں کا دینا اور دوسرے روح القدس سے ان کی مدد کرنا۔“

۲..... إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (آل عمران ۴۵)

”فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے ایک حکم کی خوشخبری دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے (جس کی شان یہ ہے کہ) دنیا و آخرت دونوں میں وہ صاحب مرتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقبول اور مقربین بارگاہ الہی میں سے ہے۔“

چونکہ حضرت مسیح بغیر باپ کے صرف بحکم الہی مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا حکم اور حضرت مریم کا بیٹا فرمایا اور ان کے ناموں میں ابن مریم بھی شمار کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا کیا تھا یعنی جس طرح حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر کے اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا تھا اسی طرح حضرت مسیح کو صرف بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت کا دوسرا نمونہ دکھایا اسی طرح انبیائے کرام سے عجیب و غریب معجزات دکھلا کر اپنی قدرت کے نمونہ دکھائے ہیں ان آیتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کی عظمت و شان بتائی اور ان کا صاحب معجزات ہونا بیان فرمایا اب تیسری آیت ملاحظہ کیجئے جس میں چند معجزات کی تفصیل ہے۔

۳..... اِنِّیْ قَدْ جَسَّتُكُمْ بِاٰیَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاَبْرِئِ الْاَكْمَةَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْیِ الْمَوْتِی بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاَنْبِئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدْجُرُوْنَ فِیْ بُیُوتِكُمْ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیةٍ لِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ط (سور آل عمران ۴۹)

اس آیت میں ان معجزات کی تفصیل حضرت مسیح کے اقوال سے بیان ہوتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ مسیح بنی اسرائیل سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے پروردگار کا نشان لیکر تمہارے پاس آیا ہوں اس میں شبہ نہیں کہ میں مٹی کی چڑیا تمہارے لیے بنا دیتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے اڑتی چڑیا ہو جاتی ہے یعنی جاندار ہو کر اڑ جاتی ہے اور چنگا کرتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو اور مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے یعنی میری صداقت ظاہر کرنے کے لیے اللہ میرے واسطے سے مردہ زندہ کرتا ہے اور جو کچھ تم گھر میں کھا کر آتے ہو اور جو کچھ چھوڑ

آتے ہو اسے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم فلاں چیز کھا کر آئے ہو اور فلاں چیز گھر میں چھوڑ آئے ہو یہ کیسے اعلانیہ معجزے ہیں اگر تمہارے دل میں ایمان ہے۔

مگر چونکہ دہریت کا اس وقت زور ہے اس لیے مرزا قادیانی نے یہودیانہ تحریف کر کے ان معجزات سے انکار کیا ہے اور اپنے جہل مرکب سے ان یقینی باتوں کے نہ ماننے والوں کو مشرک بتایا ہے اس کی بحث تو کسی دوسرے وقت کی جائے گی اور دکھا دیا جائے گا کہ ان کی دہریت کا شعبہ اور آزاد تعلیم یافتہ حضرات کو اپنی طرف کھینچتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ انہیں مان گئے ہیں۔

### مرزا قادیانی کے دہریت ہونے کا ثبوت

برادران اسلام ملاحظہ کریں کہ قرآن مجید کی ان آیات کا اور حضرت مسیح کے مذکورہ معجزات کا مرزا قادیانی صریح انکار کرتے ہیں اور صاف لکھتے ہیں کہ ”حق بات یہ ہے کہ آپ سے (یعنی حضرت عیسیٰ سے) کوئی معجزہ نہیں ہوا۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۶ خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰ حاشیہ)

کہئے یہ صریح اقوال خداوندی کی تکذیب ہوئی یا نہیں اور اس قدوس لم یزل کو حضرت مسیح کے معجزات کے بیان میں مرزا قادیانی نے جھوٹا ٹھہرایا یا نہیں؟ یہ نہ کہہ دینا کہ الزام لکھا گیا محض غلط ہے کیونکہ وہ صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ ان سے کوئی معجزہ نہیں ہوا اس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک جو امر واقعی اور حق ہے اسے بیان کرتے ہیں صرف الزام نہیں دیتے اور شریعت محمدیہ میں اعلانیہ جھوٹ بولنا نبی کی توہین کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے (قرآن شریف کی یہ مخالفت تو مہذبانہ طریقے سے تھی اب اس کے بعد اسی ضمیمہ کے ص ۷ میں لحدانہ طرز سے ایک عالی مرتبہ نبی کے معجزات کو اپنے خیال سے اڑا کر آیات قرآنی کا انکار کرتے ہیں اور لکھتے ہیں ”ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کو روغیرہ کو اچھا کیا ہو یا کسی اور ایسے بیماری کا علاج کیا ہو“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۷ خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰ حاشیہ)

یہ دوسرے طریقہ سے کلام الہی کا انکار ہے یعنی تیسری آیت میں تو نہایت صراحت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم بحکم الہی اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کرتے تھے اور مردے کو جلاتے تھے مرزا قادیانی ان اعلانیہ معجزات سے انکار کر کے لکھتے ہیں کہ کسی تدبیر سے علاج کرتے ہوں گے اس کے بعد کسی لندن دہریت کی کتاب دیکھ کر کلام الہی کی تکذیب تیسرے طریقہ سے



کرتے ہیں اور لکھتے ہیں ”مگر آپ کی بد قسمتی سے اسی زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے خیال ہو سکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے اسی تالاب سے آپ کے معجزات کی پوری پوری حقیقت کھلتی ہے اور اسی تالاب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی معجزہ بھی ظاہر ہوا ہو تو وہ معجزہ آپ کا نہیں بلکہ اس تالاب کا معجزہ ہے۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۷ خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۰ حاشیہ)

دیکھا جائے کہ حضرت یسوع مسیح کے اعلانیہ اور نہایت عین معجزات میں دہریوں کے خیالات ظاہر کر کے ان یقینی معجزات سے انکار کر رہے ہیں اور پھر اسی پر بس نہیں ہے بلکہ اس کے بعد اعلانیہ طور سے انہیں مکار اور فریبی ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں ”اور آپ کے ہاتھ میں سوا کر و فریب کے کچھ نہیں تھا“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۲ خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱ حاشیہ)

یہ کیسا اعلانیہ کلام الہی کا انکار ہے اور ایک اولوالعزم رسول خدا کی توہین و تکذیب ہے؟ یہ چوتھا طریقہ انکار کا ہے ”پھر افسوس ہے کہ نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بنا رہے ہیں آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور کسی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہے کہ جدی مناسبت درمیان ہے ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زنا کاری کی کمانی کا پلیدہ عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۷ خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱ حاشیہ)

یہ پانچویں طریقہ سے انکار کلام الہی ہے اور صرف انکار ہی نہیں بلکہ خدائے قدوس پر سخت الزامات ہیں اور اس کے مقدس رسول کی نہایت ہنک ہے کیونکہ ان الزامات کا نتیجہ بالظہور یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ مکار اور فریبی کو صاحب معجزہ کہتا ہے اور اس کے معجزے بیان کرتا ہے اور مکار اور فریبی کو رسول بنا کر بھیجتا ہے اس کے رسول بازاری شہدوں کی طرح عیاش و بد چلن ہوتے ہیں (نحوذ باللہ) ان کی ذاتی اور نفسی دونوں طرح کی حالت ایسی خراب بھی ہوتی ہے کہ ہر ایک بھلا آدمی اسے عار سمجھتا ہے۔

ہمدردان اسلام! اس نازک وقت میں مرزا غلام احمد قادیانی کے یہ خیالات دشمنان

اسلام اور بالخصوص دہریوں کی کیسی تائید کرتے ہیں یہ تو مرزا قادیانی کے لمبہ اند خیالات کا جوش تھا اور جب ہوش ہوا تو سمجھے کہ یہ مسلمانوں کے بہت خلاف لکھا گیا، قرآن مجید میں تو حضرت مسیح کی بہت تعریف آئی ہے اس لیے اسی ضمیمہ کے حاشیہ میں ناواقف مسلمانوں کو فریب دیتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے جو یسوع مسیح کو گالیاں دیں تو الزام ادا دیں اور اس کا دوسرا جواب یہ دیتے ہیں۔

”اور مسلمانوں کو واضح رہے کہ خدا تعالیٰ نے یسوع کی قرآن شریف میں کچھ خبر نہیں دی کہ وہ کون تھا اور پادری اس بات کے قائل ہیں کہ یسوع وہ شخص تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا“  
(ضمیمہ انجام آتھم ص ۹ خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۳)

اس فریب کو ملاحظہ کیا جائے کہ قرآن مجید میں نصاریٰ ہی کو سمجھایا ہے جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں اور ثالث فَلَئِنَّ قُلُوبَهُمْ ثَلٰثَ قَلْبٍ قرار دیتے ہیں اور جس طرح عیسیٰ اور مسیح ان کا نام ہے اس طرح انجیل میں ان کا نام یسوع بھی ہے اور یسوع حضرت عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہے اور مرزا قادیانی بھی جانتے ہیں چنانچہ (توضیح المرام ص ۳ خزائن ج ۳ ص ۵۲) میں لکھتے ہیں کہ ”مسیح اور عیسیٰ اور یسوع تینوں ایک ہی شخص کا نام ہے“ یہاں وہ مشہور مثل کیسی صادق آئی کہ دروٹکو را حافظہ نباشد یعنی اور دلائل کے علاوہ مشہور مثل سے بھی جھوٹے ثابت ہوئے۔

عرضہ ہوا کہ یہ الزامات صحیفہ محمدیہ نمبر ۲ میں دیئے گئے ہیں عبید اللہ مرزا کی بتائے کہ اس وقت تک کس مرزا کی نے اس کا جواب دیا ہے ہمارے سامنے پیش کرے ورنہ کسی ناپاک نالی میں ڈوب مرے یہ صحیفہ ماہ محرم ۱۳۳۵ھ میں چھپا ہے اس کا عنوان بقلم جلی یہ ہے ”مسیح قادیان اور توہین انبیائے ذیشان“ اس کو چھپے ہوئے پانچ برس ہو رہے ہیں اب یہ عبید قادیانی دکھائے کہ ان الزاموں کا جواب قادیان یا آپ کے مکان کے کس طاق میں ہے مگر یہ یقینی بات ہے کہ قادیانی مبلغ قطعاً جھوٹے ہیں ہم ہزار روپیہ دیتے ہیں اگر وہ یا ان کا کوئی بھائی اس کا جواب دے۔

اے برادران اسلام! ہوشیار ہو جاؤ اور مرزا غلام احمد قادیانی کی حالت سے واقف ہو کر اس سے دور رہو اور اپنے ایمان کو بچاؤ اور اس مضمون کو مکرر دیکھو (مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا تو ریت شریف اور قرآن مجید سے) اس کا ثبوت فیصلہ آسمانی کے تینوں حصوں میں کامل طور سے دیا گیا ہے اور قرآن مجید کی متعدد آیتیں دکھائی ہیں دوسرا مضمون اس صحیفہ کے ص ۵۴ میں منکوحہ آسمانی کی پیشین گوئی ہے جس کے ظہور کا انتظار مرتے دم تک انہیں رہا اور مختلف طور سے

یعنی الہامات بیان کئے ہیں جن کے غلط ہو جانے سے مرزا قادیانی کا یقینی جھوٹا ہونا قرآن مجید اور توریت مقدس سے ثابت ہو گیا اور صرف جھوٹا ہی ہونا ثابت نہیں ہوا بلکہ ان کا دہریہ اور فریب دہندہ ہونا بھی ثابت ہوا اہل حق حضرات جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی عقل و فہم دی ہے وہ مرزا قادیانی کی کذابی کو ملاحظہ فرمائیں، منکوہ آسمانی کی نسبت انہوں نے اشتہاروں اور رسالوں میں اس قدر غل جچایا ہے اور دم موت تک اس پر وثوق ظاہر کیا ہے جس کی حد نہیں بائیں ہند وہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی اور نہایت اعلانیہ طور سے دنیا نے ان کا جھوٹا ہونا معائنہ کر لیا اور کلام الہی میں اس کی صراحت دیکھ کر ان کے جھوٹے ہونے پر ایمان لانا فرض ہو گیا (منکوہ آسمانی کی نسبت چند الہامات) ۲۰ فروری ۱۸۸۸ء میں مشہر کرتے ہیں۔ (۱) ”ان دنوں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ مکتوب الہی کی دختر کلاں کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اسی عاجز کے نکاح میں لاوئے گا۔“ (تبلغ رسالت ج ۱ ص ۱۱۶ مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۵۸)

(فیصلہ آسمانی حصہ اول) لفظ انجام کار پر خوب نظر ہے (۲) ”خدا تعالیٰ ان سب کے تذکرہ کے لیے جو اس کام کو روک رہے ہیں تمہارا مددگار ہو گا اور انجام کار اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا۔ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے۔“

(۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء تبلغ رسالت ج ۱ ص ۱۱۶ مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۵۸)

اس میں بھی وہی لفظ انجام کار ہے اور اس پر اضافہ یہ ہے کہ اسے خدا کی ان باتوں میں بیان کرتے ہیں جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ کوئی شرط وغیرہ اس نکاح کو روک نہیں سکتی انجام کار وہ لڑکی مرزا قادیانی کے نکاح میں ضرور آئے گی کوئی اسے روک نہیں سکتا۔

(۲۰ مئی ۱۸۹۱ء حقانی پریس لدھیانہ میں اشتہار نصرت دین طبع کرایا ہے اور اس میں لکھتے ہیں)

”مرزا احمد بیگ کی دختر کلاں کی نسبت بحکم والہام الہی یہ اشتہار دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدار اور قریب یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔“

(تبلغ رسالت ج ۲ ص ۹ مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۱۹)

(فیصلہ آسمانی ص ۳۲-۳۳) میں اس اشتہار کی پوری عبارت نقل کر کے اس کی شرح

کی ہے۔ اس پر خوب نظر رہے کہ اس میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ وہ لڑکی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ لڑکی مرزا قادیانی

کے نکاح میں نہ آئی اور ان کے کہنے کے بموجب خدا تعالیٰ پر یہ الزام ضرور آیا کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے اور اپنے رسولوں کو فریب دیکر جھوٹی پیشین گوئیاں کراتا ہے (۴) (ازالۃ الادہام حصہ اول ص ۳۹۶ خزائن ج ۳ ص ۳۰۵) مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

”خدا تعالیٰ نے پیشینگوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ احمد بیگ ولد گاماں بیگ ہوشیار پوری کے دختر کلاں انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھائے گا۔ اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔“

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے اپنے وثوق بیان کرنے کی انتہا کر دی ذیل کے جملوں کو ملاحظہ کیجئے۔ (۱) انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی (۲) آخر کار ایسا ہی ہوگا (۳) خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا (۴) ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھائے گا (۵) اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ ان پانچوں جملوں نے نہایت صراحت سے بالیقین ثابت کر دیا کہ اس نکاح کو شرط وغیرہ کوئی شے روک نہیں سکتی بلکہ اس کا ظہور ضرور ہوگا۔ اس آخری جملے نے وثوق و یقین کی انتہا کر دی۔

ناظرین! برائے خدا اس بات پر غور فرمائیں کہ اس مشہور پیشینگوئی کے متعلق میں نے چار قول مرزا قادیانی کے نقل کئے ہیں ان میں پہلا قول ۱۸۸۸ء کا ہے اس کے بعد آخر عمر ۱۹۰۸ء یعنی بیس برس تک اس منکوحہ کے انتظار میں رہے اس مدت میں کسی وقت انہوں نے قطعی مایوسی کا اظہار نہیں کیا بلکہ آخر عمر تک جب کوئی جملہ انہوں نے کہا ہے اس سے امید ہی معلوم ہوتی ہے اس طرح اس کے شوہر کے مرنے کی نسبت انہوں نے بار بار پیشینگوئی کی ہے اور صرف اپنے ایک رسالہ انجام اہتم میں سات مرتبہ مختلف طور سے اپنا یقین بیان کیا ہے کہ وہ ضرور مرے گا اور ایک جگہ اس پر قسم بھی کھائی ہے مگر انجام اس کا بھی ہوا کہ نہ اس کا شوہر مرا اور نہ وہ فرضی منکوحہ ان کے نکاح میں آئی یہاں تک کہ وہ ان کا رقیب اب تک زندہ موجود ہے اور یہ واقعے ایسے روشن اور کھلے ہوئے ہیں کہ معائنہ ہو رہا ہے۔ بھائیو۔ اب اس پر غور کرو کہ جب ایسے قطعی الہامات جو تمام عمر یقینی طور پر ہوتے رہے اور مرزا قادیانی انہیں خدا کی طرف سے بتاتے رہے مگر وہ قطعاً جھوٹے ثابت ہوئے اب وہ الہامات جس کی وجہ سے انہوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اور نبی اور رسول

ہونے کے مدعی ہوئے ان پر کیونکر اعتبار ہو سکتا ہے کوئی معیار ایسی ہو سکتی ہے جو ان دونوں میں فرق ظاہر کر دے اور یہ بتا دے کہ منکوحہ آسمانی والی پیشین گوئی اور اس کے شوہر کے مرنے کے الہامات جھوٹے ہو گئے تو ہو گئے مگر جو الہامات نبوت و رسالت کی نسبت تھے وہ ضرور سچے ہیں؟ بھائیو۔ کوئی حق پسند یہ نہیں کہہ سکتا۔ جھوٹا ثابت ہونے کے لیے تو ایک جھوٹ کا ثبوت کافی ہے۔ مرزا قادیانی کی ان پیشین گوئیوں کے جھوٹا ثابت ہونے سے مرزا قادیانی کے بہت سے جھوٹ ثابت ہوئے۔ (اس کی تفصیل فیصلہ آسمانی میں دیکھی جائے) حاکم وقت کی کچہری میں جس گواہ کا ایک بھی جھوٹ ثابت ہو جائے تو دنیاوی بات میں اس کی پھر شہادت مقبول نہیں ہوتی مگر مرزائی حضرات کی عقل پر کمال افسوس ہے کہ دینی بات میں تمام امت محمدیہ کے خلاف ایسے کذاب کو نبی مانتے ہیں اور کچھ خوف خدا نہیں کرتے۔ اب ان کے کذب پر کلام الہی کی شہادت ملاحظہ کی جائے۔ (پرانا عہد نامہ کتاب استثناء باب ۱۸ آیت ۲۲ ص ۶۷ ابرٹش اینڈ مارنی بائیکل سوسائٹی اتار کلی لاہور ۱۹۲۷ء) میں ہے کہ ”جب کوئی نبی خداوند کے نام سے کچھ اور جو اس نے کہا ہے واقع نہ ہو یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند نے نہیں کہی بلکہ اس نبی نے گستاخی سے کہا ہے۔“ الغرض توریت مقدس میں سچے نبی کی یہ شناخت بیان کی ہے کہ جو پیشین گوئی کرے اور وہ پوری نہ ہو یا جس کی ایک پیشین گوئی بھی جھوٹی ہو جائے وہ جھوٹا ہے اس نے الہام الہی سے پیشین گوئی نہیں کی بلکہ اپنی طرف سے بطور دھوکہ نفس یا علم نجوم وغیرہ سے کی ہے اور قرآن شریف میں ارشاد ہے ”فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدَهُ رُسُلُهُ“ (سورہ ابراہیم ۴۷) ”یعنی ایسا گمان و خیال ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرتا ہے۔“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے وعدہ خلافی نہ کرنے کو کس زور اور تاکید سے بیان فرمایا ہے اس کا گمان و خیال کرنے کو بھی تاکید سے روکا ہے یعنی یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک اپنے کسی رسول سے کوئی وعدہ یا وعید کرے اور پھر اسے پورا نہ کرے اب ان وعدوں پر غور کیجئے جو بقول مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے ہیں جن کی نقل گذشتہ چار قولوں میں کی گئی ہے اور پھر وہ پوری نہ ہوئی لہذا یقینی طور سے ثابت ہو گیا کہ جس طرح توریت مقدس سے مرزا قادیانی جھوٹے ثابت ہوئے اس طرح قرآن مجید کی نص قطعی سے ان کا یقینی جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا۔ اور اس مضمون کی متعدد آیات قرآن مجید میں مذکور ہیں فیصلہ آسمانی حصہ اول و سوم ملاحظہ کیا جائے۔ کہئے جناب عبید اللہ صاحب مرزائی آپ نے صحیفہ رحمانیہ ۱۴ کے جواب دینے کا تو دعویٰ کیا ہے مگر ان عظیم الشان دو مضمونوں کے جواب سے ایسے

عاجز ہوئے کہ اپنے جھوٹے ہونے کا بھی خیال نہ کیا۔ مگر جن کے پیر نے صد ہا جھوٹ بولے ہوں پھر ان کے مرید اگر چند جھوٹ بولیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے قادیانی مبلغ اس کو آپ یقین کر لیجئے کہ آپ کے مرشد بالیقین جھوٹے ہیں۔ اور ان کا جھوٹا ہونا قرآن مجید تو ریت مقدس احادیث صحیحہ اور ان کے متعدد اقرا روں سے ثابت کر دیا گیا ہے مگر اس وقت تک کسی نے جواب نہیں دیا اگر کسی کو جواب کا دعویٰ ہو تو سامنے آئے آپ ہوں یا آپ کا کوئی برادر خورد و کلاں ہو۔ ہم اپنے رسالوں کو دکھا کر ان کے اعتراضات آپ کو سنائیں اور آپ ان کے جوابات کو سنائیں عام جلسہ ہو حاضرین جلسہ اس کا فیصلہ کریں گے مگر ہم کہتے ہیں کہ آپ تو کیا کریں گے قادیان میں جو آپ کے سرگردہ کہلاتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔

۔ ہمیں میدان ہمیں چوگان ہمیں گوائے

### خواجہ کمال مرزائی اور مسلمانان رنگون

مرزائی صاحبان کی فریب آمیز کارروائیوں اور ان کی کوششوں سے غالباً اب بہت سے مسلمان واقف ہو چکے ہیں، کوئی لندن میں تبلیغ اسلام کا دل فریب نام لیکر مسلمانوں کو شکار کر رہا ہے کوئی افریقہ میں کوئی امریکہ میں کوئی بصرہ میں غرض جس کو جہاں موقع ملا اپنی گرم بازاری کی فکروں میں مشغول ہے سب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جس طرح ہو سکے مسلمانوں کو حضرت ختم المرسلین ﷺ کے سایہ رحمت سے نکال کر مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت کا ذبہ کا معتقد بنائیں اور اپنا جتھا بڑھا کر آمدنی کے ذرائع وسیع کریں۔

بظاہر اس وقت ان میں دو پارٹیاں نظر آتی ہیں ایک محمودی پارٹی جو مرزا غلام احمد کے بیٹے مرزا محمود قادیانی کے طرف دار ہیں دوسری کمال پارٹی جو خواجہ کمال (لاہوری گروپ) کے زیر اثر ہے۔

محمودی پارٹی بر ملا ختم نبوت کا انکار کر کے مرزا کی نبوت و رسالت کا (نعوذ باللہ منہ) اعلان کرتی ہے اور تمام مسلمانان عالم جو مرزا کو نہیں مانتے کافر کہہ کر اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے ہیں اور کمال پارٹی (لاہور گروپ) ایک گہری پالیسی کی بنا پر مرزا کو مجدد و محدث وغیرہ القاب سے یاد کرتے ہیں نبوت و رسالت کا ناواقفوں کے بہکانے کے لیے انکار کرتی ہے مسلمانوں کے کافر کہنے کا وظیفہ بھی جو ان کے خانہ ساز پیغمبر نے انہیں سکھلایا ہے بلند آواز سے نہیں پڑھتی۔

اس پالیسی کا یہ نتیجہ ضرور نکل رہا ہے کہ سادہ لوح مسلمان جس قدر جلد کمالی پارٹی کا شکار ہوتے ہیں محمودی پارٹی کے نہیں ہوتے۔

مگر واقف کار خوب سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں اصولاً متحد ہیں مقصد دونوں کا مرزائیت کی تبلیغ اور تحصیل زر ہے منزل مقصود دونوں کی ایک ہے راستہ بدلا ہوا ہے۔

الخصر چار پانچ ماہ ہوئے کہ خواجہ کمال کا مرکب اجلال رنگون پہنچا تا کہ ملک برما میں مرزائیت کی ختم ریزی کریں اور لندن میں تبلیغ اسلام کا دل آویز سبق سنا کر کوئی معقول رقم حاصل کریں اس سے پہلے محض خط و کتابت پر تقریباً سولہ ہزار روپیہ انگریزی ترجمہ قرآن مجید کے لیے رنگون سے ان کو مل بھی چکا تھا، مگر مسلمانان رنگون مستحق صد ہزار مرہا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ خواجہ کے لیکچروں کو سن کر وہ چونک اٹھے اور انہوں نے خواجہ کا مرزائی ہونا اچھی طرح محسوس کر لیا اور بڑے زور کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔

یہاں تک کہ لکھنؤ سے جناب مولانا مولوی محمد عبدالکھور صاحب مدیر انجم غمفیہ کورنگون تشریف لے جانے کی تکلیف دی رنگون کا روائی زیر طبع ہے جس سے حسب ذیل امور روز روشن کی طرح واضح ہو جائیں گے۔

۱..... خواجہ نے ہر چند اپنا مذہب چھپانا چاہا مگر چھپ نہ سکا سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص ختم نبوت کا منکر اور ایک جھوٹے اور بدکردار شخص کو نبی و رسول مانتا ہے اور محض مسلمانان کو فریب دینے کے لیے اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور چالیس کروڑ مسلمانوں کو کافر سمجھتا ہے۔

۲..... مرزا غلام احمد کا اصلی مذہب اور دلی مقصد کیا تھا اور مرزا کے ماننے کا حقیقی نتیجہ اور ثمرہ کیا ہے۔

۳..... مرزا اور مرزا کے ماننے والوں کا خارج از اسلام ہونا ایسا صریح ہے کہ جو شخص اس میں شک کرے وہ تین حال سے خالی نہیں۔ (۱) یا وہ مرزا کی تعلیمات کفریہ سے ناواقف ہے نہ اس نے مرزا کی تصنیفات دیکھی ہیں نہ اس کے رد میں جو کتابیں علمائے دین نے لکھیں ان کو مطالعہ کیا ہے۔ (۲) یا وہ شریعت الہیہ کو لڑکوں کا کھیل سمجھتا ہے کہ جس کا جی چاہے جس بات کو مانے جس کا جی نہ چاہے نہ مانے۔ (۳) یا وہ ایسا جاہل ہے کہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کس چیز سے آدمی مسلمان ہوتا ہے اور کس چیز سے کافر ہو جاتا ہے۔

۴..... مرزائیوں کا ترجمہ قرآن مجید سرتاپا مرزائیت کی کفریات صریح سے بھرا ہوا ہے اور دین الہی کے بالکل خلاف ہے۔

## اہل رنگون کی دینی حمیت

لائق تہنیت ہے کہ (۱) انہوں نے جناب مولانا مولوی محمد عبدالشکور صاحب مدیر انجمن فیضہ کے مضامین عالیہ کو جو حبیحہ العلماء رنگون کی طرف سے نکلے اردو۔ انگلش۔ چوسیا۔ گجراتی۔ برما وغیرہ متعدد زبانوں میں ترجمہ کر کر اور چھپوا کر خوب شائع کیا انہیں کی اس سعی مشکور کا نتیجہ ہے کہ صوبہ برما ایک بڑے مہلک فتنہ سے بچ گیا۔ اور اب ان زریں واقعات کی روئیداد بھی اہل رنگون ہی چھپوا رہے ہیں۔

۲..... رنگون میں ایک انجمن بنام دعوة الاسلام قائم کی اور اس کے دو شعبہ قرار دیئے اوّل! مسلمانوں میں دینی واقفیت پیدا کرنا شریعت الہیہ کے زبانی درس کو جو ایک مدت سے متروک ہو چکا ہے از سر نو قائم کر کے مسلمانوں کو جہالت کی تاریکی سے نکالنا۔ دوم! غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت دینا اسلام پر جو حملہ اندرونی یا بیرونی ہو رہے ہیں ان کا مہذب و تشفی بخش جواب دینا۔

یہ انجمن ان دونوں شعبوں کے مقاصد کے لیے علمائے اسلام ایدہم اللہ تعالیٰ کی مفید تحریرات و تقریرات کی طالب ہے مفید اور ضروری رسائل کی اشاعت بھی کرے گی اور صوبہ برما میں دورہ کرنے کے لیے اچھے اور مصلح واعظین کا تقرر بھی عمل میں لائے گی غالباً انجمن کے قواعد و مقاصد مرتب ہو چکے ہوں گے اور پہلے شعبہ کا کام بھی شروع ہو گیا ہوگا۔

اس انجمن کے لیے عارف معلم صاحب تاجر رنگون نے پچاس روپیہ ماہوار نقد مقرر کیا اور دو سو روپیہ ماہوار کرایہ کا مکان چھ ماہ کے لیے دیا اور حاجی یوسف صاحب و حاجی داؤد صاحب تاجران رنگون نے بھی بڑی عالی ہمتی کے ارادے ظاہر کیے ہیں خدا پورا کرے اور قبول فرمائے انشاء اللہ تعالیٰ اس انجمن کے ضروری حالات و مقافوفاً صحیفہ ہذا میں شائع ہوتے رہیں گے۔

۳..... عارف معلم صاحب نے مبلغ ایک ہزار روپیہ اشاعت کتب دینیہ کے لیے مطبع رحمانیہ بھجوا دے کہ حق تعالیٰ اہل رنگون کی توفیق اور زیادہ کرے اور تمام مسلمانوں کو ایسی خدمات دینیہ کی توفیق دے اور ان کے دلوں کو اپنے دین پاک کے درد و محبت سے معمور رکھے۔

اس مبارک انجمن سے ضروری التماس

مرزائی فتنہ روز بروز ترقی پر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑی جماعت ہے اور چھوٹی



جماعت کو جوش زیادہ ہوتا ہے اس لیے جانی و مالی ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں سارے ہندوستان میں ان کے مبلغ پھرتے ہیں افریقہ میں ان کے مبلغ ہیں بصرہ میں ان کی کوشش ہو رہی ہے امریکہ میں ان کے مبلغ پہنچے ہوئے ہیں جنوبی امریکہ میں محمودی پارٹی کے مبلغ بہت زور و شور سے کام کر رہے ہیں شمالی امریکہ میں خولجہ کمال کا بھیجا ہوا مبلغ مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے وہاں کے مسلمانوں نے خانقاہ رحمانیہ مونگیر میں چند سوالات بھیجے تھے جن کے جوابات میں یہاں سے ایک رسالہ لکھ کر بھیجا گیا ہے کچھ رسائل رد قادیانی کے بھی منگوائے تھے وہ بھی بھیجے گئے ہیں مگر افسوس ہے کہ ہمارے برادران اسلام بالکل غافل ہیں کچھ توجہ نہیں فرماتے۔

دوباتوں کی بہت ضرورت ہے۔ ایک یہ ہے کہ کم سے کم دس بارہ مبلغ رکھے جائیں اور حسب مشورہ جا بجا انہیں بھیجا جائے۔ دوسرے یہ کہ جو رسائل رد قادیانی میں اور رد آریہ اور عیسائیوں کے جواب میں لکھے گئے ہیں اور بالخصوص وہ رسائل جو خانقاہ رحمانیہ مونگیر میں موجود ہیں وہ چھپوا کر برابر سارے ملکوں میں شائع ہوتے رہیں اور مختلف زبانوں میں ان کا ترجمہ کرا کر شائع کیا جائے بالخصوص انگریزی زبان میں اور فارسی میں اور گجراتی میں چند کتابوں کے نام میں یہاں لکھتا ہوں جنکا چھپنا اور بالخصوص انگریزی زبان میں ترجمہ ہو کر خوب مشہور ہونا بہت ضروری ہے وہ رسالے یہ ہیں۔

### عیسائیوں کے جواب میں رسائل

(۱) پیغام محمدی (۲) دفع التلیسات (۳) ترانہ مجازی (۴) آئینہ اسلام (۵) مراۃ الیقین (۶) مراسلات مذہبی

### مرزائیوں کے رد میں لا جواب رسائل

(۱) فیصلہ آسمانی ہر سہ حصہ (۲) دوسری شہادت آسمانی (۳) ہدیہ عثمانیہ (۴) مسیح قادیان کی حالت کا بیان (۵) آئینہ کمالات مرزا (۶) چشمہ ہدایت (۷) چشمہ ہدایت کی صداقت (۸) دعویٰ نبوت مرزا (۹) صحیفہ رحمانیہ (۱۰) عبرت خیر یعنی صحیفہ رحمانیہ (۱۱) ختم النبوة فی الاسلام (۱۲) رسالہ حیات مسیح علیہ السلام (۱۳) النجم الثاقب ہر سہ حصہ (۱۴) مرقع قادیانی

ایک رسالہ انگریزی میں ایک قابل شخص عربی انگریزی دان نے فیصلہ آسانی کا حاصل بیان کیا ہے اسے بار بار چھپوا کر مشتہر کرنا ضرور ہے خصوصاً تمام انگریزی والوں کے پاس بھیجنا۔ اب میں تمام اراکین انجمن دعوت الاسلام سے اور بالخصوص عارف معلم صاحب اور حاجی یوسف صاحب اور حاجی داؤد صاحب تاجران سے نہایت عجز انکسار کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ وقت حمایت اسلام کا ہے یہ سب گروہ اسلام کے مٹانے میں بے حد کوشاں ہیں خدا کے لیے آپ حضرات توجہ کیجئے اور اسلام کی مدد کیجئے تمام ہندوستان میں بجز آپ کے یہاں کے تو کسی کو خیال نہیں ہے اور نہ اب تک کوئی انجمن اس قسم کی قائم ہوئی جیسی کہ آپ حضرات کی توجہ سے ہوئی یہاں بھی ہمارے حضرت قبلہ مدظلہ العالی چاہتے ہیں کہ ایک انجمن قائم ہو خواہ وہ آپ ہی کی انجمن کی ایک شاخ ہوتا کہ یہ سلسلہ یہاں بھی برابر قائم رہے۔

(المستمس محمد اسحاق خادم ابوالاحمد رحمانی)

## حکیم العصر مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ کے ارشادات

☆☆..... ہر قادیانی کے منہ پر ایک لعنت برستی ہے جس کو اہل نظر فوراً پہچان لیتے ہیں۔

☆☆..... زندیق ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو مگر درپردہ کفریہ عقائد رکھتا ہو۔

☆☆..... مرزا قادیانی سب دہریوں سے بڑھ کر اپنے دہریہ ہونے کا اعلان کرتا ہے۔

☆☆..... قادیانی کا ذبیحہ کسی حال میں بھی حلال نہیں بلکہ

مردار ہے۔



تمام برادران اسلام اور بالخصوص قدیم پیروان مرزا سے خیر خواہانہ عرض کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹا ہونا قرآن مجید کی ۲۱ نصوص قطعہ سے، چار حدیثوں سے، اور تورات مقدس کے صریح بیان سے، ان کی فریب آمیز باتوں سے، ان کے اقراروں سے حدیبیہ والی پیشین گوئی کی صداقت بخاری شریف سے اور توہین انبیاء کی کرنا اور محبوبہ منکوحہ آسمانی والی پیشین گوئی کا جھوٹا ہونا باوجود تمام عمر کی امید واری کے اور احمد بیگ کے داماد کے سامنے مرجانے سے تو صرف جھوٹے ہی نہیں ہوتے بلکہ اپنے اقرار سے ہر بد سے بدتر ٹھہرے اور خداوند قدوس کا جھوٹا اور بالیقین وعدہ خلاف ہونا مرزا قادیانی کے کہنے کے بموجب قرار پاتا ہے۔ (معاذ اللہ)

### عقائد اسلام

(۱) تمام اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ آنحضرتؐ کے بعد جو کوئی شخص دعویٰ نبوت یا دعویٰ وحی کرے وہ کافر ہے

ثبوت قرآن مجید

۱..... مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابْنًا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

(سورہ احزاب ۴۰)

۲..... مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران ۱۳۳)

۳..... الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُم

لَا سَلَامَ دِينًا. (مائدہ ۳)

حدیث بخاری

۱..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ

كَلِمًا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلْفَهُ نَبِيٌّ وَانَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ

(بخاری شریف جلد: ۱، باب ۳۹۱، باب ذکر نبی اسرائیل)

۲.....سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انه نسی وانا خاتم النبیین  
(کتب العمال جلد ۶ باب ۱ در بیان فضائل نبی کریم ﷺ)  
لا نبی بعدی.

فقہ

۱.....اذالم یعرف الرجل ان محمد ﷺ اخر الانبیاء علیہم وعلى نبینا  
السلام فلیس بمسلم کذا فی الیتیمہ وكذلك لو قال انا رسول اللہ او قالہ  
بالفارسیۃ من پیغمبر یرید بہ من پیغام می یرم یکفر (فتاویٰ حاشیہ جلد ۳ ص ۲۶۳)  
۲.....ویکفر بقولہ ان کان ما قال الانبیاء حقاً او صدقاً بقولہ انا رسول اللہ  
(بحر الرائق جلد ۵ ص ۱۲۱)

۳.....دعوی النبوة بعد نبینا ﷺ کفر بالاجماع. (شرح فقہاء حاشیہ مائتہ قاری ص ۲۰۲)  
۴.....ومن ادعی النبوة لنفسه او جواز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى  
مرتبها کالفلاسفة وغلاة المتصوفة وكذلك من ادعی منهم انه یوحی الیه وان  
لم يدع النبوة..... فہؤلاء کلہم کفار مکذوبون للنبی ﷺ لا انه اخبر انه خاتم  
النبیین لا نبی بعده..... وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على جمل هذا  
الکلام على ظاہرہ وان مفہومۃ المراد بہ دون تاویل ولا تخصیص فلا شک  
فی کفر هؤلاء الطوائف کلہا قطعاً اجماعاً وسمعا (شفاء ص ۲۳۷ ج ۲)  
۵.....اذا لم یعرف ان محمد اخر الانبیاء فلیس بمسلم لانه من الضروریات  
(اشیاء وادھان کتاب السیر والردۃ ص ۲۹۶)

عقائد مرزا غلام احمد قادیانی

(۱) مرزا قادیانی نے دعوی نبوت اور وحی کا کیا، مرزا قادیانی

نے ۱۸۸۰ء میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مجید و ظاہر کیا

نبوت قول مرزا

۱.....اور پھر جب تیرہویں صدی کا آخر ہوا اور چودہویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ  
نے الہام کے ذریعہ سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام  
ہوا کہ ”الرحمن علم القرآن لتندر قومًا ما انذر اباہم ولتستبین سبیل

المجرمین قل انی امرت وانا اول المؤمنین“

یعنی خدا نے تجھے قرآن سکھلایا اور اس کے صحیح معنی تیرے پر کھول دیئے، یہ اس لئے ہوا کہ تا تو ان لوگوں کو بند انجام سے ڈراوے، جو باعث پشت در پشت کی غفلت اور نہ متنبہ کئے جانے کی غلطیوں میں پڑ گئے اور تا ان مجرموں کی راہ کھل جائے کہ جو ہدایت پہنچنے کے بعد بھی راہ راست کو قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں، ان کو کہہ دے کہ میں مامور من اللہ اور اول المؤمنین ہوں اور یہ الہام براہین احمدیہ میں چھپ چکا ہے جو ان ہی دونوں میں جس کو آج اٹھارہ سال کا عرصہ ۱۸۸۰ء میں نے تالیف کر کے شائع کی تھی۔“ (کتاب البریہ حاشیہ ص ۸۳، خزائن ج ۳ ص ۲۰۱، براہین احمدیہ ص ۲۳۹)

”کتاب البریہ ۱۸۸۸ء کی تصنیف ہے اس کے ۸ برس قبل اپنا مجدد ہوتا اور اس الہام کا شائع ہوتا بیان کرتے ہیں یعنی ۱۸۸۰ء میں۔“

۲..... بعد مجدد ہونے کے مرزا قادیانی نے اپنے کو مثیل مسیح ظاہر کیا مرزا قادیانی قریب قریب سات برس مجدد بنے رہے، پھر مثیل مسیح ہوئے اس کا ثبوت ذیل کی تحریر سے ہوتا ہے۔

قول مرزا ”علماء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ“

”اے برادران دین و علماء شرح متین آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں کہ اس عاجز نے جو مثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج میرے منہ سے سنا گیا ہو، بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پا کر براہین احمدیہ کے کئی مقامات پر تبصریح درج کر دیا تھا، جس کے شائع کرنے پر سات سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا، میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا ہے کہ میں مسیح بن مریم ہوں جو شخص یہ الزام میرے پر لگائے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔“

(ازالہ الادہام حصہ اول ص ۱۹۵، خزائن ج ۳ ص ۱۹۲)

۳۔ قول مرزا..... ”میں نے صرف مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ صرف مثیل ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور دس ہزار بھی مثیل مسیح آجائیں، ہاں اس زمانہ کے لئے میں مثیل مسیح ہوں اور دوسرے کا انتظار بے سود ہے۔“

(ازالہ ادہام حصہ اول ص ۱۹۹، خزائن ج ۳ ص ۱۹۷)

الحاصل ۱۸۸۷ء میں یا اس کے کچھ قبل مثیل مسیح بنے، ازالہ ادہام میں مرزا قادیانی

صاف تحریر کر رہے ہیں کہ جو شخص مجھ کو مسیح موعود خیال کرے وہ کم فہم ہے اور مرزا قادیانی مسیح بن مریم بھی نہیں ہیں اس سے بھی انکار کر رہے ہیں جو شخص مرزا قادیانی کو مسیح بن مریم کہے وہ مطابق فتویٰ مرزا قادیانی کے کذاب اور مفتری ہے۔

دعویٰ نبوت اور مسیح موعود ۱۸۹۱ء سے شروع ہوا

۱۔ قول مرزا..... ”۱۸۹۱ء میں بااطلاع الہی یہ اعلان دیا گیا کہ آنے والا مسیح تو ہی ہے۔“ پھر کیا تھا کامل طور پر مامور من اللہ ہونے کا خلعت مل گیا اور وہ غرض اور غایت جو اس نور کی دنیا میں اترنے کی تھی ظاہر ہو گئی۔ (رپورٹ جلد سالانہ ۱۸۹۷ء ص ۹) الہام مرزا ”الحمد لله الذي جعلك المسيح ابن مريم، اس خدا کی تعریف ہے، جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا۔“

(ہیڈ۔ الوٹی ص ۷۲ خزائن ج ۲۲ ص ۷۵)

۲۔ قول مرزا..... ”جب وقت آ گیا تو وہ اسرار مجھے سمجھائے گئے، تب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعویٰ مسیح موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں، یہ وہی دعویٰ ہے جو براہین احمدیہ میں بار بار (کشی نوح ص ۷۷ خزائن ج ۱۹ ص ۵۱)

۳۔..... ”الہامی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مراد ہوں اور میری ہی نسبت کہا گیا ہے کہ ہم اس کو نشان دیں گے اور نیز کہا گیا کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔“ (مرزا قادیانی کا یہ فتویٰ تھا کہ جو کوئی شخص مجھے مسیح بن مریم کہے وہ مفتری اور کذاب ہے مگر پھر اپنے کو مسیح ابن مریم آپ ہی خود کہتے ہیں مرزا قادیانی کے مسیح ابن مریم بننے کا ثبوت ملاحظہ ہو، تحریر کرتے ہیں) ”پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پردوش پائی اور پردہ میں نشو و نما پاتا رہا پھر جب اس پردہ برس گزر گئے جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ ۴ ص ۴۹۶ میں درج ہے۔ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفع کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ ۴ ص ۵۵۶ میں درج ہے۔ مریم سے عیسیٰ بنایا گیا پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔“ (کشی نوح ص ۴۶، ۴۷ خزائن ج ۱۹ ص ۵۰) ”جو آنے والا تھا جس میں لوگ شک کرتے ہیں کبھی حق ہے اور آنے والا کبھی ہے اور شک محض نا فہمی سے ہے۔“ (کشی نوح ص ۴۸ خزائن ج ۱۹ ص ۵۲)

کھلے کھلے لفظوں میں دعویٰ نبوت

۱۔ قول مرزا، الہام مرزا..... ”انا ارسلنا اليكم رسولاً شاهداً عليكم كما ارسلنا





اخلاق کے ساتھ بھیجا۔“ (اربعین نمبر ۳ ص ۳۶ خزائن ج ۷ ص ۴۲۶)

۱۰.....”لا تخف انی لا يخاف لدى المرسلون ترجمہ: مت ڈر، میرے قرب میں میرے رسول نہیں ڈرتے۔“ (ہیضہ الوحی ص ۹۱ خزائن ج ۲۲ ص ۹۳)

۱۱.....”مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے کہ“ ہوا لدى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله“ (اعجاز احمدی، ص ۷ خزائن ج ۱۹ ص ۱۱۳)

نوٹ..... یہ آیت قرآن مجید کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول برحق حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی عظمت کو بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے ملک عرب کے جہلاء اور ناشائستہ اور غیر مہذب قوم میں اپنا رسول نہایت شائستہ ہدایتوں اور حقانی مذہب اور کامل شریعت کے ساتھ بھیجا، تاکہ اپنی ظاہری اور باطنی خوبیوں اور نہایت مفید اور پختہ تعلیمات سے دنیا کے تمام دینوں پر اسے غالب اور فائق کر دے۔ یہ صفت کس رسول کی ہے، الفاظ قرآن نہایت صفائی سے بتا رہے ہیں کہ وہ رسول اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے آچکا ہے، کیونکہ صیغہ ماضی کے ساتھ ارشاد ہے ”ارسل رسوله“ یعنی اللہ تعالیٰ اس رسول کو بھیج چکا ہے اور نہایت ظاہر ہے کہ وہ رسول وہی ہے جن پر یہ آیت نازل ہوئی یعنی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ، الفاظ قرآنی سے تو صاف آنحضرت ﷺ مراد ہیں، مگر مرزا قادیانی الفاظ قرآنی کے خلاف اور اجماع امت کے برعکس اس آیت کو اپنے لئے کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ ﷺ کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ خاص میرے لئے ہے۔

۱۲.....”ما سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے، جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہوگا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔ مثلاً یہ الہام ”قل للمؤمنين يفضوا بابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم“ یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور اس پر تیس برس کی مدت گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں، اور نہی بھی۔“

(اربعین نمبر ۳ خزائن ج ۷ ص ۴۳۵)

## وحی الہی کا مستقل دعویٰ اور دعویٰ نبوت کے ساتھ تمام اولیائے کرام پر اپنی فضیلت

۱۳..... ”اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں مخصوص کیا گیا اور وہ دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ ان میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔“ (ہیجۃ الوحی ص ۳۹۱ خزائن ج ۲۲ ص ۳۰۶)

۱۴..... ”میں خدا تعالیٰ کی تیس برس کی متواتر وحی کو کیونکر رد کر سکتا ہوں میں اس خدا کی اس پاک وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔“ (ہیجۃ الوحی ص ۱۵۰ خزائن ج ۲۳ ص ۱۵۴)

۱۵..... ”میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر ہیں اور جس طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے، خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔“ (ہیجۃ الوحی ص ۲۱۱ خزائن ج ۲۲ ص ۲۲۰)

۱..... ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ“ ترجمہ: ان کو کہہ دیں میں ایک انسان ہوں، میری طرف یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے۔“ (ہیجۃ الوحی ص ۸۲ خزائن ج ۲۲ ص ۸۴)

۲..... ”وَإِنزِلْ عَلَيْهِمْ مَا وَجَّعَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ“ ترجمہ: اور جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تیرے پر وحی نازل کی گئی، وہ ان لوگوں کو سنا جو تیری جماعت میں داخل ہوں گے۔“ (ہیجۃ الوحی ص ۴ خزائن ج ۲۲ ص ۷۸)

### دعویٰ نبوت کے ساتھ حضرت مسیح پر فضیلت

۱۶..... ”خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔“ (دافع البلاء ص ۱۳ خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۳)

۱۷..... ”ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔“

(دافع البلاء ص ۱۰ خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰)

۱۸..... ”اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے خدا کے نزدیک مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا مگر بعد میں جو خدا کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔ اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔“

(ہیچہ الوحی ص ۱۳۹ خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۳)

۱۹..... ”خدا نے اس امت میں مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے..... مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھانہ سکتا۔“

(ہیچہ الوحی ص ۱۳۸ خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۲)

۲۰..... ”اس امر میں کیا شک ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ فطرتی طاقتیں نہیں دی گئیں جو مجھے دی گئیں، کیونکہ وہ ایک خاص قوم کے لئے آئے تھے اور اگر وہ میری جگہ ہوتے تو اپنی اس فطرت کی وجہ سے وہ کام انجام نہ دے سکتے جو خدا تعالیٰ کی عنایت نے مجھے انجام دینے کی قوت دی۔“

(ہیچہ الوحی ص ۱۵۳ خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۷)

۲۱..... ”جب خدا نے اور اس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخر زمانہ کے مسیح کو اس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے تو پھر یہ شیطانی دوسوہ ہے کہ کہا جائے کہ کیوں تم مسیح ابن مریم سے اپنے تئیں افضل قرار دیتے ہو۔“

(ہیچہ الوحی ص ۱۵۵ خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۹)

مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت کے ساتھ

رسول اللہ ﷺ پر بھی اپنی فضیلت ثابت کرنا

۲۲..... ”واتانی مالہ یوت احدہ من العالمین، مجھے وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔“

(استقامت ص ۸۷ خزائن ج ۲۲)

اس الہام کا یہی مطلب ہے کہ مرزا قادیانی کو جو مرتبہ دیا گیا وہ سارے جہان میں کسی ولی اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اس میں جناب رسول اللہ ﷺ بھی داخل ہیں۔

۲۳..... ”لہ خسف القمر المنیر وان لی غسا القمران المشرقان التکرا“

ترجمہ: اس کے لئے چاند کا خسوف ظاہر ہوا، اور میرے لئے چاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو انکار کرے گا۔“ (اعجاز احمدی ص ۱۷ خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۳)

بیان کا شعر اور ان ہی کا ترجمہ ہے۔ اس شعر میں رسول اللہ ﷺ کے معجزہ شق القمر کو جو مشہور اور متواتر قرآن مجید سے اس کا پتہ ملتا ہے، اور جو واقع میں خرق عادت ہے مرزا قادیانی اس سے انکار کرتے ہیں اور شق القمر کو چاند گہن بتلاتے ہیں، یہ مرزا قادیانی کی عقل کا تقاضا ہے کوئی ذی عقل تو چاند گہن کو معجزہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ چاند گہن اور سورج گہن ہمیشہ ہوا کرتے ہیں، گویا شق القمر کو مرزا قادیانی نے چاند گہن کہا، جس کا حاصل یہ ہوا کہ میرے لئے شق القمر اور شق الخس دونوں ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کے لئے صرف ایک یعنی شق القمر، مگر یہ محض غلط ہے، مرزا قادیانی کہ دونوں کیا ایک بھی شق نہیں ہوا۔

۲۳..... (خطبہ الہامیہ حاشیہ، خزائن ج ۱۹ ص ۳۱۲) میں مرزا قادیانی ایک عربی عبارت تحریر کرتے ہیں۔ جس کا شروع ”ان اللہ خلق ادم جعلہ“ الخ سے ہے۔ جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اسے تمام انسانوں اور جنوں کا سردار حاکم بنایا، پھر ان کو شیطان نے بہکایا اور جنت سے نکالا اور حضرت آدم کی حکومت شیطان کو ملی اور اس لڑائی میں آدم کو ذلت اور رسوائی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود (مرزا) کو پیدا کیا، تاکہ آخری زمانہ میں شیطان کو ہزیمت دے، یہ وعدہ خداوندی میں لکھا ہوا ہے۔

(۲) تمام اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ

اب تک زندہ ہیں نہ مقتول ہوئے نہ مصلوب۔

ثبوت قرآن مجید

۱..... ”وَقَوْلُهُمْ اَنَا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.“ (نساء، ۱۵۷-۱۵۸)

۲..... ”وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ“ (نساء، ۱۵۹)

## (۲) مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ سمجھتے ہیں اور مقتول اور مصلوب ہونا کہتے ہیں

### ثبوت قول مرزا

۱..... ابن مریم مر گیا حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم (مارتا ہے اس کو فرقان سر بسر، اس کے مرجانے کی دیتا ہے خبر) وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ میں آیات سے۔

(ازالہ اوہام ص ۶۳۔ خزائن ج ۳ ص ۵۱۳)

۲..... ”ازاں جملہ ایک یہ کہ قرآن شریف کے کسی مقام سے ثابت نہیں کہ حضرت مسیح اس خاکی جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے۔ بلکہ قرآن کریم کے کئی مقامات میں مسیح کے فوت ہو جانے کا صریح ذکر ہے۔“

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۴۴ خزائن ج ۳ ص ۱۲۵)

۳..... ”ازاں جملہ ایک یہ اعتراض کہ اگر ہم فرض محال کے طور پر قبول کر لیں کہ حضرت مسیح اپنے جسم خاکی سمیت آسمان پر پہنچ گئے تو اس بات کے اقرار سے چارہ نہیں کہ وہ جسم جیسا کہ تمام حیوانی و انسانی اجسام کے لئے ضروری ہے آسمان پر بھی تاثیر زمانہ سے ضرور متاثر ہوگا اور مرور زمانہ لا ابدی اور لازمی طور پر ایک دن ضرور اس کیلئے موت واجب ہوگی۔ پس اس صورت میں اول تو مسیح کی نسبت یہ ماننا پڑتا ہے کہ اپنی عمر کا دورہ پورا کر کے آسمان ہی میں فوت ہو گئے ہوں اور کواکب کی آبادی جو آج کل تسلیم کی جاتی ہے اسی کے کسی قبرستان میں دفن کئے گئے ہوں اور اگر پھر فرض کے طور پر اب تک زندہ رہنا ان کا تسلیم کر لیں تو شک نہیں کہ اتنی مدت کے گزرنے پر ہیر فرتوت ہو گئے ہونگے اور اس کام کے لائق ہرگز نہ ہوں گے کہ کوئی خدمت دینی ادا کر سکیں، پھر ایسی حالت میں ان کا دنیا میں تشریف لانا بجز ناحق کی تکلیف کے اور کچھ فائدہ بخش معلوم نہیں ہوتا۔“

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۴۹ خزائن ج ۳ ص ۱۲۷)

۴..... ”تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صلیبی واقعہ سے نجات پا کر ضرور ہندوستان کا سفر کیا اور نیپال ہوتے ہوئے آخرت تک پہنچے اور پھر کشمیر میں ایک مدت تک ٹھہرے اور وہ بنی اسرائیل جو کشمیر میں بابل کے تفرقہ کے وقت میں سکونت پذیر ہوئے تھے، ان کو ہدایت کی اور آخر (۱۲۰) برس کی عمر میں سری نگر میں انتقال فرمایا اور محلہ خانیاں میں مدفون ہوئے اور عوام کی غلط بیانی سے یوز آسف نبی کے نام سے مشہور ہو گئے۔“

(راز حقیقت ص ۹ حاشیہ خزائن ج ۱۳ ص ۱۶۱)

۵..... ”حضرت مسیح علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد اپنے حواریوں کو ملے اور اپنے زخم ان کو دکھلائے۔“  
(راز حقیقت ص ۸۷، ۸۸۔ حاشیہ، خزائن ج ۳ ص ۱۵۹ حاشیہ)

(۳) ہم مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولوالعزم نبی ہیں اور کامل اور پاک انسان ہیں یہود نے جو ان پر تہمتیں لگائی ہیں وہ ان سے پاک ہیں اور یہ تمام باتیں قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہیں۔

### ثبوت قرآن مجید

۱..... اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَا هَا اِلٰى مَرْيَمَ .  
(نساء، ۱۷۱)

۲..... اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يَبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اِسْمُ الْمَسِيحِ عِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ وَحَبِيْبَهَا فِى الدُّنْيَا وَآلَاخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ  
(آل عمران ۴۵-۴۶)

۳..... وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَرَسُولًا اِلٰى بَنِي اِسْرٰٓئِيْلَ  
(سورہ آل عمران ۴۸-۴۹)

(۳) مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی۔

### ثبوت قول مرزا

۱..... مسیح بن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ (توضیح الحرام ص ۲ تقطیع خزائن ج ۳ ص ۵۲)  
یسوع کی تمام پیشین گوئیوں میں سے جو مسیحائیوں کا مردہ خدا ہے اگر ایک پیش گوئی بھی اس پیش گوئیوں کے ہم پلہ اور ہم وزن ثابت ہو جائے تو ہم ہر ایک تاوان دینے کو تیار ہیں، اس درماندہ انسان کی پیشین گوئیاں کیا تھیں، صرف یہی کہ زلزلے آئیں گے، قحط پڑیں گے، لڑائیاں ہوں گی پس ان دونوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے ایسی ایسی پیشین گوئیاں اس کی خدائی پر دلیل ٹھہرائیں اور ایک مردہ کو اپنا خدا بنا لیا کیا ہمیشہ زلزلے نہیں آتے، کیا ہمیشہ قحط نہیں پڑتے، کیا ہمیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا، پس اس تاوان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیش گوئی کیوں نام

رکھا، محض یہودیوں کے ٹک کرنے سے اور جب معجزہ مانگا تو یسوع صاحب فرماتے ہیں کہ حرام کار اور بدکار لوگ مجھ سے معجزہ مانگتے ہیں ان کو کوئی معجزہ دکھایا نہیں جائے گا، دیکھو یسوع کو کیسی سوچھی اور کیسی پیش بندی کی، اب کوئی حرام کار اور بدکار بنے تو اس سے معجزہ مانگے، یہ تو وہی بات ہوئی جیسا کہ ایک شریر مکار نے جس میں سراسر یسوع کی روح تھی، لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ میں ایک ایسا وارد ہلا سکتا ہوں جس کے پڑھنے سے پہلی رات میں خدا نظر آ جائے گا، بشرطیکہ پڑھنے والا حرام کی اولاد نہ ہو۔ اب بھلا کون حرام کی اولاد بنے اور کہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنے سے خدا نظر نہیں آیا، آخر ہر ایک وظیفی کو یہی کہنا پڑتا تھا کہ ہاں صاحب نظر آ گیا یسوع کی بندشوں اور تدبیروں پر قربان ہی جائیں، اپنا چچا چھڑانے کے لئے کیسا داؤ کھیلا، یہی آپ کا طریق تھا کہ ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کی قوت شجاعت آزمانے کے لئے سوال کیا کہ اے استاد قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ آپ کو یہ سوال سنتے ہی اپنی جان کی فکر پڑ گئی، کہ کہیں باغی کہلا کر پکڑا نہ جاؤں، سو جیسا کہ معجزہ مانگنے والوں کو ایک لطیفہ سنا کر معجزہ مانگنے سے روک دیا تھا، اس جگہ بھی وہی کارروائی کی اور کہا کہ قیصر کا قیصر کو دو، اور خدا کا خدا کو حالانکہ حضرت کا اپنا عقیدہ تھا، کہ یہودیوں کے لئے یہودی بادشاہ چاہئے کہ مجوسی اسی بنا پر ہتھیار بھی خریدے شہزادہ بھی کہلایا، مگر تقدیر نے یاوری نہ کی متی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی، آپ جاہل عورتوں اور عوام الناس کی طرح مرگی کو بیماری نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جن کا آسیب خیال کرتے تھے۔ ہاں آپ کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی، ادنیٰ ادنیٰ بات میں اکثر غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے، مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے، اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی جن جن پیشین گوئیوں کا اپنی ذات کی نسبت توریت میں پایا جاتا آپ نے بیان فرمایا ہے ان کتابوں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ اوروں کے حق میں تھیں، جو آپ کے قول سے پہلے پوری ہو گئیں اور نہایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے یہودیوں کی کتاب طالمود سے چورا کر لکھا ہے اور پھر ایسا ظاہر کیا ہے گویا میری تعلیم ہے، لیکن جب سے یہ چوری پکڑی گئی عیسائی بہت شرمندہ ہیں۔ آپ نے یہ حرکت شاید اس لئے کی ہوگی کہ کسی عمدہ تعلیم کا نمونہ دکھلا کر رسوخ حاصل کریں لیکن آپ کی اس بیجا حرکت سے

عیسائیوں کی سخت رویہ ماری ہوئی اور پھر افسوس یہ ہے کہ وہ تعلیم بھی کچھ عمدہ نہیں عقل اور کائناتوں دونوں اس تعلیم کے منہ پر طمانچہ مار رہے ہیں۔ آپ کا ایک یہودی استاد تھا جس سے آپ نے تورات کو سبقاً سبقاً پڑھا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کو زیر کی سے کچھ بہت حصہ نہیں دیا تھا اور یا اس استاد کی یہ شرارت ہے کہ اس نے آپ کو محض سادہ لوح رکھا بہر حال آپ علمی اور عملی قویٰ میں بہت کچھ تھے، اس وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔

ایک فاضل پادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنی تمام زندگی میں تین مرتبہ شیطانی الہام بھی ہوا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ اس الہام سے خدا سے معجز ہونے کے لئے بھی تیار ہو گئے تھے..... آپ کے عیسائیوں نے بہت سے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا اور اس دن سے یہ آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دیں اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ڈھبھرایا، اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ چاہا کہ معجزہ مانگ کر حرام کار اور حرام کی اولاد بنیں..... ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کو روغیرہ کو اچھا کیا ہو، یا کسی اور ایسی بیماری کا علاج کیا ہو، مگر آپ کی بد قسمتی سے اسی زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے، خیال ہو سکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے، اس تالاب سے آپ کے معجزات کی پوری پوری حقیقت کھلتی ہے۔ اور اسی تالاب نے فیصلہ کر دیا کہ آپ سے کوئی معجزہ بھی ظاہر ہوا ہو، تو وہ آپ کا نہیں بلکہ اسی تالاب کا معجزہ ہے، اور آپ کے ہاتھ میں سوائے مکر اور فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔ پھر افسوس کہ نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بنارہے ہیں، آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے، تین دواہیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور کسی عورت میں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی، آپ کا کنجریوں (کسی عورتوں) سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو، کہ جدی مناسبت درمیان میں ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری (کسی عورت) کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدہ عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے، سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ آپ وہی حضرت ہیں جنہوں نے یہ پیش گوئی بھی کی تھی کہ ابھی یہ تمام لوگ زندہ ہوں گے کہ میں پھر واپس آ جاؤں گا، حالانکہ نہ صرف وہ



لوگ بلکہ انہیں نسلیں اس کے بعد بھی انہیں صدیوں میں مرچیں مگر آپ اب تک تشریف نہ لائے،  
خود قات پانچے مگر اس جھوٹی پیش گوئی کا کلک اب تک پادریوں کی پیشانی پر باقی ہے۔

(حاشیہ ضمیر انجام آتھم۔ ص ۸۲۳۔ خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۲۳۲۸۸)

(۳) تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کی توہین

کرنے والا کافر اور شیطانی گروہ میں ہے۔

ثبوت قرآن مجید

۱..... هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

(شعر ۲۲۲، ۲۲۱)

۲..... وَمَنْ يَنْسِبْ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ الْفَوَاحِشَ كَعَزْمِهِمْ عَلَى الزُّنَىٰ  
وَنَحْوِهِ..... قَالَ يَكْفِرُ لِأَنَّهُ شَتَمَ لَهُمْ وَاسْتَخَفَّ بِهِمْ (فتاویٰ عالمگیری ج ۲ ص ۲۶۳)

۳..... وَكَذَلِكَ مِنْ أَضَافٍ إِلَى نَبِيِّنَا ﷺ تَعَمُّدًا لِّلْكَذِبِ فِيمَا بَلَغَهُ وَآخِرُ بِهِ  
أَوْشَكُ فِي صَدَقَةِ أَوْسَبِهِ أَوْ تَنْقِصِهِ أَوْ قَالَ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ وَاسْتَهْزَأَ بِهِ أَوْ بَاحِدٍ مِنَ  
الْأَنْبِيَاءِ أَوْ زَرَى عَلَيْهِمْ أَوْ أَذَاهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ بِاجْمَاعٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

(شرح شفا جلد ۲ ص ۵۱۷)

۴..... وَاسْتَخَفَّ بِهِ أَوْ بَاحِدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ زَرَى عَلَيْهِمْ أَوْ أَذَاهُمْ..... فَهُوَ  
كَافِرٌ بِاجْمَاعٍ. (فہام ص ۲۳۶ ج ۲)

۵..... وَيَكْفُرُ إِذَا شَكَّ فِي صَدَقِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ سَبَّهُ أَوْ نَقَصَهُ أَوْ صَغَرَهُ.

(اشاہ والنظار ص ۲۹۵)

۶..... وَكُلُّ مُسْلِمٍ ارْتَدَّ فَتَوْبَتُهُ مَقْبُولَةٌ إِلَّا جُمُعَةً مِنْ تَكَرُّرٍ رَدَّتْهُ عَلَى  
مَامَرٍ وَالْكَافِرُ بِسَبِّ النَّبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ حَدًّا وَلَا تَقْبَلُ تَوْبَةُ مُطْلَقًا

(طحاوی جلد ۲ ص ۲۸۱ حاشیہ)

۷..... وَفِي التَّهْذِيبِ ثُمَّ إِنَّمَا يُصِيرُ مَرْتَدًا بِانْكَارِ مَا وَجِبَ الْإِقْرَارُ بِهِ أَوْ ذَكَرَ  
اللَّهُ تَعَالَىٰ أَوْ وَاحِدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالْإِسْتِهْزَاءِ وَلَوْ كَانَ إِسْلَامُهُ بِالْفِعْلِ

(اشاہ والنظار جلد اول ص ۲۹۲)

(۴) تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ سے معجزات صادر ہوئے، اللہ نے انہیں قدرت دی تھی کہ وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے کوڑھی اور مادرزاد اندھے کو اچھا کرتے تھے۔

### ثبوت قرآن مجید

.....إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ إِنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، (آل عمران ۴۹)

”دیکھا جائے کہ قرآن مجید نے تو اعلانیہ طور سے حضرت مسیحؑ کے عظیم الشان معجزوں کو بیان کیا ہے، مگر مرزا قادیانی کے معجزات کے بالکل منکر ہیں، چنانچہ اس سے پیشتر ان کا قول بیان کیا گیا ہے اور صرف معجزات ہی کا انکار نہیں ہے بلکہ ان کو گالیاں بھی دی ہیں اور بدگمانوں کا مخزن بنایا ہے، ان کے معجزات میں باتیں بھی بتائی ہیں۔“

### (۴) مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰؑ

کے تمام معجزات سے انکار کیا۔

### ثبوت قول مرزا

.....چنانچہ لکھتے ہیں۔ ”کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیحؑ کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو جو ایک مٹی کا کھلونا کسی کل کے دبانے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسا پرندہ پرواز کرتا ہے یا اگر پرواز نہیں تو پیروں سے چلتا ہو، کیونکہ حضرت مسیحؑ ابن مریمؑ اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے بڑھئی کا کام درحقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کھنوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے۔“ (حاشیہ ازالہ اوہام حصہ اول ص ۳۰۳ خزائن ج ۳)

۲۵۴) دیکھا جائے کہ نہایت صاف طریقہ سے حضرت مسیح کا باپ قرار دے رہے ہیں۔  
 ۲..... ”پس اس سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہئے کہ حضرت مسیح نے اپنے دادا سلیمان کی طرح اس وقت کے مخالفین کو یہ عقلی معجزہ دکھلایا ہو، اور ایسا معجزہ دکھانا عقل سے بعید بھی نہیں کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صنّاع ایسی چیزیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں اور ہلاتی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض چیزیاں گل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں۔“ (ازالہ اوہام حصہ ۱ حاشیہ ص ۳۰۴۔ خزائن ج ۳ ص ۲۵۵)

(۵) تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں عام اس سے کہ وہ فاسق فاجر مسلمانوں کے کسی فرقہ کا ہو۔

ثبوت قرآن مجید

.....وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (سورہ بقرہ ۴۳)

علم کلام

۲.....صلو اخلف کل برد فاسق،

حدیث

۳.....عن عبد اللہ ابن عدی ابن الخیار انه دخل علی عثمان وهو محصور فقال انک امام عامۃ وتنزل بک ماتری ویصلی لنا امام فتنۃ تتخرج فقال الصلوۃ احسن ما یعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن ما یعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساؤ فاجتنب اسائهم . رواہ البخاری جلد ۱ (مکتوۃ بر حاشیہ مرقا جلد ۱ ص ۴۰۹)

وفیہ دلیل علی جواز الصلوۃ خلف الفرقة الباغیۃ وکل فاجر،

۴.....عن قبیضۃ ابن وقاص قال قال رسول اللہ ﷺ یكون علیکم امراء من بعدی یوخرجون الصلوۃ فہی لکم وہی علیہم فصلوا معهم ماصلو للقبلة . رواۃ الابدوداؤد

(۵) مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ غیر احمدی

مسلمان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔

ثبوت قول مرزا

۱..... ”اس کلام الہی سے ظاہر ہے کہ تکفیر کرنے والے اور تکذیب کی راہ اختیار کرنے والے ہلاک شدہ قوم ہے، اس لئے وہ اس لائق نہیں کہ میری جماعت میں سے کوئی شخص ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ کیا زندہ مردہ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ جیسا خدا تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے اوپر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی منکر اور مکذب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو، بلکہ چاہئے کہ وہی تمہارا امام ہو جو تم میں سے ہو۔“ (تحدہ گولادیہ میں ۱۸ حاشیہ۔ خزائن ج ۷ ص ۶۴)

(۶) ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ تمام فرقہ اسلامیہ

میں باہم مناکحت و ازدواج جائز ہے

ثبوت قرآن مجید

۱..... وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا وَلَا اٰمَنَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الَّذِيْنَ تُؤْمِنُوْنَ اَلْتَعْبُدُوْا لِلّٰهِ وَحْدًا وَلَا تَشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا ۚ فَمَنْ شَرَكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا فَقَدْ ضَلَّ سَبِيْلَ الْهَدٰى ۚ اَعْبَجَبْتُمْ ۚ (بقرہ ۲۲۱)

(۶) مرزا قادیانی کا فتویٰ ہے کہ احمدی کو غیر احمدی سے مناکحت و ازدواج جائز نہیں ہے

ثبوت

۱..... گواہ نمبر ۴ کے بیان سے ظاہر ہے۔

(۷) تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ آنحضرتؐ

کی امت افضل ترین امت ہے اور ثقہ ہے۔

ثبوت قرآن مجید

۱..... ”كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، (آل عمران ۱۱۰)

۲.....وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ  
الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا“  
(بقرہ ۱۴۳)  
فَقَهُ

۱.....وَكَذَلِكَ نَقُطِعُ لِكُفْرٍ كُلِّ قَاتِلٍ قَاتِلٍ لَوْلَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى تَضَلُّلِ الْأُمَّةِ  
(شقاف ص ۳۶۳، ۳۶۴)

(۷) مرزا قادیانی کے تمام مسلمانوں کو بجز اپنے  
ماننے والوں کے سب کو کافر کہتے ہیں۔

ثبوت قول مرزا

۱.....”ہاں چونکہ شریعت کی بنیاد ظاہر پر ہے اس لئے ہم منکر کو مومن نہیں کہہ سکتے ہیں اور نہ یہ  
کہہ سکتے ہیں کہ وہ مواخذہ سے بری ہے اور کافر منکر کو ہی کہتے ہیں کیونکہ کافر کا لفظ مومن کے  
مقابل پر ہے..... دوسرے یہ کہ مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا  
جانتا ہے جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں  
کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے کافر  
ہے۔“  
(ہیجۃ الوحی ص ۱۷۹۔ خزائن ج ۲۲ ص ۱۸۵)

۲.....”جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔“ (ہیجۃ الوحی ص ۱۶۳۔ خزائن ج ۲۲ ص ۱۶۸)

(۸) ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ خدا کے کلام

قرآن کریم کے سوا اور کسی کا کلام معجزہ نہیں ہے

ثبوت قرآن

۱.....”وَإِنْ كُنْتُمْ لِي رِيبًا مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا  
شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ“  
(بقرہ ۲۳)

۲.....”أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ  
دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ“  
(یونس ۳۸)

(۸) مرزا قادیانی اپنے کلام کو معجزہ کہتے ہیں۔

ثبوت..... اعجاز السح اور اعجاز احمدی مرزا قادیانی کے اعجاز ہیں۔

قول مرزا

۱..... اعجاز السح، اس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے ”رسالہ اعجاز السح جب فصیح عربی میں میں نے لکھا تو خدا تعالیٰ سے الہام پا کر میں نے یہ اعلان شائع کیا کہ اس رسالہ کی نظیر اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ کوئی مولوی پیش نہیں کر سکتے۔“ (ھجۃ الوحی ص ۳۷۹۔ خزائن ج ۲۲ ص ۳۹۳)

۲..... اعجاز احمدی کے متعلق قول مرزا۔ ”میرا حق ہے کہ جس قدر خارق عادت وقت میں یہ اردو عبارت اور قصیدہ تیار ہو گئے ہیں میں اسی وقت تک نظیر پیش کرنے کا ان لوگوں سے مطالبہ کروں، جو ان تحریرات کو انسان کا افتراء خیال کرتے ہیں اور معجزہ قرار نہیں دیتے، اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ اتنی مدت تک جو میں نے اردو مضمون اور قصیدہ میں خرچ کی ہے اسی قدر مضمون اردو جس میں میری ہر ایک بات کا جواب ہو کوئی بات رہ نہ جائے اور اسی قدر قصیدہ، جو اس تعداد کے اشعار ہیں واقعات کے بیان پر مشتمل ہو، اور فصیح و بلیغ ہو، اس مدت مقررہ میں چھاپ کر شائع کر دیں تو میں ان کو دس ہزار روپیہ نقد دوں گا۔“

(اعجاز احمدی ص ۹۰۔ خزائن ج ۱۹ ص ۲۰۴)

(۹) ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے و وعیدیں سچی ہوتی

ہیں اور جس وعید میں وقت معین کر دیا گیا ہے وہ اسی وقت پر پوری ہوتی ہے۔

ثبوت قرآن مجید

۲..... ”لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ“ (روم ۶)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا لیکن بہت لوگ نہیں جانتے ہیں جاہل ہیں۔

۳..... ”لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ“ (حج ۴) اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔

۴..... ”إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ“ (آل عمران ۹۔ رعد ۳)

بلا شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

۵.....وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ (ج۔۴۷) (اے پیغمبر منکرین) تجھ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ (یہ یقین کر لیں کہ) اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔

۶.....مَا يَسْأَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (ج۔۲۹) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری بات میں تغیر نہیں ہو سکتا اور میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

۱.....”قَلَّا فَحَسْبَنَ اللَّهُ مَخْلِفٌ وَعْدِهِ رُفْلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ“ (ابراہیم۔۴۷) اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے یا عام مخاطبین سے ارشاد فرماتا ہے کہ تو ایسا خیال اور گمان ہرگز نہ کر کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرتا ہے اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی وعدہ و وعید نہیں بدلتا، شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ”تغیر دادہ نمی شود وعدہ نزدیک من۔ و قسم من ستم کنندہ بر بندگان“ اگر وعید وقت مقررہ پر پوری نہ ہوئی تو کلام الہی بدل گیا اور اس کلام الہی کے خلاف ہوا۔

## (۹) مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے

تمام وعدے اور وعیدیں سچی نہیں ہوئیں

ثبوت قول مرزا

۱.....قرآن اور تورات کی رو سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ وعید کی معیا قویہ اور خوف سے مل سکتی ہے۔

(انجام آتھم ص ۲۹، حاشہ خزائن ج ۱ ص ۲۹)

۲.....تاریخ عذاب کا نکل جانا تخلف وعدہ نہیں ہے بلکہ سنت اللہ ہے۔ (برق آسمانی)

۳.....وعید کی پیشین گوئی کے نکل جانے کے بارے میں تمام نبی متفق ہیں۔ (انجام آتھم ص ۲۹)

۴.....”يَعْبُدُ وَلَا يُؤْفَى“ یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اور بعض وقت اسے پورا نہیں کرتا۔“

(یہ قول خلیفہ اول حکیم نور الدین کا بہت مشہور ہے۔ ملاحظہ ہو، ریو پوبلیکیشن ج ۱ ص ۱۹۰۸)

قرآن مجید کی ۲۱ آیتوں اور چار حدیثوں سے مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹا ہونا

اس رسالہ میں شروع سے یہاں تک ۲۱ آیتیں قرآن مجید کی اور ۴ حدیثیں بیان ہوئی

ہیں جن سے مرزا غلام احمد قادیانی کا قطعی جھوٹا ہونا ثابت ہوا۔ جس کو تردد ہو سامنے آ کر سمجھ لے۔





قادیانی کے نکاح میں آئے گی اسے کوئی شرط وغیرہ روک نہیں سکتی کیونکہ نہایت صاف طریقے سے تین جملے اس قول کے بتا رہے ہیں کہ کوئی امر اس نکاح کو روک نہیں سکتا، پہلا جملہ خدا تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے جو امر خدا تعالیٰ کے علم میں مقرر ہو چکا ہے اسے تقدیر مبرم کہتے ہیں اور تقدیر مبرم ہرگز نہیں ٹلتی۔ دوسرا جملہ، ہر ایک مانع دور ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ مرزا کے نکاح میں اسے لائے گا۔ تیسرا جملہ انجام کار اسی عاجز کے نکاح میں لائے گا، ان تینوں قولوں کے بعد کسی جاہل کو بھی تردید نہیں ہو سکتا، کہ وہ عورت اگر مرزا قادیانی کے نکاح میں نہ آئی تو اس وقت بھی مرزا قادیانی بچے رہ سکتے ہیں؟ بلکہ ہر ایک یہی کہے گا کہ بالیقین مرزا قادیانی نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ کا الزام لگایا اور اسے وعدہ خلاف ٹھہرایا اور وہ خود ملحد ثابت ہوئے، یہ لا جواب بات ہے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ یہاں صاف طریقے سے بقول مرزا قادیانی، خدا تعالیٰ کی وعدہ خلافی اور فریب دہی ثابت ہوئی اس لئے کہ وہ عورت مرزا قادیانی کے نکاح میں نہ آئی، جس کے نکاح میں آنے کا اس نے حتمی وعدہ کیا تھا اور مقرر کر رکھا تھا اور مرزا قادیانی مرتے دم تک اس کے لئے تڑپتے رہے اور وہ دوسرے کے نکاح میں رہی اور مرزا قادیانی کلام الہی سے اور نیز اپنے الہامی اقرار سے یقینی جھوٹے ہوئے۔

دوسرا قول..... مذکورہ اشتہار میں اسی عورت کی نسبت یہ فرماتے ہیں کہ ”خدا تعالیٰ..... انجام کار اس کی اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے، (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۱۵۸) اس قول میں بھی دو باتیں ایسی بیان کی ہیں جن سے اس لڑکی کا مرزا قادیانی کے نکاح میں آنا یقینی اور قطعی ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ انجام کار اس لڑکی کا واپس لانا یعنی جس غیر شخص کے نکاح میں وہ لڑکی جا چکی ہے اس سے واپس آئے گی یعنی اس کے نکاح میں نہ رہے گی۔ دوسرے یہ کہ میرے نکاح میں اس کا آنا خدا تعالیٰ کی مقرر شدہ باتوں میں سے ہے اور خدا کی باتوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، یعنی وہ لڑکی میرے نکاح میں ضرور آئے گی، شرط وغیرہ کوئی اسے روک نہیں سکتی، پہلے قول میں اس کی زیادہ شرح ہے، اب ناظرین غور فرمائیں کہ یہ دو قول ہیں مرزا قادیانی کے، جن میں نہایت قطعی طور سے پیشین گوئی کرتے ہیں کہ محمدی بیگم احمد بیگ کی لڑکی میرے نکاح میں آئے گی اور غالباً بیس برس تک اس پیشین گوئی کا غل کر رہے مگر پوری نہ ہوئی اور مرزا قادیانی اس تمنا میں مرکز قبر میں جاسور ہے اور اس کی آرزو میں اور اس کذب کے جرم میں تڑپ رہے ہوں گے۔ (خدا کی پناہ) یہ دو قول مرزا قادیانی کے اس اشتہار میں ہیں جو

۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء کو گورداس پور سے شائع کیا گیا ہے۔ فیصلہ آسمانی کے ص ۱۶ سے ص ۳۴ تک۔ اس اشتہار میں سترہ جھوٹ دکھائے ہیں۔ ان جھوٹوں میں اکثر ان کی پیشین گوئیاں ہیں اس لئے تین طریقوں سے مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اول یہ کہ صرف ایک اشتہار میں انہوں نے سترہ جھوٹ بولے۔ اب غور کیا جائے کہ نبی کی شان تو بہت بڑی ہے، وہاں تو ایک دو جھوٹ سے نبوت باطل ہو جاتی ہے۔ کسی مجدد اور بزرگ کی بھی یہ شان نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک دو ورق میں اس قدر جھوٹ بولے۔ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو جھوٹ بولے وہ مسلمان نہیں۔ دوسرے طریقے سے ان کا جھوٹا ہونا اس طرح ثابت ہوا کہ مذکورہ دونوں قولوں میں ان کی پیشین گوئی جھوٹی ہوئی اور پورے اشتہار میں سولہ پیشین گوئیاں ان کی جھوٹی ہوئیں یعنی ان کے بیان کے بموجب حتمی وعدہ الہی ہوا مگر خدا تعالیٰ نے وہ اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور اس سے بیشتر قرآن شریف کی پانچ آیتیں نقل کی گئی ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدے اور وعیدوں ضرور پورے ہوتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی وعدہ یا وعید پوری نہ ہوا اگر ایسا ہو تو نبوت اور رسالت درہم برہم ہو جائے۔ اس میں خوب غور کرو، الغرض اس قول میں بھی مرزا قادیانی بموجب اپنے قول کے اور کلام الہی سے جھوٹے ثابت ہوئے۔ تیسرے یہ کہ جس طرح وہ قرآن سے جھوٹے ٹھہرے اسی طرح توریت مقدس نے بھی ان کے جھوٹے ہونے پر شہادت دی۔ ملاحظہ ہو۔

### توریت مقدس کا فیصلہ مرزا کی کذابی پر

توریت کی پانچویں کتاب مقدس استثنائے باب ۱۸ آیت نمبر ۲۰ تا ۲۲ میں یہ ارشاد ہے۔ ”لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔“ (یعنی توریت میں یہ سیاسی حکم ہے کہ جھوٹا نبی قتل کر دیا جائے) اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ میں کیونکر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں تو جان رکھ کہ جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور وہ جو اس نے کہا واقع نہ ہوا تو وہ بات خداوند نے نہ کہی، بلکہ اس نبی نے گستاخی سے کہی ہے۔“ اور نہایت ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی منکوہ آسمانی کے نکاح میں آنے کی نسبت خدا جانے کتنے مرتبہ بیان کیا ہے، مگر وہ نکاح میں نہ آئی یعنی جھوٹ بولا ہے اور وہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی اس لئے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی نے خدا تعالیٰ پر افتراء کیا۔ الحاصل قرآن مجید اور توریت مقدس دونوں اس پر متفق ہیں کہ مرزائے

قادیانی بالیقین جھوٹا ہے۔ یہاں تین طریقوں سے اس کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیا گیا۔ جب ان دو قولوں نے مرزا قادیانی کے کذب کا کامل فیصلہ کر دیا تو اب زیادہ اقوال نقل کرنے کی ضرورت نہیں رہی، مگر میں خوش طبع حضرات کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی باوجود سن رسیدہ ہونے کے احمد بیگ کی دختر پر ایسے فریفتہ تھے کہ بار بار اس کا ذکر کرتے تھے اور جا بجا اس کے اشتہار میں انہیں مزہ ملتا تھا۔ اور یہ بھی خیال ہوگا کہ بار بار اعلان و اشتہار کو حکم الہی بتاتا عوام کو ڈراتا اور توجہ دلاتا ہے۔ خواہ وہ انہیں خیال ہوگا کہ اگر مرزا کو واقعی الہام الہی نہ ہوتا تو بار بار اس کثرت سے اس کا ذکر نہ کرتے۔ یعنی اپنے عشقِ ضعیفی کے ساتھ عوام کی فریب دہی بھی تھی مذکورہ اشتہار تو ۱۸۸۸ء کا تھا ذیل کا اشتہار ۲۰ مئی ۱۸۹۱ء کو تھا پی پریس لدھیانہ میں چھپوایا ہے اور اس کا نام اشتہار نصرت دین رکھا ہے۔ اب اس نصرت دین کا مضمون ملاحظہ ہو۔

تیسرا قول..... کہتے ہیں کہ ”احمد بیگ کی دختر کلاں کی نسبت بحکم والہام الہی یہ اشتہار دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے اور یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو میری طرف لے آئے۔“ (مجموعہ اشتہارات ج ۱ ص ۲۱۹)

ناظرین! یہ نصرت دین کے لئے اشتہار ہے اور بحکم الہی اشتہار دیا گیا ہے اور مضمون وہی معمولی مطلوبہ کے نکاح میں آنے کا ہے۔ مگر نہایت تاکید سے لکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہی مقدر قرار پا چکا ہے کہ وہ لڑکی میرے نکاح میں آئے گی، چونکہ یہ اشتہار بحکم الہی دیا گیا ہے اس لئے ضرور ہے اس کا مضمون بھی اسی کی طرف سے ہوگا۔ اس لئے حیرت یہ ہے کہ عالم الغیب ہونا اس کی صفت ہے، مگر اسے یہ علم نہیں ہے کہ کس حالت میں نکاح ہوگا، باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے، مگر الحمد للہ جو کچھ علم تھا وہ جہل مرکب تھا واقعی علم نہ تھا۔ کیونکہ کسی وقت وہ عورت مرزا قادیانی کے نکاح میں نہ آئی اور اشتہار نے مرزا قادیانی کو رسوا کیا اور مرزا نے خدائے قدوس پر جہالت یا فریب دہی کا عیب لگایا اسی وجہ سے اسلامی درو مند انہیں دہریہ فتنہ سمجھتے ہیں۔ مسیح کی تثلیث تو ہو گئی یعنی مسیح قادیان کے تین جھوٹے الہام بیان ہوئے اب چوتھا الہام اسی منکوحہ آسمانی کے نکاح میں آنے کی نسبت قرآنی الفاظ میں ہوا ہے۔ جس سے شک و شبہ نہ مرزا کا دور ہوا ہے، فرماتے ہیں۔

چوتھا قول..... ”۱۲ اپریل ۱۸۹۱ء کے بعد اس عاجز کو ایک سخت بیماری آئی..... اور یہ

معلوم ہو رہا تھا کہ اب آخری دم ہے تب میں نے اس پیشین گوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے معنی اور ہوں گے، (یہ مرزا قادیانی کا فریب ہے کہ میں اس کے معنے نہ سمجھ سکا خیال کیا جائے کہ اس قدر تکرار اور ایسی صاف مادری زبان میں الہام ہوں اور پھر ان میں نہ سمجھنے کا احتمال ہوا اگر انہی کو اپنی وحی کے معنے نہ سمجھنے کا احتمال ہو تو اس کی تمام وحی بیکار ہو جائے کیونکہ ہر وحی پر احتمال ہوگا اور کوئی معنی اس کے یقینی نہ رہیں گے۔) جو میں سمجھ نہیں سکتا تب مجھے اسی حالت قریب الموت میں مجھے الہام ہوا۔ ”الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ“ یعنی (اس کا نکاح میں آتا) تیرے رب کی طرف سے سچ ہے۔ تو کیا شک کرتا ہے۔“

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۳۹۸۔ خزائن ج ۳ ص ۳۰۶)

خیال کرنے کا مقام ہے کہ اس پیشین گوئی کی صداقت پر یہ زور ہے کہ مختلف عنوانوں کے سوا خاص قرآنی الفاظ میں الہام اتار کر اس کے سچا ہونے کا یقین دلایا جاتا ہے مگر جب اس قادر مطلق کو ان کی کذابی کا اظہار منظور ہے تو مرزا قادیانی کی چالاکیاں کیا کام دے سکتی ہیں؟ یعنی وہ لڑکی مرزا قادیانی کی بغل میں نہ آئی غرضیکہ یہ چوتھا قول بھی ان کا جھوٹا ہوا اور مرزائیوں کے خیال کے موافق چوتھی مرتبہ مرزا قادیانی نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ اور فریب کا الزام لگایا کیونکہ وہ تو مرزا کو اب تک سچا مان رہے ہیں۔ اس لئے بالضرور اس جھوٹے الہام کا الزام وہ خدا تعالیٰ پر لگائیں گے۔

پانچواں قول..... اسی پیشین گوئی کی نسبت نقل کرتا ہوں جو سب اقوال سے زیادہ شرح اور اس لڑکی کے نکاح میں آنے کے لئے بہت زیادہ یقین دلانے والا ہے۔ وہ قول یہ ہے ”خدا تعالیٰ نے پیشین گوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد گاماں بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھائے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔“

(ازالہ اوہام حصہ اول ص ۳۹۶۔ خزائن ج ۳ ص ۳۰۵)

اس قول میں مرزا قادیانی نے مذکورہ پیشین گوئی کے ہر طرح سچے ہونے کے لئے چھ طریقوں سے یقین دلایا ہے جن کے بعد کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ وہ طریقے ملاحظہ ہوں۔

پہلا طریقہ..... انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گا۔  
 دوسرا طریقہ..... لوگ کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا۔ اردو کے جاننے والے یقینی طور سے جانتے ہیں کہ لفظ انجام کار آخر کار وہیں بولتے ہیں جہاں ایک شے میں متعدد باتیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں جو بات بالیقین سب کے آخر میں ہو اسی کو انجام کار یا آخر کار کہتے ہیں۔

تیسرا طریقہ..... خدائے تعالیٰ ہر طرح سے تمہاری طرف لائے گا۔ یعنی باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے شرطی ہونے کی حالت میں یا بے شرطی کی حالت میں۔  
 چوتھا طریقہ..... ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھائے گا (اس میں شرط وغیرہ جو کچھ ہو سب آ گیا، اب نکاح میں آنے کا کوئی مانع نہ رہا، شرط پوری ہو یا نہ ہو) اب اس کے بعد کے جملہ نے تو اور بھی غضب کیا، فرماتے ہیں۔

پانچواں طریقہ..... اور اس کام کو (یعنی مرزا کے اس نکاح کو) ضرور پورا کرے گا، جب مرزا قادیانی کا خدائے قدوس اس نکاح کے کرنے کو ضرور کہتا ہے تو اس کے ظہور میں نہ آنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ بجز اس کے کہ قادر نہیں ہے، عاجز ہے۔ (نعوذ باللہ) ان پانچوں قولوں نے حقیقۃ الوحی کے اس جواب کو محض غلط ٹھہرا دیا جو اس لڑکی کے نکاح میں نہ آنے کی نسبت مرزا قادیانی نے دیا ہے، یہ خوب یاد رہے کہ یہ بھی مرزا قادیانی کا ایک وقتی فریب ہے۔

چھٹا طریقہ..... ان کا یہ قول ہے، کوئی نہیں جو اسے روک سکے، اس میں شرط وغیرہ بھی آگئی، اس یقین اور کمال و ثوق و اعتماد کے بعد بھی وہ پیشین گوئی ایسی جھوٹی ثابت ہوئی کہ دنیا نے دیکھ لیا اور مرزا قادیانی کے چھ جھوٹ قطعی اس ایک قول میں ہوئے اور بیس جھوٹ پہلے قولوں میں بیان ہوئے ہیں۔ کل جھیس جھوٹ ہوئے، اب قادیانی پارٹی ان الزاموں کا کچھ جواب دے سکتی ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر کوئی مرزائی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب مرزا قادیانی کی مخصوص پیشین گوئی جھوٹی ہوئی جس کا الہام ان کے دعویٰ مجدد ہونے یا نبی ہونے سے زیادہ پکا ہے۔ تو بالیقین قرآن مجید سے اور توریت مقدس سے اور خود اپنے اقراروں سے جھوٹے ثابت ہوئے۔ اب ایم اے صاحب اور خواجہ کمال کہیں کہ یہ جھوٹی پیشین گوئی ایسی ہی ہے جیسا کہ آنحضرتؐ حدیبیہ والی پیشین گوئی؟ تم کو شرم نہیں آتی کہ ایسے صریح کاذب کی باتوں کو آنحضرتؐ کی حقانی باتوں سے مشابہت دیتے ہو، یہ کون پاجی کہتا ہے کہ حدیبیہ والی پیشین گوئی پوری نہیں

ہوئی، اس پیشین گوئی میں تعین وقت نہیں کی گئی تھی اور مرزا نے یہ بھی لکھا ہے کہ حدیبیہ والی پیشین گوئی وقت انداز کردہ پوری نہیں ہوئی محض غلط ہے مگر لاہوری ایم، اے جھوٹ بولنے میں اپنے مرشد سے بھی بڑھ گئے اور بالکل پورا نہ ہونے کے قائل ہو گئے۔ انہیں چاہئے کہ فیصلہ آسمانی حصہ دوم کا ص ۲۳ سے ۳۱ تک دیکھیں اس سے معلوم ہو جائے گا کہ قادیانی پیر اور مرید دونوں جھوٹے ہیں۔ میں نے فیصلہ آسمانی کا حوالہ تو دے دیا مگر چونکہ اس رسالے میں کامل طور سے مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کیا ہے اور دکھا دیا ہے کہ وہ نہ مجدد ہیں نہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، نہ رسولوں کی سی ان کی روش تھی۔ بلکہ وہ نہایت جھوٹے فریب دہندہ، کامل عیار تھے اس لئے جو درحقیقت انہیں نبی ماننا ہے یا ظاہر میں انہیں الہامی مجدد کہتا ہے وہ آسمانی فیصلہ کو ہرگز نہیں دیکھے گا اس لئے میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں جس سے مرزا قادیانی کا اور ان کے جان نثار مرید کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے، وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ کی پیشین گوئی ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، حدیبیہ والی پیشین گوئی کے پورا ہونے کے لئے کسی وقت اور کسی طرح حضورؐ نے وقت کی تعین نہیں فرمائی۔ بلکہ صاف طور سے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے پیشین گوئی کی ہے وہ پوری ہوگی۔ الحمد للہ وہ دوسرے ہی سال پوری ہو گئی اس لئے قادیانی پیر اور مرید دونوں جھوٹے ہوئے۔ میاں ایم اے، صاحب صرف ایک منکوحہ والی پیشین گوئی تو جھوٹی نہیں ہوئی ان کی تو تمام صاف پیشین گوئیاں جھوٹی ہوئیں۔ خصوصاً وہ جن پر تمام عمر زور لگاتے رہے اور خدا کا سچا وعدہ بتاتے رہے اور قسم کھاتے رہے اور اس کے پورا نہ ہونے پر اپنے آپ کو جھوٹا اور ہر ایک سے بدتر کہتے رہے۔ وہ پیشین گوئی بھی پوری نہ ہوئی، بلکہ خدائے تعالیٰ نے متعدد طریقوں سے انھیں ایسا جھوٹا ثابت کر دیا کہ ہر ایک ایماندار آنکھوں سے دیکھ کر ان کا جھوٹا ہونا معائنہ کر سکتا ہے۔ وہ پیشین گوئی ملاحظہ کیجئے، انجام آتھم میں فرماتے ہیں۔ ”بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشین گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر اس کی انتظار کرو، اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی..... جو بات خدا کی طرف سے ٹھہر چکی کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ (انجام آتھم ص ۳۱۔ خزائن ج ۲۱ ص ۳۱) یہ قول ان کا الہامی ہے اور اس کے الہامی ہونے کا وثوق اسی ایک قول میں کئی طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ اول یہ کہ اس پیشین گوئی کے وقوع کو تقدیر کہتے ہیں۔ یعنی اس پیشین گوئی کا وقوع علم الہی میں قرار پا چکا ہے اس لئے اس کا ظہور ضرور ہوگا۔ اس کا علم انبیاء کو دیا جاتا ہے، یہ کہنا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کا محاورہ اردو میں کم سے کم تین مرتبہ کہنے کو بولتے ہیں۔ اس لئے اس کے تقدیر مبرم ہونے کو

تین مرتبہ بیان کر چکے ہیں، دوم کمال درجہ کا وثوق اور اعتماد اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی۔ دیکھا جائے کہ اس پیشین گوئی کی صداقت پر کس قدر پختہ یقین ہے کہ اس کے خلاف میں اپنے آپ کو نہایت صاف طور سے جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اگر اس پیشین گوئی کی صداقت کا ظہور نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں، یعنی میں نے مہدی، اور مسیح اور مجدد اور نبی اور رسول ہونے کے دعوے کئے ہیں۔ سب غلط ہیں، مجھے جھوٹا یقین کرو، بھائیو! مرزا قادیانی اپنی زبان قلم سے تحریر فرما رہے ہیں اب اس کے بسرو چشم ماننے میں کیا عذر ہو سکتا ہے؟ خدا کے لئے کوئی احمدی بیان کرے، سوم یعنی تیسرا طریقہ اعتماد کا یہ بیان کرتے ہیں کہ احمد بیگ کے داماد کا میرے رویداد مرنا خدا کی طرف سے قرار پا چکا ہے اور جو بات خدا کی طرف سے ٹھہر چکی ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اب خوب غور و انصاف سے دیکھا جائے کہ اس پیشین گوئی کے پورا ہونے پر مرزا قادیانی کو کس قدر وثوق ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا ظہور خدا کی طرف سے قرار پا چکا ہے۔ کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اب اس پر نظر کی جائے کہ جب یہ پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے جھوٹی ثابت کر دی تو مرزا قادیانی کے تین جھوٹ اور خدا پر افتراء کرنا ثابت ہوا اور اگر کوئی مرزائی حضرات اس کو نہ مانیں تو اپنے خدا پر جہالت یا فریب دہی کا الزام دیں، یعنی خدا تعالیٰ کو داماد احمد بیگ کے زندہ رہنے کا جو علم نہ تھا، یا اس نے مرزا کو فریب دیا، (نعوذ باللہ من ہذہ الکفریات) اب یہ دیکھا جائے کہ جب اس پیشین گوئی کے ظہور کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ خدا کی طرف سے بالیقین قرار پا چکی ہے تو منکوحہ آسمانی کا نکاح میں آنا بھی ایسا ہی ہے، شرط وغیرہ کوئی اسے روک نہیں سکتی، غرضیکہ مرزا قادیانی نے منکوحہ آسمانی کے نکاح میں آنے کے لئے جس طرح کے متعدد طریقوں سے اپنا وثوق نو (۹) بیان کیا ہے یہاں تک کہ آخر قول میں چھ طریقوں سے بیان ہوا ہے۔ جن کا ذکر اوپر ہوا، کہ منکوحہ آسمانی کا نکاح میں آنے کا وثوق طریقوں سے مرزا قادیانی نے بیان کیا، اب نہایت ظاہر ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ شرط کے پورا کر دینے سے نکاح میں نہ آئی تو نو طریقوں سے یعنی مرزا قادیانی کے نو قولوں سے یہ قول (یعنی حقیقۃ الوحی والا جواب) جھوٹا قرار پائے گا اور جب یہ کہنا بھی جھوٹ ہے کہ اس لڑکی کی ماں یا نانی نے توبہ کی تھی تو یہ پورے دس جھوٹ مرزا قادیانی کے ہوئے۔ ان کی پوری تصدیق مرزائی حضرات کو مشکل ہے، مگر اس کی تصدیق میں تو ذرا بھی دشواری نہیں ہے۔ مرزا قادیانی خود فرماتے رہے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی۔ اور خدا کے فضل سے وہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی اور مرزا قادیانی کی

کذابی کا اعلان و اظہار اس قدر دنیا میں ہوا اور ہو رہا ہے کہ بارہ برس مرزا کو قبر میں سڑتے ہوئے ہو گئے اور احمد بیگ کا داماد اب تک زندہ ہے اور مرزا انہوں کو اپنا چہرہ دکھا کر مرزا قادیانی کی کذابی دکھا رہا ہے مگر سخت افسوس ہے کہ یہ حضرات عار کو نثار پر ترجیح دے رہے ہیں اور توبہ کر کے جہنم سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ پھر اس طرح کے قول صرف ایک ہی تو نہیں ہیں بلکہ بہت ہیں ایک اور ملاحظہ کیجئے۔ اسی پیشین گوئی کی نسبت ضمیمہ انجام آتھم میں بڑے زور سے لکھتے ہیں۔ ”یاد رکھو کہ اس پیشین گوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی۔ (یعنی احمد کا داماد نہ مرا) تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا، اے احمقو یہ انسان کا افتراء نہیں، کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں، یقیناً یہ سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملتیں، وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۴، خزائن، ج ۱۱ ص ۳۳۸) ہر ایک نظر رکھنے والا اس قول کو دیکھے کہ مذکورہ پیشین گوئی کے ظہور پر کس قدر وثوق ہے اور اسے خدا تعالیٰ کا سچا وعدہ کہتے ہیں، یعنی یَعْدُ وَلَا يُؤْفَى میں داخل نہیں ہے بایں ہمہ وہ پیشین گوئی جھوٹی ہونے اور مرزا قادیانی کے نہایت پختہ قول سے خدائے قدوس پر وعدہ خلافی کا اور اس کے نہایت پختہ باتوں کے غیر معتبر ہونے کا اور اپنے ارادہ میں عاجز ہونے کا الزام آیا اور بالیقین مرزا کو اپنے اقرار سے جھوٹا اور ہر بد سے بدتر یعنی بدترین خلاف ثابت ہوا۔ اے احمدی گروہ آنکھیں کھول کر صداقت کو دیکھو اور ایسے اعلانیہ کذاب سے علیحدہ ہو کر اپنے آپ کو بچاؤ اور سچے خیر خواہوں کے بھائی بن جاؤ، ان اعتراضوں کا جواب کوئی مرزائی نہیں دے سکتا۔ ایک رسالہ چیلنج محمدؐ یہ مشہور ہوا ہے جس کو دو برس سے زیادہ ہوا، اور قادیان میں خلیفہ صاحب وغیرہ کے پاس بھیجا گیا اور جابجا مولوی مرزا انہوں کو بھیجا گیا، مگر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس کے مقابلہ میں دم مارے۔

حیرت ہے کہ خواجہ کمال کا گروہ اس پیشین گوئی کے پوری نہ ہونے سے کوئی الزام مرزا پر عائد نہیں کرتا۔ بلکہ ایک طرح کی مماثلت حضرت سرور انبیاء سے بتاتا ہے کہ یہ پیشین گوئی ایسی ہی پوری نہ ہوئی جس طرح جناب رسول اللہ کی حدیبیہ والی پیشین گوئی پوری نہ ہوئی تھی۔ حالانکہ محض غلط ہے۔ جناب رسول اللہ کی کوئی پیشین گوئی جھوٹی نہیں ہوئی۔ اس کے بیان میں ایک خاص رسالہ لکھا گیا ہے اور مرزا کی تو خاص پیشین گوئیاں جھوٹی ہوئیں اور اس طرح جھوٹی ہوئیں کہ خدائے تعالیٰ پر متعدد الزامات ثابت ہوئے جن کا بیان اوپر کیا گیا، ایسے کذاب کے ماننے والے اشاعت اسلام کریں گے (استغفر اللہ) میاں ایم اے صاحب لاہوری، آپ کے مرزا



بالفرض نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے مگر خدا پر الزام تو لگاتے ہیں اپنے اقرار سے جھوٹے اور بدترین خلاق تو ہیں۔ خدائے تعالیٰ نے انہیں جھوٹا ثبوت کر دیا، پھر ایسے کذاب کو بزرگ مجدد ماننے والا سچے مسلمانوں میں مل سکتا ہے؟ اور ایسے جھوٹے اشاعت اسلام کر سکتے ہیں۔ البتہ بطور فریب اسلام کا نام لیا جاتا ہے۔ درحقیقت انجام میں مرزائیت کی گمراہی پھیلانی مد نظر ہے جس کا بیان ہدیہ حشاندہ وغیرہ میں کیا گیا ہے، اگر حدیبیہ والی پیشین گوئی کی پوری حالت معلوم کرنا ہے تو ملاحظہ کیجئے۔

۶ ہجری میں جناب رسول اللہ ﷺ نے عمرہ کا ارادہ کیا، یہ وہ وقت ہے کہ ابھی مکہ معظمہ کفار مشرکین کے قبضے میں ہے، مگر وہ اپنے مذہبی خیال سے کسی حج اور عمرہ کرنے والے کو روکتے نہ تھے اور چار مہینوں میں یعنی شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور ربیعہ میں لڑائی کو منع جانتے تھے، اسی وجہ سے آپؐ نے ماہ ذی قعدہ میں عمرہ کا ارادہ کیا اور تشریف لے چلے، آپؐ کے ہمراہ چودہ، پندرہ سو صحابہ ہوئے، آپؐ حدیبیہ پہنچ کر یاروا لگی سے قتل آپؐ نے خواب دیکھا کہ ہم مع تمام اصحاب کے بلا خوف و خطر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ہیں اور ارکان حج ادا کئے ہیں، یہ آپؐ کا خواب ہے، کوئی الہامی پیش گوئی نہیں ہے، اس خواب میں کوئی قید اور کسی وقت کی تعیین نہ بطور اندازہ بیان کی گئی ہے۔ نہ حتمی طور پر کوئی بات کہی گئی ہے، یہ خواب آپؐ نے اصحابؓ سے بیان فرمایا چونکہ حضور انور ﷺ اس سال عمرے کا ارادہ فرما رہے تھے اور انبیاء علیہم السلام کا خواب تو سچا ہوتا ہی ہے اس لئے بعض اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کو یہ یقین ہوا کہ اسی سال ہم بلا خوف و خطر مکہ معظمہ میں پہنچیں گے اور حج کریں گے انہیں یہ خیال نہیں رہا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے وقت کی تعیین نہیں فرمائی مگر مقام حدیبیہ میں جب آپؐ پہنچے تو کفار مانع ہوئے اگرچہ شرائط کے ساتھ اس پر صلح ہو گئی۔ اس سال نہ جائیں آئندہ سال آ کر عمرہ کریں۔ حضورؐ نے حدیبیہ سے لوٹنے کا ارادہ کیا، حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ حضرت (ﷺ) آپؐ نے تو فرمایا تھا کہ ہم خانہ کعبہ میں جائیں گے اور طواف کریں گے، یعنی آپؐ نے اپنا خواب بیان فرمایا تھا۔ حضور انور ﷺ نے فرمایا کہ ہاں ہم نے کہا تو تھا مگر کیا یہ کہا تھا کہ اسی سال ہم داخل ہوں گے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ نہیں، حضور انور ﷺ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو گے اور طواف کر دے گے، یعنی ہمارے خواب کا ظہور کسی وقت ہوگا، یہ روایت صحیح بخاری باب الشروط فی الجہاد میں ہے۔ خدا تعالیٰ نے آئندہ سال میں اس کا ظہور دکھایا اور پھر ایک سال کے بعد فتح مکہ ہوئی اور نہایت کامل طور سے اس

پیشین گوئی کی صداقت کا ظہور ہوا، غرضیکہ دو برس کے اندر وہ پیشین گوئی کامل طور سے پوری ہوگئی۔ یہاں یہ معلوم کر لینا بھی ضرور ہے کہ ۶ ہجری میں جو حضور انور ﷺ نے عمرہ کا ارادہ کیا تھا اس ارادہ کا باعث آپ کا خواب تھا یا صرف عمرہ کا شوق اور وہاں کے کفار کی حالت کا معلوم کرنا، کامل تحقیق اس کی شہادت دیتی ہے کہ عمرہ کرنے کا خیال اس کا باعث ہوا کیونکہ کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خواب کا دیکھنا اس سفر کا باعث ہوا، صحیح روایت تو یہی ہے کہ حدیبیہ پہنچ کر حضور انور ﷺ نے وہ خواب دیکھا تھا۔ اس کی صحت بہ لحاظ راوی کے اور باعتبار ناقصین کے ہر طرح ثابت ہوتی ہے۔ اس کے راوی مجاہد ہیں، جو حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے شاگرد رشید اور نہایت ثقہ ہیں اس روایت کو اکثر مفسرین اور محدثین نے نقل کیا ہے۔ تفسیر درمنثور میں اس روایت کو پانچ محدثین سے اس طرح نقل کیا ہے کہ۔

من مجاهد قال ارى رسول الله ﷺ وهو بالحدیبیة انه یدخل مکة هو واصحابه امنین الخ  
(درمنثور جلد ۶ ص ۸۰)

(مجاہد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حدیبیہ میں تشریف فرما تھے کہ آپؐ نے خواب میں دیکھا کہ آپؐ اور آپؐ کے اصحاب بے خوف و خطر مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔) تفسیر جامع البیان طبری اور فتح الباری اور عمدۃ القاری اور ارشاد الساری میں بھی یہی ہے کہ حضور انور ﷺ نے حدیبیہ میں یہ خواب دیکھا غرضکہ اس وقت نو کتابوں سے اس دعوے کا ثبوت دیا گیا جس روایت میں یہ آیا ہے کہ مدینہ پاک میں حضور انور ﷺ نے یہ خواب دیکھا وہ روایت ضعیف ہے۔ علاوہ اس کے ضعیف ہونے کے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور انور ﷺ کا وہ سفر اس خواب کی وجہ سے ہوا، برادران اسلام اس کا یقین کر لیں کہ جو کچھ اس رسالہ میں مختصر طور سے لکھا گیا ہے وہ مرزا قادیانی کے کذب کے لئے نہایت کافی ہے کوئی مرزائی احمدی اس کا جواب دے نہیں سکتا۔

تمتہ صحیفہ رحمانیہ (۲۲)

## مسیح قادیان کی اقراری کذابی کا اعلان

اے بھائیو! خدا سے ڈرنے والو! تمہاری خیر خواہی اور تم سے محبت دینی کی وجہ سے مسیح قادیان کی حالت کے بیان میں بہت سے رسالے لکھے گئے اور تمہاری خیر خواہی میں جان و



جھوٹا بتا رہے ہیں پھر کیا آپ کو اپنے مرشد کی قسم پر بھی اعتبار نہیں ہے کیا آپ کے نزدیک مجدد و نبی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ جن کی قسم کا بھی اعتبار نہ ہو اور جھوٹے کہلائیں۔ ایسے جھوٹے لکذاب کا وحی والہام آپ صحیح مانیں گے اور جھوٹے اور سچے کو ایک ساتھ سمجھیں گے افسوس صد افسوس۔

بھائیو! یہ باتیں تو بہت بڑی ہیں ان کو مرزا قادیانی ان کے خلیفہ و صاحبزادے تو کیا پورا کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو مرزا قادیانی کا دوسرا قول دکھانا چاہتا ہوں جو خاص اپنی معشوقہ مشکوٰۃ آسمانی کے رقیب کی نسبت ہے اگرچہ اس کے قبل بھی میں نے پیشین گوئی کے اس جملہ کو بیان کیا ہے لیکن پھر بھی مزید توجہ کیلئے اس کو لکھتا ہوں، علاوہ اس کے نہ پیش گوئی اس قابل ہے کہ اس کو کمر رسہ کر کر کثرت سے مسلمانوں کو دکھانا چاہئے۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ ”یاد رکھو کہ اس پیش گوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی (یعنی داماد احمد بیگ میرے سامنے نہ مرا) تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا۔ اے احقویہ انسان کا افتراء نہیں یہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔“ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۴۔ خزائن ج ۱۱ ص ۳۸) اس قول میں مرزا قادیانی زوروں کے ساتھ اپنی پیشین گوئی پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر پوری نہ ہوئی تو میں ہر بد سے بدتر ٹھہروں گا اور اسی پر بس نہیں کی بلکہ اس کو خدا کا سچا وعدہ بھی کہا ہے۔ مسلمانو! ذرا غور کرو کہ داماد احمد بیگ نہ تو ڈھائی برس میں مرا اور نہ ان کے سامنے مرا۔ بلکہ اب تک زندہ ہے اور مرزا قادیانی کے ہر بد سے بدتر ہونے کا ثبوت علی الاعلان دے رہا ہے۔ حالانکہ اس کے مرنے کو مرزا قادیانی خدا کا سچا وعدہ بتا رہے ہیں جس سے خود تو جھوٹے ہوئے ہیں لیکن اپنے ساتھ خدا کو بھی جھوٹا اور وعدہ خلاف بنایا، اس کی مزید تفصیل فیصلہ آسمانی حصہ دوم میں دیکھئے، اب اس کے بعد بھی مرزا قادیانی کو نبی و مسیح و مہدی تو کیا ایک سچا مسلمان ماننا بھی صریح گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب ذرا تیسرا قول بھی مرزا قادیانی کا ملاحظہ کیجئے۔ جس میں اس پیش گوئی کے ساتھ ساتھ اپنے جھوٹے ہونے کی بھی وضاحت کرتے ہیں اگرچہ یہ بھی مرزا قادیانی کے رقیب داماد احمد بیگ کے مرنے ہی کے متعلق ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ پہلے دونوں قول ضمیمہ انجام آتھم کے تھے اور یہ خاص قول انجام آتھم کا ہے لکھتے ہیں کہ ”میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے اس کا انتظار کرو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔“ (حاشیہ انجام آتھم ص ۳۱۔ خزائن ج ۱۱ ص ۳۱)

اس میں آپ لکھتے ہیں کہ داماد احمد بیگ کے مرنے کی پیش گوئی تقدیر مبرم ہے یعنی

لم-ٹیل ہے۔ کسی صورت سے اس کے خلاف ہو نہیں سکتا، اور طرہ یہ ہے کہ اس کو آپ لفظ تکرر بار بار کے ساتھ اپنے مریدوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ داماد احمد بیگ ضرور مرے گا پھر اس کے بعد والی عبارت سچائی سے کس قدر بھری ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔ اب اس میں یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ اس کا مرنا مرزا قادیانی کی زندگی ہی میں تقدیر مبرم ہے۔ اب اس دنیا کے رہنے والے عموماً اور مرزائی حضرت خصوصاً غور کریں اور دیکھیں کہ داماد احمد بیگ کے مرنے کی پیش گوئی ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء میں کی گئی تھی اور آج اگست ۱۹۲۱ء ہے جس کو ملانے سے عرصہ ۳۳ برس کا ہوتا ہے اور اس کا نکاح ۱۸۹۲ء میں ہوا اور مرزا قادیانی اپنی حسرت و ارمان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ۱۹۰۸ء میں تو اس حساب سے خود مرزا قادیانی کی زندگی میں وہ داماد احمد بیگ سولہ برس تک ان کی تقدیر مبرم اور خدائی وعدہ کا مقابلہ کرتا رہا۔ اب اہل حق خود فیصلہ کر لیں کہ جب داماد احمد بیگ اب تک زندہ ہے اور مرزا قادیانی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے تو مرزا قادیانی جھوٹے ہوئے یا نہیں اور صرف جھوٹے نہیں بلکہ بار بار جھوٹے ہیں اور عربی، فارسی، اردو اور تینوں میں جھوٹے ہوئے اور یہ مُسلم ہے کہ ایسا جھوٹا شخص ہر گز نبی، مسیح، مہدی نہیں ہو سکتا ہے۔

وما علینا الا البلاغ المبین

ابو محمود محمد اسحاق غفرلہ الرزاق یکم ذی الحجہ ۱۳۳۹ھ





بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين  
والصلاة والسلام على سيدنا محمد  
والآله الطيبين الطاهرين  
أجمعين

نامہ حقانی در کذب مسیح قادیانی

صحیفہ رحمانیہ

(۲۳)

حضرت مولانا محمد اسحاق مونگیروی

جس میں مرزائیوں کے فریبوں کو ظاہر کر کے مسلمانوں کو ان سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے اور مرزائیوں نے جو اب ایک نیا فریب نکالا ہے کہ علماء کے سامنے پہیلیاں پیش کر دیتے ہیں ان کے اس فریب کی اچھی طرح قلعی کھولی گئی ہے اور مثال میں چند پہیلیاں پیش کر کے دندان شکن جواب دیا گیا ہے اور اس کے جواب میں مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کے دلائل اور ان کے اعلانیہ ۸۳ جھوٹ دکھائے گئے ہیں۔

ہمدردان اسلام! یہ خاکسار کچھ ضروری دینی بات آپ سے کہنا چاہتا ہے آپ اسے غور سے ملاحظہ فرمائیں اور گروہ مرزائی قادیانی کو سمجھائیں تمام اہل اسلام اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسلام نہایت ضعیف ہو گیا ہے اور باوجود اس کے کہ دنیا میں تیس چالیس کروڑ مسلمان شمار کیے جاتے ہیں مگر اس تعداد کثیر کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکتے اور نہ کچھ کرنے کا خیال ہے ایسے نازک وقت میں مرزا قادیانی اٹھے اور تمام امت محمدیہ یعنی بہترین امت کے خلاف دعویٰ نبوت کر کے چالیس کروڑ مسلمانوں کو کافر کہہ دیا کہ بجز چند آدمیوں کے اس کا حاصل یہی ہوا کہ دنیا مسلمانوں سے خالی ہو گئی اور دین اسلام گویا مٹ گیا، مرزا کی نبوت اور مسیحیت کا یہ نتیجہ ہوا، اب مرزا قادیانی اور ان کے خلیفہ اپنے مریدوں سے چندہ لیکر ایک نیا اسلام پھیلاتا چاہتے ہیں، مگر طالبین حق اور ہمدردان اسلام جنہیں کچھ بھی علم ہے اور اسلام کا درد ہے وہ علمائے اسلام کے رسائل ملاحظہ کر چکے ہوں گے، جن میں مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹا، کذاب ہونا قطعی طور سے ثابت کر دیا گیا ہے، مگر مرزائی حضرات سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو ابتداء سے ان کا یہی معمول رہا ہے کہ پہلے حیات و ممات مسیح علیہ السلام پر گفتگو کرنے کو کہتے ہیں اور کبھی ختم نبوت پر بحث کرنے کے لیے آواگی ظاہر کرتے ہیں، اور مرزا کے صادق یا کاذب ہونے کی گفتگو سے بھاگتے ہیں کیونکہ انہیں بھی مرزا کے جھوٹے ہونے کا یقین ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان علمی بحثوں کو چھیڑ کر عوام کو پھنسا دیا جائے کیونکہ وہ علمی باتیں سمجھیں گے نہیں، اس طور سے مرزا کے کذب اور ان کی اصلی حالت پر پردہ پڑا



رہے گا، حالانکہ علمائے اسلام نے بڑے بڑے رسائل حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کے ثبوت میں لکھے ہیں اور وہ چھپ کر مشتم ہو چکے ہیں چنانچہ رسائل لاٹینی و کذب مسیح قادیانی عنقریب چھپا ہے اس میں چودہ رسالوں کے نام مع کیفیت لکھے ہیں اور یہ رسالہ قادیان بھیجا گیا ہے اسی طرح مطول اور مختصر مختلف عنوان و طریقوں سے اثبات ختم نبوت میں میرے علم میں گیارہ رسالے لکھے گئے ہیں اور مشتم ہو چکے ہیں اور قادیان بھیجے گئے ہیں ان رسائل کے نام ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔

### حیات مسیح علیہ السلام کے ثبوت میں رسائل

(۱) الالہام المسیح فی حیات المسیح (۲) شمس الہدیۃ (۳) سیف چشتیائی (۴) الفتح الربانی (۵) الحق الصریح فی حیات المسیح (۶) البیان الصحیح فی حیات المسیح (۷) شہادۃ القرآن باب اول (۸) شہادۃ القرآن باب دوم (۹) رسالہ مذاہب الاسلام (۱۰) صحیفہ رحمانیہ نمبر ۵ (۱۱) رسالہ النجم لکھنؤ جلد ۱۰ نمبر ۱۳ (۱۲) موازنۃ الحقائق (۱۳) وزۃ لذرانی علی رد القادیانی (۱۴) السیف الأعظم (۱۵) رسالہ حیات المسیح یہ آٹھ جز کا رسالہ نہایت خوبی سے لکھا گیا ہے انشاء اللہ عنقریب چھپے گا۔ (۱۶) شفاء للناس (۱۷) بیان للناس (۱۸) فتح ربانی و مباحثہ قادیانی (۱۹) تہذیب السبائی لرد القادیانی۔

اب ناظرین اہل حق ملاحظہ کریں کہ حیات مسیح علیہ السلام کا مسئلہ ایسا مہتمم بالشان اور ضروری ہے کہ مرزائی سب سے اوّل اسی مسئلہ کو پیش کرتے ہیں اور اس میں بحث کرنا ضروری خیال کرتے ہیں الحمد للہ کہ میں نے اس مسئلہ کی تحقیق میں انیس رسالے پیش کیے جن سے معلوم ہوا کہ ہمارے علماء نے یہ انیس دلیلیں مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے میں بیان کی ہیں اور آج تک کوئی قادیانی جواب نہیں دے سکا۔

### ختم نبوت کی بحث میں رسائل

(۱) تردید نبوت قادیانی ۲۲۲ صفحہ کا رسالہ ہے (۲) ختم نبوت (۳) الخلافتہ فی خیر الامۃ (۴) ختم النبوۃ فی الاسلام یہ بڑا رسالہ ہے جس میں قرآن شریف کی دس آیتوں اور ۳۳ صحیح حدیثوں سے ختم نبوت کو ثابت کیا ہے عنقریب چھپنے والا ہے (۵) صحیفہ رحمانیہ نمبر ۵ (۶) صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۳ (۷) صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۵ (۸) صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۶ (۹) صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۷ (۱۰) صحیفہ

رحمانیہ نمبر ۲۱ (۱۱) صحیفہ رحمانیہ نمبر ۲ ختم نبوت پر یہ گیارہ رسالے پیش کئے گئے۔

اب بظاہر مرزا قادیانی کے جموٹے ہونے کی یہ گیارہ دلیلیں ہوئیں، مگر جب یہ دیکھا جائے کہ بعض رسالے متعدد دلائل پر مشتمل ہیں مثلاً ختم النبوة فی الاسلام میں اس مسئلہ کو قرآن شریف کی دس آیتوں اور تینتالیس حدیثوں سے اور اجماع امت سے ثابت کیا ہے، چونکہ ہر ایک آیت اور ہر ایک حدیث اور اجماع امت ثبوت مدعا کے لیے ایک کامل دلیل ہے اس لیے ایک رسالہ میں چون دلیلیں مرزا قادیانی کے جموٹے ہونے کی بیان ہوئی ہیں اس سے بالیقین ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی چوتھ دلیلوں سے جموٹے ہیں اب مذکورہ انیس دلیلوں کو بھی ملا لیجئے تو ۸۴ دلیلیں ہوئیں اب میں تمام قادیانیوں سے کہتا ہوں وہ ان دلائل کو خوب یاد رکھیں اور آئندہ اور دلیلیں پیش کی جائیں گی اب یہ کہنا ہے کہ باوجود ان رسالوں کے جن میں تراسی دلیلوں سے مرزا قادیانی کا جموٹا ہونا ثابت کیا گیا ہے پھر بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم نے مان لیا کہ حضرت مسیح موعودؑ مگر حضرت مسیح کے مرجانے سے ایسا جموٹا کذاب جس نے اعلانیہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں جموٹے بولے ہوں اور انبیائے کرام کی توہین کی ہو اور اپنے پختہ اقراروں سے جموٹا اور بدترین خلائق ثابت ہو گیا ہو ایسا شخص مسیح موعود ہرگز نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح ختم نبوت کا حال ہے یعنی اگر فرض کر لیا جائے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی مگر نہایت ظاہر ہے کہ ایسا فریب دینے والا دہریہ جیسے مرزا قادیانی ہیں کسی طرح نبی یا مہد نہیں ہو سکتا، یہ دوفریب تو عرصہ سے مرزائی حضرات کے تھے مگر جب ان دو دعوؤں کے ثبوت میں لا جواب رسالے لکھے گئے تو اپنے دل میں عاجز ہو کر ایک نیا فریب نکالا کہ عرب کے چند اشعار اور کچھ عبارت عربی میں میرے پاس بھیجے ان میں پہیلیاں ہیں پہلے دستور تھا کہ مجلسوں میں بطور مذاق یا بطور دوستانہ امتحان کے لیے اشعار بیان کیے جاتے تھے اور اسی طرح نثر عبارت بھی لکھی جاتی تھی اور کسی مجلس میں اپنے احباب کے سامنے پیش کر کے اس کا مطلب دریافت کیا جاتا تھا اکثر کمسن لڑکیاں اپنی سہیلیوں سے پوچھتی تھیں اہل علم نے ایسے اشعاروں میں رسالے لکھے ہیں مگر علمائے کاملین کی اس طرف توجہ نہیں دیکھی گئی ناظرین کی طبیعت خوش کرنے کے لیے اور مرزائیوں کے فریب سے واقف ہونے کے لیے تین پہیلیاں عربی و فارسی و اردو کی لکھتا ہوں جن کا مطلب بجز اسی کے جن کو پہیلیوں سے واقف ہونے کا مذاق ہو خواہ وہ معمولی ہی پڑھے کیوں نہ ہوں دوسرا نہیں ہو سکتا۔

عربی زبان میں پہیلی

رایت و کم فی الدھر من عجب  
شیخا وجاریة فی جوف عصفور  
فاری زبان میں پہیلی  
بہ تجنیس و بہ تھلیب وہ ترویف  
زروے یار خواہم ضد شرقی  
اردو زبان میں پہیلی

اندھا بہرا گونگا بولے گونگا آپ کہاں  
دیکھ سفیدی ہوت انگارا گونگے سے بھڑ جائے  
بائس کا مندر واہ کا باسا باشی کا وہ کھا جا  
سنگ ملی تو سر پر راکھیں واہ کوراد راجا  
سی سی کر نام بتایا تا میں بیٹھا ایک  
الٹا سیدھا ہر پھر دیکھو وہی ایک کا ایک  
بہید پہیلی میں کیسی کمی سن لے میرے لال  
عربی ہندی فاری تینوں کرو خیال

ناظرین! یہ عربی، فاری، اردو کی پہیلیاں ہیں، اب مرزائی حضرات بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور بخوبی ممکن ہے کہ کوئی معمولی لکھا پڑھا جسے پہیلیوں کے سمجھنے کا مذاق ہو اس کا مطلب بیان کر سکتا ہے، مگر اس سے کیا وہ شخص علمائے کاملین سے ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں اور اگر کوئی ذی علم ایسے اشعار کے مطلب سے واقف نہ ہو تو اس کے علم اور کمال میں ہرگز کوئی بڑ نہیں آ سکتا، مرزا قادیانی کا جھوٹا اور فریبی ہونا کوئی پہیلی نہیں ہے کہ جو ہر ایک اس سے واقف نہ ہو سکے، اس کا جھوٹا ہونا تو اظہر من الشمس ہے، اس واقف ہونے کے لیے علم کی ضرورت نہیں اگر کوئی معمولی اردو خواں ہو یا کچھ نہ پڑھا ہو اور صرف اردو زبان جانتا ہو تو وہ مرزا قادیانی کے اقوال دیکھ کر یاسن کر بے تامل کہہ دے گا کہ مرزا قادیانی اپنے اقرار سے جھوٹے اور ہر بد سے بدتر ہیں اس کے علاوہ مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کے ثبوت میں سینکڑوں رسالے ہمارے علماء نے ایسے لکھے ہیں جن سے مرزا قادیانی کا کذاب اور دجال ہونا نصف النہار سے زیادہ روشن ہو گیا اب ان کو جھوٹا جاننے کے لیے قابلیت اور علم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں غیر ضروری بات کی طرف توجہ کر کے اپنے اوقات کو خراب نہیں کرتا، البتہ اس کے علاوہ مجھے اپنی قابلیت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہرہ

”مشکل آست کہ خود بیوید نہ کہ عطار گوید“

ہمارے ایک قابل برادر نے مرزا کے اس معجزے کی خوب دھجیاں اڑائی ہیں جسے مرزا قادیانی نے عربی میں لکھ کر اپنی قابلیت ظاہر کی تھی اور اسے چند روزہ معجزہ کہا تھا اور اعجاز احمدی اس

کا نام رکھا تھا، مولانا سید نفیست حسین صاحب نے اس کا کیسا خاکہ اڑایا ہے اور اس کے قصیدہ اعجاز یہ میں سینکڑوں ان کے جھوٹ اور سینکڑوں ان کی عربیت کی غلطیاں دکھائی ہیں رسالہ ابطال اعجاز مرزا اس کا نام رکھا ہے، دو حصوں میں وہ چھپا ہے، اس میں عربیت کی قابلیت دیکھو کہ مرزا قادیانی نے جس عربیت کا دعویٰ اعجاز کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کے مثل کوئی نہیں بنا سکتا (اس میں درپردہ قرآن شریف کے اعجاز کا ابطال ہے کیونکہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس طرح خدا قرآن مجید میں اپنے کلام کے بینظیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے اسی طرح ہم بھی اپنے کلام کے بے نظیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن مجید کی کوئی خصوصیت نہیں ہے) مگر ہمارے مولانا مدوح نے صرف اس کے مثل ہی نہیں بنایا بلکہ اس سے بہت افضل بنا کر ان کے اعجاز کو پامال کر کے ان کو جھوٹا اور فریبی ثابت کر دیا، پھر ہمارے سامنے تھوڑی سی عربی عبارت پیش کر کے اپنی قابلیت دکھانا چاہتا ہے اور عوام کو بہکا تا ہے، جب تیرے بڑے مرشد کو عربیت میں کامل درجہ پامال کر دیا تو تیری اور تیرے بھائیوں کی کیا ہستی ہے؟ مگر عوام کی خیر خواہی کے لیے مرزا اسی کے رسالوں سے ان کا جھوٹا اور ہرید سے بدتر ہونا خواص و عوام پر ظاہر کرتا ہوں، ان کے ہوسالے اردو میں بھی ہیں اور فارسی میں بھی ہیں اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں بھی ہیں، اور مرزا قادیانی نے اپنی عربی کا ترجمہ فارسی اور اردو میں بھی کر دیا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے رسالوں سے ان کے اقوال سے ان کے اقراروں سے ان کا جھوٹا ہونا ہم ثابت نہ کر سکیں، ہر ایک سمجھدار بے تامل کہہ دے گا کہ ضرور ثابت کر سکتے ہیں، مرزا کا جھوٹ اور فریب ثابت کرنا اس پر موقوف نہیں ہے کہ عربی کا ادب بھی کمال طور پر جانتا ہو عربی میں بہت سے علوم ہیں منطق و فلسفہ و ریاضی و ہیئت و ہندسہ وغیرہ اب ان علوم میں سے تو خلیفہ محمود یا ان کی جماعت کے دوسرے لوگ کوئی علم بھی نہیں جانتے اگر دعویٰ ہو تو سامنے آئیں، اور ہماری باتوں کا جواب دیں یا ہم کو اپنے یہاں بلائیں اور ایک جماعت کے سامنے مقابلہ ہو، مگر یہ ہرگز نہیں کر سکتے، جب وہ ایسے جاہل ہیں تو اپنے باپ کی حقانیت کو کس طرح جانا بالخصوص اس وجہ سے کہ ہمارے علماء نے مرزا کی کذابی پر بہت رسالے لکھے ہیں چنانچہ انیس رسالے حیات مسیح پر اور گیارہ رسالے ختم نبوت پر پہلے دکھائے گئے ہیں یعنی مرزا کی کذابی پر تیس دلیلیں اجمالی پیش کی گئی ہیں، اب میں ان کے علاوہ چند دلیلیں پیش کرتا ہوں جو ان کے کذب کو بصراحت ظاہر کر رہی ہیں اور صرف کذب ہی نہیں ہے بلکہ ان کو بدترین خلاق ثابت کرتی ہیں، اگر حوصلہ ہے تو ان کا جواب دیں، مگر ہم پیشینگوئی کرتے ہیں کہ خلیفہ صاحب کیا ان کی ساری جماعت جواب نہیں دے سکتی ہے؟

خلیفہ قادیان اپنی جماعت کی اگرچہ خوب حجامت کرتے ہیں اور ان سے روپیہ لوٹتے ہیں مگر ہماری حقانیت اور سچی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، جس طرح چاہیں امتحان ہو جائے مرزا قادیانی قطعاً اور یقیناً بلاشبہ جھوٹے، فریبی، دہریہ ہیں، اسکے ثبوت میں سینکڑوں رسالے، نظر خیر خواہی لکھ کر اور چھپوا کر مشتہر کئے گئے ہیں مگر ان کا دیکھنا بھی تو خلیفہ قادیان کو اور ان کے مددگاروں کو تارہ ہے اور اپنے مریدین کو تارہ کر دی ہے کہ مخالفین کا کوئی رسالہ نہ دیکھیں ورنہ ایمان جاتا رہے گا، یہ صاف روشن دلیل ہے کہ اگر ہمارے مریدین ان رسالوں کو دیکھ لیں گے تو مرزا قادیانی سے پھر جائیں گے اور انہیں جھوٹا یقین کریں گے، لیکن اس پر بھی میں چند دلیلیں نہایت مختصر اور بہت واضح لکھ کر پیش کرتا ہوں شاید اس میں ان کا بھلا ہو جائے۔

مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ہونے کی دلیلیں

پہلی دلیل: مرزا قادیانی اپنے رسالہ (انجام آتھم ص ۳۱ خزائن ج ۱۱ ص ۳۱) میں لکھتے ہیں۔

”میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشینگوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے، اس کا انتظار کرو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشینگوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔“

اے بھائیو! اس پر غور کرو یہ مرزا قادیانی کا قول اردوزبان میں ہے جس کو ہندوستان میں ہر ذی علم اور جاہل سے جاہل بھی سمجھتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے جھوٹے ہونے کا صریح اقرار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر احمد بیگ کا داماد میرے سامنے نہ مرے یعنی میری پیشینگوئی پوری نہ ہو اور میں اس کے سامنے مر جاؤں تو میں جھوٹا ہوں، اب پڑھ لکھوں اور جاہلوں نے جب یہ بات دیکھ لی اور اکثر نے یقینی طور سے اسے سن لیا، کہ مرزا قادیانی داماد احمد بیگ کے سامنے مر گئے اور وہ داماد برسوں تک مرزا قادیانی کے بعد موجود رہا اور بہت لوگ بلکہ خود مرزائی اسے دیکھتے رہے تو کوئی ایماندار مرزا قادیانی کے اقراری جھوٹا ہونے میں تردد نہیں کر سکتا اس کے سمجھنے میں کسی طرح کا علم درکار نہیں ہے اس کا یقین خلیفہ قادیان صاحب کو ضرور ہے، مگر نفس پرستی اور دنیا کی کمائی اس کے اظہار کو روکتی ہے اور مرزا قادیانی کے دہریہ پن کا اثر زیادہ انہیں مانع ہوتا ہے، ورنہ ایسے اعلانیہ اقرارات مرزا قادیانی کو جھوٹا جاننے کے لیے کسی طرح مانع نہیں ہو سکتے۔

دوسری دلیل: یہ دلیل بھی مرزا قادیانی کا اقرار ہے اور نہایت پختہ اور مستحکم اقرار ہے

اور اردو زبان میں اقرار ہے اس کے سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک ذی علم اور جاہل اردو جاننے والا بخوبی سمجھ سکتا ہے ملاحظہ ہو مرزا قادیانی اپنے رسالہ (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۴ خزائن ج ۱۱ ص ۳۳۸) میں لکھتے ہیں اور پہلے جملہ کو موٹے قلم سے لکھا ہے۔ ”یاد رکھو کہ اس پیشینگوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا“ اے احمق! یہ انسان کا افتراء نہیں یہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار نہیں یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملتیں وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا اس کے سنتوں اور طریقوں کا تم میں علم نہیں رہا اس لیے تمہیں یہ اہتلاء پیش آیا۔“

ناظرین ملاحظہ کریں کہ مرزا قادیانی کا یہ قول نہایت صاف اردو زبان میں ہے جس میں صاف طور سے احمد بیگ کے داماد کے مرنے کی پیشینگوئی کی ہے اور بڑے زور سے کہتے ہیں کہ اگر یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی تو میں ہر بد سے بدتر ٹھہروں گا یعنی بدترین خلافت ہوں گا دنیا میں مجھ سے بدتر کوئی نہ ہوگا اس دعویٰ کو چھ تاکیدوں سے مؤکد فرمایا ہے ان کا یہ دعویٰ ہر ایک اردو بولنے والا اور سمجھنے والا سمجھے گا کہ مرزا قادیانی نے احمد بیگ کے داماد کے مرنے کی پیشین گوئی جس طرح پہلے کی تھی اور کہا تھا کہ اگر وہ میرے سامنے نہ مرے اور میں اس کے سامنے مر جاؤں تو میں جھوٹا ہوں۔“ اب اس قول میں اس سے زیادہ ترقی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر احمد بیگ کا داماد میرے سامنے نہ مرے بلکہ میں اس کے سامنے مر جاؤں تو صرف جھوٹا ہی نہیں ہوں گا بلکہ بدترین خلافت ہوں گا۔“

اب مرزائی حضرات فرمائیں کہ اس صاف بیان کے سمجھنے کے لیے کون سے علم کی ضرورت ہے جس کے لیے آپ نے چند اشعار یعنی چند پہیلیاں عربی کی لکھ کر بھیجی ہیں (جن کی طرف کسی ذی علم اہل کمال کو توجہ نہیں ہوتی) اور جہلاء کے بہکانے کے لیے ہمارے علم کا امتحان لیا ہے اور لطف یہ ہے کہ مرزا قادیانی اس دعویٰ کو صرف تاکیدوں اور صفائی سے ہی بیان نہیں کرتے بلکہ بار بار اسے کہتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں چنانچہ انہیں چار صفحات میں یعنی ص ۵۴ سے لیکر ص ۵۷ تک تین چار جگہ احمد بیگ کے داماد کے مرنے کو بیان کیا ہے یعنی ص ۵۴ میں قول مذکور بیان کر کے ص ۵۷ میں بیان کرتے ہیں۔ ”اس کے بعد یوں ہوگا کہ دو بکریاں ذبح کی جائیں گی پہلی بکری سے مراد مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری ہے اور دوسری بکری سے مراد اس کا داماد ہے۔“

(ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۷ خزائن ج ۱۱ ص ۳۴۱)

اس قول میں پہلے جز کی شرح مرزا قادیانی نے یوں کی کہ اس سے مراد مرزا احمد بیگ کی موت ہے اور دوسری جز کی شرح اس طرح کی کہ اس سے مراد احمد بیگ کا داماد یعنی منکوحہ آسمانی کے شوہر کی موت ہے اور پہلے قول میں مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ لکھا گیا ”یاد رکھو کہ اس پیشین گوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا“ یہاں ناظرین خیال فرمائیں کہ ہر ایک اردو جاننے والا بخوبی سمجھ لے گا کہ دوسرے جز سے مرزا قادیانی کا مطلب بقول خود احمد بیگ کے داماد کی موت ہے اور وہ ہرگز پورا نہ ہوا یعنی مرزا قادیانی دنیا سے تشریف لے گئے اور احمد بیگ کا داماد نہ مرا اور مرزا قادیانی کی پیشین گوئی پوری نہ ہوئی اور بقول خود ہر ایک بد سے بدتر ٹھہرے اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد پھر اس دعویٰ کی تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سست مت ہو اور غم مت کرو کیونکہ ایسا ہی ظہور میں آئے گا کیا تو نہیں جانتا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے اس کے چار سطر کے بعد پھر اس کی تاکید کی اب خیال کرنا چاہیے کہ اس پیشین گوئی کے سچے ہونے پر مرزا قادیانی کو کس قدر وثوق ہے کہ بار بار متعدد مقامات میں مختلف طور پر اس دعوے کو پیش کر کے اس کا یقین دلاتے ہیں تاکیدوں کی بوجھاڑ لگا دی ہے مگر بایں ہمہ اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کی سچی حالت کو ظاہر کر دیا اور ان کا جھوٹا ہونا دنیا کو دکھا دیا اور ایسا صاف و صریح طور سے کہ کسی عام و خاص بلکہ جاہل سے جاہل پر بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتا جس ملک میں مرزا قادیانی پیدا ہوئے اس ملک کی جو زبان ہے اس کے جاننے والے جب مرزا قادیانی کی موت کی حالت معلوم کریں گے اور اس پیشین گوئی کا انہیں علم ہو گا تو مرزا قادیانی کو ضرور جھوٹا کہیں گے اس میں کسی علم کا دخل نہیں ہے مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ہر بے علم پر بھی ظاہر ہو جائے گا اور جو اس قول کو معلوم کر کے ان کی موت کو معلوم کر چکے ہیں انہیں ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا ہے۔ اب خلیفہ صاحب اور ان کے خاص پیروا علانیہ کذب کی دلیلیں دیکھ کر کچھ توجہ نہیں کرتے اور مخلوق کو گمراہ کرنے میں کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے تمام مرید انہیں چندہ دیتے ہیں یعنی اپنی آمدنی کا دسواں حصہ پیش کرتے ہیں جو مرزا قادیانی اپنی اولاد کے لیے مقرر کر گئے تھے اور بڑے لطف اور مہرے سے ان کی دنیا گذرتی ہے اور پیٹ بھرتا ہے اور آخرت تو ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے اور نہ اس کی پرواہ ہے اگرچہ وہ زبان سے اقرار نہ کریں مگر مرزا قادیانی اپنے پختہ اقراروں سے نہایت صاف طور سے جھوٹے اور ہر بد سے بدتر ہو رہے ہیں مگر ان کے ماننے والے انہیں جھوٹا نہیں مانتے اس کے سمجھنے میں اور ان کو جھوٹا جاننے میں کسی علم یا کسی دقیق فہمی کی ضرورت نہیں

ہے اب انہوں نے ہمارے امتحان کے لیے چیتاں اشعار لکھ کر بھیجے ہیں تو اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ہم نے جو مرزا قادیانی پر اعتراضات کیے ہیں ان کے جواب سے عاجز ہیں کچھ عرصہ ہوا کہ رسالہ چیلنج محمدیہ لکھ کر ایڈیٹر الفضل اور خلیفہ محمود کے پاس بھیجا گیا مگر آج تک کوئی جواب وہاں سے نہیں آیا یہ رسالہ ۱۳۳۹ھ میں چھپا ہے یہی رسالہ مکرر جمع کچھ اضافہ کے ۱۳۴۰ھ میں چھپا ہے اور ایڈیٹر الفضل اور خلیفہ محمود کو پھر دوبارہ رجسٹرڈ شدہ بھیجا گیا ہے مگر سوا دم بخود رہنے کے جواب نہیں آیا۔ مگر اپنے برادرؤں کے ہنکنے کا خیال ہوا اس لیے ایک فضول بات پوچھتے ہیں تاکہ اپنے برادرؤں سے کہہ دیں کہ ہماری بات کا جواب نہیں دیا اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ مولوی صاحب بالکل جاہل اور ناسمجھ ہیں ہمارے حضرت مرزا قادیانی کی باتوں کو نہیں سمجھتے اب ہم ان کے برادرؤں سے خیر خواہانہ کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرو۔ ایک دن مرنا ہے اور قیامت میں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے ہماری تحریر کو ملاحظہ کرو اور ایسے اعلانیہ جھوٹے اور کذاب سے علیحدہ ہو ہم ان کے مہملات کی طرف کچھ توجہ نہ کریں گے مسلمانوں کی خیر خواہی کی غرض سے مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا نہایت کامل طور سے ثابت کیا ہے اور کرتے رہیں گے اور یہ یقینی بات ہے کہ خلیفہ صاحب اور ان کے پیرو جھوٹ اور فریب ظاہر کرتے رہیں گے اور قیامت میں اپنے ساتھ اپنے پیروؤں کو لیکر جہنم میں جائیں گے۔

مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی دو دلیلیں ختم ہوئیں یہ کوئی عقلی اور نقلی دلیلیں نہیں ہیں جن کے سمجھنے میں قادیانی جاہلوں کو تامل ہو بلکہ نہایت ظاہر اور کھلے طور پر مرزا نے اپنے جھوٹے اور ہر بد سے بدتر ہونے کا اردو زبان میں اقرار کیا ہے اب تیسری دلیل ملاحظہ کیجئے اور مرزا قادیانی کے وہ اقوال دیکھیے جن میں انہوں نے اپنی نبوت کی خاک اڑائی ہے اور اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کیا ہے۔

تیسری دلیل: جو پانچ دلیلوں پر مشتمل ہے یعنی ان کے پانچ قول نقل کئے جاتے ہیں اور ہر قول انہیں اور ان کے خلیفہ اور ان کے تمام مریدوں کو جھوٹا اور کذاب ثابت کرتا ہے چنانچہ (آنجام آتھم ص ۲۷ نزائن ج ۱ ص ۲۷ حاشیہ) میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔

پہلا قول: ”کیا ایسا بد بخت مفتری جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے اور کیا ایسا وہ شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت ”وَلٰیٰکِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ“ کو خدا کا کلام یقین رکھتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آنحضرت



کے بعد رسول اور نبی ہوں، صاحب انصاف طلب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔“

ناظرین اس قول کو اچھی طرح ملاحظہ کریں کہ مرزا قادیانی اس قول میں دعویٰ نبوت و رسالت سے قطعی طور سے انکار کرتے ہیں اور تین جگہ لفظ نبوت و رسالت دونوں لائے ہیں اور آخر قول میں نہایت صاف طور سے ظاہر کر دیا ہے کہ نبوت اور رسالت دو چیزیں ہیں، کیونکہ لکھتے ہیں ”حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔“ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت و رسالت دو چیزیں ہیں، اس کے دو ہونے کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ تشریحی و غیر تشریحی اب ظاہر ہے کہ دعویٰ نبوت کے یہ معنی ہیں کہ نبوت غیر تشریحی کا مدعی ہے اور دعوائے رسالت کا یہ مطلب ہے کہ نبوت تشریحی کا مدعی ہے، اب مرزا قادیانی کے قول کا حاصل یہ ہوا کہ میں صاحب شریعت یا غیر شریعت کسی طرح کی نبوت کا مدعی نہیں ہوں، جب اس قول سے نہایت صفائی سے یہ ظاہر ہو گیا کہ مرزا قادیانی ہر قسم کی نبوت سے انکار کرتے ہیں تو اس کے بعد پانچ قول ان کے اور نقل کیے جاتے ہیں، ان کے معنی بھی بالضرور یہی ہوں گے یعنی ہر قسم کی نبوت سے انہیں انکار ہے اسی وجہ سے وہ اپنے قصیدہ نعتیہ میں جناب رسول ﷺ کی مدح لکھتے ہیں۔

دوسرا قول: ”مصرعہ ہر نبوت را برداشد اختتام“ (سراج منیر ص ۹۳ خزائن ج ۱۲ ص ۹۵) یعنی ہر قسم کی نبوت تشریحی و غیر تشریحی کا آنحضرت ﷺ پر خاتم ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے نہایت صفائی سے اپنے آپ کو اور اپنے خلیفہ کو اور تمام مریدوں کو منکر قرآن اور کافر قرار دیا ہے اور یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ قرآن شریف میں لفظ خاتم النبیین ہے اس کے معنی یقینی طور سے آخر النبیین کے ہیں اور مصدق اور مہر وغیرہ کے معنی جو اب قادیانی بتا رہے ہیں ان معنی کو مرزا قادیانی کفر ٹھہراتے ہیں کیونکہ اس معنی کو ایسا یقینی کہتے ہیں کہ اس کا منکر کافر ہے، قول مذکور کے پانچ سطر کے بعد فرماتے ہیں۔

”تیسرا قول اور اصل حقیقت جس کی میں علی رؤس الاشہاد گواہی دیتا ہوں یہی ہے جو ہمارے نبی ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نہ کوئی پرانا نہ کوئی نیا۔“

(انجام آتھم ص ۲۷ خزائن ج ۱۱ ص ۲۷)

اس قول کے الفاظ بھی نہایت ظاہر طور سے بتا رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کو ہر قسم کی نبوت سے انکار ہے۔

چوتھا قول: اسی طرح مرزا قادیانی رسالہ (حملۃ البشریٰ ص ۷۹ خزائن ج ۷ ص ۲۹۷) میں لکھتے ہیں ”ماکان لی ان ادعی النبوة و اخرج من الاسلام و الحق بقوم کافرین“ یعنی یہ مجھ سے کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں سے جا ملوں۔“

پانچواں قول: دیکھو (آسمانی فیصلہ ص ۳ خزائن ج ۴ ص ۳۳) میں مرزا غلام احمد تحریر کرتے ہیں۔ ”میں نبوت کا مدعی نہیں ہوں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔“ دیکھئے اس قول میں بھی کس صفائی سے عام نبوت سے انکار کیا ہے۔

چھٹا قول: (ازلۃ الاولیاء حصہ دوم ص ۶۱ خزائن ج ۳ ص ۵۱۱) میں تحریر کرتے ہیں۔ ”قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا ہو کیونکہ رسول کو علم دین جو سب جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل بہ پیرایہ وحی رسالت مسدود ہے۔ جب حضرت جبرائیل کا آنا بہ پیرایہ وحی مسدود ہے تو کسی قسم کی نبوت نہیں ہو سکتی“ یہ چھ قول ان کے جھوٹے ہونے کی چھ دلیلیں ہوئیں جن کو اقراری ڈگری کہنا چاہیے۔

اب دیکھا جائے کہ ان چھ قولوں میں کس صفائی اور کس زور و شور سے مرزا قادیانی نے ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اور منکر ختم نبوت کو منکر قرآن اور کافر ٹھہرایا ہے یہ قول مرزا قادیانی کا ایسا سچا اور صحیح ہے کہ گزشتہ تیرہ سو برس کے عرصہ میں جو علمائے کاطین اور بزرگان دین نے فرمایا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کے بالکل مطابق ہے چنانچہ حضرت محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ کے چودھویں باب میں لکھتے ہیں۔

”اعلم ان الحق تعالیٰ قسم ظهور الانبیاء بانقطاع النبوة والرسالة بعد موت محمد ﷺ“

صاحب فتوحات فرماتے ہیں ”کہ اس کو اچھی طرح معلوم کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد نبوت کا ہوتا بند کر دیا اور انبیاء کے ظہور کو روک دیا“ یعنی جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ نہ ملے گا۔“

پھر تشہید کے بیان میں لکھتے ہیں

”اعلم ان الله تعالى قد سد باب لرسالة علي كل مخلوق بعد محمد ﷺ“

”اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد رسالت کا دروازہ تمام مخلوق کے لیے بند کر دیا۔“

(الایقوت والجاہز ج ۲ ص ۳۷ بحث ۳۵ میں ہے)

”اعلم ان الاجماع قد انعقد علی انه ﷺ خاتم المرسلین كما انه

خاتم النبیین (پھر لکھتے ہیں) فمنقطع بتحریم خرق اجماع الامة سواء علمنا لهم دلیلا فی ذلک ام لم نعلم۔“

یعنی طور سے معلوم کر لو کہ اس پر امت محمدیہ کا اتفاق ہو چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ خاتم المرسلین اور خاتم النبیین ہیں یعنی نبوت تشریحی اور غیر تشریحی دونوں آپ پر ختم ہو چکی ہیں اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا اس پر امت محمدیہ کا اتفاق ہو چکا ہے اور ہم یقینی طور سے اجماع امت محمدیہ کے خلاف کرنے کو حرام جانتے ہیں ہمیں اس کی دلیل معلوم ہو یا نہ ہو۔

بغرض اختصار میں نے امت محمدیہ کے دو بزرگوں کے ..... اقوال نقل کئے ہیں ان سے معلوم ہوا کہ ختم نبوت پر تمام کاملین امت محمدیہ ﷺ کا اتفاق ہے جناب مرزا قادیانی کے مذکورہ چھ اقوال ان بزرگوں کے قول کے بالکل مطابق ہیں اور یہی چھ اقوال مرزا محمود کو اور ان کی تمام جماعت کو قطعی کافر اور منکر قرآن مجید ٹھہراتے ہیں۔ اب نہایت افسوس ہے کہ مرزا قادیانی ان سچے اقوال کے بعد زور و شور سے دعویٰ نبوت کرتے ہیں اور اپنے سچے اقراروں سے جھوٹے اور کافر بنتے ہیں اور تعجب یہ ہے کہ جماعت مرزائی کے ان سچے چھ قولوں کو جو تمام کاملین امت محمدیہ کے اقوال کے مطابق ہیں ان کو ردی بنا کر ان اقوال کو جن سے وہ بقول مرزا اور بقول کاملین امت محمدیہ جھوٹے اور کافر ٹھہریں صحیح مانتے ہیں اور ان پر زور دیتے ہیں اب بعض وہ اقوال بھی ملاحظہ ہوں جن سے مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت اور تمام انبیاء پر افضلیت اظہار من الشمس ہو رہا ہے۔

پہلا قول: مرزا قادیانی (ہیئۃ الوحی ۳۹۱ خزائن ج ۲۲ ص ۲۰۶) میں لکھتے ہیں۔

”جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء ابدال اور اقطاب اس امت محمدیہ میں سے گزر چکے

ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا۔“

محض جھوٹ ہے کوئی دلیل اس پر نہیں بیان کی گئی اور نہ بیان ہو سکتی ہے اس قول میں مرزا قادیانی اپنے آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلکہ خلفائے اربعہ اور تمام صحابہ کرام اور آل عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر فضیلت دیتے ہیں جنہوں نے

دنیا میں اسلام کو پھیلا یا اور مرزا قادیانی نے تو بجز اس کے کچھ نہ کیا کہ تمام دنیا میں کفر کو پھیلا دیا، کیونکہ چالیس کروڑ مسلمان جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے سب کو کافر بنا دیا اور دنیا میں ایک اسلامی حکومت تھی وہ بھی ان کے نحوست قدم سے جاتی رہی اور وہاں بھی غلبہ کفار ہو گیا، اور اب ان کے صاحبزادے تثلیث پرستوں پر اپنی جان و مال نثار کرنے کو کہتے ہیں اور اپنے باپ کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں کیونکہ ان کے مرزا قادیانی بڑے زور و شور سے دعویٰ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا مقولہ ہے کہ میں عیسیٰ پرستی کے ستون کو توڑنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور اسی لیے کہ بجائے تثلیث کے توحید کو پھیلاؤں اور آنحضرت ﷺ کی جلالت شان کو ظاہر کروں، پس اگر مجھ سے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں، اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود کو کرنا چاہیے تھا تو میں سچا ہوں، اور اگر کچھ نہ ہو اور مر گیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں، یہ مضمون تو اخبار البدرد میں ہیں اور اس کی تائید اجمالی طور سے اس اعلان کے حاشیہ سے ہوتی ہے جو ھقیقۃ الوحی سے پہلے ہے اس کی عبارت یہ ہے۔

”میں کامل یقین سے کہتا ہوں کہ جب تک وہ خدمت جو اس عاجز کے حصہ میں مقرر ہے پوری نہ ہو اس دنیا سے اٹھایا نہ جاؤں، کیونکہ خدا تعالیٰ کے وعدے ٹل نہیں جاتے، اور اس کا ارادہ رک نہیں سکتا۔“ (ھقیقۃ الوحی ص ۱۶۔ ۱۷ خزائن ج ۲۲ ص ۳۲۷)

اس حاشیہ کے شروع میں یہ بھی لکھا ہے کہ میرا یہ اعلان صرف میری اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے (اخبار البدرد مورخہ ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء ملاحظہ ہو) اب دعویٰ نبوت مرزا قادیانی کا دوسرا قول ملاحظہ ہو۔

دوسرا قول: ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں

(اخبار بدرد ۵ مارچ ۱۹۰۸ء ملفوظات ج ۱ ص ۱۲۷)

تیسرا قول: اسی (ھقیقۃ الوحی ص ۸۹ خزائن ج ۲۲ ص ۹۲) میں مرزا قادیانی بیان کرتے ہیں۔ ”دنیا میں کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔“

چوتھا قول: مرزا قادیانی اپنے یعنی مرزا (استفتاء ص ۸۷ خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۷) میں لکھتے ہیں ”اتانی عالم یوت احلمن العلمین“ یعنی مجھے وہ فضل و کمال ملا جو تمام عالم میں کسی ولی و نبی کو نہیں ملا، ان دونوں قولوں میں کس صفائی سے تمام اولیاء اور انبیاء پر اپنی فضیلت بیان کی ہے اور صاف طور سے کہا ہے کہ جو بزرگی اور بڑائی اللہ نے مجھے دی ہے وہ کسی ولی اور کسی نبی کو نہیں

دی، اس میں حضرت سرور انبیاء محمد مصطفیٰ ﷺ بھی داخل ہیں، مسلمانو! غیرت کرنا چاہیے کہ ایک جھوٹا، کذاب دجال اپنے آپ کو سرور عالم ﷺ سے افضل کہتا ہے (لعنة الله عليه و علی تابعیه)

یہاں صرف چار قول نقل کیے گئے ہیں جن صاحب کو زیادہ تفصیل دیکھنا ہو وہ رسالہ دعویٰ نبوت مرزا مطبوعہ وکٹوریہ پریس بدایون کو خانقاہ رحمانیہ مونگیر سے منگوا کر دیکھیں اس موقع پر یہ بھی خیال رہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت تشریحی اور غیر تشریحی دونوں کا ہے، صرف نبوت غیر تشریحی پر ان کو قناعت نہیں ہے اس کا ثبوت متعدد رسالوں اور صحیفوں میں کیا گیا ہے اس جگہ ان کا ایک قول اس باب میں نقل کیا جاتا ہے مرزا قادیانی رسالہ (اربعین نمبر ۴ ص ۶ خزائن ج ۱ ص ۲۳۵) میں لکھتے ہیں۔

”اگر کہو کہ صاحب الشریعہ افتراء کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری تو اذل تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے خدا نے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی ماسوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ صاحب شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر و نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعہ ہو گیا پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی مثلاً یہ الہام ”قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم“ یہ براہیں احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور اس پر تیس برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو یہ باطل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”اِنَّ هٰذَا لَفِی الصُّحُفِ الْاُولٰٓئِی ضُحُفٍ اٰتٰوْاھِمْنَ وَ مُؤَمِّنٰی“ یعنی قرآنی تعلیم تو ریت میں بھی موجود ہے اور اگر یہ کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں باستیفاء امر اور نہی کا ذکر ہو تو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر تو ریت یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھر اجتہاد کی گنجائش نہ رہتی“

دیکھئے اس عبارت میں کیسا وضاحت اور صفائی کے ساتھ مرزا قادیانی تشریحی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کے قبل میں ان کا دعویٰ فضیلت دکھا چکا ہوں اب مرزا قادیانی کے حرص کو ملاحظہ فرما دیں کہ ان کو صرف دعویٰ نبوت و افضلیت تمام انبیاء پر اور صاحب الشریعہ ہونے پر بس نہیں ہے بلکہ دعویٰ جذائی بھی مرزا قادیانی کے مد نظر ہے چنانچہ (الحکم جلد ۹ نمبر ۷)

مورخہ ۲۳۔ فروری ۱۹۰۵ء ص ۱۲ نیز تذکرہ ص ۵۲ طبع سوم میں اور حقیقۃ الوحی ص ۱۰۵ اخزان ج ۲۲ ص ۱۰۸ نیز تذکرہ ص ۲۰۳ طبع سوم) میں لکھا ہے۔

## تازہ الہامات

۱..... حضور کی طبیعت ناساز تھی حالت کشفی میں ایک شیشی دکھائی گئی جس پر لکھا ہوا تھا، خاکسار پیچہ منٹ۔

۲..... ”إِنَّمَا أَمْرُكَ إِذَا أَرَدْتَ حَيْثُنَا أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“ مرزا قادیانی اپنا الہام الہی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ ”اب تیرا یہ مرتبہ ہے کہ جب تو کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرے اور اسے تو کہہ دے کہ ہو جاوہ فوراً ہو جائے گی۔“

اب ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ مرزا قادیانی صاف طور سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر شے پر قدرت دے دی ہے، جس شے کا ہونا میں چاہوں وہ اسی وقت موجود ہو سکتی ہے اب جن کو اللہ نے آنکھ دی ہے وہ اس قول کا جھوٹا ہونا ایسے ہی روشن دیکھتے ہیں جیسے آفتاب چمکتا ہے خاص و عام سب اسے دیکھتے ہیں، بھلا ہر چیز کو کیا موجود کرتے ایک ان کی معشوقہ منکوحہ آسمانی کے لیے سترہ اٹھارہ برس تک تڑپتے رہے مگر وہ ان کے پاس نہیں آئی اسی طرح اس کے شوہر کے لیے بہت کچھ رمالی کی اور اس کے مرنے کے لیے بہت کچھ پیشین گوئیاں کر کے جھوٹے اور بدترین خلائق بنے (انجام آتھم اور اس کا ضمیمہ پورا ملاحظہ ہو)

مگر وہ نہ مرا اور مرزا صاحب ہی تڑپتے ہوئے اس کے سامنے قبر میں گئے اور ان کے خلیفہ اور تمام مریدین اس کو زندہ مع الخیر دیکھتے رہے اور مرزا کو تڑپاتے رہے اب اس کا اقرار کر لینا چاہیے کہ مرزا قادیانی کے وہ اقوال جو ختم نبوت کے مخالف ہیں اس وجہ سے ہیں کہ وہ در پردہ دہریہ تھے اور ان کے خلیفہ اور بعض مریدین کا بھی یہی حال ہے اور بعض نادانقت بے علم فریب میں آ گئے ہیں اور اب بات کی جگہ ہو گئی ہے یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ مرزا قادیانی کے اقوال میں یہ اعلانیہ اختلاف اسی وجہ سے ہے کہ ان کے نزدیک خدا اور رسول کوئی چیز نہیں ہیں پھر نبوت کا ختم ہونا یا نہ ہونا چہ معنی دار و جیسا موقع دیکھا ویسا کہہ دیا، طالب حق کو فیصلہ آسمانی کے دیکھنے سے اس کا ثبوت اچھی طرح ہو جائے گا خصوصاً مرزا قادیانی کے ان الہامی اقوال سے جو انہوں نے اپنی معشوقہ فرضی منکوحہ آسمانی کے لیے استعمال کیے ہیں فیصلہ آسمانی کے پہلے حصہ کا ص ۲۰ و ۲۱ مطبوعہ دہلی بار

سوم ۱۹۱ء وغیرہ ملاحظہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اللہ و رسول پر کس کس طرح سے الزامات ان اقوال سے آتے ہیں اسی طرح فیصلہ آسمانی کے تیسرے حصہ میں ص ۱۱۹ سے آخر تک دیکھئے کہ منکوحہ آسمانی کی نسبت جو جہالہات الہی انہوں نے بیان کیے ہیں اس پیشین گوئی کے جھوٹے ہو جانے سے خدائے قدوس پر کس قدر الزامات آتے ہیں بہر حال جماعت احمدیہ سے میں پوچھتا ہوں کہ جو گروہ مرزا قادیانی کو نبی مان رہا ہے۔ وہ مرزا قادیانی کے مذکورہ پانچ قولوں سے کافر ہے یا نہیں؟ ضرور ہے کسی طرح سے اس سے انکار نہیں ہو سکتا اور اس انکار کو نبوت غیر تشریحی سے خاص کر ناسخت جہالت یا فریب دہی ہے ہم ان کے الفاظ سے عموم ثابت کر آئے ہیں۔

یہاں تک مرزا قادیانی کے سات قول نقل کئے گئے پہلے دو قولوں سے تو نہایت صاف طور سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی اپنے پختہ اقراروں سے جھوٹے اور ہر بد سے بدتر یعنی بدترین خلائق ہیں کسی دوسری دلیل و حجت کی حاجت نہیں ہے اور دوسرے مذکورہ پانچ قولوں سے مرزا محمود اور ان کی تمام جماعت کافر اور منکر قرآن مجید ثابت ہوتی ہے اور جب مرزا کے وہ اقوال دیکھے جاتے ہیں جن میں ان کا دعویٰ نبوت ہے تو ان اقوال سے خود مرزا قادیانی کافر اور منکر قرآن ثابت ہوتے ہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ خلیفہ محمود صاحب اپنے والد کو جھوٹا سمجھتے ہیں مگر چھپانا چاہتے ہیں مرزا قادیانی کے ان اقوال سے خلیفہ محمود صاحب کے دل میں اپنے والد کا جھوٹا ہونا بخوبی ثابت ہو گیا ہوگا مگر چونکہ اپنے باپ کی جھوٹی نبوت کے ذریعہ سے خوب کھانے کو مل رہا ہے اور چین اڑانے کو بہت روپے ہاتھ میں آتے ہیں اس لیے باپ کی جھوٹی نبوت کو نہیں چھوڑتے۔

حاصل یہ ہے کہ خلیفہ صاحب اپنے باپ کے مریدوں کو الٹے استرہ سے مونڈ رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ تحقیقی طور سے معلوم ہوا ہے کہ خلیفہ صاحب نے انجام آتھم کے نسخوں کو برباد کر دیا اور تمام مریدوں سے کہہ دیا کہ اس کا نسخہ کہیں نہ رہے جس کے پاس ہو وہ ضائع کر دے یا چھپا دے یہ بھی سنا گیا ہے کہ کوئی نیا رسالہ لکھ کر اس کا نام انجام آتھم رکھا گیا ہے اور واقعی انجام آتھم کے جو اقوال پیش کیے جاتے ہیں تو مصنوعی انجام آتھم کو پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ اس میں دکھاویہ قول کہاں ہے یہ بات ان کے فریب دہی اور کذب پرستی کو آفتاب کی طرح روشن کرتی ہے مگر سخت افسوس ہے ان ماننے والوں کی عقل پر کہ علاوہ کذب پرستی کے مرزا قادیانی کا خود ان کے اقراروں سے جھوٹا اور بدترین خلائق ہونا دیکھ رہے ہیں اور ان سے علیحدہ نہیں ہوتے مرزائیوں کا حقانی رسالوں کی نسبت یہ کہہ دینا کہ انہیں نہ دیکھو ان کے دیکھنے سے ایمان جاتا رہے گا صاف

ثابت کرتا ہے کہ مرزا محمود اپنے دل میں بالیقین جانتے ہیں کہ ان رسالوں میں کامل طور سے مرزا کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیا گیا ہے اگر ہمارے مرید کسی وقت بنظر انصاف اسے دیکھیں گے تو بالضرور مرزا کو جھوٹا مان لیں گے یہاں تک تو مرزا قادیانی کے اعلانیہ اقراروں سے ان کا جھوٹا اور بدترین خلاق ہونا دکھایا گیا اب ان کے چند وہ جھوٹ اور دروغگوئیاں دکھائی جاتی ہیں جن سے ہر ایک غیر متداند انسان پرہیز کرتا ہے اور اس دروغگو کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا اور جناب رسول اللہ ﷺ نے مختلف اوقات میں فرمایا ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا مرزا قادیانی کے اعلانیہ جھوٹ دکھائے گئے ہیں، صحیفہ محمدیہ کے پہلے نمبر کے شروع میں سات کتابوں کے نام لکھے گئے ہیں اور اس میں مرزا قادیانی کے جھوٹ گنائے ہیں پہلا رسالہ یعنی فیصلہ آسمانی معتمدہ کے اس میں ۱۵۹ جھوٹ و فریب و غلطیاں دکھاتے ہیں دوسرا فیصلہ آسمانی حصہ دوم اس میں ۶۹ جھوٹ و فریب و غلطیاں دکھائی ہیں تیسرا فیصلہ آسمانی حصہ سوم اس میں ۹۰ جھوٹ ہیں چوتھا دوسری شہادت آسمانی اس میں ۴۵ جھوٹ اور فریب مرزا قادیانی کے دکھائے ہیں پانچواں النجم الثاقب اس میں ۴۲ جھوٹ ہیں چھٹا مسیح کا ذب اس میں ۲۴ جھوٹ و فریب دکھائے گئے ہیں ساتواں ہدیہ عثمانیہ حصہ اول اس میں ۷ جھوٹ و فریب دکھائے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب کے مقابلہ کی معرکہ لا راہشین کوئی کا جھوٹا ہونا دکھایا ہے اس سے کئی جھوٹ مرزا کے ثابت کئے ہیں انہیں دیکھئے۔

۱..... ان کا یہ کہنا کہ ڈاکٹر عبدالحکیم میرے رو برو ہلاک ہوگا۔

۲..... دنیا میں وہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

۳..... میں اس کی زندگی میں ہرگز نہ مروں گا میں سلامتی کا شہدادہ ہوں۔

۴..... ڈاکٹر عبدالحکیم مجھ پر غالب نہیں آسکتا یہ چاروں باتیں مرزا قادیانی کی جھوٹی ہونیں اور اپنے اقرار سے لعنت کی موت سے مرے اس کی تفصیل رسالہ آئینہ کمالات مرزا میں دیکھئے جس میں مرزا غلام احمد کی پیشینگوئیاں ڈاکٹر عبدالحکیم کے متعلق بیان کر کے ان کا سراسر غلط ہونا تفصیل کے ساتھ دکھایا گیا ہے علاوہ ان باتوں کے صحیفہ محمدیہ نمبر ۱۱ کے آخری صفحہ میں تین پیشینگوئیوں کا جھوٹا ہونا دکھایا ہے غرضیکہ سات جھوٹ اور چار جھوٹی پیشینگوئیاں دکھائی گئی ہیں اب ان کو سابقہ رسائل والے جھوٹوں کے ساتھ شمار کر لیجئے اور جمع کیجئے کہ سو جھوٹ ہوئے اور پھر تھوڑی سی سٹل کو دخل دیجئے کہ جھوٹ ایسا جرم ہے کہ اگر ایک جھوٹ بھی کسی کا ثابت ہو جائے تو



پھر اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا اور جو ایسا جھوٹ بولے جس سے خدا پر الزام آئے تو حسب ارشاد خداوندی وہ جھوٹا ہے مرزا قادیانی نے تو ہر قسم کے جھوٹ بولے ہیں پھر ایسا جھوٹا شخص مسیح موعود مانا جائے حیرت ہے یہی حضرت ہیں جنہیں خلیفہ کمال مسیح موعود اور تمام اولیاء اللہ ہے افضل مانتے ہیں اور بڑے فخر سے ان کی مدح میں یہ مصرعہ پڑھتے ہیں۔

آنچہ خواہاں ہمہ دارند تو تنہا داری

یہ کہتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی غیر معتبر اور جھوٹا ہونے کے لیے ایک جھوٹ کا ثبوت کافی ہے اور یہاں تو دودر ق میں اس قدر جھوٹ ثابت کر دیئے گئے اور دکھا دیا گیا کہ مرزا قادیانی مسیح موعود تو کیا ہوتے صلحاء اور رستخوار جماعت میں بھی ان کا شمار نہیں ہو سکتا اور موگلیر سے لیکر بنگال اور حیدر آباد تک اور حیدر آباد سے قادیان اور لاہور اور پشاور تک ہزاروں دودر قے شائع کر دیئے مگر کسی قادیانی کی مجال تو نہ ہوئی کہ جواب دے اگر ہم نے غلط کہا ہے تو مرزائی جواب دیں مگر یہ یقینی بات ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔

اس صحیفہ کے نمبر ۲ میں دوسرے طریقے سے ان کا کاذب ہونا ثابت کیا ہے یعنی احادیث صحیحہ سے یہ دکھایا گیا کہ شریعت محمدیہ میں انبیاء کی توہین تحقیقاً اور الزاماً کسی طرح جائز نہیں ہے اور مرزا قادیانی نے اس ناجائز فعل کا ارتکاب بڑے شد و مد سے کیا ہے اور انبیائے کرام کی سخت توہین کی ہے جس سے وہ اعلانیہ دائرہ اسلام سے علیحدہ معلوم ہوتے ہیں اور اس توہین میں اپنی عادت مستمرہ کے بموجب محض جھوٹی باتیں لکھی ہیں مثلاً (ضمیمہ انجام آختم ص ۶ خزائن ج ۱ ص ۹۰ حاشیہ) میں مسیح کی نسبت لکھا ہے کہ (۸) ”حق بات یہ ہے کہ ان سے (یعنی حضرت عیسیٰ سے) کوئی معجزہ نہیں ہوا۔“

ملاحظہ ہو یہ وہ جھوٹ ہے جس کی شہادت کلام الہی دیتا ہے اور ارشاد خداوندی سورہ بقرہ کے دسویں رکوع میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات دیئے اور سورہ مائدہ میں ان معجزات کی تفصیل بیان ہوئی ہے اب مرزا کا یہ کہنا کہ حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا کیسا صریح جھوٹ ہے اور یہ جھوٹ الزاماً نہیں بولا ہے بلکہ ان کا یہ کہنا کہ حق بات یہ ہے بخوبی ثابت کرتا ہے کہ اس امر میں ان کے نزدیک جو امر حق ہے اسے بیان کیا ہے اب ان کا حضرت مسیح کے معجزات سے انکار کرنا اور اس انکار کو حق بات کہنا قرآن مجید کی آیات مذکورہ سے صریح انکار ہے مگر چونکہ مسلمانوں کو فریب دینا ہے اس لیے صاف انکار نہیں کرتے باتیں بنا کر

فریب دیتے ہیں، مولوی عبدالمجید مرزاؒ سے اسی پر گفتگو ہوئی تھی اور مولانا محمد عبدالشکور صاحب نے انہیں ایسا عاجز اور ساکت کر دیا کہ وہ اپنے عجز کے خود مقرر ہو گئے اور تمام حاضرین جلسہ نے اس کا معائنہ کر لیا اسی محیفہ میں ایک جھوٹ یہ بھی دکھایا ہے کہ حضرت مسیح کی نسبت لکھتے ہیں (۹) آپ کے ہاتھ میں سوا مکر و فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔

(ضمیر انجام آتھم ص ۷ کا حاشیہ دیکھو خزائن ج ۱ ص ۲۹۱)

برادران اسلام! ایک اولوالعزم نبی کی شان کو خیال کریں اور مرزا قادیانی کی اس گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملاحظہ فرمائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ عالی مرتبہ پیغمبر ہیں جن کی عظمت اور رسالت اور معجزات اور تقرب الہی کا ذکر قرآن مجید میں بکثرت آیا ہے ان کی نسبت مرزا کا یہ قول ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سوا مکر اور فریب کے اور کچھ نہیں تھا یہ کیسی صریح ان آیات کی تکذیب اور اللہ تعالیٰ پر الزام ہے جن میں ان کی رسالت و عظمت بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسبت فرماتا ہے۔ ”وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ“

(یعنی ہم نے عیسیٰ کو معجزے دیئے اور روح القدس کے ذریعہ سے ان کی مدد کی بعض مقام پر ان کی تعریف اس طرح فرمائی ”وَجِئْنَا بِهَا لِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ“

(آل عمران ۴۵)

یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ (علیہ السلام) دونوں جہان میں صاحب وجاہت اور مقبولان خدا سے ہیں، برادران اسلام ملاحظہ کریں کہ جن کی برگزیدہ صفات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرمائے ان کی نسبت مرزا قادیانی نہایت بیباکی سے یہ لکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے اور کچھ نہ تھا، یہ کیسی صریح تکذیب ہے کلام الہی کی، کسی مسلمان کو ایسی جرأت نہیں ہو سکتی، یہ کہنا کہ الزام ایسا کہا ہے محض جہالت یا فریب دہی ہے، اول تو انبیاء کی نسبت ایسی گستاخیاں تحقیقاً اور الزاماً ہر طرح منع ہیں حدیث سے ثابت کر دیا گیا ہے، دوسرے یہ کہ الزام دینے کا یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے اہل علم اسے خوب جانتے ہیں، یہی باتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کو مذہب سے کوئی واسطہ نہ تھا، البتہ مسلمانوں کو فریب دینے کے لیے اپنے آپ کو اسلام کا مطیع کہتے تھے اور قرآن و حدیث سے استدلال پیش کرتے تھے، مگر اس میں ایسی تحریف کرتے تھے جسے اہل علم ہی خوب سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی دلی خواہش کو مسلمانوں سے منوانے کے لیے قرآن مجید کو

پیش کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہمارا مدعا ثابت ہے ان باتوں کے علاوہ اس تحریر میں اور بھی جھوٹ و فریب بیان ہوتے ہیں ناظرین ان کو ملاحظہ فرمائیں۔

### مسح قادیان کے بعض اعلانیہ جھوٹ

جن میں بعض وہ بھی ہیں جو کئی برس ہوئے دکھا کر جواب طلب کیا گیا تھا، مگر اب تک یہاں سے قادیان تک سب کا ناطقہ بند ہے جواب سے عاجز ہیں مگر سخت افسوس ہے ان کے حال پر کہ ایسے اعلانیہ جھوٹ دیکھ کر بھی اس کی پیروی سے علیحدہ نہیں ہوتے مقابلہ پر کبھی دم بخود ہو جاتے ہیں کچھ نہیں کہتے، کبھی کہتے ہیں کہ حوالہ غلط ہے پوری عبارت نہیں لکھی گئی اصل کتاب دکھاؤ چونکہ جانتے ہیں کہ ہر وقت ہر شخص کے پاس کتاب موجود نہیں رہتی اس لیے ٹالنے کے لیے ایسا کہہ دیتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ جو حوالے ہم نے مرزا کی کتابوں سے دیئے ہیں اگر مرزا قادیانی کی کتاب میں یہ مطلب نہ ہو تو ہم مجمع میں اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کریں گے اور ہر غلط حوالے کے عوض ہزار روپے دیئے کو موجود ہیں اور حوالہ غلط نہ ہو اور جو مطلب ہم نے ثابت کیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہو تو تمہیں مرزا کو جھوٹا ماننا ہوگا، میں تمام برادران اسلام سے کہتا ہوں کہ جب کوئی مرزائی ہمارے حوالہ پر الزام لگائے اس سے بھی کہیں اور نہایت زور سے کہیں اب مرزا کے جھوٹوں کا نمونہ ملاحظہ ہو۔

گیاں ہواں جھوٹ: (اربعین نمبر ۳ ص ۹) میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے ”کہ مولوی غلام دھگیر صاحب قصوری اور مولوی اسماعیل صاحب علی گڑھی نے لکھا ہے کہ جھوٹا سچے کے سامنے مرجائے گا“ یہ مرزا قادیانی کا صریح کذب ہے ان دونوں حضرات نے ایسا کہیں نہیں لکھا، اگر کسی کو دعویٰ ہے تو بتائے کہ کہاں اور ان کی کس کتاب میں ہے دعائے مرزا میں بھی استفسار کیا گیا ہے اور عجیب کے لیے پانچ سو روپے کا اشتہار دیا ہے اور یہ سالہ صحیفہ رحمانیہ سے بہت پہلے چھپا ہے پھر صحیفہ رحمانیہ نمبر اول میں اس جھوٹ کو دکھایا گیا ہے صحیفہ ماہ صفر ۱۳۳۲ھ میں چھپا ہے اور اب ۱۳۴۱ھ ہے مگر اس وقت تک کوئی مرزائی اس جھوٹ کے داغ کو مٹا نہیں سکا اور نہ قیامت تک مٹا سکتا ہے۔

بارہواں جھوٹ: (اخبار بدر مورخہ ۲۷ دسمبر ۱۹۰۶ء ملفوظات ج ۹ ص ۹۹) میں لکھا ہے ”کہ جتنے لوگ مباہلہ کرنے والے ہمارے مقابلہ میں آئے خدا تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا“

یہ دعویٰ بھی محض غلط اور بڑا بھاری جھوٹ ہے صوفی عبدالحق صاحب کے سوا کسی سے مرزا قادیانی نے مہبلہ نہیں کیا اور صوفی صاحب نے مرزا قادیانی سے مہبلہ کے پندرہ ماہ بعد ۱۳۱۲ھ میں اس کے اثر کا اشتہار دیا اس کی شروع کی عبارت یوں ہے ”کیوں مرزاجی مہبلہ کی لعنت اچھی طرح پڑ گئی یا کچھ کسر ہے۔“ اس کے بعد مرزا قادیانی کی چار پیشینگوئیوں کا جھوٹا ہونا دکھایا ہے اور مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ثابت کیا ہے کیونکہ توریت اور قرآن مجید سے کہ جس مدعی نبوت کی پیشینگوئی جھوٹی ہو وہ جھوٹا ہے مگر مریدوں کی کذب پرستی کا یہ حال ہے کہ اپنے مرشد کے اس دعویٰ کو سچ مان کر بڑے زور سے اب تک یہی دعویٰ کر رہے ہیں چنانچہ ۲۱ دسمبر ۱۹۱۶ء کے پیغام صلح میں لکھا ہے کئی ایک مخالفین بالمقابل کھڑے ہو کر اور مہبلہ کر کے اپنی ہلاکت سے خدا کے اس مامور کی صداقت پر مہر لگا گئے۔“ اب دیکھا جائے یہ کیسا اعلانیہ جھوٹ ہے مگر کاذب کی پیروی نے دل کو تاریک اور عقل و ہوش کو بیکار کر دیا ہے کہ متنبہ کرنے پر بھی واقعی بات کی تحقیق نہیں کرتے اس دعویٰ کا جھوٹا ہونا ۱۹۱۳ء میں صحیفہ رحمانیہ نمبر ۱۱ میں دکھایا ہے بایں ہمد ۱۹۱۶ء میں کس جرأت سے لکھتے ہیں کہ مہبلہ کر کے اپنی ہلاکت سے خدا کے اس مامور کی صداقت پر مہر لگا گئے اگر اور کچھ نہیں دیکھا تھا اور مرزا قادیانی کے جھوٹ کو بھی وہ سچ سمجھتے تھے۔ تو صوفی عبدالحق صاحب کو بھی انہوں نے دیکھا یا سنا نہ تھا کہ مہبلہ کرنے والے اس وقت تک زندہ امرتسر میں موجود ہیں پھر ایسا اعلانیہ جھوٹ بولتے انہیں شرم نہیں آئی اور یہ بھی خیال نہیں کیا کہ باوجود اس شور و غل کے تمام عمر میں ایک صوفی صاحب سے مہبلہ کی نوبت آئی اور ان کی زندگی میں مرزا قادیانی ہلاک ہوئے اور اس اہل حق کی صداقت پر مہر لگا گئے اب اس اعلانیہ سچے واقعہ کے خلاف بیان کرنا کسی صاحب شرم و حیا کا کام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں یہ خواجہ کمال کی پارٹی کا جھوٹ ہے جو اشاعت اسلام کا دعویٰ کر کے مسلمانوں سے روپیہ بنور رہے ہیں لطف یہ ہے کہ ۱۷ جنوری ۱۹۱۸ء کے اخبار المحدث میں ان مبالغین کے نام دریافت کئے ہیں جو مرزا قادیانی سے مہبلہ کر کے مر گئے تو بڑی جرأت سے تاریخ مذکور کے پیغام صلح میں ان پانچ شخصوں کے نام بتائے جنہوں نے مرزا قادیانی سے کسی وقت مہبلہ نہیں کیا البتہ جس طرح دنیا کے بہت لوگوں نے مرزا قادیانی کے سامنے انتقال کیا اسی طرح پانچویں صاحب نے انتقال کیا مگر اس جماعت کے کذب کی پیروی اور راستی اور سچائی سے بیزاری قابل ملاحظہ ہے کہ باوجودیکہ اپنا اور اپنے مرشد کا جھوٹ معلوم کر چکے مگر عوام نادانوں کے سامنے طمع کر کے اپنی سچائی دکھانا چاہتے ہیں اور پانچ شخصوں کے نام گنائے ہیں تاکہ ناواقف

یہ سمجھیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مبالغہ کیا اور مر گئے حالانکہ یہ بات نہیں ہے ان لوگوں نے ہرگز مبالغہ نہیں کیا یہی حضرات اشاعت اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں اور مسلمانوں سے چندہ مانگتے ہیں اور ہمارے سیدھے سادھے مسلمان انہیں سچا سمجھ کر چندہ دے رہے ہیں۔

تیرہواں جھوٹ: جس میں چھ جھوٹ ہیں۔ (اربعین نمبر ۳ ص ۷۷ اخرا سن ج ۷ ص ۴۰۴) میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں ”یہ ضرور تھا کہ قرآن کریم وحدیث کی پیشین گوئیاں پوری ہوتیں جن میں یہ لکھا تھا کہ مسیح جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ وہ اسے کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کا فتویٰ دیں گے“

یہ دعویٰ بالکل غلط ہے قرآن وحدیث میں کہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ امام مہدی اور مسیح جب آئیں گے تو مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اس قدر ہوگی کہ ہر وقت ان کا ذکر کریں گے اور بلا ان کی خواہش کے بیعت ان سے کرنا چاہیں گے اور کریں گے۔ (البرہان فی علامات المہدی آخر الزمان ملاحظہ ہو)

اس قول میں تین باتیں قرآن اور حدیث کی طرف منسوب کی ہیں (۱) یہ کہ علماء کے ہاتھ سے مسیح موعود دکھ اٹھائے گا یعنی اسے ماریں پیشیں گے (۲) اسے کافر قرار دیں گے (۳) اس کے قتل کا فتویٰ دیں گے اور یہ تینوں باتیں قرآن وحدیث کی طرف منسوب کی ہیں یعنی قرآن مجید میں بھی یہ تینوں باتیں آئی ہیں اور حدیث میں بھی مگر جب یہ تینوں دعویے محض غلط ہیں نہ قرآن میں ان دعویوں کا پتہ ہے اور نہ حدیث میں اس لیے یہ چھ جھوٹ ہوئے۔ اب جن کو ان کے سچے ہونے کا دعویٰ ہے وہ قرآن وحدیث سے ثابت کرے ورنہ خدا سے ڈر کر ایسے جھوٹے سے علیحدہ ہو جائے اٹھارہ جھوٹ تو یہ ہوئے۔ اب انیسواں جھوٹ دیکھئے۔

انیسواں جھوٹ: قادیانی (اخبار البدور مورخہ ۱۹ دسمبر ۱۹۰۷ء ملفوظات ج ۷ ص ۲۱۷) میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ ”ہمارے نبی کریم ﷺ کے گیارہ بیٹے فوت ہوئے۔“ دیکھئے یہ کیسا بے لگا جھوٹ ہے اب قادیانی پارٹی یا لاہوری پارٹی کوئی اپنے مقتداء کی صداقت ثابت کرے اور کوئی معتبر روایت اس مضمون کی دکھائے یہ اس قسم کے جھوٹ ہیں جن سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹ بولنے میں ایسے بیباک تھے کہ جو جی چاہا بے تامل کہہ دیا اب خیال کیا جائے کہ جو شخص ایسا اعلانیہ جھوٹ بولے جو تھوڑی سی تحقیق سے معلوم ہو سکتا ہے اس کے اس قول کو کہ مجھے یہ وحی والہام ہوا ہے۔ کون عقل باور کر سکتی ہے۔

بیسواں جھوٹ: ۱۲ اگست ۱۹۰۷ء کو مرزا قادیانی نے اشتہار دیا تھا جس کی سرخی تھی ”عام مریدوں کے لیے ہدایت“ اس میں لکھا ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں دباؤ نازل ہو تو اس شہر کے لوگوں کو چاہیے کہ بلا توقف اس شہر کو چھوڑ دیں۔“ یہ قول بھی حضور سرور انبیاء علیہ السلام پر افتراء ہے اس افتراء کی ضرورت مرزا قادیانی کو یہ پیش آئی کہ قادیان میں جب طاعون آیا تو مرزا قادیانی باہر بھاگے اس لیے اس بھاگنے کو حضور علیہ السلام کا حکم ظاہر کرنا چاہا اب اگر سچا ماننے والوں کو کچھ غیرت ہو تو کسی حدیث کی کتاب سے کوئی معتبر روایت اس مضمون کی دکھائیں مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں دکھا سکتے۔

ایکسواں جھوٹ: (شہادۃ القرآن ص ۴۱ خزائن ج ۳ ص ۳۳۷) میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

”اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں مثلاً صحیح بخاری کی حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفہ کی نسبت خبر دی گئی ہے خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی کہ ”ہذا خلیفۃ اللہ المہدی“ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبہ کی ہے کہ جوامع الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔“

اس مضمون کو بخاری کی روایت بتانا بھی اس کی شہادت دیتا ہے کہ مرزا کی طبیعت میں احتیاط اور راستبازی کا بالکل خیال نہ تھا جو دل میں آگیا وہ زور سے بیان کر دیا اور جس کی طرف چاہا اس کی طرف اس خیال کو منسوب کر دیا اگر اتفاقہ سچ ہو گیا تو مدعا حاصل ورنہ باتیں بنانا کچھ مشکل نہیں ہیں اور ماننے والے ہر طرح مان ہی لیتے ہیں عیاں راچہ بیان مرزا قادیانی کے مرید اس کی کامل شہادت دیتے ہیں اگر میں غلط کہتا ہوں تو تمام دنیا کے مرزائی مل کر تلاش کریں اور بخاری کی اس روایت کو دکھائیں اے مرزا یو کچھ تو سوچو اور اگر اب تک غفلت میں تھے تو اب سوچو کہ ایسے شخص کے منہ پر دعویٰ نبوت اور مسیحیت اور مہدویت اور افضل الامت ہی نہیں بلکہ قمر الانبیاء اور افضل من عیسیٰ روح اللہ ہونے کا زب دیتا ہے جو اس قدر دلیر جھوٹا ہو؟ بخاری مسلمانوں کی ایک معروف و مشہور کتاب ہے تمام قادیانی ملکر اور جمع ہو کر بتائیں کہ بخاری کے کس باب میں یہ حدیث ہے اور اگر نہ بتا سکیں تو بس اب توبہ کرنے میں کیوں دیر کرتے ہیں یہ تو وہ جھوٹ ہیں جن میں نہ کوئی الہام کی غلط فہمی کام آ سکتی ہے نہ کوئی شرط لگ سکتی ہے۔ نہ ”یمحو

اللہ مایشاء و یریبث“ کا سچ چل سکتا ہے نہ ”یعد ولا یوفی“ کام دے سکتا ہے نہ چاند اور سورج کا گہن اس کو سچا کر سکتا ہے کیا اسی نبی کی نبوت کی آسمان اور زمین نے شہادت دی تھی اسی کو نبوت قرآن وحدیث سے ثابت کرتے ہو؟ آخر خدا نے انسان بتایا ہے کچھ تو غور و فکر سے کام لو کیا مرنا نہیں ہے کیوں مخالفین اسلام کو ہنساتے ہو اور ان کی تعداد کو بڑھاتے ہو؟

بائیسواں جھوٹ: (حقیقۃ الوحی ص ۳۹۰ و ص ۳۹۱) میں اپنی مدح میں ایک پیشینگوئی گھڑی ہے اور اسے حدیث رسول اللہ ﷺ ٹھہرایا ہے لکھتے ہیں۔

”واضح ہو کہ احادیث نبویہ میں پیشینگوئی کی گئی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی امت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو عیسیٰ اور ابن مریم کہلائے گا اور نبی کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔“ یہ پیشینگوئی کسی حدیث میں نہیں آئی مرزا قادیانی نے جابلوں کے بہکانے کے لیے جناب رسول اللہ ﷺ پر افتراء کیا ہے اگر ہم غلط کہتے ہیں تو کوئی مرزائی اس روایت کو کسی معتبر کتاب سے ثابت کرے مگر نہیں کر سکتا اس قول میں مرزا قادیانی اپنے لیے پیشینگوئی ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مریدوں کو خوش کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیدا ہوگا جو عیسیٰ اور ابن مریم کہلائے گا اردو محاورے کے لحاظ سے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ درحقیقت تو وہ عیسیٰ اور ابن مریم نہیں ہوگا مگر دوسروں سے کہلائے گا یعنی لوگوں سے کہے گا کہ مجھے عیسیٰ اور ابن مریم کہو اس کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں سے جھوٹ بلوائے گا اور عیسیٰ اور ابن مریم بنے گا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ نام تو اس کا کچھ اور ہوگا کسی وجہ سے لوگ اسے عیسیٰ اور ابن مریم کہنے لگیں گے وہ خود نہیں کہلائے گا اب یہ قول پہلے معنی کے لحاظ سے تو صاف طور سے ایک جھوٹے کی پیشینگوئی ہوئی جیسے دجال کی پیشینگوئی ہے دوسرے معنی کے لحاظ سے مرزا قادیانی اس کے مصداق بنیں بہر حال جو معنی ہوں کسی حدیث میں یہ عیسیٰ اور ابن مریم بتایا ہے تاکہ مسیح موعود کے مصداق بنیں، مگر مرزا قادیانی نے بڑی ہوشیاری اور عیاری سے لکھا ہے اب مرزائی حضرات یہ فرمائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے ظاہر اردو کے محاورہ کے لحاظ سے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ درحقیقت تو وہ نبی یعنی خدا کا رسول نہ ہوگا بلکہ اس کا نام نبی رکھا جائے گا جس طرح اس وقت لکھنؤ میں ایک مشہور بیر سٹر ہیں ان کا نام نبی اللہ ہے جا کر دیکھ لیجئے مگر

یہ مطلب اس لیے غلط ہے کہ مرزا قادیانی کا نام نبی نہیں رکھا گیا، بلکہ غلام احمد ان کا نام ہے غرض کہ برائے نام بھی انہیں نبی کہا غلط ہے، مگر مرزا قادیانی نے یہ جملہ اس لیے تراشا ہے کہ خاص و عام میں مشہور ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، ان کی تسکین کے لیے کہتے ہیں کہ وہ حقیقی نبی نہیں ہوگا، بلکہ نبی اس کا نام رکھا جائے گا، اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم پر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے سے منکر ہیں، بلکہ اسے مان کر ہم نبی کہلانے کے مستحق ہیں، ہمیں حدیث میں نبی کہا گیا ہے مگر یہ محض فریب ہے حدیث میں جنہیں نبی کہا گیا ہے وہ واقعی نبی ہیں مگر انہیں رسول اللہ ﷺ سے پہلے نبوت کا مرتبہ مل چکا ہے رسول اللہ کے بعد انہیں نبوت نہیں ملی جو حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کے مخالف ہو، بہر حال یہ یقینی بات ہے کہ کسی حدیث صحیح میں رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد نہیں ہے کہ میری امت میں ایسا شخص پیدا ہوگا جس میں یہ تین باتیں ہوں گی، یعنی یہ کہ وہ عیسیٰ کہلائے اور ابن مریم بھی اسے لوگ کہیں اور نبی کے نام سے بھی موسوم ہوا، البتہ صحیح مسلم میں حضرت مسیح ابن مریم کے آنے کی پیشینگوئی ہے مگر اس میں ۲۷ باتوں سے زائد ایسی بیان ہوئی ہیں جن سے مرزا قادیانی جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔

(محفذ رحمانیہ نمبر ۱۱۱۱ کا ص ۳۲ سے ص ۵۱ تک ملاحظہ ہو)

اس حدیث میں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور کافروں کا مارا جانا بیان کر کے یا جوج و ماجوج کا آنا اور حضرت عیسیٰ کا پہاڑ پر محصور ہونا بیان ہوا ہے، پھر ارشاد ہے ”فیرغب نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ“ یعنی اس وقت خدا کے رسول جن کا نام عیسیٰ ہے اور ان کے اصحاب خدا کی طرف متوجہ ہوں گے اور دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یا جوج و ماجوج کو نیست و نابود کر دے گا اس کے بعد دنیا کی ایسی عمدہ حالت کی پیشینگوئی ہے کہ اس کا ظہور اس وقت تک کبھی نہیں ہوا، قادیانی مسیح کے وقت کی حالت تو ایسی خراب رہی اور ہے کہ کبھی ایسی نہیں ہوئی، اس حدیث میں کسی امتی کا نام نبی یا نبی اللہ ہرگز نہیں بتایا، بلکہ حضرت عیسیٰ کی صفت نبی اللہ بیان ہے۔

تیسواں جھوٹ: (نشان آسمانی ص ۱۸، خزائن ج ۳ ص ۳۷۸) میں لکھتے ہیں ”جاننا چاہیے کہ اگرچہ عام طور پر رسول اللہ ﷺ کی طرف سے یہ حدیث صحیح ہو چکی ہے کہ خدا تعالیٰ اس امت کی اصلاح کے لیے ہر ایک صدی پر ایسا مجدد مبعوث کرتا رہے گا جو اس کے دین کو نیا کرے گا، لیکن چودھویں صدی کے لیے یعنی اس بشارت کے بارے میں جو ایک عظیم الشان مہدی چودھویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا اس قدر بشارات نبویہ پائے جاتے ہیں جو ان سے کوئی طالب



منکر نہیں ہو سکتا، ”مرزا قادیانی نے یہ عظیم الشان دعویٰ کیا اور اکثر عمر رسائل لکھنے میں گذاری مگر کسی رسالے میں ان اشاروں کا اجمالی ذکر بھی کہیں دیکھا نہیں گیا، اگر کوئی دکھا سکے تو دکھائے مگر یہ بات قطعاً اور یقیناً جھوٹی ہے کہ چودہویں صدی کے مجدد کے لیے مخصوص اشارے کسی حدیث میں ہیں جو اور مجددوں کے لیے نہیں ہیں، اس مضمون کی ایک روایت صرف ابو داؤد میں ہے جس کے معنی کے اشکال سے اگر قطع نظر کی جائے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد کو پیدا کرے گا جو دین کو بہت کچھ نفع پہنچائے گا، (الفاظ حدیث کو ملاحظہ کیا جائے) ان اللہ یبعث لہذا الامۃ علی راس کل مائۃ سنة من یجدد لہا وینہا (ابو داؤد ج ۲ ص ۱۳ باب ۱۰، ابذ کوفی قدر المائۃ) اللہ تعالیٰ ضرور اس امت کے لیے ہر صدی کے شروع میں ایسا مجدد بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا اب قادیانی جماعت بتلائے کہ اس حدیث میں وہ کونسا لفظ ہے جس سے معلوم ہوا کہ چودہویں صدی کا مجدد ممتاز ہو گا یا اس کے سوا کوئی دوسری حدیث دکھلائے جس میں وہ الفاظ ہوں۔

جو عربی عبارت سمجھ سکتے ہیں وہ بخوبی معلوم کر سکتے ہیں کہ اس حدیث میں صرف اس قدر بیان ہے کہ ہر صدی پر مجدد ہو گا جو دین کو فائدہ پہنچائے گا۔ اس کے سوا کوئی اشارہ اس میں نہیں ہے اس حدیث کے بموجب مرزا قادیانی مجدد ہرگز نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے دین اسلام کو کوئی نفع ایسا نہیں پہنچایا جو دوسرے علماء نے نہ پہنچایا ہو بلکہ نہایت نقصان پہنچایا مثلاً یہ کہ (۱) چالیس کروڑ مسلمانوں کو کافر قرار دے کر دنیا کو اسلام سے خالی کر دیا (۲) خدا اور رسول پر ایسے الزام لگائے جس سے منکرین اسلام کو اس مقدس مذہب پر مضحکہ کا موقع دیا اور ثابت کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی در پردہ دہریہ ہیں ہر ایک موقع پر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ہر ایک مذہب پر خصوصاً اسلام پر مخالفین کو مضحکہ کا موقع ملے اور جاننے والے جان لیں کہ قادیانیوں کے سردار جھوٹوں کے سرگروہ ہیں اور انہیں کو خوجہ کمال قادیانی مسیح موعود اور تمام صحابہ کرام اور اولیاء عظام سے افضل کہتے ہیں اور در پردہ ہمارے مقدس بزرگوں کی سخت توہین کرتے ہیں۔

چوبیسواں جھوٹ: ”پھر آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ میری دعوت کے وقت میں آسمان پر رمضان میں خسوف اور کسوف عین حدیث کے موافق وقوع میں آیا“

(تحفہ غزنویہ ص ۱۲ خزائن ج ۱۵ ص ۵۳۳)

مرزا قادیانی کے علاوہ بہت سے مدعیان نبوت و مہدویت کے وقت میں ایسا خسوف و

کسوف رمضان میں ہوا ہے میری دعوت کے وقت میں لکھنا صریح جھوٹ ہے اس کی تفصیل دوسری شہادت آسانی میں کامل طور سے کی گئی ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔

پچھیسواں جھوٹ: ”اس مقام سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ جھوٹا نبی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔“

(ضمیمہ اربعین نمبر ۳ و ۴ تہذیب اربعین ص ۱۱ خزائن ج ۷ ص ۷۷)

قرآن پاک میں اور تمام کتب آسمانی میں جھوٹے نبی اور سچے نبی دونوں کے ہلاک کا ذکر ہے بلکہ جھوٹے نبی کے لیے کوئی خاص قاعدہ ہلاک کا مقرر نہیں ہے (ملاحظہ رسالہ عبرت خیز)

چھبیسواں جھوٹ: ”خدا کی ساری پاک کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ مفتری جلد ہلاک کیا جاتا ہے اس کو وہ عمر ہرگز نہیں ملتی ہے جو صادق کو مل سکتی ہے تمام صادقوں کا بادشاہ ہمارا نبی ﷺ ہے اس کو وحی پانے کے لیے ۲۳ برس کی عمر ملی یہ عمر قیامت تک صادقوں کا پیمانہ ہے۔“

(ضمیمہ اربعین نمبر ۳ و ۴ ص ۱۱ خزائن ج ۷ ص ۷۸)

چونکہ قرآن کریم میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو ختم الرسل خاتم النبیین لکھا ہے اس لیے قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے اور جب نبی نہیں آ سکتا تو آئندہ کسی نبی کے آنے کا پیمانہ بتلانے کی ضرورت نہیں رہی البتہ بہت جھوٹے نبی ہوئے اور ۲۳ برس سے زیادہ دنیا میں عیش و عشرت سے رہے اور ہلاک نہیں کئے گئے۔

ستائیسواں جھوٹ: ”مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر ایک غید کتاب ہزار جز کی کتاب بھی ہو اور اس میں اپنے دلائل صدق لکھنا چاہوں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ کتاب ختم ہو جائے گی اور وہ دلائل ختم نہیں ہوں گے۔“

(تحفہ الندوہ ص ۴ خزائن ج ۱۹ ص ۹۶)

ہزار جز کی کتاب تو بڑی کتاب ہوگی اگر ہزار سطروں میں بھی مرزا قادیانی کے صدق کی دلیلیں ہوں تو کہا جاتا ہے صریح جھوٹ و مبالغہ ہے ہزار جز کا آٹھ سو ورق ہوا جس کے سولہ سو صفحے ہوئے ھدیۃ الوحی جو ۳۹۲ صفحہ کی کتاب ہے جس میں ۱۸۷ نشان درج ہے اور نشان کیا ہے یہی کہ مجھ کو لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی فلاں کی تبدیلی ہوئی فلاں مرے گا اگر اسی کا نام نشان ہے اور یہی صدق کی دلیلیں ہیں تو رمال جفا روز ایسی ایسی خبریں دیا کرتے ہیں جو دلیل نبوت نہیں ہو سکتی ہے۔

اٹھائیسواں جھوٹ: ”مگر آج باوجود مخالفانہ کوششوں کے ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت مختلف مقامات میں موجود ہے پس کیا یہ معجزہ ہے یا نہیں۔“

(تحفۃ الندوہ ص ۵ خزائن ج ۱۹ ص ۹۷)

اٹھائیسواں جھوٹ: ”اب اگرچہ خاص لوگ اہل علم اور اہل جاہ و ثروت دس ہزار کے قریب ہماری جماعت میں موجود ہیں مگر عام تعداد میں ہزار سے بھی زیادہ ہے۔“

(تحفۃ غزنویہ ص ۱۳ خزائن ج ۱۵ ص ۵۳۳)

تحفۃ الندوہ اور تحفۃ غزنویہ دونوں کتابیں اکتوبر ۱۹۰۲ء کی تصنیف ہیں تحفۃ الندوہ میں صریح جھوٹ سے مرزا قادیانی نے کام لیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ میری جماعت میں ایک لاکھ سے زیادہ آدمی موجود ہیں تحفۃ غزنویہ کی تحریر سے تحفۃ الندوہ کی تحریر غلط ہو رہی ہے۔

تیسواں جھوٹ: ”اگر قرآن کریم نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔“

(تحفۃ الندوہ ص ۵ خزائن ج ۱۹ ص ۹۸)

مرزا غلام احمد کا نام قرآن کریم نے ہرگز مسیح ابن مریم نہیں رکھا ہے مرزا قادیانی اپنے قول کے مطابق جھوٹے ہیں کیونکہ کشتی نوح میں مرزا قادیانی اپنا مسیح ابن مریم ہونا اس طور سے ظاہر کرتے ہیں کہ میں پہلے مریم بنایا گیا اور مجھ میں نفخ روح کی گئی اور نو مہینے تک حاملہ رہا نو مہینے کے بعد عیسیٰ ہو گیا پس اس طور سے میں مسیح ابن مریم ٹھہرا اور ازالہ اوہام میں مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں کہ ”جو کوئی مجھے مسیح ابن مریم کہے وہ کذاب ہے“ پس اگر قرآن کریم نے مرزا قادیانی کا نام مسیح ابن مریم رکھا تھا تو پھر مسیح ابن مریم کہنے والے کو مرزا قادیانی مفتری اور کذاب کیوں کہتے ہیں۔ (ازالہ اوہام ص ۷۷ رسالہ تحفۃ الندوہ ص ۳ خزائن ج ۱۹ ص ۹۶) میں سات جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔

(۱) اکتیسواں جھوٹ: ”قرآن نے میری گواہی دی محض غلط ہے قرآن ایسے جھوٹے کی گواہی ہرگز نہیں دے سکتا۔“

(۲) تیسواں جھوٹ: ”رسول اللہ ﷺ نے میری گواہی دی ہے۔“

(تحفۃ الندوہ ص ۳ خزائن ج ۱۹ ص ۹۵)

ہرگز نہیں دی جناب رسول اللہ پر بالکل افتراء ہے حضرت سرور عالم ﷺ ایسے جھوٹے کی گواہی نہیں دیتے البتہ ان کے جھوٹے ہونے کی گواہی دی ہے اور فرمایا ہے کہ میرے بعد متعدد

جھوٹے آئیں گے اور پیغمبری کا دعویٰ کریں گے ان سے بچو رسالہ ختم النوة فی الاسلام دیکھو اس میں تینتالیس حدیثیں اس مضمون کی ہیں۔

(۳) تیسواں جھوٹ: ”پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے۔“

(تحفۃ الودود ص ۳ خزائن ج ۱۹ ص ۹۶)

بالکل جھوٹ ہے کوئی مرزائی سامنے آ کر بتائے کہ کس کس نبی نے مرزا کے آنے کا زمانہ متعین کیا ہے، مگر قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔

(۴) چونتیسواں جھوٹ: ”قرآن بھی میرے آنے کا زمانہ متعین کرتا ہے“

(تحفۃ الودود ص ۳ خزائن ج ۱۹ ص ۹۶)

محض جھوٹ ہے البتہ قرآن شریف کی دس آیتوں سے ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا

ہے۔

(۵) پینتیسواں جھوٹ: ”میرے لیے آسمان نے بھی گواہ دی۔“

(تحفۃ الودود ص ۳ خزائن ج ۱۹ ص ۹۶)

یہ بھی محض جھوٹ اور فریب ہے اس دعویٰ کے جھوٹے ہونے کے ثبوت میں دور سالے لکھے گئے ہیں ایک شہادت آسمانی اور دوسری شہادت آسمانی، ناظرین ان دونوں رسالوں کو اچھی طرح دیکھیں مرزا قادیانی کا جھوٹا اور فریبی ہونا کامل طور سے ظاہر ہو جائے گا۔

(۶) چھتیسواں جھوٹ: ”اور زمین نے بھی گواہی دی“

(تحفۃ الودود ص ۳ خزائن ج ۱۹ ص ۹۶)

جو زمین پر رہنے والے حق بین ہیں وہ بالیقین اس دعویٰ کو جھوٹا جانتے ہیں اس پانچویں اور چھٹے دعویٰ کا جھوٹا ہونا رسالہ حقیقۃ المسیح کے ص ۳۳ سے ص ۳۵ تک نہایت روشن طریقے سے ثابت کیا ہے۔

(۷) ستتیسواں جھوٹ: ”اور کوئی نبی نہیں ہے جو میرے لیے گواہی نہیں دے

گیا“ (تحفۃ الودود ص ۳ خزائن ج ۱۹ ص ۹۶)

یہ انبیاء پر اتہام ہے کوئی اللہ کا رسول ایسے جھوٹے کی گواہی نہ دے سکتا ہے جیسے مرزا قادیانی ہیں ہاں اگر مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی گواہی دی ہو تو تعجب نہیں، مرزا قادیانی کے رد میں جو رسالے لکھے گئے ہیں فیصلہ آسمانی وغیرہ ان سے بخوبی ان دعوؤں کا جھوٹا ہونا معلوم ہو سکتا

ہے اب یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ ایسے عالیشان دعویٰ کرنے سے مرزا قادیانی کا کیا مقصد ہے؟ ان کا کلام دیکھنے سے اور یہ معلوم کرنے سے کہ انبیاء سابقین نے ایسے دعویٰ نہیں کئے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ مختلف طور سے اپنا افضل الانبیاء ہونا ثابت کرتے ہیں یہاں سات دعویٰ کئے ہیں آسمان اور زمین کے قلابے ملائے ہیں جھوٹوں کو تعلیم دی ہے جھوٹ بولے تو ایسا بولے جیسا ہم بول رہے ہیں کہ دیکھنے اور سننے والے حیران ہو جائیں ظاہر میں تو سات جھوٹ ہیں مگر سینکڑوں جھوٹ سے بڑھ کر ہیں۔

بھائیو! ایسے ہی زور کے دعوؤں نے سادہ لوحوں کو ان کا معتقد بنا دیا ہے مگر یہ خیر خواہ نہایت کامل یقین سے کہتا ہے کہ یہ کل دعویٰ محض غلط اور صریح جھوٹ ہیں نہ قرآن مجید نے ان کی گواہی دی ہے نہ رسول کریم ﷺ نے اور نہ کسی نبی نے ان کے آنے کا وقت متعین کیا ہے یہ پہلے نبیوں پر افتراء ہے صاحبان عقل اس پر غور کریں کہ ایسا شخص جن کے جھوٹ کا انبار پیش ہو رہا ہے جن کے مختلف قسم کے جھوٹ دکھائے گئے جن کی عظیم الشان پیشینگوئیاں جھوٹی ہوئیں اور قرآن مجید اور توریت مقدس نے انہیں جھوٹا ٹھہرایا جو اپنے مقرر کردہ معیار سے جھوٹے ثابت ہوئے ان کی صداقت کی شہادت کلام الہی اور حدیث نبوی میں ہو سکتی ہے؟ انہیں انبیائے کرام سچا کہہ سکتے ہیں؟ آسمان اور زمین ٹل جائیں مگر یہ نہیں ہو سکتا بلکہ آسمانی کتابوں نے اور کلام الہی نے ان کے جھوٹے ہونے کی قطعی شہادت دی ہے کیونکہ قرآن مجید میں اور توریت میں جھوٹے نبی کا یہ معیار بیان کیا ہے کہ اس کی پیشینگوئی جھوٹی ہو جائے اور مرزا قادیانی کی پیشینگوئیاں ایسی قطعی طور سے جھوٹی ہوئیں کہ ان کے ماننے والے بھی اس کی تصدیق پر مجبور ہو گئے (دیکھو رسالہ نبی کی پہچان) کیا خوبہ کمال کی پارٹی یا مرزا محمود کا گروہ ان دعوؤں کو ثابت کر سکتا ہے؟ میں نہایت استحکام اور کامل وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر تمام مرزائی جماعت سرگزر کر مر جائے تو ان سات دعوؤں میں سے ایک دعویٰ کو بھی ثابت نہیں کر سکتی ہرگز نہیں کر سکتی۔ اگر کسی کو دعویٰ ہے تو سامنے آئے مگر بمقتضائے ”الْحَقُّ يَغْلُو وَلَا يَغْلَى“ کوئی سامنے نہیں آ سکتا یوں عوام کو بہکانا اور قرآن مجید میں تحریف کر کے محض غلط باتیں بنانا ہر ایک فریب دہندہ کر سکتا ہے یہاں ساتواں قول قابل لحاظ زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے تمام انبیائے کرام پر یہ افتراء کیا ہے کہ کوئی نبی نہیں جو میری گواہی نہیں دے چکا اس کا حاصل یہی ہے کہ تمام انبیائے کرام نے میری گواہی دی ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ انبیائے کرام پر بالکل افتراء ہے خیال تو کیجئے کہ تمام انبیاء جن کی تعداد لاکھ سے زیادہ بیان

کی جاتی ہے، ان سب کی کتابیں کیا قادیان کی الماری میں رکھی ہیں؟ جنہیں دیکھ کر مرزا قادیانی یہ دعویٰ کرتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں پھر کیا کسی ایک یا دو کتاب آسمانی میں سب انبیاء کا یہ قول منقول ہے اور کوئی اسے دکھا سکتا ہے؟ غیر ممکن ہے ہرگز نہیں دکھا سکتا، جب یہ اقرار عام طور سے تمام انبیاء پر کیا گیا تو بے شمار افتراء ہوئے اور ہزاروں سے زائد جھوٹ ہو گئے ایسے مفتری اور کذاب کو یہ قادیانی حکیم ظلیل سچا ثابت کرنے آیا ہے اور صریح جھوٹی معیاریں بتا کر ناواقفوں کو فریب دیتا ہے ایسے معیار بتاتا ہے جس سے تمام جھوٹے مدعی مثلاً مسلمانہ کذاب جس کا نام احمد اور کنیت ابو سلیم تھی وغیرہ سب سچے ثابت ہوتے ہیں مگر چونکہ اس کذاب کا نام بھی احمد تھا اس لیے مرزائی ایسے معیار بیان کرتے ہیں کہ یہ کذاب بھی سچا ثابت ہو جائے اب ایک اور جھوٹ بھی قابل ملاحظہ ہے۔

اڑتیسواں جھوٹ: (تختہ غزنویہ ص ۵ خزائن ج ۱۵ ص ۵۳۵) میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔

”یہ تمام دنیا کا جانا ہوا مسئلہ اور اہل اسلام اور نصاریٰ اور یہود کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ وعید یعنی عذاب کی پیشینگوئی بغیر شرط تو بہ اور استغفار اور خوف کے بھی ٹل سکتی ہے۔“

اس قول میں مرزا قادیانی اپنی جھوٹی پیشینگوئیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عوام کو فریب دیتے ہیں اور قرآن مجید کے خلاف تمام اہل اسلام کا عقیدہ بیان کرتے ہیں اور محض جھوٹ بولتے ہیں مسلمانوں کا عقیدہ ہرگز نہیں ہے قرآن مجید کی نص قطعی ”مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيْ“ (ق ۲۹) مسلمانوں کے پیش نظر ہے متعدد آیات قرآنیہ کی رو سے ان کا اعتقاد ہے کہ خدائے تعالیٰ کا وعدہ اور وعید ہرگز نہیں ملتی اس کی کامل تحقیق فیصلہ آسمانی حصہ ۳ میں لکھی گئی ہے اس کا ص ۱۱۰ سے ص ۱۱۸ تک متن و حاشیہ دیکھو۔

اب اس کہنے میں ہمیں کیا تامل ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ بتانا ان پر صریح افتراء ہے اور ظاہر ہے کہ کسی ایک مسلمان پر یہ افتراء نہیں ہے بلکہ اس وقت چالیس کروڑ مسلمانوں پر یہ جھوٹ باندھا گیا ہے اس لیے اس کہنے میں کوئی تامل نہیں ہو سکتا کہ مرزا قادیانی کے اس قول میں چالیس کروڑ جھوٹ ہیں اور اگر بالکل جاہل کا لانا عام کو چھوڑ دیا جائے تو بھی کروڑوں کی تعداد رہے گی یہاں تو وعید کے نلنے کا امکان بیان کیا گیا اس کے بعد ہی اس رسالے میں لکھتے ہیں۔

انچالیسواں جھوٹ: ”وعید یعنی عذاب کی پیشینگوئی کی نسبت خدا تعالیٰ کی یہی سنت

ہے کہ خواہ پیشینگوئی میں شرط ہو یا نہ ہو تضرع اور توبہ اور خوف کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں“

(تخفہ غرہ نویہ ص ۶ خزائن ج ۱۵ ص ۵۳۶)

یہ دعویٰ مرزا قادیانی نے بہت جگہ کیا ہے، مگر اس میں شبہ نہیں کہ یہ دعویٰ محض غلط اور خدا تعالیٰ پر افتراء ہے، عذاب کی پیشینگوئی یعنی وعید الہی اس میں شرط نہیں ہے، وہ کسی وجہ سے ٹال نہیں سکتی، وہ ضرور پوری ہوتی ہے ایسی وعید جس کے لیے کی جاتی ہے اسے توبہ اور تضرع کی توفیق بھی نہیں ہوتی وہ اپنے جھوٹے عقیدہ پر بدستور قائم رہتا ہے اور خدا کا کلام پورا ہوتا ہے۔ اس بات کا ثبوت کہ وعید الہی ہرگز نہیں ٹلتی اس کے خلاف کو سنت اللہ کہتا خدائے تعالیٰ پر عظیم الشان افتراء ہے جو اس قدوس عالم الغیب کی شان کے بالکل خلاف ہے مرزائیوں پر فرض ہے کہ کم سے کم چار پانچ مثالیں ایسی پیش کریں جہاں وعید کی پیشینگوئی صرف خوف سے ٹل گئی ہو، مگر فیصلہ آسانی حصہ سوم کو بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ مرزا قادیانی کی اس طوفان بے تمیزی کی حقیقت انہیں کھل جائے اگر انہیں طلب حق ہے۔

معزز ناظرین! آپ نے مرزا قادیانی کی حالت کا معائنہ کر لیا ملاحظہ کیجئے کہ اسی پر یہ صاحب نبی کہے جاتے ہیں اور لمبے چوڑے خطابات سے یاد کیے جاتے ہیں، افسوس! کیوں حکیم صاحب آپ کی دیانت کا یہی تقاضا ہے کہ جس شخص کے لاتعداد جھوٹ ہوں اس کو آپ نبی ماننے اور منانے کے لیے تیار ہیں، یہ فلسفہ آپ نے کہاں سیکھا ہے کہ جھوٹا شخص نبی مانا جائے اور لطف یہ ہے کہ یہ شخص خداوند تعالیٰ کو بھی جھوٹا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے۔

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلِّفًا وَعْدَهُ رُسُلُهُ (ابراہیم ۴) إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (آل عمران ۹) یعنی اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں کرتا اور اللہ پاک کو ہرگز ہرگز ایسا نہ سمجھو کہ اپنے رسولوں سے وعدہ کر کے پورا نہ کرے خدائے پاک کا تو یہ ارشاد ہے لیکن جب مرزا قادیانی کی پیشینگویی غلط ہونے لگیں تو کہنے لگے کہ خدا کی یہ سنت ہے کہ رسولوں کی پیشینگوئیوں کو ٹال بھی دیا کرتا ہے کیوں میر وزارت حسین صاحب خدا کے واسطے کچھ تو غور کیجئے۔

میر صاحب اور حکیم صاحب اور پروفیسر مولوی قادیانی اگر آپکو سامنے آنے کی ہمت ہوگی تو ہم آپ کو آیات قرآنی سے مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ثابت کر کے دکھا دیں گے ان دونوں آیتوں میں جھوٹے مدعی نبوت کا یہ معیار بتایا ہے کہ جو مدعی نبوت کوئی وعدہ یا وعید الہی بیان کرنے یعنی وعدہ و وعید کی پیشینگوئی کرے اور وہ پوری نہ ہو تو وہ قطعاً جھوٹا ہے اب مرزا قادیانی کی جھوٹی

پیشینگوئیوں کا انبار دیکھتے سب سے بڑی پیشینگوئی منکوحہ آسانی والی ہے جسے مرزا قادیانی نے اپنی صداقت کا نہایت ہی عظیم الشان نشان بتایا تھا، یعنی عظیم الشان نشان تو اور بھی انہوں نے بتائے ہیں مگر اس منکوحہ آسانی کا نکاح میں آنا نہایت ہی عظیم الشان نشان تھا، الحمد للہ وہ ایسا غلط ہوا کہ خاص و عام پر روشن ہو گیا کہ مرزا قادیانی اس خیالی منکوحہ سے ترستے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے اب چونکہ مرزا قادیانی نے اس کے لیے وعدہ الہی اس طرح بیان کیا تھا کہ ”وہ ہر طرح تیری طرف اسے لائے گا اور سارے مواقع کو دور کرے گا۔“

(ازالۃ الادہام حصہ اول ص ۳۹۶ خزائن ج ۳ ص ۳۰۵)

جب یہ منکوحہ مرزا قادیانی کے نکاح میں نہ آئی تو معلوم ہوا کہ وہ وعدہ الہی نہ تھا بلکہ مرزا قادیانی کا افتراء تھا اللہ تعالیٰ پروردہ بموجب ارشاد خداوندی ”لَا فَخْصَيْنَ اللَّهُ مُخْلِيفٌ وَعِدِهِ رُسُلُهُ“ وہ وعدہ ضرور پورا ہوتا اسی طرح احمد بیگ کے داماد کی وعید پوری نہ ہونے سے مرزا قادیانی جھوٹے ثابت ہوئے مگر مرزا قادیانی اس جھوٹ سے ایسے پریشان ہوئے ہیں کہ اس کے سچ بنانے کے لیے بہت سے جھوٹ بولے ہیں چنانچہ (انجام آتھم ص ۲۹ خزائن ج ۱۱ ص ۳۰) میں وعید کی میعاد کے ملنے کا ذکر کر کے ص ۳۰ میں لکھتے ہیں کہ ”خدا تعالیٰ نے یونس نبی کو قطعی طور پر چالیس دن تک عذاب نازل کرنے کا وعدہ دیا تھا اور وہ قطعی وعدہ تھا جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہیں تھی“ جیسا کہ تفسیر کبیر ص ۱۶۴ اور امام سیوطی کی تفسیر درمنثور میں احادیث صحیحہ کی رو سے اس کی تصدیق موجود ہے (حاشیہ انجام آتھم ص ۳۰) اس قول میں مرزا قادیانی کئی دعویٰ کرتے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نزول عذاب کا قطعی وعدہ کیا یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر بالیقین عذاب نازل ہوگا، دوسرا دعویٰ یہ کہ نزول عذاب کی مدت ۴۰ دن ہے اور اس مدت کا ثبوت بھی قطعی ہے کچھ شک و شبہ نہیں ہے اس کے بعد پھر نزول عذاب کی وعید کو قطعی اور یقینی کہتے ہیں اور اپنے پہلے قول کی تاکید کرتے ہیں تیسرا دعویٰ یہ کہ نزول عذاب کے لیے کوئی شرط نہیں ہے اب نہایت ظاہر ہے کہ نزول عذاب کے لیے اگر شرط ہوگی تو یہی ہوگی کہ اگر ایمان نہ لائیں تو ان پر عذاب آئے گا مگر مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شرط نہ تھی اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں ان پر عذاب ضرور نازل ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک خدا تعالیٰ کسی وقت ظلم بھی کرتا ہے، مرزا قادیانی کے یہ تینوں دعویٰ جھوٹے ہیں کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قطعی طور سے بلا شرط بطور نادری حکم کے عذاب کا وعدہ کر دیا تھا تین جھوٹ یہ ہوئے پوچھا



دعویٰ یہ ہے کہ یہ تینوں دعویٰ تفسیر کبیر ص ۱۶۲ سے ثابت ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے یہ دعویٰ نہ تفسیر کبیر کے کسی مقام سے ثابت ہے اور نہ تفسیر کبیر کے کسی صفحہ سے کیونکہ تفسیر کبیر کی ۸ جلدیں ہیں اور آٹھوں جلدوں کے اس صفحہ سے اس پیشینگوئی کا قطعی ہونا کسی طرح ثابت نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ دو جھوٹ ہوئے اور چونکہ تفسیر کبیر سے تین دعویٰ ثابت کر رہے ہیں اس لیے اس میں درحقیقت تین دوئی چھ جھوٹ ہوئے پانچواں دعویٰ یہ ہے کہ تفسیر درمنثور سے بھی یہ تینوں دعویٰ ثابت ہیں یہ بھی محض جھوٹ ہے اور چونکہ تین دعویٰ کا ثبوت اس کتاب سے بھی دے رہے ہیں اس لیے تین جھوٹ یہ بھی ہوئے اور شروع سے یہاں تک شمار میں بارہ جھوٹ ہوئے اور چونکہ ان تفسیروں میں احادیث صحیحہ سے ان دعویٰ کا ثبوت بتاتے ہیں اور احادیث جمع کا میندہ ہے جس کے لیے کم سے کم تین صحیح حدیثوں کا ہونا ضرور ہے اس لیے اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر دعویٰ کے متعلق تین صحیح حدیثیں ہیں اور دعویٰ تین ہیں تو اس لحاظ سے تو صحیح حدیثیں ہونا چاہیں اور چونکہ ان حدیثوں کا حوالہ دو کتابوں سے دے رہے ہیں اس لیے نو دوئی اٹھارہ صحیح حدیثیں دونوں کتابوں میں ملا کر ہونا چاہیے تھا لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اٹھارہ تو کیا ہوتیں ایک صحیح حدیث بھی ان دعویٰ کے ثبوت میں نہیں ہے تو اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں کہ تعداد حدیث کے لحاظ سے اٹھارہ جھوٹ یہاں پر مرزا قادیانی کے ہوئے اور بارہ پہلے ہوئے تھے تو اب کل میزان تیس ہوئے اب ایسی حالت میں کہ مرزا قادیانی کی پیشینگوئی جھوٹی نکلی اور دنیا پر اس کا جھوٹا ہونا آفتاب کی طرح روشن ہو گیا تو مرزا قادیانی نے اپنی پیشینگوئی پر پردہ ڈالنے کے لیے کہہ دیا کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا وعدہ عذاب ٹل گیا اسی طرح مرزا احمد بیک کے داماد کی موت کا وعدہ ٹل گیا یہ مرزا قادیانی کا اکتیسواں جھوٹ ہے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا وعدہ عذاب پورا ہوا اور عذاب آیا جو قرآن شریف کے نص قطعی سے ثابت ہے اور سورہ یونس میں مذکور ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان پر سے وہ عذاب جو ان پر نازل ہو چکا تھا خدا نے دور کر دیا اور یونس علیہ السلام کا وعدہ پورا ہوا مرزا قادیانی (حاشیہ ضمیمہ انجام آختم ۳۱ و ۳۲ خزائن ج ۱۱ ص ۳۱-۳۲) میں لکھتے ہیں۔

”جس حالت میں خدا اور رسول اور پہلی کتابوں کی شہادتوں کی نظیریں موجود ہیں کہ وعید کی پیشینگوئی میں گو بظاہر کوئی بھی شرط نہ ہو تب بھی بوجہ خوف تاخیر ڈال دی جاتی ہے تو پھر اس اجماعی عقیدہ سے محض میری عداوت کے لیے منہ پھیرنا بد ذاتی اور بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔“

اس عبارت میں پہلا جھوٹ تو یہ ہے کہ اس پیشینگوئی کو وقوع یافتہ بات کا ایک جز قرار

دے رہے ہیں حالانکہ محض غلط ہے کیونکہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ پیشینگوئی کا کوئی حصہ پورا نہیں ہوا جیسا کہ اس کو الہامات مرزائیں خوب اچھی طرح ثابت کیا گیا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں 'خدا اور رسول اور پہلی کتابوں کی شہادتوں کی نظیریں موجود ہیں کہ وعید کی پیشینگوئی میں گو بظاہر کوئی بھی شرط نہ ہو تب بھی بوجہ خوف تاخیر ڈال دی جاتی ہے۔'

اس عبارت کا مطلب آسان ہے اس لیے تشریح نہیں کرتا ہوں اس میں ایک جھوٹ خدا پر ہوا قرآن مجید میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ عذاب کی پیشینگوئی خوف سے ٹل جاتی ہے اگر کسی مرزائی کو دعویٰ ہو تو ثابت کرے بلکہ اس کے خلاف متعدد جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ خدا کے وعدہ اور وعید میں کبھی تخلف نہیں ہوتا ہے لہذا مرزا قادیانی کا دوسرا جھوٹ ہوا 'تیسرے یہ کہ اسی مضمون کو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن حدیثوں میں بھی اس کا ذکر کہیں نہیں ہے یہ تیسرا جھوٹ ہے چوتھے یہ کہ اس کے مضمون کو کچھلی کتابوں کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں کچھلی کتابیں دس ہیں تو گویا دسوں کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ ایک کتاب میں بھی یہ مضمون نہیں ہے اس لیے دس جھوٹ یہ ہوئے اس کے بعد غضب کی ڈھٹائی کے ساتھ مرزا قادیانی اسی مضمون کو اجماعی عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ یہ کس قدر بیباکی و جسارت ہے کہ جس بات کے دس بیس علماء بھی قائل نہ ہوں اس کو اجماعی عقیدہ بیان کر دیا اپنے اس قول میں مرزا قادیانی نے صرف ایک دو علماء پر اتہام نہیں باندھا ہے بلکہ کروڑوں مسلمانوں کی طرف جھوٹی بات منسوب کر دی ہے کیونکہ اجماعی عقیدہ وہی کہلاتا ہے جس کو تمام مسلمان تسلیم کر لیں اب خیال کرو کہ رسول اللہ سے لیکر اس وقت تک کتنے مسلمان گذرے ہوں گے اور اگر تم تمام مسلمانوں کو نہ لو صرف علماء ہی کا شمار کرو اس وقت بھی کروڑوں کی تعداد ہو جائے گی تو گویا اس قول میں مرزا قادیانی نے کروڑوں جھوٹ بولے اور اگر کروڑوں جھوٹ اس کو نہ کہو گے تو کروڑوں جھوٹ کے مقابلہ کا ایک جھوٹ تو شمار کرو گے اس لحاظ سے اس چار سطر کی عبارت میں چودہ جھوٹ ہوئے اور اس پورے قول میں چوالیس جھوٹ ہوئے مذکورہ چوالیس جھوٹ تو ایسے تھے کہ انہیں ذی علم حضرات معلوم کر سکتے ہیں مگر ذرا عقل سے کام لیجئے کہ انبیاء سے ایسی غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اقرار سے مخلوق کے روبرو جھوٹے اور ہر بد سے بدتر ٹھہریں اور مرتے دم تک اس غلطی میں رہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ نہ کرے اور اس کا جھوٹا رسوا ہونا پسند کرے کہے یہی آپ کے نبی ہیں جبلاء کے سامنے انہیں کی نبوت کی معیار بیان کی جاتی ہے ذرا شرم کیجئے اور ان رسالوں کو دیکھئے جو آپ کی خیر خواہی میں

مشتہر کئے گئے ہیں اور خدا پر توکل کیجئے، مبلغ پر ایمان فروشی نہ کیجئے اور یہ فریب نہ دیجئے کہ وہ ایمان لے آیا تھا، اس لیے وعید مل گئی، وہ ایمان کسی وقت نہیں لایا اور مرزا قادیانی کو نبی و رسول اور مسیح موعود ہر گز نہیں مانا، اس کے علاوہ مرزا قادیانی تو اس کے مرنے کو تقدیر مبرم کہتے ہیں یعنی علم الہی میں اس کا مرنا میرے سامنے قرار پا چکا ہے۔ اس لیے اس کی وعید مل نہیں سکتی، ایمان درست کرنے کے لیے ہر سہ حصہ فیصلہ آسمانی کا دیکھنا کافی ہے، اگر اس میں آپ کو شبہ ہو تو سامنے آ کر دریافت کیجئے۔

جماعت احمدیہ خدا کے لیے اپنی جانوں پر رحم کر کے فیصلہ کے تیسرے حصہ کو دیکھئے کہ مرزا قادیانی کو کس کس طرح جھوٹا ثابت کیا ہے اور اس فیصلہ آسمانی کو دکھایا ہے کہ مرزا قادیانی نے جس بات کو اپنی صداقت کا نہایت عظیم الشان نشان بڑے زور سے کہا تھا اور آخر عمر تک اس کی امید رہی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا جھوٹا کر کے انہیں رسوا کیا پھر ان کے خانگی خطوں کو مشتہر کرا کے کیسی ان کی اندرونی حالت کو ظاہر کر کے مخلوق پر حجت تمام کر دی، پھر آپ حضرات ان اعلانیہ باتوں پر کیوں غور نہیں فرماتے، اس پر نظر کیجئے کہ اس خدائی فیصلہ پر پردہ ڈالنے کے لیے جس قدر باتیں خود مرزا قادیانی نے اور ان کے خلیفہ اور مریدوں نے بنائی ہیں سب کی دھجیاں کیسی اڑائی ہیں اور انہیں کیسا غلط ثابت کیا ہے، مرزا قادیانی سے علیحدہ ہونے کے لیے صرف یہی ایک نشان کافی ہے، مگر بھائیو! آپ کے مرشد کے جھوٹوں کا انبار ہے دوسری شہادت آسمانی کو ٹھنڈے دل سے ملاحظہ کیجئے کہ کس خوبی و تحقیق سے ان کی آسمانی شہادت کو کیسا خاک میں ملایا ہے اور ان کے جھوٹ و فریب کو کس طرح روشن کر کے دکھایا ہے، اگر پورا رسالہ نہ دیکھئے تو شروع کا ایک جز اور آخر کا ص ۸۱ سے آخر تک ضرور ملاحظہ کر لیجئے، اب آپ کو اس سے علیحدہ ہونے میں کیا عذر ہے یہ آپ کا خیر خواہ بہ منت آپ سے کہتا ہے کہ اس تحریر کو آپ خیر خواہانہ سمجھ کر ملاحظہ کیجئے، اگر آپ ایسا کریں گے تو بالیقین آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی ہرگز اس لائق نہیں ہیں کہ انہیں بزرگ مانا جائے اور نبی کی تو بڑی شان ہے۔

فقط اشتہر

ابو محمود محمد اسحاق رحمانی



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# صحیفہ رحمانیہ

(۲۴)

حضرت مولانا محمد اسحاق مونگیری

## بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ مختصر رسالہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹا جھوٹ اور افتراء کا نہایت صاف اور جھلکتا ہوا آئینہ ہے جس سے مرزا قادیانی کی پوری حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے جسے دیکھنے کے بعد ایک باغیرت اور سچا مسلمان ایسے شخص کو نبی اور مجدد تو کیا ایک معمولی مسلمان بھی تصور کرنا پسند نہیں کر سکتا مرزائی حضرات اسی جھوٹے رسالہ کو دیکھ کر خود فیصلہ کر لیں کہ ایسا شخص جس کی کذب بیانی کا یہ حال ہو وہ کس خطاب کا مستحق ہو سکتا ہے اور ایک ایماندار کے لئے ایسے شخص سے علیحدگی کس قدر ضروری ہے اور حصول نجات کیلئے اس کی اتباع کس قدر مضر ہے۔

حسب ارشاد حضرت اقدس مولانا سید محمد علی صاحب مع اللہ المسلمین بطول بقائہ

برادران اسلام! اور بالخصوص ہمارے وہ بھائی جو ہم سے نکمڑ کر علیحدہ ہو گئے ہیں جن پر مرزا قادیانی کا جادو سامری کے سحر کی طرح ایسا غالب ہو گیا ہے کہ میں اس کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ بجائے گو سالہ پرستی کے مرزا پرستی میں ایسے منہبک ہیں کہ اپنے خیر خواہوں کی باتوں پر ذرا بھی غور نہیں کرتے بلکہ میں تو یقین اور دعویٰ کیساتھ کہتا ہوں کہ قادیانی جماعت پر مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ایسا روشن ہو گیا ہے کہ انھیں بھی ان کے جھوٹے ہونے کا یقین ہے اور وہ مثل یہود و نصاریٰ کے حق و باطل کو خوب سمجھ گئے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ان سے علیحدہ نہیں ہوتے اور کیوں ایسے جھوٹے کی پیروی میں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں بجز اس کے اور کیا کہا جائے کہ شیطان انھیں راہ راست پر نہیں آنے دیتا خانقاہ رحمانیہ میں سو سے زائد رسالے مرزا قادیانی کی حالت میں لکھے گئے ہیں جنہیں مختلف طور سے ان کے جھوٹ و فریب دکھائے گئے ہیں اس رسالہ میں تھوڑے سے تقیر کے ساتھ ان جھوٹوں کو جمع کر دیا گیا ہے جو صحیفہ محمد یہ نمبر ۸ و ۱۳ میں آٹھ برس سے مشہور ہو رہے ہیں (یہ صحیفے بڑے دو درقوں پر ۱۳۳۵ھ میں رحمانیہ پریس مولئیر سے چھپ کر ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو چکے ہیں یہاں کے علاوہ امرتسر پنجاب سے بھی چھپ کر تمام مشہور ہوئے ہیں اور تماشہ یہ ہے کہ قادیان کے سالانہ جلسہ میں خوب ان کی اشاعت ہوئی مگر کسی مرزائی کی توہمت نہ ہوئی کہ ان جھوٹوں کو سچ کر کے دکھاتا جن کی تعداد کا شمار لاکھ سے تجاوز کر کے اربوں تک پہنچ گیا ہے مگر حیرت ہے کہ مرزائی حضرات ایسی صاف اور اعلانیہ باتوں پر بھی غور نہیں کرتے اور ایسے جھوٹے سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ اے قادیانی جماعت خدا کے واسطے اس مختصر تحریر کو غور سے دیکھئے اور اپنی جانوں پر رحم کر کے اس جھوٹے کی پیروی سے الگ ہو جائیے۔

## قادیانی جماعت سے خیر خواہانہ گزارش اور مسیح قادیان کی حالت کا بیان

ہم نے نہایت خیر خواہی سے تمام مسلمانوں کو اور خصوصاً قادیانی جماعت کو مرزا قادیانی کی حالت سے آگاہ کیا اور متعدد رسالے لکھ کر اُن کے سامنے پیش کئے مگر افسوس ہے کہ مرزائی جماعت کچھ توجہ نہیں کرتی۔ اور اُن کے سرگردہ ہمارے رسالوں کو دیکھنے نہیں دیتے اور بیٹنی جھوٹے کی پیروی میں سرگرم ہیں اور نہایت ناجائز طریقوں سے جھوٹ کی اشاعت میں کوشاں ہیں اور کچھ خیال نہیں کرتے کہ دنیا میں بہت تھوڑے دن رہنا ہے سخت حیرت ہے کہ مرزا قادیانی اپنے اعلانیہ جھوٹ اور فریب چھپانے کیلئے خدا تعالیٰ پر جھوٹ اور فریب کا الزام لگاتے ہیں اور یہ خوشی سے مان رہے ہیں۔ اُن کے قادیانی مربی نہایت غلط اور شرمناک باتوں کو مرزا قادیانی سے الزام اٹھانے کیلئے اعلانیہ پیش کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے خدا پر الزام آئے گا۔ اور شریعت الہی بیکار ہو جائیگی۔ مگر اُن کی اس بے رخی اور بے اعتنائی کے ساتھ بھی ہم اُن کی خیر خواہی سے باز نہیں رہ سکتے اور مخلوق خدا کو اس عظیم الشان گمراہی سے بچانے کیلئے مستعد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اور بھائیوں کو بھی مستعد کرے آخر میں اس تحریر میں ہم خاص طور سے مرزا قادیانی کی کذب بیانی دکھانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ملتی ہیں کہ وہ ہادی مطلق مرزائی جماعت کو ہدایت کرے اور راست بازی اور حق پسندی کا جوش ان کے دل میں عنایت فرمائے۔

پہلے اس کو اپنے ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ ہمارا مذہب مقدس اسلام ایسا عالی مرتبہ ہے کہ راستی اور سچائی اس کا بڑا جز ہے۔ ہمارے نبی کریم سید المرسلین خاتم النبیین نے مختلف اوقات میں فرمایا ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ کیسا پیارا اور سچا مقولہ ہے جس کی خوبی اور صداقت پر ہر ایک انسان شہادت دیتا ہے۔ مگر افسوس کہ یہ برگزیدہ اسلامی صفت مرزائیوں کے مرشد میں نہیں پائی جاتی اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت اس سے بہت دور ہے اور ناراستی اور بے باکی ان کی سرشت میں سرایت کر گئی ہے پھر ایسے فیض کو مقدس اور بزرگ ماننا اسلام کی ہتک کرنا اور ارشاد نبوی کو پامال کرنا ہے جس میں حدیث رسول اللہ کے بموجب اسلام کا جزو اعظم نہ پایا جائے اُسے بزرگ اور مسیح موعود سمجھنا۔ اور تمام اولیائے کرام سے اُسے افضل بتانا کس قدر اسلام پر اور کالمین

اسلام پر مخالفین اسلام کو مضحکہ کا موقع دیتا ہے۔ مخالفین اعلانیہ کہیں گے کہ جس مذہب کے بڑے بزرگ جنہیں خواجہ کمال جیسے لیکچرار تمام اولیائے امت سے افضل قرار دیں اور قادیانی جماعت کے مفروض الطاعنہ امام مرزا محمود احمد قادیانی انھیں خدا کا رسول بتائیں وہ ایسے جھوٹے اور کذاب ہوں۔ پھر اور اولیائے امت کا کیا حال ہوگا۔ اور تمام شریعت الہی کے معتبر ہونے کی کیا وجہ ہوگی حیرت یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو جھوٹ بولنے میں اس قدر جرأت ہے کہ نہایت بے اصل اور اعلانیہ جھوٹ کو اس قدر زور اور دعوے سے بیان کرتے ہیں کہ ناواقف کے ذہن میں اُس کی صداقت اثر کر جاتی ہے۔ اور اُس کے جھوٹے ہونے کا خطرہ بھی اسے نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سادہ لوحوں اور کج طبیعت حضرات نے انھیں مان لیا۔ اور ماننے کے بعد اُس میں سرشار ہو گئے اور بہتوں کو تنخواہیں ملنے لگیں۔ بعض کوبات کی بیچ پر مگنی اور طالب دنیا کے پیرو ہو گئے اب مرزا قادیانی کی ناراستی اور کذب بیانی کا نمونہ ملاحظہ ہو۔ ذرا اس صحیفہ کا پہلا نمبر ملاحظہ کیجئے کہ اُس میں کئی جھوٹ مرزا قادیانی کے بیان ہوئے ہیں اور کئی پیشین گوئیاں جو انہوں نے اپنے سخت مخالف کے مقابلہ میں کی تھیں وہ جھوٹی ہوئیں پیغام صلح والے اور محمودی پارٹی آنکھیں کھول کر دیکھے اور انہیں شمار کرے۔ اس نمبر کے شروع میں سات کتابوں کے نام لکھ کر یہ بتایا ہے کہ پہلے رسالہ میں ۵۹ جھوٹ و فریب مرزا قادیانی کے دکھائے ہیں اور دوسرے میں ۶۹ اور تیسرے میں ۹۰ اور چوتھے میں ۱۴۵ اور پانچویں میں ۲۴ اور ساتویں میں ۱۷۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالحکیم خاں کے مقابلہ کی معرکتہ لا را پیشین گوئی کا جھوٹا ہونا دکھایا ہے اور اُس سے کئی جھوٹ مرزا کے ثابت کئے ہیں۔

اے رب العالمین رسول اللہ ﷺ کے ان بہکے ہوئے غلاموں کو جو ایک جھوٹے دجال کے اوپر فریفتہ اور شیدا ہیں راہ راست کی ہدایت فرما اور انھیں اُس کی توفیق عنایت کر کہ اس سے علیحدہ ہو کر کونوامع الصادقین پر عمل درآمد کریں آمین بحرمت سید المرسلین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

مرتبہ خیر خواہانام

ابوبکی محمد اسحاق غفر اللہ لہ "خانقاہ رحمانیہ موئگیر"

(نوٹ) صحیفہ رحمانیہ نمبر ۲۳ کے مضمون اور اس صحیفہ نمبر ۲۴ کے مضامین میں اس قدر تواتر تھا کہ یہاں سے اسے حذف کرنا پڑا۔ تکرار سے بچنے کے لئے ایسا کرنا ناگزیر تھا۔

فقیر اللہ وسایا

